مقیاس النبوت

جنید زماں پیر طریقت مناظر اعظم
ابو عبد الوہاب مولانا محمد عمر مدظلہ

جلد اوّل جلد دوم

المقیاس پبلشرز
۴۔ دربار مارکیٹ ○ لاہور

فہرست مضامین مقیاس نبوت حصہ اوّل

نمبر صفحہ	مضمون
۲	عفت مریم علیہا السلام
۳	مسیح علیہ السلام کی سماوی زندگی کا راز
۴	مسیح کی سماوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی زندگی کا جواب
۵	حیاتِ عیسوی میں ہتک رحمۃ للعالمین نہیں
۶	فلما توفیتنی کے استدلالات کا جواب (۳۲۹ پ)
۷	ان اللہ ثالث ثلثۃ کا جواب (۲۹ پ)
۱۰	فلما توفیتنی کی تاشیل آیت قرآنی سے
۱۱	حکمت نزول عیسیٰ علیہ السلام
۱۲	تحقیق لفظ توفی (۲۹ پ)
۱۳	توفی کا استعمال قرآن کریم میں
۱۵	توفی کا استعمال مرزائی کی زبانی اور اسکا جواب
۱۶	توفی لغت سے اور متوفی کا استعمال پٹواریوں کے رجسٹر میں اور ابن عباسؓ کی بخاری والی حدیث کا جواب (۲۹۳ پ)
۱۷	اقول کما قال العبد الصالح کا جواب (۲۹ پ)
۱۸	بخاری کی حدیث کے اسماء رجال
۱۹	توفیتنی کا ترجمہ محدثین کی زبانی
۲۰	تطبیق توفی بہ آیت قرآنی اور ءَ اَنتَ قُلتَ کے استفہام کی وجہ
۲۱	عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں عمروں کا ثبوت قرآن کریم سے
۲۲	توفی کے معنی کتب تفاسیر سے
۲۴	انی متوفیک کی تحقیق (۳۰ پ)
۲۷	متوفیک کو مقدم رکھنے کی حکمت
۲۸	اپنی موت مرنے کا جواب
۳۰	رُسل کا غلبہ
۳۱	ہر سہ استدلالات مرزائیہ کا نتیجہ
۳۲	موت طبعی کا جواب
۳۳	رفع پر پانچ سو روپیہ کا انعامی اعلان (۳۹ پ)
۳۴	تحقیق لفظ رفع از لغات (۳۲ پ)
۳۵	رفع کے معنی چڑھانے کے یا بتمامہ اٹھانے کے قرآن کریم سے (۳۲ پ)
۳۶	الیہ کا جواب قرآن کریم سے (۳۳ پ)
۳۷	خدا آسمان پر مرزا صاحب کی زبانی
۳۸	جسمی رفع الی السماء تفاسیر سے
۳۹	جسمی رفع تفاسیر سے
۴۰	بخاری کے حضرت عباسؓ کے قول کا جواب
۴۱	حضرت عباسؓ کے قول کا جواب
۴۲	مرزا صاحب نے حیات مسیحؑ سے کیسے انکار کیا
۴۳	براہین احمدیہ سے حیات مسیحؑ

marfat.com

۴۴ مرزا صاحب کا حیات مسیح سے پلٹنا اور اعتبار جمانا
۴۵ حیات مسیحؑ اور مرزا صاحب
۴۸ مرزا صاحب ۱۲ سال حیات مسیحؑ کے قائل رہے
۴۹ مرزائی نسخ کا جواب
۵۰ حیات مسیحؑ اور نسخ
۵۱ قانون نسخ
۵۲ مسیح نو پیدا ہونے کی خرابی
۵۳ نزول کے معنی پیدائش لینے سے خرابی (پ ۳۰۲)
۵۴ قد خلت کی تحقیق حیات مسیحؑ پر اور تحقیق خلت قرآن مجید سے کا جواب (پ ۳۰۶)
۵۵ خلا لغت سے
۵۶ کَانَا یَاْکُلٰنِ کی تحقیق
۵۸ آسمانوں میں بھی کھانا ملتا ہے قرآن مجید سے
۵۹ عیسٰی علیہ السلام کی دو نو زندگیوں کا ذکر قرآن مجید سے
۶۰ عیسٰی علیہ السلام کی مٹی کا جواب
۶۱ وما محمدٌ الّا رسول کا حل
۶۲ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حیات مسیحؑ
۶۳ لا یخلقون شیئًا وھم یخلقون کی تحقیق (پ ۳۱۱)
۶۴ مذکورہ آیت کے بدلنے سے جو خرابی لازم آتی ہے
۶۷ من دُون اللّٰہ کی تفسیر بخاری سے
۶۸ فیھا تحیون وفیھا تموتون کا جواب (پ ۳۱۲)
۶۹ فیھا تحیون کا جواب
۷۲ انّ مثل عیسٰی کی تشریح
۷۴ وَاَوْصَانِیْ بِالصَّلٰوۃِ وَالزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا کی تشریح (پ ۳۱۳)
۷۶ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ کا جواب (پ ۳۱۴)
۸۰ آسمان پر جانا سُنَّۃَ اللّٰہ ہے
۸۱تا۹۱ ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا کا حل (پ ۳۱۵)
۹۴ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ کا حل (پ ۳۱۴)
۹۵ افان مت فھم الخلدون کا حل
۹۶ انک میتٌ وانھم میتون کا جواب
۹۷ یَاْتِیْ مِنْ بَعْدِی اسْمُہٗٓ اَحْمَدُ اور من بعد کی تحقیق (پ ۳۱۶ کا حل)
۹۸ من بعد کی تحقیق قرآن کریم سے
۱۰۳ وَمِنْکُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلٰٓی اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا کی تحقیق (پ ۳۱۷ کا حل)
انبیاء علیہم السلام کی درازی عمر اور وَمَنْ نُّعَمِّرْہُ نُنَکِّسْہُ فِی الْخَلْقِ کی تحقیق (پ ۳۱۸ کا حل)
۱۰۵ من بعد قوۃٍ ضعفا وشیبۃ کا جواب
۱۰۷ لَیَاْکُلُوْنَ الطَّعَامَ وَیَمْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ کا جواب (پ ۳۱۸)
۱۰۸ دلائل حیات مسیح علیہ السلام
۱۰۹ یٰعِیْسٰٓی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کا بیان
۱۱۱ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا کا جواب اور رفع کی حکمت خداوندی
۱۱۳ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ کا بیان
۱۱۹ وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ کی شرح

marfat.com

وَلٰکِنْ شُبِّہَ لَہُمْ کے سوال مرزائیہ کا جواب
۱۲۱ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ کی شرح
۱۲۲ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَھْدِ وَکَھْلًا کا بیان
۱۲۳ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کا جواب اور مسلمان مرزائی نہیں مرزائی کی زبانی
۱۲۴ عیسیٰ لَوْ دَلَّنَا وَاَحْیِنَا عیسیٰ علیہ السلام کی دو زندگیاں
۱۲۵ قَدْ خَلَتْ میں مسیح کی حیاتِ ثانی
۱۲۷ لَنْ یَّسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ سے حیات مسیح ثابت ہے
۱۲۸ وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ حیات مسیح علیہ السلام کی دلیل ہے
۱۲۹ اور حیات مسیح علیہ السلام از تفاسیر
۱۴۷ توفی کی بحث
۱۴۹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب
۱۵۱ توفی میں مرزائیوں کی منہ مانگی مراد اور چیلنج کا جواب
۱۵۲ مرزائیوں کے چیلنج کا جواب ۲۹۶
۱۵۳ بحث توفی
۱۵۴ شیخ کی تحقیق (۲۹۷)
۱۵۶ اور حیات عیسیٰ علیہ السلام
۱۵۷ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
۱۵۸ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
۱۶۰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
۱۶۱ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء و تفاسیر سے
۱۶۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآنی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق
۱۶۵ . . . .
۱۶۶ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے
۱۶۸ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام خدا کے ہاں رجسٹرڈ ہے۔
۱۶۹ مرزائیوں کے اعتراضات بر تفاسیر کی حقیقت
۱۶۹ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حل
۱۷۱ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب
۱۷۲ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث
۱۷۳ یکہزار کا انعامی اشتہار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ پر
تفسیر خازن کا جواب ۲۹۸پ
۱۷۴ تفسیر کبیر کا جواب ۲۹۸پ
۱۷۵ دُرِّ منثور اور فتح البیان کا جواب ۲۹۹پ
۱۷۶ تفسیر کشاف کا جواب
۱۷۷ بحث توفی
۱۷۸ ظلم کا استعمال قرآن کریم میں کس طرح ہوتا ہے۔
۱۷۹ عین کے معانی محاورہ عرب سے
۱۸۰ عین کا استعمال
۱۸۱ فتح البیان کا جواب
۱۸۲ تاویل کی حقیقت

marfat.com

۱۸۳ مفسرین کو غلطی لگی کا جواب
۱۸۴ معالم التنزیل کا حل
۱۸۵ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ (پ ۳۴۳)
۱۸۶ مجمع البیان میں اِنّہٗ کی ضمیر کا حل (پ ۳۴۳)
۱۸۷ مثیل مسیح دکھانے پر ایکہزار روپیہ انعام
۱۸۸ اِنّہٗ کی ضمیر پر انعام
۱۸۹ مثیل مسیح کی تحقیق
۱۹۰ 〃 〃 〃
۱۹۱ شرح عقائد نسفی کے حاشیہ کا جواب
۱۹۲ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رواۃ پر جرح اور اس کا حل
۱۹۳ عاصم بن ابی النجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا راوی ثقہ ہے (پ ۳۴۵)
۱۹۵ عاصم کے گیارہ مصححین
۱۹۶ میزان الاعتدال کا جواب (پ ۳۴۶) کا حل
۱۹۷ عقیلی کا جواب (پ ۳۴۶)
۱۹۸ ابو یحییٰ ثقہ ہے
۱۹۹ مصدع ثقہ ہے
۲۰۰ معرتب ثقہ ہے
۲۰۱ غالب بن فائد ثقہ ہے
۲۰۳ فضیل بن مرزوق (پ ۳۴۶) کا جواب
۲۰۵ زید عدل کا جواب (پ ۳۴۷)
۲۰۶ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کے اعتراض کا جواب
۲۰۸ سَاعَةَ سے مراد بنی اسرائیل کی ہلاکت کی گھڑی کا جواب
۲۰۹ فلا تمترن پر اعتراض کا جواب (پ ۳۴۸) کا حل
۲۱۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا شک کرنے والا بحکم الٰہی شیطان ہے
۲۱۱ وَاتَّبِعُوْنِ پر سوال کا جواب (پ ۳۴۸)
۲۱۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علامت قیامت نہ ماننے سے نقصان عظیم ہوتا ہے
۲۱۳ وَاتَّبِعُوْنِ کیوں فرمایا
۲۱۵ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ کا جواب (پ ۳۴۸)
۲۱۶ مرزائی لطیفے کا حل (پ ۳۴۸)
۲۱۷ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ پر اعتراض اور اس کا جواب
۲۱۹ یہود و نصاریٰ قبل از مسیح نہ مرنے چاہیئے کا جواب
۲۲۰ قَبْلَ مَوْتِهٖ کو مرزائی نے غلط سمجھا
۲۲۱ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کا حل قرآن کریم سے
۲۲۲ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ پر دوسرے سوال کا جواب (پ ۳۴۹)
۲۲۳ 〃 〃 〃 〃 〃 (پ ۳۵۰)
۲۲۶ قَبْلَ مَوْتِهٖ پر مرزائی کے دوسرے سوال کا جواب
۲۲۷ 〃 〃 〃 تیسرے 〃 〃 (پ ۳۵۰)
۲۲۸ 〃 〃 〃 چوتھے 〃 〃
۲۳۰ 〃 〃 〃 پانچویں 〃 〃 (پ ۳۵۱)
۲۳۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت حیات مسیح علیہ السلام (پ ۳۵۱)
۲۳۳ قبل موتہٖ کی بجائے موتہم کا جواب (پ ۳۵۱)
۲۳۴ 〃 〃 〃 〃 (پ ۳۵۵) کا حل
۲۳۵ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا پر اعتراض کا حل

marfat.com

صفحہ	مضمون
۲۳۸	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کا جواب (ف پ ۳۵۶)
۲۳۹	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطبیق بیہم کر
۲۴۲	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی طاقت
۲۴۴	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی و سیاسی طاقت و علم جسکو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تسلیم کر چکے
۲۴۶	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روحانی طاقت
۲۴۷	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ کا جواب
۲۴۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہولت پر اعتراض کا حل (ف پ ۳۵۹)
۲۵۱	اِذْ کَفَفْتُ پر سوال کا جواب (ف پ ۳۶۰)
۲۵۲	وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا پر اعتراض کا جواب (ف پ ۳۶۱)
۲۵۴	لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ پر اعتراض کا جواب (ف پ ۳۶۲)
۲۵۶	حل سوالات مرزائیہ بر احادیث (ف پ ۳۶۴)
۲۵۷	اَنْزَلَ پر پانچ اعتراضوں کا جواب
	وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ پر اعتراض کا جواب
۲۵۸	اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ کا جواب
۲۵۹	برفح کا اصل آسمان میں
۲۶۱	نَزَلَ کا استعمال قرآن کریم میں
۲۶۲	يَنْزِلُ و نَزَّلَ کا استعمال قرآن مجید میں
۲۶۳	نُزِّلَ و نَزَّلْتُ، نَزَّلَهٗ و يُنَزِّلُ
۲۶۴	يُنَزِّلُ کا استعمال
۲۶۵	نَزَّلْنَا و اُنْزِلْنَ
۲۶۶	اُنْزِلَتْ و اَنْزَلْتُمُوْهُ و اَنْزَلَهٗ
۲۷۰	اَنْزَلْنَا
۲۷۳	اُنْزِلَ
۲۷۶	اُمت محمدیہ کے نزول کا جواب (ف پ ۳۶۵ و ۳۶۶) کا حل
۲۷۷	يُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ کا جواب (ف پ ۳۶۷)
۲۷۹	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تین چاند کا جواب (۳۶۸)
۲۸۱	اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ کا جواب (ف پ ۳۶۹)
۲۸۲	میرے بعد ابوبکر والی حدیث کا جواب
”	تیسرے دن میں قبر میں نہ ہو نگا کا جواب
”	مَا تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ
۲۸۳	هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا
۲۸۴	اَنَا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِيْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ کا حل
۲۸۵	يُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ کا حل
۲۸۶	فِيْ مصاحبت کے لئے قرآن کریم میں
۲۸۷	فِيْ قَبْرِيْ میں مراد روحانی قبر کا جواب
۲۸۸	تحقیق قبر از لغت و احادیث
۲۸۹	لفظ قبر کا حل قرآن کریم سے
۲۹۰	عالم قبور کی حیثیت کذائیہ پر سوال کا جواب اور جانوروں کی غذا کا جواب
۲۹۱	دس نبین عیسوی علامت صداقت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام (ف پ ۳۶۷) کا حل
۲۹۲	صداقت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کذائیہ کا حل
۲۹۳	يُدْفَنُ مَعِيَ سے معیت زمانی مراد لے کر وفات مسیح علیہ السلام ثابت کرنیکا جواب (ف پ ۳۶۷) کا حل

marfat.com

۲۹۵	یُدْفَنُ کا صیغہ معیت زمانی سے رد کرتا ہے
۲۹۶	حضرت عیسٰی ابن مریم علیہ السلام امت محمدیہ کا موعود نہیں بن سکتا کا جواب (ک ۳۸ ص) کا حل
۲۹۷	کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ میں نبی کیوں نہیں کا جواب
۲۹۸	عیسٰی علیہ السلام کے حلیے پر اختلاف کا جواب (ب ۳۸۸)
۲۹۹	حضرت عیسٰی علیہ السلام کا حلیہ شریف
۳۰۰	حضرت عیسٰی علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ دو وجود ہیں
۳۰۳	مہدی کا استعمال حدیث شریف میں
۳۰۴	ابن خلدون کی جرح کا جواب (پ ۳۸۹) کا حل
۳۰۵	ابن خلدون اور امام مہدی علیہ السلام
۳۰۶	لَا مھدی اِلَّا عیسٰی اور دونوں کے حلیے کا جواب (پ ۳۹۰)
۳۰۷	حضرت عیسٰی علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہٗ
۳۰۸	حضرت مسیحؑ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ اسلام میں
۳۱۰	حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ثابت کرنے والے کو پچاس ہزار روپے کا نقد انعام
۳۱۱	امام مہدی رضی اللہ عنہٗ کا حلیہ شریف
۳۱۲	حضرت عیسٰی علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تفریق جسمانی و عملی از احادیث صحیحہ
۳۱۳	حضرت عیسٰی علیہ السلام کا حلیہ شریف
۳۱۴	تمام محدثین کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسٰی علیہ السلام دو وجود ہیں
۳۱۵	ذکر امام مہدی علیہ السلام از احادیث
۳۱۶	حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نزول من السماء
۳۱۹	حضرت عیسٰی علیہ السلام کی حالت بوقت نزول من السماء
۳۲۰	نزول من السماء کے بعد عیسٰی علیہ السلام کا قیام ارضی
۳۲۱	حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہٗ کا قیام سلطنت
۳۲۲	امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کا مستقل فرق
۳۲۳	امام مہدی رضی اللہ عنہٗ کے زمانے کی مالی حالت
۳۲۴	حضرت عیسٰی علیہ السلام کے زمانہ کی مالی حالت
۳۲۵	حضرت عیسٰی علیہ السلام کا امتیازی عمل
۳۲۶	تشابہ صفات کا جواب
۳۲۷	حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نزول من السماء کی حدیثیں
۳۴۰	کنز العمال کی حدیث نزول من السماء اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت کا جواب
۳۴۱	حقیقت مرزائیہ درباره حیات مسیح علیہ السلام
۳۴۲	جبل افیق پر نزول کا جواب
۳۴۳	مرزائیوں کی وفات مسیحؑ والی حدیثوں کا جواب
″	لوکانَ موسیٰ وعیسٰی حیًّا کا جواب
۳۴۵	الیواقیت والجواہر سے جواب
۳۴۶	ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصلی عبارت (ب ۳۴۰)
۳۴۷	علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ
۳۴۸	علی قاری رحمۃ اللہ کے عقیدے پر ایک ہزار روپیہ انعام
۳۴۹	زرقانی و طبرانی کی اصل عبارت
۳۵۰	ابن کثیر و ابن عساکر کا جواب ابن کثیر نے خود دے دیا
۳۵۱	قیام عیسوی کے متعلق کنز العمال کی حدیث و جلالین

marfat.com

کی تحقیق (دف ۳۲۱)
۳۵۲ ماہن منظومۃ کا جواب (دف ۳۲۳)
۳۵۳ سو برس سے زیادہ عمر نہیں ہوسکتی کا جواب
۳۵۴ اتنی لمبی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت
۳۵۵ مسیح دوہیں کا جواب
۳۵۷ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال مکانی کا جواب
۳۵۸ سیڑھیاں لگا کر نہ مرنے کا جواب
۳۵۹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام
۳۶۰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام
۳۶۱ امام مسلمؒ، بخاریؒ و تمام متقدمین و متاخرینؒ کا عقیدہ حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھا
۳۶۲ ابوداؤدؒ و ترمذیؒ کا عقیدہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حیات کا تھا
۳۶۳ ابن ماجہؒ و حاکمؒ کا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام تھا
• متاخرین محدثین کا عقیدہ حیات مسیح تھا
۳۶۴ عدم رجوع موتیٰ کا جواب اور حیات عیسیٰ علیہ السلام از اقوال بزرگانؒ
۳۶۶ محی الدین ابن عربی کا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تھا
۳۶۷ علامہ نووی کا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام تھا
۳۶۸ تمام مفسرین و مورخین کا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تھا
۳۷۰ ڈیڑھ سو سال کا جواب ابن عساکر سے ہی
۳۷۱ مؤرخین اسلام ابن اثیر و طبری کا عقیدہ حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر تھا
۳۷۲ ابن کثیر و ابن عساکر سے حیات عیسیٰ علیہ السلام
۳۷۳ ابن خلدون سے حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
۳۷۴ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ و شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھا
۳۷۵ مرزائیوں کا ائمہ سلف سے غلط استنباط
۳۷۶ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ وفات مسیح ثابت کرنے والے کو ایک ہزار روپے کا چیلنج
۳۷۷ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور مرزائیوں کے سوال کا جواب
۳۷۸ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت غلط ہے
۳۷۹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وفات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ثابت کرنے والے کو یکصد روپے کا انعامی چیلنج
۳۸۰ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام احمد بن حنبل رح اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب
۳۸۱ امام شافعی رح کا عقیدہ حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول من السماء تھا

marfat.com

۳۸۲	مرزا صاحب کا آخری فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر
۳۸۳	ابن حزم کا جواب
۳۸۴	شاہ عبدالحق صاحب و صدیق حسن خان کا جواب
۳۸۵	تفسیر محمدی و محی الدین ابن عربی کا جواب
۳۸۶	ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیات مسیح
۳۸۷	عرائس البیان کا بیان
۳۸۸	بروز اور زرقانی کا جواب
۳۸۹	زرقانی کا اصل حوالہ
۳۹۰	حافظ محمد کا جواب
۳۹۱	ابن جریر کا حل
۳۹۲	طبری کا جواب (۳۲۷) کا حل
۳۹۴	حضرت عیسٰی علیہ السلام کی تاریخ سنِ رفع
۳۹۵	حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے فرمان کا حل
۳۹۶	امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا جواب
۳۹۷	خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کا جواب
۳۹۸ تا ۴۱۷	خیر محمد مرزائی کے سوالوں کے جوابات
۴۱۸	خیالات مرزا غلام احمد صاحب قادیانی در مسئلہ عیسٰی ابن مریم علیہ السلام
،	براہین احمدیہ کا حل
۴۱۹	مرزا صاحب کا اقرار حیات مسیح اور ذہول کا عجیب واقعہ
۴۲۰	مرزا صاحب کے خلیفہ ثانی کی تائید حیات عیسٰی ابن مریم علیہ السلام اور مرزا صاحب کے نزدیک بھی مسلمان حق پر ہیں
۴۲۱	نزدان مرزا صاحب حیات مسیح کا مسئلہ کوئی ہماری ایمانیات کی جزو نہیں
۴۲۲	مرزا صاحب کی زبانی منزول من السماء کی تشریح
۴۲۳	مرزا صاحب کا غلطی تسلیم کرنا
۴۲۴	مرزا صاحب کا انکار حیات عیسٰی بن مریم علیہ السلام نفسانیت پر مبنی تھا
،	حیات عیسٰی علیہ السلام از روئے اناجیل

marfat.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن

وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما ۝ نساء

○

المجلد الاول

من کتاب

مقیاس النبوۃ

فی حقیقۃ من

عاد الی غیر الابوۃ

○

الفہ

محمد عمر اچھروی لاہور

marfat.com

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَفَعَ عِیْسٰی عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ السَّلَامُ اِلَی السَّمَآءِ بِجَسَدِہٖ وَ حَیَاتِہٖ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَّا نَبِیَّ مِنْ بَعْدِہٖ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَمَّا بَعْدُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کُن سے پیدا فرمایا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت مریم علیہا السلام کے بطنِ پاک سے آپ کی پاک دامنی کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی انسان کے چھوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور حضرت مریم علیہا السلام کی تمام عمر میں تارکہ ہونے کی تعریف قرآن مبین میں ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان کسی مخالف کے دھوکے میں آکر عفیفہ کی پرہیزگاری میں گستاخی کرکے اپنے ایمان و اعمال کو برباد نہ کر لے ارشاد الٰہی ہے۔

انبیا ۱۷/۱۶ وَالَّتِیْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ ترجمہ (اور ہدایت دی اللہ نے) اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا (ہر انسان سے) تو ہم نے اس میں اپنی رُوح پھونکی اور اس (مریم) کو اور اس کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کو نشانی بنایا تمام جہان والوں کے واسطے (کہ خدا نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لئے مریم علیہا السلام کو چُنا) اس آیۃ کریمہ میں اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا مریم علیہا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیّن ثبوت ہے۔ وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ بھی دونوں کی پاک دامنی اور عالمین سے ممتاز ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ تمام جہان کے واسطے نشان نہیں بن سکتے۔

تحریم ۲۸/۲ وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِیْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِیْنَ ۝ اور مریم عمران کی لڑکی جس نے اپنی شرمگاہ کو بچایا (ہر مفعولیت سے)، تو ہم نے اس میں اپنی رُوح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں سے تھی۔ ان دونوں آیتوں سے رب العزت نے مریم علیہا السلام کی عفت ظاہر فرمائی اور اس

marfat.com

کی شرمگاہ کو ہر قسم کی مس رجولیت سے مبرّا فرمایا۔ چنانچہ بشارت ولد کو بھی انہوں نے ممع خراشی تصور کرتے ہوئے جواب دیا قَالَتْ اَنّٰی یَکُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَکُ بَغِیًّا ۝ فرمایا مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ میں بدکار ہوں، قَالَ كَذٰلِكِ ۚ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی بغیر کسی کے مس کرنے کے ویسے ہی ہو جائے گا اور پھر فرمایا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ اور امر الٰہی پورا کیا گیا ہے۔ اس آیت نے جبریل علیہ السلام کے مس کا بھی انکار ثابت کر دیا۔ کہ صرف امر الٰہی سے لڑکے کی پیدائش ہوگی، تجھے بھی مس کرنے کی اجازت نہیں۔ فَحَمَلَتْهُ تو حاملہ ہو گئیں حضرت مریم علیہا السلام لڑکے سے اور بعد ولادت عیسیٰ علیہ السلام (۱) خداوند تعالیٰ کا اُن کو نسبت مادری سے یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ کہ کر پکارنا آپ کی نسبت پدری کو معدوم ثابت کرتا ہے (۲) چنانچہ لَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشَرٌ بمع شرح لَمْ اَکُ بَغِیًّا کے مریم علیہا السلام کا جواب (۳) جبریل علیہ السلام کا فرمانا كَذٰلِكِ اور (۴) اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ اور امر الٰہی (عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونیکا) فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے دلائل اربعہ ہیں اور تمام ادلہ سے برتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اغذیہ واشربہ دنیادی سے مبرّا ہو کر محض آسمانی خوراک پر اکتفا کرنا آپ کے رُوح اللہ ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ جو آپ کے رفع آسمانی اور قیام آسمانی کا قائل نہیں وہ آپ کے رُوح اللہ ہونے کا قائل نہیں اور جو آپ کے رُوح اللہ ہونے سے انکاری ہے وہ قرآن خداوندی کا منکر ہے اور جو آپ کے زمین پر واپس تشریف لانے کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ آپ کے ولد مریمؑ یعنی انسانی خلقت کا منکر ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ولدِ انسانی نہ جانے وہ مشرک ہے اور ایسا شخص اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ سے جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بعد از بریت صلیب بموت حتف انف مار دیتا تو منکرین کو موقعہ ملتا تھا کہ روح اللہ نہیں تھے۔ کسی مس انسانی کا نتیجہ ہونگے اللہ تعالیٰ حکیم نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا تاکہ ایمان داروں کو آپ کے رُوح اللہ ہونے کا یقین ہو جائے اور اگر زمین پر جلدی لے آتے تو بھی احتیاج عوامی ثابت ہوتی اور دوسری یہ بات تھی کہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب تھا اگر [illegible] میں نازل کیا جاتا تو آپ کی ختم نبوت میں فرق آتا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کی تبلیغ توحیدی بڑی قابل تعریف تھی۔ آپ کی تبلیغ کا اثر زمانہ میں جب پورا ہو گیا او قرب قیامت تک آپ کے دلائل توحیدی

marfat.com

کو ثابت کرنے کے واسطے مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے مجسمہ دلیل آسمانوں میں محفوظ رکھی تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی تصدیق مشرکین مشاہدہ سے کریں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ رُوح اللہ کو ابن اللہ کہنے والوں کو ثابت ہو جاوے گا کہ دنیا میں آکر اولاد میں پیدا کر کے پھر فوت ہونا یہ الوہیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رُوح اللہ کے منکرین کا جواب آسمانی رفع سے دیدیا اور ابن اللہ سمجھنے والوں کو زمین پر لاکر اولاد پیدا کر کے فوت کر کے ان کی الوہیت کا جواب آخیر میں دے دیگا۔

"مرزائی"۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سید الانبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر جگہ دے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک نہیں۔ کچھ شرم کرو۔

"محمد عمر"۔ (۱)۔ کیا زمین پر ایک کو آباد کرنا اور دوسرے کو آسمان پر رکھنا یہ تمہاری عقل کے ماتحت ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت؟ کیا تمہاری عقل درست تو ہے؟۔ جو تمہارے دماغ میں درست ہو خداوندہ وہ کام کریں اپنی قدرت سے کام نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ خداوند کریم کو چاہیئے کہ جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے۔ اس کو پہلے مرزائیوں سے مشورہ کر لے پھر کرے۔ ہاں بھائی اگر تم اس وقت ہوتے تو شاید تم اس کو روک ہی دیتے کہ یا اللہ یہ خلاف اصول کام کر رہے ہو۔ افسوس قدرت خداوندی کو بھی اپنی عقل کے ماتحت کرنا چاہتے ہو۔ اگر مسلمان ہو تو عقل کو قدرت کے ماتحت کرو۔ (۲)۔ کیا تم نے عزت کو مکان کی بلندی میں تصور کر لیا ہے اور مکان کی پستی میں ذلت؟ ہرگز نہیں۔ حباب بلند ہو کر ہوتا ہے لاشئ ہے اور سیپ پانی کی تہ میں ہے جو یکتا موتی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت دیتا ہے اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے تو جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ میں بہتری ہے۔ زمین پر آباد کر کے جبریل علیہ السلام کو جو عالم ملکوت کے باشندے ہیں خادم بنا دے، تو یہ اس کے اختیار ہے اور آسمان پر چڑھا کر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زمین پر اُتار دے تو یہ اس کے اختیار ہے۔ ان صورتوں میں زمین پر رہنے والوں کی ذلت نہیں بلکہ عزت ہے۔ آفیسران لوگوں کے نیصلے بھگتاتے ہیں تو اپنی کوٹھیوں میں نہیں۔ بلکہ علیحدہ شارع عام میں عدالتیں بنوائی جاتی ہیں۔ جن میں کسی کو قانون سے بَری کیا جاتا ہے۔ اور

marfat.com

کسی کو سزا دی جاتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ سے آسمان بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ تمہارے دماغ کی کمزوری ہے ورنہ قرآن کریم پڑھ کر سوچو تو تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھی مبارکہ کے نام ایک مستقل سورۃ نظر آئے گی۔ جس کا نام حجرات مقرر ہے۔ اس سورۃ میں مولیٰ ذوالجلال نے مسلمانوں کو آپ کی کوٹھی مبارکہ کے آداب سکھائے ہیں۔ آسمان کی طرف تو شیطان بھی جا سکتا تھا۔ لیکن آپ کی کوٹھی مبارکہ کے باہر سے شیطان کی طاقت تو کہاں مومن اپنی آواز کو آپکی کوٹھی مبارکہ کی دیواروں سے پار نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں فرشتہ نوری آسمانوں میں پھرے۔ زمین میں پھرے مساجد میں دورہ کرے۔ لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھی مبارکہ کی طرف بغیر اجازت بلا پردہ آپ کی مستورات کے اپنی نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب بتاؤ شان آسمان زیادہ ہے یا زمین جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ شیطان پہلے آسمان کی طرف جا سکتا تھا اس دن سے اس کا راستہ سماوی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ جیسے انسان ہر راستہ پر چل سکتا ہے لیکن جس راستہ پر بادشاہ کی آمد و رفت ہو اس راستے میں پہرے دار مقرر کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آسمان کے راستہ میں شہاب ثاقب سیارے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ جو ان کو آسمان کی طرف بڑھنے نہیں دیتے تم بیچارے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھو۔

(۳)۔ مرزا صاحب تیر ہیں اور اُلّو اور گدھ اور کوا ہوا کی بلندی میں۔ کیا اُلّو وغیرہ کو مرزا صاحب سے بہتر سمجھو گے۔ کفار ہوائی جہاز میں پرواز کر رہے ہیں اور تم زمین پر ہو۔ کیا ان کا مرتبہ بلند ہو گا۔ کچھ تو سوچ کر بات کرتے۔

(۴)۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رحمۃ للعالمین ہیں۔ جب آپ کی نبوت قیامت تک جاری ساری ہے تو کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک نہیں سمجھتے کہ آپ کے مقابلہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر بیٹھے ہو۔ یہ بے ذلت کا کا کام نہ دو۔

"مرزائی"۔ موجودہ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ از روئے قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہو چکی ہے اور آسمان پر بجسد عنصری اٹھائے نہیں گئے بلکہ ان کا دم گیا جیسا کہ دوسرے انبیاء کی موت واقع ہوئی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

marfat.com

لہذا تمہارا کہنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان پر بجسد عنصری چڑھے ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کو درست کرنے کے لئے مسیح موعود علیہ السلام مسلمانوں کو راہ راستی پر لائے۔ آؤ قرآن سنو کیا فرماتا ہے۔ (مائدہ اخیر)۔ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۔ ترجمہ:۔ جب کہیگا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بناؤ مجھ کو اور والدہ میری کو دو معبود سوائے اللہ کے۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے پاک ہے تو نہیں لائق میرے واسطے یہ کہ کہوں میں وہ بات جس کا نہیں ہے مجھ کو کوئی حق۔ اگر کہا ہو گا پس تحقیق تو جانتا ہے اس کو جو میرے جی میں ہے اور نہیں جانتا میں جو تیرے جی میں ہے۔ یقیناً تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کا۔ نہیں کہا میں نے ان کو سوا اس کے کہ جو حکم دیا تو نے مجھ کو ساتھ اس کے یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو رب میرا ہے اور رب تمہارا اور تھا میں نگہبان جب تک رہا میں ان میں اور جب وفات دیدی تو نے مجھ کو تو ہی نگہبان تھا ان پر اور تو ہر شئے پر حاضر ہے۔

استدلال ع۱ اس آیۃ میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو زمانے بتائے ہیں۔ پہلا اپنی قوم میں حاضری کا (مَا دُمْتُ فِيْهِمْ) اور دوسرا غیر حاضری کا (كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ) اور ان دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل (تَوَفَّيْتَنِيْ) ہے۔ گویا ان کی اپنی قوم کی غیر حاضری سے پہلے وفات ہے۔ کیونکہ غیر حاضری کی وجہ "تَوَفَّيْتَنِيْ" ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حاضر ہیں یا غیر حاضر۔ چونکہ غیر حاضر ہیں۔ لہذا ان کی توفی ہو چکی ہے۔

استدلال ع۲ اس آیۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار فرماتے ہیں کہ تثلیث پرستی کا عقیدہ میری زندگی میں نہیں پھیلا۔ بلکہ میری توفی کے بعد پھیلا ہے۔ اور نئی زمانہ عیسائیوں کی تثلیث پرستی کوئی راز نہیں۔ بلکہ کھلی کھلی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

marfat.com

فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ جس سے یہ صاف نتیجہ نکلا کہ اس وقت حضرت مسیح کی توفی ہو چکی ہے۔

محمد عمر "جواب استدلال ۱"۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فرقہ مرزائیہ قرآن کریم کی آیات میں ہیر پھیر کر کے آیت کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب نے اس بیان نے بھی تصدیق کر دی کہ قرآن کریم پر بہتان لگانا یہ تم مرزائیوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ سنیئے۔

کذب (۱)۔ عیسٰی علیہ السلام نے اپنے دو زمانے بتائے ہیں الخ۔ اس عبارت میں مسلمانوں کو صریحاً دھوکا دینا ہے۔ پہلے قابل غور یہ امر ہے کہ یہ عبارت توریت کی ہے یا قرآن کی؟۔ یقیناً یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور عیسٰی علیہ السلام کا یہ ارشاد عالم دنیا یا عالم علوی، یا عالم برزخ کا نہیں۔ بلکہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا اور عیسٰی علیہ السلام کا مکالمہ جو قیامت کو ہونے والا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میدان حشر میں اللہ تعالٰی عیسٰی علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کو دنیا میں حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو۔

"مرزائی"۔ (چلا اٹھا) دیکھو مولوی صاحب تم نے بھی تو قرآن میں تحریف سے کام لیا ہے۔ کہ ناس سے مراد محض بنی اسرائیل لے رہے ہو۔ کتنی غلط بیانی ہے۔

"محمد عمر"۔ دوست ذرا غور کرو کہ عیسٰی علیہ السلام تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے یا محض کسی خاص قوم یا شہر کی طرف۔ تو قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے۔

آل عمران ۳/۵	وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ یعنی عیسٰی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو محض بنی اسرائیل سے مخصوص فرمایا ہے۔ ایک زمانہ ہو یا دو۔ ان کی رسالت والی تخصیص صرف بنی اسرائیل کے واسطے ہی ہے۔

ثابت ہوا کہ ناس سے مراد محض قوم یہود کے ناس مراد ہیں۔

۲۔ چونکہ تثلیث عیسوی کے قائل محض عیسائی ہی ہیں۔ جن کا ذکر خداوند کریم نے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ سے فرمایا ہے۔ اس لئے سوال خداوندی بھی انہیں کے لئے ہوگا۔ جس کو تم خود بھی تسلیم کر چکے ہو۔ (کہ نی زمانہ عیسائیوں کی تثلیث پرستی کوئی راز نہیں)۔ خود اقرار کر کے پھر مجھ سے سوال کرتے ہو کہ ناس سے مراد عیسائی لوگ کیوں لیتے ہو۔ لہذا قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کا عیسٰی علیہ السلام کو سوال کرنا

marfat.com

ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ قوم نصارٰی کے متعلق ہی ہوگا۔ جو آج ثلثہ کے قائل ہیں۔ تو اللہ جَلَّ وَعَلَا جب قیامت کو ارشاد فرمادیں گے۔ کہ تم نے اپنی امت کو میرے حکم کے علاوہ اپنے اور اپنی ماں کے معبود ہونے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت عیسٰی علیہ السلام خداوندکریم کے حضور میں جواب کو دو پہلوؤں سے بیان فرمادیں گے اور اللہ تعالٰی کے دربار میں اپنے دائمی عمل کی اللہ کے غیبی علم کے مقابلہ میں اپنی بے علمی پر محمول فرمادیں گے۔ تاکہ سوال خداوندی کے مقابلہ میں میرا عجز اور شانِ الٰہی ثابت وظاہر ہو۔ یا اللہ میرا عقیدہ تو تیری شانِ اُلوہیت کو اپنی طاقت کے مطابق سمجھتے ہوئے یہی ہے۔ کہ تیری ذات بیوی بیٹے سے مبرا ہے۔ تو میرے لئے یہ بات لائق نہیں۔ کہ میں یہ کہتا کیونکہ میں تیرا محکوم رسول ہوں اور تیرے خلاف کچھ نہ کرسکتا تھا۔ اور اگر بالفرض کوئی مجرم مجھ پر بہتان لگانے کی کوشش کرے تو میری تمام تبلیغ کا آپ کو علم ہے۔ آپ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ تو علاّم الغیوب مجھ سے یہ سوال کس بنا پر کر رہا ہے۔ کیونکہ میں تیرے اعلام کے سوا بے خبر اور تو میرے تمام نفسانی رازوں کا واقف۔ تیری تعلیم سے اپنی قوم کو میں نے واحدانیت کا ہی سبق دیا تھا اور یا اللہ میرا حق یہی تھا۔ جو میں نے پُورا کیا۔ اپنے حق کے علاوہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ میری تبلیغ تیرے علم سے باہر نہیں۔ میرا علم تیرے ادراک سے قاصر ہے۔ اور تیرا علم محیط ہے۔ کسی کے اعلام کا محتاج نہیں۔ تو خود علاّم الغیوب ہے۔

عیسٰی علیہ السلام جب دربار خداوندی میں قیامت کے دن اپنا عجز اور اپنی امت کے عیوب پر کریمانہ پردہ پوشی سے اغماض فرماتے ہوئے ان کی تثلیث اور اِبْنُ اللہ کہنے کو ظاہر نہ فرمادیں گے۔ اور خداوندی علم وجلالت کو بیان کرلیں گے۔ تو اپنی عمر کے دوسرے حصے کی صراحت فرماتے ہوئے پھر بھی شانِ خداوندی کو ملحوظ رکھیں گے اور فرمادیں گے کہ یا اللہ تیرے امر کی تبلیغ ہی میں نے ان کو کی کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرو۔ جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ چنانچہ عیسٰی علیہ السلام کی اسی تبلیغ کو ظاہر فرماکر رب العزت نے اس مذکورہ بالا بیان کی تائید فرمائی ہے۔

مائدہ ۶/۱۰　لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ

marfat.com

مَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّۃَ وَمَاْوٰہُ النَّارُ ط وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔ ترجمہ:- بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا۔ کہ اللہ وہی مسیح بیٹا مریم کا ہے۔ اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک اس کی شان ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو یقینی امر ہے کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا اور اُس کا ٹھکانا آگ ہے۔ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

یہ ہے ان کی گذشتہ تبلیغ جس کو رب العزت نے قرآن کریم میں نقل فرمایا اور یہی جواب آپ قیامت کو رب العزت کے سوال کرنے پر اقرار کریں گے۔ مَا قُلْتُ لَھُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِہٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ سے ظاہر ہے۔ اور انبیاء کرام امت کی تبلیغ کے مکلف تاقیام ہوتے ہیں نہ ان کی غیر حاضری امت سے اسی بنا پر حضرت عیسٰی علیہ السلام رب العزت کے حضور میں بیان کو ختم کرتے ہوئے وضاحت فرماویں گے۔ وَکُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْھِمْ کہ یا اللہ جب تک میں ان میں حاضر رہا ان کو میری طرف سے یہی تبلیغ رہی اور عیسٰی علیہ السلام کا یہ فرمان ظاہر کر رہا ہے۔ کہ ان کی عمر کا دوسرا زمانہ غیوبتہ کا بھی گذر رہا ہے۔ جس کا بیان شَھِیْدًا سے علیحدہ پہلے فرمایا۔ جس کی شرح اپنے دوسرے جملہ میں ظاہر فرمائی فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْھِمْ پھر جب تو نے مجھے اُٹھا لیا (آسمان پر) تو ہی ان پر نگہبانی کرنے والا تھا"۔ اور پھر فرمایا کُنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَھِیْدٌ۔ تو ہر شے پر حاضر ہے۔ تو عیسٰی علیہ السلام کا رب العزت کو رَقِیْب اور شَھِیْد کی صفت سے اپنی قوم نصاریٰ کی طرف منسوب کرنا اور اس زمانہ کو اپنی حالتِ غائبانہ کا ذکر کرنا یہ آپ کی عمر کے صاف صاف دو حصے ثابت کر رہا ہے۔ ورنہ توفی کے معنی موت کے ہوتے تو موت کے بعد کے ذکر کی کیا ضرورت تھی۔ تو تمہارا کہنا کہ عیسٰی علیہ السلام کی غیر حاضری کا ذکر کرنا اس کے واسطے حدفاصل توفی ہے۔ اور توفی موت ہی ہے۔ یہ غلط ثابت ہؤا۔ اگر توفی سے مراد موت ہوگی۔ تو اس غیر حاضری کے ذکر کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب اس غیر حاضری کا ذکر کرتے ہوئے خداوند کریم نے انکی اس غیر حاضری کا ذکر کیا، تو معلوم ہؤا۔ کہ ان کی امت سے ان کا تعلق ٹوٹا ہؤا بھی ہے۔ جو کسی

marfat.com

وقت ان کو درست کرنے پر ظاہر ہونے والا ہے ۔ اور تم نے بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے دو زمانے ہونے کا اقرار کیا۔ کیونکہ میّت جو بحالت موت کسی زمانے پر محمول نہیں ہوسکتا اور نہ ان کے اعمال میں شمار ہوگا۔ بلکہ وہ تو جزا و سزا کی حالت ہے ۔

جواب استدلال ع۲ ۔ تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ ان کی موت ہو چکی ہے ۔ اس واسطے یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں ۔ اور یہ تثلیث کا مسئلہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے نکالا ہے ۔ یہ صراحتہً قرآن کریم کے خلاف ہے ۔ کیونکہ

مائدہ ۶/۱۰ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ضرور ان لوگوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم معبود ہے ۔ تو آگے ارشاد الٰہی ہے وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گذشتہ میں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے ۔ مجھے آلہ مت کہو۔ تو اس فرمان الٰہی سے معلوم ہوا کہ نصاریٰ اس وقت ہی تثلیث کے قائل تھے ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو صاف فرما دیتے کہ یا اللہ میری زندگی میں تو انہوں نے مجھے آلہ کہا نہیں ۔ تو اس آیتہ سے بھی اور اس دن کے اعمال سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی نصاریٰ تثلیث کے قائل تھے تو نقص عقل سے تمہارے استدلال ع۲ کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور تمہاری دلیل باطل ہوگئی ۔ کہ ان کی موت ہو چکی ہے ۔ اس واسطے ان کے بعد تثلیث کے قائل ہوئے ہیں اور ان کی عمر کے دوسرے حصے کی کارروائی جب قرآن مجید میں مذکور ہے ۔ تو تمہارے انکار سے ان کی موت نہیں ہوسکتی ۔ سنو ۔

نساء ۶/۲۲ وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ اور کوئی اہل کتاب باقی نہیں رہے گا ۔ مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا خدا پر ایمان لائے گا ۔

جب اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے دوسرے حصے کو زمانہ استقبال سے خود بیان فرما رہا ہے ۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے آئندہ زمانہ استقبال کے اعمال پر گواہی دینگے ۔ تو تم ان کی موت کا عقیدہ رکھ کر ان کو اس آیت کا مصداق کیسے بناؤ گے ۔ کیا اس آیتہ کو معاذ اللہ جھٹلا

marfat.com

دو گے۔ کیا تم مرزائیوں نے مع تمہارے مرزا صاحب کے اس آیت کو اپنے مرزا صاحب پر چسپاں کرنیکے واسطے زور نہیں لگایا۔ لیکن فرمان الٰہی تو ہے وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اہل کتاب سے ایک بھی نہ رہ جائے گا تمام مومن ہو جائیں گے۔ ابھی کروڑوں کی تعداد میں تثلیث کے قائل موجود ہیں۔ اور تمہارے مرزا صاحب مسیح کے مدعی مر بھی چکے ہے۔ اور قرآن کریم میں شرط ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَبْلَ مَوْتِهٖ اس کے مرنے سے پہلے ہی کوئی اہل کتاب نظر نہ آئے گا۔ تو قرآن کریم سے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے آئندہ حصے کی کارروائی کو ایسا واضح کر دیا کہ اس مسیح کی آمد سے کوئی قائل تثلیث نظر نہ آئے گا بیان کر کے تمہارے دوسرے استدلال کو بھی هَبَآءً مَّنْثُوْرًا کر دیا۔ اب تمہاری مرضی ایمان لاؤ یا نہ اور احادیث صحیحہ سے بھی ان کی آئندہ زندگی کا ذکر ثابت ہے۔ جیسا کہ آگے انشاء اللہ ذکر آئے گا۔

ایک اور عرض کرتا ہوں جو تمہارے واسطے قابل غور ہے۔ کہ اگر یہاں توفی کے معنی موت ہی لئے جائیں۔ جیسا کہ تم نے مراد لئے ہیں تو ایک اور بھی خرابی لازم آتی ہے کہ اگر ان کی موت ہی ہو چکی تھی تو خدا کا طرف بپرداری کے ذکر کی کیا ضرورت تھی۔ فرما دیتے کر یا اللہ میں جن کی بشارت کے لئے آیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کا حساب اُن سے لیلو۔ کیونکہ میرے بعد تو نے اُن کو اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں اپنی امت کے متعلق نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی دوسری عمر کے حساب کا تعلق ابھی ہے۔ جو دوسری آیت سے ثابت ہے جیسا کہ ماقبل بیان ہو چکا ہے۔

"مرزائی"۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالمین کی طرف نبی بنکر آئے ہیں تو کیا بنی اسرائیل کے لئے کافی نہیں یا وہ بنی اسرائیل عالمین میں داخل نہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اُتارنے کی کیا ضرورت؟ باکٹ بک

"محمد عمر"۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرزائیوں کے واسطے کافی نہیں، تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں علیحدہ نبی بنا لیا۔

دوسری بات یہ کہ چونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے مسخ ہو گئے۔ لیکن شرک سے باز نہیں آئے۔ یہ ایسی سخت قوم ہے جو تمہاری طرح عقل کو دین پر مقدم

marfat.com

سمجھتے ہیں۔ یہ قوم بغیر تلوار درست ہونے والی نہیں۔ اگر محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اُٹھاتے تو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ کی صفت میں فرق آتا۔ اسی بنا پر رب العزت نے نبیِّ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ کا ارشاد فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کو درست کرنے کیواسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عیسٰی علیہ السلام کو ہی نازل فرمایا۔ تاکہ اپنا بدلہ بھی ان سے لے لیں۔ اور ان کو درست بھی کر دیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلیب کو توڑتے تو عیسائیوں نے کہنا تھا کہ ہمارے مذہبی نشان کو مٹا کر اپنی عزت چاہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جس کی صلیب کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہی آکر ان کی صلیب کو توڑ ڈالیں۔ تاکہ دوسرے کے توڑنے سے اعتراض بھی آئے گا۔ اُن پر تو اعتراض بھی نہ ہو گا۔

چوتھی وجہ یہ ہے۔ اَللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ ہے۔ اس کو مرزا صاحب کے دعوئ مسیحیت کا علم تھا۔ کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آیات کو تغیر و تبدّل کر کے اور احادیث کا انکار کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مُرتد کرینگے۔ تو ایسے جعلی دعوای کرنے والوں کے واسطے ربّ العزّة نے مجسمہ دلیل محفوظ رکھی تاکہ جو میری آیات سے جان بوجھ کر رُو گردانی کرے اور اپنی نفسانیت کو مقدم سمجھتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو ٹھکرا دے۔ اس کا علاج عیسٰی علیہ السلام کے ہاتھ رکھا۔ تاکہ عیسائیوں اور مرزائیوں یعنی دونوں اقسام کے مسیحیوں کو ان کی تلوار ہی درست کرے۔

تحقیق لفظ توفی

توفی کا مادہ وفا ہے۔ جس کے معنی پورا ہونے کے ہیں اور ایفاء کے معنی پورا کرنے کے اور لفظ توفی ہفت اقسام سے لفیف مفروق ناقص یائی جو بمعنی استفعال یعنی استیفا مستعمل ہے اور تَوَفَّيْتَنِيْ ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر مخاطب باب تَفَعُّلْ سے ہے۔ توفی کی دلالت استیفا کے معنی پر حقیقۃً دلالت مطابقی ہے۔ کیونکہ اس کا اصل وفاء ہے۔ بمعنی پورا لینا اور بمعنی فوت اور نیند دلالت تضمنی ہے۔ وفا اصل ہے اور بمعنی فوت اسکی فرع ہے۔ اب اس کا استعمال قرآن کریم و کتب تفاسیر اور لغات سے ضروری ہے۔

مرزائی توفی کا استعمال اس مقام پر دیکھنا ہے۔ جہاں اللہ یا ملائکہ اس کے فاعل ہوں۔

marfat.com

یا صیغہ مجہول ہو اور نائب فاعل اس کا انسان ہو۔ تو سوائے قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اور وہ قبض روح بذریعہ موت ہے۔ جیسا کہ اس متنازعہ عبارت میں موجود ہے۔ پاکٹ بک ص ۲۸۹

"محمد عمر"۔ قدنی صاحب آپ یہ فرماؤ۔ کہ تمہارا یہ قانون کس نحوی نے مقرر کیا ہے۔ ساڑھے تیرہ سو سال گذر چکے ہیں۔ آجتک تو تمہارا یہ قانون کسی نے لکھا نہیں۔ نبوت قدنی کی طرح قانون قدنی بھی قادیان کی ہی ایجاد ہے۔ اگر تم ایسی مثال سے ہی چاہتے ہو۔ تو سنو:۔

انعام ۶/۷ — وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ ترجمہ:۔ اور وہی ہے جو قبض کرتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم دن میں عمل کرتے ہو۔

زمر ۲۴/۴ — اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔ ترجمہ:۔ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو اس موت کے وقت اور قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی نیند میں۔ جن کو موت نہیں آئی۔

• يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اور وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا میں فعل توفیٰ موجود اللہ فاعل، انسان مفعول۔ لیکن موت یہاں مراد نہیں۔ تمہارا مطلوب قرآن کریم سے دکھایا گیا ہے لہذا بدلائل قرآنی تمہارا قانون اور توفی کے معنے موت غلط ثابت ہوئے

"مرزائی"۔ ان دونوں مقامات میں لیل اور منام کا قرینہ موجود ہے۔ اس واسطے قبض روح سے مراد نیند ہے۔ پاکٹ بک ص ۲۸۹

"محمد عمر"۔ کیا یہ تمہارے گھر کا قانون ہے۔ جہاں جو چاہو بہانہ گھڑ لو۔ ان مقامات میں لیل اور منام کو اللہ تعالٰے نے ایسے قرینے کے ساتھ بیان فرمادیا کہ جس میں تمہیں سوئے نیند کے موت کے معنی استعمال کرنے کی مجال نہیں رہی۔ نہ کہ قرینہ سے اصل معنی میں تبدیلی ہوگئی ہے بلکہ ثابت ہؤا کہ تمہارا قانون مقرر کردہ غلط ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوگیا کہ توفی کے معنی نیند بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ اگر تم قرینے پر ہی اصرار کرو تو کیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں حساب قرینہ موجود نہیں۔ کہ موت کا حساب ہے ہی نہیں۔ عیسٰی علیہ السلام کی عمر کے دونوں حصے ہیں۔ جن کا حساب وہ رب العزۃ کے دربارِ عالیہ میں بیان کر رہے ہیں۔ برزخی زندگی کا حساب کب ہوتا ہے۔ بلکہ برزخی زندگی میں دنیاوی زندگی کا معاوضہ ملتا ہے۔ اور دوسری آیت

ص ۲۳

marfat.com

مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ میں متوفی کے بعد رفع کا قرینہ موجود ہے۔ جس کے معنی تم اپنی نفسانیت سے تمام امت کے برخلاف کر رہے ہیں۔ اور اس جگہ قرینہ رفع موجود ہے لیکن تم اس قرینے کا صاف انکار کر رہے ہو۔ بلکہ متوفی کے ساتھ رافعک کے معنی بھی تبدیل کر رہے ہو۔ افسوس ہے تمہارے اس علم پر جو قرآن کریم میں تغیر و تبدل سے کام لے رہے ہو۔ اور دوسری آیت میں اتنا صریح قرینہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ صلیب پر چڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موت کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے مالک و مولیٰ حقیقی کو اس آڑے وقت میں ایلی ایلی لما سبقتنی۔ اے اللہ جب تو نے مجھے رتبہ دیا ہے تو میری جان ان ظالموں سے بچا لے۔ میری جان بچا لے تو اللہ کریم اس آیۂ کریمہ سے بچانے کی تسلی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کریم ہی مصیبت کے وقت میں موت سے منظوری کریں تو تمہارے یہ معنی مراد لینا عقل سے گری ہوئی بات ہے۔ یا یہ کہو کہ اللہ نے اس موقعہ کو اس آیت میں بیان نہیں فرمایا۔ جب اس آیت کریمہ میں ذکر بھی اس موقعہ کا ہے۔ اور استجابت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہو رہی ہے۔ اور خداوند کریم کا عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد رسی کا ذکر فخریہ کرنا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور صورت نجات کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا میں نے ایسی قبول کی کہ ان کو بجسدہٖ آسمان پر اٹھا لیا اور تم انعام خداوندی اور قدرت خداوندی کے بیان کو الٹا بیان کر کے فریاد رسی کے قرینہ کا صریح انکار کر کے خداوند کریم کی آیات کو تبدیل کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر قرینہ کو وہاں تسلیم کرو تو یہاں بھی کرو۔ اگر وہاں معنی فرعی لیتے ہو تو یہاں اصل مادہ وفا کے معنی کر کے مطلب الٰہی کو صحیح بیان کرو۔ آخر ایک دن تم نے مرنا ہے۔ اور خدا کو حساب دینا ہے۔ کیا متوفی کے معنی موت کے کر کے کفار کی حمایت کر رہے ہو۔ وہ مضحکہ اڑائیں گے کہ ان کے خدا سے اُس کے سچے نبی نے مصیبت کے وقت دعا کی اور تمام رات پکارتا رہا۔ لیکن پھر بھی بجائے چھوڑانے کے خود موت سے اجابت کی ۔۔ تمہارے مرزا صاحب قادیانی تو دعویٰ کریں کہ میری کوئی دعا مسترد نہیں ہوئی۔ اور جس کی دعا کی قبولیت کا خدا اظہار فرمائے تم اس کا الٹا مطلب بیان کر کے اس کو عدم قبولیت پر محمول کرو۔ خدا تمہیں ہدایت دے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا۔ جو بوقت حساب بھی اپنے رفع کا ذکر کر کے اپنی عمر کے دونوں حصوں کے حساب کو پورا

marfat.com

کریں گے۔

"مرزائی"۔ میں قرآن شریف سے کئی مقامات میں توفی کے معنی موت ثابت کرسکتا ہوں۔ ملاحظہ ہو۔

۱ الَّذِیْنَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ اور ۲ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اور ۳ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اور ۴ قُلْ یَتَوَفّٰکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُکِّلَ بِکُمْ۔ پ

"محمد عمر"۔ کیا تمہیں قرینہ معلوم نہیں ہوتا۔ جب فقیر نے ایسی آیات پیش کیں تو کہدیا کہ قرینہ نوم مراد ہے۔ لیکن ان مقامات میں (۱) یَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا (۲) میں ابرار کی معیت کا قرینہ موجود ہے۔ (۳) عوام کی طرف فرشتہ موت کا پیغام لے کر ہی آتا ہے۔ ۳ اور ۴ میں فرشتے کا قرینہ نظر نہ آیا۔ افسوس اگر قرآنی محاورہ کو سمجھ لیتے تو یہ آیات کبھی پیش نہ کرتے۔ جب فقیر نے عرض کر دیا ہے کہ اصل معنی دنا کے ہیں۔ جیسا کہ تمام مفسرین نے اور اہل لسان نے لکھا ہے۔ موت کے معنی فرعی ہیں۔ جو قرائن سے معلوم ہوجاتے ہیں۔

"مرزائی"۔ تم قرآن سے ان دونوں آیتوں کے سوا کسی اور جگہ معنی دنا کے دکھاؤ۔ تو میں تسلیم کرلوں گا۔ تمہارے زبانی کہنے کو کیسے تسلیم کروں۔

"محمد عمر"۔ فقیر تو انشاء اللہ جس لفظ کا استعمال جن معنی سے تم طلب کرتے ہو۔ قرآن سے ہی دکھا دیتا ہے۔ سنو۔

بقرہ ۳/۳۸	وَاتَّقُوْا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ اِلَى اللّٰهِ ۥ ثُمَّ تُوَفّٰى کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۥ ترجمہ:۔ اور ڈرو تم اس دن سے جس دن لوٹلئے جاؤ گے تم اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا اور وہ ظلم نہ کئے جاویں گے۔
آل عمران ۴/۹	اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ط۔ ترجمہ:۔ اور کوئی بات نہیں تم قیامت کے دن پورا اجر پاؤ گے۔
آل عمران ۴/۱۳	ثُمَّ تُوَفّٰى کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۥ ترجمہ:۔ پھر ہر نفس پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا اور وہ ظلم نہ کئے جاویں گے۔

ان آیات میں توفی کے معنی پورا دینے کے ہیں۔ اب لغات عرب سے فیصلہ کریں۔ کہ اصل توفی کے معنی کیا ہیں۔ موت ہیں یا پورا دینے کے۔ کیونکہ قرآن کریم کے متعلق رب العزۃ

marfat.com

نے فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تاکہ تم سمجھو کہ قرآن قدنی زبان نہیں ہے عربی زبان ہے۔

قاموس ۴/۴۰۱ فلانا حقہ اعطاہ وافیا کوفاہ وواناہ فاستوفاہ وتوفاہ۔ یعنی ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔

صراح ۵۹۵۔ توفی تمام گرفتن حق۔ توفی کے معنی حق پورا لینا۔

المنجد ۱۰۱۱ وفی حقہٗ اخذہٗ وافیا تاما یقال توفیت من فلان مالی علیہ۔ وفی حقہٗ کے معنی اُس نے اپنا حق پورا لے لیا کہا جاتا ہے۔ توفیت من فلان مالی علیہ میں نے فلاں سے جو میرا حق تھا پورا لے لیا۔

المغرب ۲/۲۵۶ استوفاہ وتوفاہ اخذہ کلہ استوفاہ اور توفاہ کے معنی ہیں تمام کے تمام کو لینا۔

"مرزائی"۔ عرف عام میں متوفی صرف مردہ پر بولا جاتا ہے۔ پٹواریوں کے رجسٹروں میں دیکھ لو۔ ۲۹۳/ب

"محمد عمر"۔ یہ لفظ عربی ہے کیا قرآن کا ترجمہ پٹواریوں کے رجسٹروں سے کرتے ہو۔ کیا محدثین اور مفسرین اور کتب لغات سے پٹواریوں کے رجسٹر زیادہ مستند ہیں۔ بریں عقل و دانش بباید گریست۔

"مرزائی"۔ بخاری شریف میں اس کی تائید موجود ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ یُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِیْ فَیُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ یَا رَبِّ اُصَیْحَابِیْ فَیُقَالُ اِنَّکَ لَا تَدْرِیْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَکَ فَاَقُوْلُ کَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَکُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ فَیُقَالُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَمْ یَزَالُوْا مُرْتَدِّیْنَ عَلٰی اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ۔ ترجمہ:۔ ابن عباس رض سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لیجائے جائینگے، تو میں کہونگا یہ تو میرے پیارے دوست ہیں جواب ملے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت میں وہی کہونگا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام عرض کرینگے کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا۔ جب تک ان میں تھا اور جب تو نے

marfat.com

مجھے وفات دیدی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔

اس حدیث سے صاف نتیجہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی صورت وہی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کی ہے۔ ورنہ آپ کا یہ فرمانا فاقول کما قال درست نہیں رہتا، نَعُوْذُ بِاللّٰہِ ۔ (۲۹۱/ب)

"محمد عمر" - حدیث شریف کو سمجھنا تو مرزائیوں پر ہی موقوف ہے۔ یہ کمال تمہارا ہی ہے۔ اقول کما قال پر ہی بات ختم کر دی، قال کے فاعل عبد صالح کو کھا گئے تاکہ کلام مرزا میں فرق نہ آجائے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظر بد سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب نے فرمایا :-

مکتوبات احمدیہ ۳/۲۳	مسیح کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد نہ عابد، حق کا پرستار۔ متکبر، خود بین، خدائی کا دعوای کرنے والا۔

بھلا اطاعتِ قدمی کیونکر چھپی رہے۔ تمہارے نزدیک یہ حدیث حجت کیونکر ہوسکتی ہے؟ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عبد صالح ہونے کے قائل نہیں، تو باقی حدیث کیسے دلیل پکڑ سکتے ہو، تمہارے واسطے تو یہ حدیث حجت ہو ہی نہیں سکتی، اگر تم ہماری طرف اشارہ کرو تو عرض کرتا ہوں، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں تین مقامات پر موجود ہے۔ اور تینوں کے اسناد ضعیف ہیں قرآن کریم کے مقابلہ میں ضعیف روایت حجت نہیں ہوسکتی۔ ملاحظہ ہو۔

(سند ع ۱) - حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرنا مغیرة ابن نعمان قال سمعت سعید بن جبیر ابن عباس -

شعبہ بن حجاج (۱)

تہذیب التہذیب ۴/۳۴۵	انہ کان یخطئ فی الاسماء نقد قال الدار قطنی فی العلل کان شعبہ یخطئ فی اسماء الرجال کثیرا۔

(سند ع ۲) - حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن المغیرة بن نعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس -

محمد بن یوسف فریابی (۲)

marfat.com

میزان الاعتدال ۳/۱۵۱	قال العجلی اخطأ الفریابی فی مائة وخمسین حدیثا۔
تهذیب التهذیب ۹/۵۳۷	قال بعض البغدادیین اخطأ محمد بن یوسف فی مائة خمسین حدیثا من حدیث سفیان۔

اور یہ حدیث بھی محمد بن یوسف سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا غلط ثابت ہوئی۔

(اسناد ۳)۔ حدثنا محمد[3] بن کثیر حدثنا سفیان حدثنا مغیرة ابن نعمان حدثنی سعید بن جبیر عن ابن عباس۔

۳ محمد بن کثیر قرشی کوفی

میزان الاعتدال ۳/۱۲۵	قال احمد خرقنا حدیثه وقال البخاری کوفی منکر الحدیث قال ابن عدی الضعف علی حدیثه بیّن۔
تهذیب التهذیب ۹/۴۱۸	قال ابوداؤد عن الامام احمد خرقنا حدیثه وقال البخاری کوفی منکر الحدیث قال ابوحاتم ضعیف الحدیث۔

محمد بن کثیر سب ضعیف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حجت نہیں ہوسکتی۔

"مرزائی"۔ بخاری کی حدیث بھی ضعیف ہوسکتی ہے۔

محمد عمر۔ اگر رجال احادیث کی تنقید ہی مطلوب نہیں تو محدثین نے اسماء رجال کی کتابیں کیوں لکھیں اور یہ کس کتاب میں تم نے پڑھا ہے۔ کہ بخاری شریف کی حدیثوں میں بلا تنقید اسناد عمل کرنا واجب ہے۔ اور ان تمام کتب میں محمد عمر کی تنقید کی ہوئی نہیں۔ بلکہ متقدمین کی تحریریں ہیں۔ اگر نہیں تو تمہارے مرزا صاحب کی تحریر دکھا دیتا ہوں۔ جو تمہارے لئے یقیناً حجت ہونی چاہیئے۔

تحفہ بغداد ۳۳	فالحق ان الاحادیث اکثرها احاد ولو کانت فی البخاری اوفی غیرها

ولا یجب قبولها الا بعد التحقیق والتنقید وشھادۃ کتاب اللہ بان لا یخالف بیناتہ ومحکماتہ وبعد النظر الی تعامل القوم وعدۃ العاملین۔ ترجمہ:۔ حق تو یہ ہے کہ حدیثیں اکثر احادیث اگرچہ بخاری میں ہوں یا کسی اور میں اور ان کا قبول کرنا واجب مگر تحقیق اور تنقید کے بعد اور قرآن کریم کی شہادت کے بعد اس طریق پر کہ وہ حدیث قرآن کریم کے واضح دلائل اور محکمات کے مخالف نہ ہو اور لوگوں کے تعامل کو بھی دیکھا جاویگا اور عمل کرنے والوں کی تعداد کو بھی شمار کیا جاویگا۔ اس تحریر مرزا صاحب سے بھی ثابت ہوا کہ تحقیق اور تنقید کے بعد حدیث پر عمل ہو سکتا ہے خواہ بخاری کی ہی حدیث کیوں نہ ہو۔ جب اس حدیث میں ضعف بھی موجود ہے اور مخالف قرآن بھی ہے۔ اور مخالف احادیث صحیحہ مرفوعہ بھی ہے۔ جس کا ذکر انشاء اللہ آگے آئیگا اور تمام مسلمین متقدمین اور متاخرین کا تعامل بھی اس کے برعکس ہے۔ تم نے تو اپنے اجتہاد کے ذریعے اس ضعیف حدیث سے قرآن کریم و احادیث صحیحہ مرفوعہ کو ٹھکرایا ہے۔ تفسیر قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کا ترجمہ محدثین کی کتب سے ثابت کرتا ہے۔ سُنیے:۔

قسطلانی ۷/۱۱۴ شرح بخاری شریف

(مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) أَيْ بِالرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَالتَّوَفِّي أَخْذُ الشَّيْءِ وَافِيًا وَالْمَوْتُ نَوْعٌ مِنْهُ۔ (جب تک میں ان میں حاضر رہا تو جب تو نے مجھے اٹھالیا)۔ یعنی ساتھ اٹھانے کے آسمان کی طرف، اللہ کے فرمان کے مطابق کہ میں تجھے پورا دینے والا ہوں، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اور توفی کے معنی شئی کو پوری طرح لینا اور موت اس توفی کی قسم ہے (متوفی مقسم جنکی ایک قسم پورا اٹھانا اور موت ہے) جب تمام امت کا اجماع توفی کے معنی رفع الی السماء پر ہے۔ جیسا کہ علامہ قسطلانی نے بھی توفی کے معنی آسمان کی طرف اٹھانے کے کئے ہیں اور دونوں آیات کے معانی واضح طور پر حل فرما دیئے کہ توفیتنی اور متوفیک کے معنی رفع الی السماء ہی ہیں اور پھر خصوصاً موت کے معنی کی نفی کرتے ہوئے شک مذبذبین کو رفع بھی کر دیا کہ حقیقۃً توفی کے معنی شئی کو پورا لینے کے ہی ہیں۔ جب حقیقی معنی لفظ پر بدلالت مطابقی ثابت ہوں تو قسم کے معنی کو بدلالت التزامی مراد لینا یہ اسلام کے مخالف ہے۔ اور اگر بقول تمہارے قسم بھی مراد لی جائے تو بھی

marfat.com

عیسیٰ علیہ السلام کی موت اب ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا یہ بیان قرآن مجید میں قیامت کے دن کا نقل کیا جا رہا ہے۔ اور قبل از قیامت بارشاد خداوندی و بحدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہو کر وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۔ (کہ کوئی اہل کتاب سے ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے قبل ایماندار نہ ہوگا) کے عنوان کو موجود فی الخارج ثابت کرتے ہوئے تمام اہل کتاب کو تثلیث سے ہٹا کر توحید و رسالت پر قائم فرمائیں گے اور اللہ کریم نے جو وعدہ ان سے رفع الی السماء کے وقت کیا تھا: جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک تیرے متبعین کو کفار پر بالا کرنیوالا ہے) پورا کریگا۔ ورنہ اس وقت بعقیدہ موت مسیح ان دونوں آیات کی تکذیب لازم آئے گی۔

تو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل از موت عیسیٰ علیہ السلام وعدہ مذکورہ پورا کر چکے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ڈیوٹی مذکورہ بالا کو بوقت نزول من السماء پوری کر چکے ہونگے۔ تو ان کے اس جواب دینے میں بھی کوئی خرابی لازم نہ آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سماوی کے وقت تثلیث پر مرنے والوں کے لئے بسوال تہدید ہوگا۔ اور ان قائلین تثلیث کے دعوٰی عیسائیت کو خداوند تعالیٰ جھٹلانے کیواسطے اور ان کو پکا سزاوار بنانے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کے مجرم ثابت کرینگے۔ تو یہ سوال محض تثلیث والوں کے جرم کو ثابت کرنیکے واسطے ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی سماوی حیات کی نفی کے واسطے جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر اپنے علم جتانے سے پرہیز کرتے ہوئے بلحاظ ادب علم الٰہی پر ہی توقف فرمائیں گے اور اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ سے حیات سماوی کے زمانہ والے حساب کو ختم کرینگے اپنی دوسری آمد کی تبلیغی کارروائی کو مختصر کرتے ہوئے اس کے نتیجے کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ کہ یا اللہ اگر میں نے بنی اسرائیل کو تثلیث کا سبق دیا ہوتا تو دوبارہ زمین پر اتر کر مجھے تلوار سے توحید سکھانے کی کیا ضرورت تھی، فرماویں گے کہ میری پہلی عمر کی تبلیغ تو تیرے علم ہی میں ہے کہ تیری توحید کے سبق دینے پر ہی تو مجھے ان لوگوں نے دار پر لٹکانے کی کوشش کی۔ جس بنا پر مجھے تیرے دربار عالیہ میں ان سے نجات کے واسطے التجا کی ضرورت

پڑی اگر میں ان کو ان کے عقیدہ کے مطابق تثلیث پر ہی قائم رہنا گوارہ کرتا تو نہ مجھے ان مصائب صلیبی کا منہ دیکھنا پڑتا نہ تو مجھے میری فریاد سے آسمان میں پناہ دیتا۔

چنانچہ میری پہلی عمر کی اشاعتِ توحیدی میں کوئی فرق نہیں، میری عمر کا دوسرا حصہ، جو کَهْلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ سے گذرا تو یا اللہ یہودیوں کی محبوب خوراک خنزیر کو میں نے تلوار سے دور کیا۔ اور ان ظالموں کو ظلم سے ہٹا کر (جنکا ظلم آج روئے زمین پر مشہور ہے اور کسی کو انکار نہیں سوائے مرزائیوں کے) انصاف سے بدلا (جو ابھی تک بدلا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر انصاف نصارٰی میں پھیلائیں گے) چالیس برس تک میں نے اس نوکری کو پورا کیا۔ آخر یا اللہ، دجّال جس کا مسلمانوں کو سخت خطرہ تھا، قتل کیا، جب میں فوت ہوا تو مدینہ طیبہ میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے روضۂ اطہر میں جو جگہ چھوڑی تھی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اسی مقرر شدہ جگہ مَابین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ دفن کیا، یا اللہ پھر میری موت کے بعد ان سابقہ یہودیوں مسلمان شدہ کو میں تیری حفاظت میں چھوڑ آیا تھا، پھر میرے مرنے کے بعد اپنی پناہ پر تو ہی شاہد ہے۔ تو بقول تمہارے بھی اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو زمانے ثابت ہوئے۔ ایک زمانہ جوانی کا قبل رفع الی السماء اور دوسرا زمانۂ کہولت جو بعد از ہبوط من السماء قبل از موت جو لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ سے متعارف ہے۔ بنی اسرائیل میں گذرا فَقَدْ عَلِمْتَهٗ سے واضح ہو گا اور ان دونوں وقتوں کے مابین جو غائبانہ زمانہ گذرا وہ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ سے صاف کر دینگے اسی واسطے ان کی تثلیث کا کفر جو ان کی غائبانہ حالت میں بنی اسرائیل نے گذارا ہو گا، اس کا اظہار نہ فرمادیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر ہی ڈالیں گے۔ لہٰذا تمہارے تمام استدلات جو تم نے اس آیۂ کریمہ سے ہیر پھیر کر کے گھڑے تھے باطل ثابت ہوئے۔ جن کا ترجمہ دوسری آیات نے ہی واضح کر دیا اور اسی آیت کریمہ کے مطلب سے بصراحۃ النص عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سماوی ثابت ہو گئی۔ اب تمہارے اس قدنی ترجمہ کو ساڑھے تیرہ سو سال کے مفسرین کے منطبق کر کے دیکھیں کہ آیا ترجمہ توفی کا کسی پہلے مفسر نے بھی سمجھا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کا اختراع ہے اور تحریف فی القرآن ہے۔

marfat.com

توفی کے معنی کُتب تفاسیر سے

تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۸۳
(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) رَفَعْتَنِیْ مِنْ بَیْنِھِمْ۔ تو جب اٹھایا تو نے مجھے اُن کے درمیان سے۔

(۲)۔ تفسیر جلالین مع حاشیہ صاوی شریف ۳۱۷
(جلالین) (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ)۔ قَبَضْتَنِیْ بِالرَّفْعِ اِلَی السَّمَآءِ۔ (صاوی) قَوْلُہٗ۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ یُسْتَعْمَلُ التَّوَفِّیْ فِیْ اَخْذِ الشَّیْءِ وَافِیًا۔ اَیْ کَامِلًا (قَبَضْتَنِیْ بِالرَّفْعِ اِلَی السَّمَآءِ) حَاصِلُ مَافِی الْمَقَامِ اِنَّ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةَ وَقَعَتْ مِنْهُمْ بَعْدَ رَفْعِهٖ اِلَی السَّمَاءِ وَتَسْتَمِرُّ اِلٰی نُزُوْلِهٖ وَلَمْ تَقَعْ مِنْهُمْ قَبْلَ رَفْعِهٖ وَاَمَّا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ فَلَمْ یَبْقٰی نَصْرَانِیٌّ اَبَدًا بَلْ اِمَّا الْاِسْلَامُ اَوِ السَّیْفُ فَتَعَیَّنَ اَنْ یَّکُوْنَ مَعْنٰی تَوَفَّیْتَنِیْ رَفَعْتَنِیْ اِلَی السَّمَآءِ۔ جلالین میں معنی (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) کے اُٹھایا تو نے مجھے آسمان پر چڑھا کر علامہ صاوی اس کی شرح فرماتے ہیں:۔ (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) استعمال کیا جاتا ہے شئ کو پورا پکڑنا کامل طور پر (قَبَضْتَنِیْ بِالرَّفْعِ اِلَی السَّمَآءِ) نتیجہ اس مقام کا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ثابت ہؤا ہے۔ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کے بعد اور ہمیشہ رہے گا اُن کے اُترنے تک اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کے پہلے یہ عقیدہ کسی کا نہ تھا۔ اور ان کے آسمان کے اترنے کے بعد ہمیشہ کے لئے کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا، بلکہ یا اسلام ہوگا یا تلوار (سے قتل کیا جائیگا) تو متعین ہؤا کہ معنی تَوَفَّیْتَنِیْ کے اُٹھایا تو نے مجھے آسمان کی طرف ہیں۔

(۳) تفسیر خازن ۲/۹۴
(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) یعنی فَلَمَّا رَفَعْتَنِیْ اِلَی السَّمَآءِ فَالْمُرَادُ بِهٖ وَفَاتُ الرَّفْعِ لَا الْمَوْتُ۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کے معنی ہیں۔ پس جب چڑھایا تو نے مجھے آسمان کی طرف تو مراد اس سے پوری طرح اٹھانا ہے نہ موت۔

(۴) جامع البیان ۱۱۱
(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) بِالرَّفْعِ اِلَی السَّمَآءِ وَالتَّوَفِّیْ اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا۔ توفی ہے ساتھ چڑھنے کے طرف آسمان کی اور توفی کے معنی شئ کو پورا لینا۔

(۵) تفسیر کبیر ۳/۷۰۰
(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) وَالْمُرَادُ مِنْهُ وَفَاةُ الرَّفْعِ اِلَی السَّمَآءِ مِنْ قَوْلِهٖ

marfat.com

اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ ۔ مراد توفی سے پورا چڑھانا آسمان کی طرف فیصلہ الٰہی کے معنی میں تجھے پورا اجر دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانیوالا ہوں۔

(۶) تفسیر ابی سعود ۳/۷۵۱

(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) بالرَّفْعِ اِلَی السَّمَاءِ کَمَا فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ فَاِنَّ التَّوَفِّیْ اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا۔ (فلما توفیتنی) ساتھ اٹھانے کے آسمان کی طرف جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ کہ میں تجھے پورا اجر دینے والا ہوں اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اس لئے کہ تحقیق توفی کے معنی شیٔ کو پوری طرح لینے کے ہیں۔

(۷)۔ تفسیر نیشاپوری ۶/۴۶

فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) بالرَّفْعِ اِلَی السَّمَاءِ۔ ساتھ رفع کے آسمان کی طرف۔

(۸) تفسیر معالم التنزیل ۲/۹۴

وَکُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیْدًا مَّا دُمْتُ) اَقَمْتُ فِیْھِمْ (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) قَبَضْتَنِیْ وَرَفَعْتَنِیْ اِلَیْکَ۔ ترجمہ:۔ اور میں ان پر گواہی دینے والا ہوں۔ جب تک میں انہیں ٹھہرا رہا۔ پس تو نے مجھے اٹھایا۔ اور اپنی طرف چڑھایا۔

(۹) تفسیر جواہر الحسان ۱/۵۰۲

(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) اَیْ قَبَضْتَنِیْ بِالرَّفْعِ وَالتَّصْیِیْرِ فِی السَّمَاءِ۔ (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) کے معنی یعنی جب تو نے مجھے اٹھا کر چڑھایا اور آسمان میں مقیم رکھا۔

(۱۰) تفسیر بیضاوی ۲/۱۱۹

(فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) بِالرَّفْعِ اِلَی السَّمَاءِ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ وَالتَّوَفِّیْ اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا وَالْمَوْتُ نَوْعٌ مِّنْہُ۔ قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِھَا۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

اے امت مرزائیہ فقیر نے دس کتب تفاسیر سے (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ) کا مطلب رفع عیسٰی الی السماء ثابت کیا ہے۔ تم بھی تو پانچ چار تفاسیر کا حوالہ دیکر اس آیت کریمہ کے ماتحت موت ثابت کر دکھاؤ۔ جیسا کہ فقیر نے اسی آیت کے ماتحت ترجمہ دکھایا ہے۔

marfat.com

بعض ایسے کم فہم انسان جو تمہاری اتباع میں وفات مسیح کے قائل ہو جاتے ہیں ان کو اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں تب ہی تو ان کے واسطے خداوند تعالیٰ کو اتنی آیات سے رَفع الی السماء بیان کرنا پڑا اور مرزا صاحب کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی رفع الی السماء اور نزول من السماء کی تاویلات عظیمہ کی ضرورت پڑی اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کو تاویلات سے منہ پھیرنا پڑا۔ اگر دوسرے دلوں کی طرح فوت ہی ہو گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان کیواسطے ایسی آیات مستقلہ نازل فرمانے کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حیات مسیح پر زور دینا پڑتا اور نہ ان کے واسطے اپنے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ چھوڑنے کی وصیت فرماتے اور نہ مفسرین حیات مسیح پر اتنا زور دیتے کیا امت محمدیہ ابتک گمراہی میں چلی آئی ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اور سرسید احمد اور آزاد صاحب کو ہی اس مسئلہ کی سمجھ آئی ہے۔ کیا رب العزۃ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کا پلہ بھاری ہے یا ان تینوں کا۔ کچھ سوچ کر تو ایمان چھوڑتے۔ لہذا امت مرزائیہ کا تمام خدائی آیات کو جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کو صراحتہً ثابت کر رہی ہیں اپنی تحریفات اور تاویلات سے ہیر پھیر کرنا اور احادیث صحیحہ جو حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کر رہی ہیں۔ اپنی نفسانیت سے ان کو ٹھکرانا اور تمام امت محمدیہ کے متفقہ مسئلہ کو غلط کہنا یہ صاف ظاہر کر رہا ہے، کہ مرزا صاحب اور ان کی امت محض اپنی ہوس سے ہر دلیل کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اور ان کا اعراض عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت واضح ہے۔

"مرزائی"۔ اچھا بھائی تم نے اس آیت کا مطلب تو اچھی طرح واضح کر دیا، اب ایک اور قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جو میرے نزدیک اس سے واضح الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرتی ہے:۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ۔ (آل عمران)

ترجمہ:۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں ہی تجھے وفات دینے والا ہوں اور عزت دینے والا ہوں تجھکو اور یہود نا مسعود کے اعتراضات سے تجھے بری الذمہ کرنیوالا ہوں اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک نہ ماننے والوں پر غالب کرنیوالا ہوں۔

استدلال:۔ اللہ تعالیٰ نے مُتَوَفِّيْكَ کو پہلے رکھا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، کہ اللہ

marfat.com

ترتیب کو بدلیں۔ ورنہ اس کی حکمت پر الزام آئیگا۔ کہ اس نے جس چیز کو پہلے رکھا۔ تم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ نَعُوذُ بِاللّٰہِ۔

(دوم)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور پہلے صفا کا طواف کرینگے یا مروہ کا۔ آپ نے فرمایا ابدء وبما بدء اللہ۔ اس سے شروع کرو جس سے اللہ تعالےٰ نے شروع کیا۔ پس ہمیں بھی پہلے وہی رکھنا چاہیئے جس کو اللہ تعالےٰ نے پہلے رکھا۔

(سوم)۔ اگر مُتَوَفِّیْکَ کو پیچھے کیا جاوے تو ساری ترکیب بھی درہم برہم ہو جائیگی۔ اور صحیح طور پر مُتَوَفِّیْکَ کی جگہ باقی نہ رہ جائیگی۔ کیونکہ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اب شروع ہے۔ اور اسنے یَوْمِ الْقِیَامَةِ تک رہے گا، توفی کے معنی اوپر گذر چکے ہیں اور رافع کے معنی آگے آئیں گے۔ کہ ترقی درجات مراد ہے۔ لہذا اس آیۃ کریمہ میں نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالےٰ یہود کو اور ان کے منصوبوں کو نامراد رکھے گا اور جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو صلیب دیکر کاذب اور لعنتی اور مفتری ٹھیرادیں۔ ان کے سب مکر و فریب و دجل خاک میں مل جاویں گے اور میں تجھ کو عزت کی موت دوں گا۔ کیونکہ سلسلہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے نہ کہ کسی غیر کے ہاتھ میں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو اس صلیبی موت سے نجات دیکر طبعی موت دیکر مارا جو یقیناً عزت کی موت ہے۔ یہ وفاتِ عیسیٰ کی بین دلیل ہے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ فقط۔ (پ ۳۰۱ تا ۳۰۱)

"محمد عمر"۔ تمہاری پہلی دلیل کو تو فقیر نے بمعہ استدلال آیت فرقانیہ مطلب واضح کر دیا۔ جس سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت ہوئی اور تمہارا کذب ثابت ہوا۔ تم نے وفات مسیح پر بہت مطلب بدلا۔ لیکن خدا کی کلام کو مسلمان کب بدلنے دیتا ہے؟ اس آیت کریمہ کو بھی تم نے خوب اُلٹا۔ اس پیش کردہ آیت کریمہ سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کریم نے اس آیتِ کریمہ میں کون سے موقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کے عنوان سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کسی خاص موقعہ کو کسی خاص مقصد کے لئے بیان کیا جا رہا ہے۔ اِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰٓی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ ضرور اس وقت فرمایا۔ جب بنی اسرائیل نے اُن کو دار پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالےٰ کے حضور میں استغاثہ کیا۔ کہ یا مولیٰ یہ بنی اسرائیل مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان کے پھندے سے

marfat.com

بچا اور اس موت سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرمائی۔ اور ان کو بچایا اور جس وقت بچایا اور جس طرح بچایا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی نجات کو ظاہر فرما کر اپنی قدرت خاصہ کا نمونہ بیان فرمایا۔ اِدھر عیسیٰ علیہ السلام موت سے بچنے کی رب العزۃ کو دہائی دیتے ہیں۔ اُدھر مولائے ذوالجلال کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ ، اے عیسیٰ میں تجھے پورا اجر دینے والا ہوں۔ اگر ماروں گا بھی تو میری ہی طاقت ہے مارنے کی۔ تیری موت ان کے قبضہ میں نہیں۔ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ میری ہی صفت ہے۔ یہ تمہیں مار نہیں سکتے۔ جب تجھے میں پورا اجر دینے والا ہوں۔ تو ان بیچاروں سے تجھے کیا خوف؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے تسلی ملتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے التجا ہوتی ہے کہ یا اللہ میری توفی کے پورے اجر دینے کی صورت کیا ہوگی۔ یہ تو مجھے صلیب پر لٹکانے کے لئے آپہنچے۔ جب تیرے ہی قبضے میں میری جان ہے۔ تو تو مجھے ان سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اجر کی صورت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَرَافِعُكَ اِلَیَّ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ چنانچہ اس طاقتِ رفع کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رفع کی حقیقت کو دوسری آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح کر دیا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالےٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہی مقصود تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بیان کرنے کا کیا مطلب کہ میں اپنے بندوں کی بات بوقت استغاثہ مشکلات کچھ نہیں سنتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد سُنی اور ان کو بچایا، تب ہی تو فرمایا۔ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ میں تجھے پورا اجر دینے والا اور وَرَافِعُكَ اِلَیَّ اور اپنی طرف اُٹھانے والا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ہی لینا تھا تو فرما دیتے، جَاءَ اَجَلُكَ تیری موت کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب تیرا فریاد کرنا فضول ہے۔ کیونکہ میرا قانون ہے۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ہ جب کسی کی موت کا وقت آجائے تو ایک گھڑی وہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ پہلے ہو سکتے ہیں۔ یہ تم نے خوب سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بوقت موت خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ان کو تسلی دیتا ہے۔ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ۔ کہ اے عیسیٰ (تو مت گھبرا) میں تجھے مارنے والا ہوں اور تیرے مرتبے بلند کرنے والا ہوں۔ مَعَاذَ اللّٰه کیا یہ ان کو زندگی اور بچانا درکار ہے اور فریاد رسی ہے؟ یا موت کے

marfat.com

گھاٹ اتارنا فریادرسی ہے۔ کچھ تو سوچ کر بات کہی ہوتی۔ اگر تمہارے معنی بھی متوفی کے موت لئے جائیں تو بھی اس سے موت عیسٰی علیہ السلام ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالےٰ اِنِّی مُتَوَفِّیکَ سے اپنی قوت توفی کا ثبوت دیکران کو بچانے کی تسلی دیتے ہیں۔ کہ اے عیسٰی میں ہی تجھ کو مارنیوالا ہوں۔ جب میں ہی تجھے اپنی طرف اٹھا رہا ہوں کہ یہ تجھے مار نہیں سکتے۔ اور دوسری وجہ مُتَوَفِّیکَ کی تمہارے معنی بموجب یہ بھی ہے کہ چونکہ عیسائی عیسٰی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عیسٰی علیہ السلام کی الوہیت کو توڑنے کے واسطے فرمایا کہ میں تیرے مارنے والا ہوں اور جس میں قوت میتہ ہو وہ الٰہ بننے کے اہل نہیں۔ بلکہ مارنیوالا الٰہ کہا سکتا ہے۔ جب میں تیرے مارنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں الٰہ اور تجھ میں قوت موت موجود۔ اسواسطے تم میری مخلوق ہو نہ الٰہ۔ تو اللہ تعالےٰ نے عیسٰی علیہ السلام کے عین آسمان کی طرف اٹھانے کے وقت یعنی عیسائیوں سے جدائی کے وقت ان کے اس دعوائے الوہیت کو توڑنے کیواسطے اِنِّی مُتَوَفِّیکَ کی طاقت کو پہلے بیان فرماکر ان کے آسمان پر اٹھانے کو متاخر بیان فرمایا۔ تاکہ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یہ خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ جب رفع الی السماء کا ان کو یقین ہوگیا تو بدیہی بات ہے کہ یہ الوہیت عیسٰی علیہ السلام پر پکے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے رفع کے پہلے ان کے ثبوت عبودیت کو ظاہر کرنیکے واسطے متوفیک کو مقدم فرمایا کہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں تو اپنے جسم عبودیت اور قوت موت کی معیت میں گئے نہ کہ قوت الوہیت سے جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ تو ان معنی بموجب بھی عیسٰی علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنا یہ محض جہالت ہے۔ تو تمہاری اس پیش کردہ آیت سے حیات سماوی عیسٰی علیہ السلام کی از روئے آیۃ کریمہ ثابت ہو گئی۔ جو بغیر کسی تاویل کے صراحۃ النص سے یہ مطلب حیات مسیح اور رفع الی السماء کا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے استدلال باطلہ سے منشاء خداوندی کو الٹ دیا تو معاذ اللہ خدا کی حکمت عملی پر الزام آئیگا۔ جبکہ تم نے قرآن مجید کے خلاف منشاء اور خلاف سیاق کلام باری سمجھا ہے۔ اب تمہارے مقتدا مرزا غلام احمد صاحب کی تحریر سے متوفی کے معنی عرض کرتا ہوں:-

marfat.com

مکتوبات احمدیہ ۸۸/۱ البشریٰ ۵۱/۱	انی متوفیک یہ الہام بھی چند مرتبہ ہوا۔ ترجمہ :۔ کہدے میں تیرے اوپر اتمام نعمت کروں گا۔

کیا مرزا صاحب کو یہ الہام متوفیک ہو تو مرزا صاحب اس کے معنی اتمام نعمت کریں اور اگر مرزا صاحب کو خود رسالت کی سوجھے تو قرآن کریم کے معنی بدل ڈالیں جو تمام متقدمین ،متاخرین اور احادیث صحیحہ صریحہ کے خلاف ہو۔ خداوند کریم اپنی حکمت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استغاثہ کی قبولیت کو فخریہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہ میں ایسا محافظ ہوں جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے آڑے وقت میں دعا قبول کی کہ ان کو ان یہودیوں کے نرغے سے بچالیا اور اپنی طرف اٹھالیا۔

"مرزائی"۔ عیسائیوں کے صلیب پر چڑھانے کے وقت تو اللہ نے بچالیا اور بعد میں اپنی موت مارا۔ ب

"محمد عمر"۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہ تم کو اپنی طرف سے بات بنانے کی کیسی بری عادت پڑی ہوئی ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو ٹھکرا کر گئے اور اس آیۃ سے منہ پھیر گئے پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچایا تو کیسے اور کس طریق سے بچایا اور بچا کر کہاں پناہ دی، تو تمہیں ہر حال میں اسی آیت سے استدلال لینا پڑے گا اور اس آیۃ میں سوائے آسمان کی طرف اٹھانے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ جو تم کہتے ہو اپنی موت سے مارا اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہو اور ضروری امر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورے اٹھانے کا اور ان کو یہود سے نجات دلانے کا واضح الفاظ میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر فرمایا ہے ایسے ہی خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قرآن کریم میں ذکر ہو۔ حکم عام نہ ہو۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عامی نہیں ہے۔ بلکہ خصوصی ہے۔ اور ان کو موت سے بچانا اور رفع الی السماء بھی خصوصی ہے۔ جب ان کی یہ باتیں خداوند تعالیٰ نے دنیا سے ممتاز رکھیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر بھی فرمایا تو ان کی موت کا ذکر بھی خصوصی ہونا چاہیئے جو تمہارے پاس ان کی موت کا واضح الفاظ میں کوئی ذکر نہیں، تو فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَۃُ اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ ہ اور قرآن کریم کا بیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ

marfat.com

لَیُؤْمِنَنَّ صیغہ ہے واحد مذکر غائب لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ ضروری ایمان دار ہوجائیں گے تمام اہل کتاب عیسٰی علیہ السلام کی موت کے پہلے۔ تو جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ صیغہ استقبال استعمال فرمارہے ہیں۔ کہ اہل کتاب کا کوئی فرد بے ایمان نہ رہے گا بلکہ ہر ہر فرد اہل کتاب مومن ہوگا اُن کی موت سے پہلے۔ تو صاف واضح ہے کہ ابھی ان کی موت نہیں ہوئی۔ جو صیغۂ استقبال سے ظاہر ہے اور تمام اہل کتاب ابھی تک ایماندار بھی نہیں ہوئے اور اِس وقت اہل کتاب کی بے ایمانی دنیا میں مشہور ہے۔ حالانکہ آیۃ کریمہ میں ہے کہ کوئی فرد اہل کتاب سے بے ایمان نہ ہوگا۔ اگر تم کہو گے کہ عیسٰی علیہ السلام اپنی موت سے دوسری طرح مرچکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں باتیں معاذ اللہ غلط ثابت ہونگی۔ اور کذب باری محال ہے۔ لہذا تمہارا افتراء علی اللہ قرآن سے اعراض ثابت کر رہا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اس واسطے اس نے عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر بلیل حقیقی محفوظ رکھا کہ فرقہ مرزائیہ میرے عیسٰی علیہ السلام کو بنجات دینے کا الٹا شور ڈالیں گے۔ اور عیسائی تثلیث کے عقیدے سے لوگوں کو گمراہ کرینگے۔ ان دونوں فریق کے لئے عیسٰی علیہ السلام کو محفوظ رکھا تاکہ ان دونوں کو تشریف لاکر تلوار سے مومن بنادیں۔

مرزائیو! اگر تم عیسٰی علیہ السلام کی تلوار کا شکار خنزیروں کی معیت میں نہیں بننا چاہتے تو اپنے عقیدہ کو قرآن کریم کے مطابق درست کرلو اور ان کی حیات سماوی کے قائل ہوجاؤ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔ کیونکہ جب عیسٰی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمہارے مرزا صاحب تمہیں نہ بچا سکیں گے۔

"مرزائی"۔ بھائی اگر عیسٰی علیہ السلام کی موت کو یوں تسلیم کیا جائے کہ جب یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے حکم سے اسی وقت اپنی موت مارا تاکہ صلیبی موت سے نجات مل جائے اور رَافِعُکَ سے درجات بلند کردئے۔

"محمد عمر"۔ اللہ کریم تمہیں ہدایت دے۔ بھائی اس طرح کی موت کے ماننے سے بھی بہت خرابیاں لازم آئینگی۔ جنکا مختصر ذکر تو غیر بیان کرچکا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں۔ کہ خداوند کریم کی ذات والاصفات پر یہ الزام آئیگا۔ کہ اگر رب العزۃ مصیبت کے وقت اپنے

marfat.com

انبیاعلیہم السلام کی دستگیری نہیں کرسکتا تو امتیوں کی دستگیری کیسے کریگا اور خرابی یہ لازم آئیگی کہ خداوند کریم معاذاللہ خلاف وعدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ارشاد الٰہی ہے۔ اِنَّ اللہَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انبیاعلیہم السلام سے ہوچکا ہے۔ جو انبیاء اللہ ہیں جعلی نہیں، بناوٹی نہیں، سرکاری نہیں۔ حقیقی انبیاء علیہم السلام سے وعدہ ہے، ملاحظہ ہو۔

مجادلہ ۲۸/۳	اَلَّذِیْنَ یُحَادُّوْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ اُولٰٓئِکَ فِی الْاَذَلِّیْنَ ۔ کَتَبَ اللہُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ۔ ترجمہ:۔ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے

رسول کا، یہی ہیں سخت ذلیل ہونیوالوں میں، اللہ نے لکھ دیا ہے ضرور غالب آؤنگا میں اور میرے تمام رسول۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا غالب ہے۔

صٰفٰت ۲۳/۵	وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیْنَ ۔ اِنَّھُمْ لَھُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۔ اور البتہ تحقیق ہمارے بندے پیغمبروں کے لئے ہمارا کلمہ مقرر ہوچکا ہے۔ کہ

بے شک وہی مدد دیئے گئے ہیں۔ اب یا تو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نہ تھے اور اگر اللہ کے رسول تھے اور ہیں تو اس وقت ان کو کیا مدد پہنچی۔ ان کی مدد کو اللہ نے ہی بیان کردیا ہے کہ ہم نے ان کو اس آیۃ مذکورہ کے مطابق مدد دی اور اجر پورا دیا اور اپنی طرف مع جسم آسمان پر اٹھالیا اور اسی امداد کے تم منکر ہو۔ خواہ خداوند تعالیٰ نے کچھ فرما دیا ہے۔ چونکہ تمہارے مرزا صاحب منکر ہوگئے۔ اس واسطے ان کی اقتداء میں تم نے بھی قرآن کا انکار کردیا۔ مرزا صاحب راضی ہوجائیں، خداوند تعالیٰ خواہ راضی ہو یا نہ ہو۔

بقرہ ۔ ۳/۴۳	اَللہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔
رُوم ۔ ۲۱/۵	حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۔ مومنوں کی امداد ہم پر لازم ہے۔
مومن ۱۱/۱۰	حَقًّا عَلَیْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۔ ہم پر لازم ہے۔ کہ مومنوں کو بچادیں۔

اب فیصلہ تم پر ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومن تھے یا نہ۔ اگر تمہارے نزدیک مومن تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بجسدہٖ بچانا لازم ورنہ فرمانِ الٰہی مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ (معاذ اللہ)۔ غلط لازم آتا ہے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو معاذاللہ ایمان دار ہی نہ سمجھو تو پھر توسُبْحَانَ اللہِ تم پکے مرزائی، پھر

نہیں قرآن کریم سے کیا مطلب - کیونکہ قرآن کریم تو تمہارے عقیدہ کے خلاف عیسٰی علیہ السلام کی امداد ثابت کر رہا ہے - اور عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر خداوند تعالیٰ احسان جتا رہا ہے اور اگر تمہاری یہ بات تسلیم کر لی جائے تو ایک بڑی خرابی اور لازم آتی ہے کہ جب عیسٰی علیہ السلام کو اللہ تعالےٰ نے ان کی اپنی موت سے ہی قبل از صلیب مار لیا تھا۔ تو پھر ان کے شبیہ کو پھانسی کیلئے کیوں چڑھایا گیا۔ اُن کا لانیوالا ان کی لاش کو دکھا کر خود بری ہو سکتا تھا۔ حالانکہ ایسا نہ ہؤا۔ بلکہ ان کے شبیہ کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کی جگہ صلیب پر لٹکایا گیا۔ اب اپنے استدلالات مرزائیہ کو ذرا سامنے رکھو، کہ ھَبَآءً مَّنۡثُوۡرًا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ امید ہے کہ اس آیۃ کے متعلق اچھی طرح تمہارا مغالطہ مرزائیہ دُور ہو گیا ہو گا اور تمہارے ہر سہ استدلالات بھی جعلی ثابت ہو گئے ہونگے۔ کیونکہ تمہارے پہلے استدلال کا مقصد یہی تھا کہ ترتیب قرآنی بھی نہ بدلے اور مطلب بھی صحیح ہو تو یہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہی ترتیب قرآنی کو مقام مؤخر کر کے بھی مطلب حیات مسیح کو واضح کر دیا اور دوسرے استدلال کا مطلب بھی حدیث سے ہی بیان کیا گیا تھا کہ جس سے اللہ نے شروع کیا، ہمیں بھی اسی سے شروع کرنا چاہیئے، چنانچہ متوفی کو مقدم رکھتے ہوئے مطلب کو صراحۃً بیان کر دیا گیا۔ کہ اگر متوفی کے معنی موت کے کرو تو رَافِعُكَ کے ساتھ متوفی کی تطبیق صحیح نہیں رہتی اور اگر رَافِعُكَ کے معنی بلندیٔ درجات لو تو مقام نجات کیوقت موت کو پھر ترقی درجات کو یاد دلانا خلاف نصرۃ ہے اور نصرۃ تب ہی متحقق ہو سکتی ہے کہ موت سے استغاثہ زندگی کے وقت حالات نجات کو بیان کیا جائے اور موقعہ بھی اسی امر کا متقاضی ہے، چنانچہ اسی امر نجات کو رفع آسمانی سے ذکر کر کے عیسٰی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو اسی صورت میں رُوحُ اللہ کی حقیقتِ جسمیہ کو اپنے اصلی پہلے مقام پر پہنچایا، اور ان کے عوارضات اور پیدائش انسانی ہونیکی بنا پر پھر ان کو واپس لایا جائیگا۔ اور زیر زمین دفن کیا جاوے گا۔

اور تمہارا تیسرا استدلال بھی باطل ثابت ہؤا۔ کیونکہ اللہ تعالےٰ نے عیسٰی علیہ السلام کے متعلق متوفی کو ذکر کر کے اپنی الوہیت کا ثبوت دیتے ہوئے اور ان کی عبودیت کا ثبوت دیکر پھر رَافِعُكَ سے انکار رفع جسمانی الی السماء فرمایا تاکہ الوہیت عیسوی بھی

marfat.com

باطل ہو جائے۔ اور نص رفع بالرفع الی السماء بھی یقینی ہو جائے۔ اور جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کا امر تب محقق ہو گا جب اِنْ مِّنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ متحقق ہو گا۔ کیونکہ جب تک یہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں متبع عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہلا سکتے اور نہ اِتَّبَعُوْكَ کے یہ لوگ مصداق بن سکتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے بعد یہ لوگ تثلیث چھوڑ کر لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ کے معنون بنیں گے تو اِتَّبَعُوْكَ کا عنوان ان پر چسپاں ہو گا۔ پھر یہ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ثابت ہوں گے تو پھر تمہارا دماغ بھی اس آیت کریمہ کو صحیح سمجھے گا اور اختراع قدنی کو پس پشت ڈالیگا۔ وَمَا عَلَیْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ٥

"مرزائی"۔ سنو بھائی! اللہ تعالیٰ نے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو اور نہ صلیب دیا ہے۔ بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے مرے ہیں۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب سے بچنا تو ثابت ہؤا۔ لیکن طبعی موت کا انکار کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ طبعی موت مر گئے ہوں۔ ب

"محمد عمر"۔ بڑا افسوس ہے کہ تم کلام خداوندی کے ساتھ اپنی کلام کو خلط کر کے مطلب الٰہی کو فوت کرنا چاہتے ہو۔ اس آیۃ کریمہ میں اللہ رب العزۃ نے مسیحیوں کے دونوں اقسام یعنی تثلیثی اور مرزائی کا پورا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ تمہارے بڑے بھائی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے صلیبی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہ کا کفارہ ہو چکے ہیں۔ اور تمہارا عقیدہ یہ ظاہر ہونے والا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو رب العزۃ نے ایک آیۃ سے دونوں بھائیوں کا رد کر دیا۔ فرمایا۔ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ اور نہ انہوں نے اُسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اُسے دار پر لٹکایا یَقِیْنًا یقینی امر ہے۔ اس جملہ سے تو ردِ عیسائیت ہو گیا۔ پھر اعتراض باقی تھا کہ یہ تو امر یقینی ثابت ہو گیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر بھی نہیں لٹکا سکے اور قتل بھی نہیں کر سکے۔ تو پھر کیا ہؤا تو قتل کی عکسی نقیض ہے حیات۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قتل اور صلیب سے بچایا تو تحقق حیات عیسیٰ علیہ السلام ضروری ہے۔ تو پھر یہ امر لازمی تھا کہ حیات کا تحقق کس صورت میں ہے بیان کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ نے حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کی

ہیئت قضائیہ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ سے فرمائی کہ ان کی حیات اس صورت میں ہے کہ ہم نے اسوقت ان کے قتل وصلیب سے بچاکر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا قتل وصلیب سے بچایا تو بچانے کی تفصیل فرمائی رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ سے تو قتل سے بچانا مستلزم ہے حیات عیسوی کو اور حیات عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مقید فرمایا۔ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ اپنی طرف اُٹھانے سے۔ اب تم کہو کہ خدا اپنی طرف اٹھانے کی قید لگا رہا ہے حیات عیسوی کے ساتھ۔ تو اب اُسے کس طرف اُٹھایا رَفَعَ یعنی اٹھایا، تو اوپر کی طرف رَفَعَ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کریم ان کو مارتے تو بجائے بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ کے ضرور فرماتے کہ بَلْ اَمَاتَهُ اللّٰهُ حَتْفَ اَنْفِهٖ تو تمہارا مطلب پورا ہو سکتا تھا۔ جب بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فرمایا تو رَفَعَ بلندی کا متقاضی ہے اور بلندی میں یا مقام ہوا ہے یا طبقات ناری یا زمہریری ہیں تو ان میں قیام محال ہے۔ لہٰذا العرفان الٰہی رَافِعُ عیسیٰ مع حیات سماوی کو اللہ کی آیت نے ثابت کر دیا اور قیام فی السماء فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا۔ اور یہ جو تم نے پخ لگائی ہے کہ وہ صلیب پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ یہ جملہ کہ اپنی موت سے مرے ہیں کون سے عربی جملے کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ فرما دیں بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ۔ تم کہو کہ نہیں اپنی موت سے مرے ہیں اب تمہاری بات مانیں یا خدا کی۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔

"مرزائی"۔ بَلْ رَّفَعَ اللّٰهُ الیہ کے معنی موت ہی تو ہیں۔ دیکھو پنجابی محاورہ بھی ہے (خدا تینوں چکے) جس کا مطلب ہے کہ خدا تینوں مارے۔

"محمد عمر" سبحان اللہ۔ نبی پنجابی تو عربی کو بھی زبان عرب کے خلاف بیان پنجابی زبان میں استعمال کرنا یہ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس کی تحقیق اوپر گذر چکی ہے۔ اب فقیر عرض کرتا ہے۔

کہ اگر رفع کے معنی موت کسی تفسیر یا کسی لغت عربی سے دکھا دو۔ تو تمہیں پانچ سو روپے انعام دئے جائیں گے۔ تمہیں اپنے آقا مرزا قادیانی کی قسم ہے، دکھاؤ۔

marfat.com

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اس واسطے اس نے تمہارے عقیدہ کے اجراء کے قبل ہی فیصلہ فرما دیا اِنِّیْ رَافِعُكَ اِلَیَّ کہ تیرے اجر کی توفی تب ہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں آسمان پر اُٹھایا جاوے۔ کیونکہ تم روح اللہ ہیں، ورنہ رَافِعُكَ اِلَیَّ فرمانے کی کیا ضرورت تھی، اگر دوسروں کی طرح اپنی موت ہی مارنا مقصود ہوتا تو رَافِعُكَ اِلَیَّ نہ فرماتے۔ کیونکہ اور کسی کے متعلق یہ ارشاد الٰہی نہیں ہے۔ پھر اس کی تائید وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ سے فرمائی۔ پھر قتل کی عکس نقیض بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ سے حیات عیسٰی علیہ السلام سماوی کو رَافِعُكَ اِلَیَّ کی شرح میں بیان فرمایا، تاکہ موت عیسٰی علیہ السلام کا شک بھی نہ رہ جاوے اور جو اُن کے نزول وھبوط کے بعد موت ہونیوالی ہے۔ وہ انشاء اللہ ضرور آ کر رہے گی۔

بھلا یہ تو بتاؤ، کہ اگر مرزا صاحب کو کہا جائے (مرزا جی پُتر نوں چک لو) تو کیا مطلب ہوگا کہ لڑکے کو مار ڈالو۔ کچھ ہوش سے بات تو کرتے۔

"مرزائی"۔ تم یہ کیوں نہیں صاف مطلب بیان کرتے کہ عیسٰی علیہ السلام کو مار کر اللہ نے اپنی طرف اُٹھا لیا۔

"محمد عمر"۔ خداوند تعالیٰ جب کسی کے دین کو چھین لیتا ہے۔ تو عقل بھی ساتھ ہی چھین لیتا ہے۔ توفی کے معنی بھی موت کرتے ہو اور رفع کے معنی بھی موت۔ اگر دونوں کے معنی موت کرو گے تو تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ توفی کے معنی تو پوری تحقیق سے گذر چکے ہیں۔ اب رفع کے معنی کی تحقیق لغاتِ عرب سے کرلیں۔

(۱)۔ المغرب ۱/۲۱۳	اَلرَّفْعُ خِلَافُ الْوَضْعِ۔ رفع کے معنی رکھنے کے خلاف ہیں یعنی اُٹھا لینا۔
(۲)۔ صراح ۳۱۴	رفع برداشتن۔ وَهُوَ خِلَافُ الْوَضْعِ۔ رفع کے معنی اُٹھانا اور وہ رکھنے کے برعکس ہے۔
(۳)۔ قاموس ۳/۳۰	(رَفَعَهُ) ضِدُّ وَضَعَهُ۔ رفع وضع کی ضد کو کہتے ہیں۔
(۴)۔ مصباح المنیر ۲۵۷	وَالرَّفْعُ فِی الْاَجْسَامِ حَقِيْقَةٌ فِی الْحَرَكَةِ وَالْاِنْتِقَالِ۔ پس رفع کے معنی اجسام میں حقیقۃً ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے اور منتقل کرنے کے ہیں۔

marfat.com

(۵)۔ المنجد ۲۷۴ — (رَفَعَ رَفْعًا) الشَّیْءَ ضِدُّ وَضَعَہٗ۔ رَافِعٌ۔ سَاطِعٌ۔ چڑھنے والا۔

(۶)۔ مفردات راغب ۱۹۹ — اَلرَّفْعُ یُقَالُ تَارَۃً فِی الْاَجْسَامِ الْمَوْضُوْعَۃِ اِذَا اَعْلَیْتَہَا عَنْ مَقَرِّہَا وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی بَلْ رَفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ یَحْتَمِلُ رَفْعَہُ اِلَی السَّمَاءِ وَرَفْعَہٗ مِنْ حَیْثُ التَّشْرِیْفِ۔ رفع کا لفظ بولا جاتا ہے کبھی رکھے ہوئے اجسام میں جب اس کو تو بلند کرے اس کی جائے قرار سے اور اللہ کا فرمان بَلْ رَفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ۔ (وہی متنازعہ فیہا آیت) احتمال رکھتا ہے چڑھایا اس کو اللہ نے آسمان پر اور اس کا چڑھانا آسمان پر بوجہ بزرگی کے۔ معلوم ہؤا کہ بزرگی کی بنا پر عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر چڑھایا گیا۔ امید ہے کہ تمہاری تسلی ہو گئی ہو گی، کہ لغات عرب میں رفع کے معنی چڑھانے کے ہیں اور اٹھانے کے۔

"مرزائی"۔ قرآن کریم سے رفع کے معنی اٹھانے اور چڑھانے کے دکھاؤ۔

"محمد عمر"۔ قرآن کریم سے ملاحظہ فرمالو:-

(۱)۔ رعد ۱۳/۱ — اَللّٰہُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَہَا۔ اَللّٰہُ وہ ذات ہے۔ جس نے اٹھایا بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو۔

یہاں رفع کا مفعول اجسام ہیں۔ اور فاعل اَللّٰہ ہے اور معنی اٹھانے کے ہیں۔ اگر معنی موت کے لئے جائیں تو معنی ہی الٹ ہو جائیں گے۔

(۲)۔ النّٰزعٰت ۳۰/۲ — رَفَعَ سَمْکَہَا فَسَوّٰہَا۔ اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا۔ تو درست بنایا اس کو۔

(۳)۔ رحمٰن ۲۷/۱ — وَالسَّمَاءَ رَفَعَہَا۔ اور آسمان کو بلند کیا اس نے۔

(۴)۔ غاشیہ ۳۰/۱ — وَاِلَی السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ۔ (کیا پس وہ آسمان کو نہیں دیکھتے) کس طرح بلند کیا ہم نے۔

ان آیات میں کیا مطلب کرو گے کہ آسمان کے روح کو نکالا گیا۔

(۵)۔ بقرہ۔ ۱/۸ — وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ۔ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ طور کو،

(۶)۔ یوسف ۱۳/۱۱ — وَرَفَعَ اَبَوَیْہِ عَلَی الْعَرْشِ۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے

۳۴پ کا جواب

marfat.com

ماں باپ کو تخت پر چڑھایا۔

مذکورہ بالا دلائل قرآن کریم نے ثابت کردیا کہ رفع کے معنی بمقابلہ اٹھانے کے بلند کرنے کے۔چڑھانے کے ہوتے ہیں۔قرآن کریم سے بھی دلائل تمہیں سنا دیئے۔ایمان لانا یا نہ لانا تمہارے اختیار ہے۔باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ مار کر اٹھالینا۔تو تمہارا یہ کہنا قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔کیونکہ اگر رفع کے معنی مار لینا ہی کروگے تو رَافِعُكَ اِلَیَّ فرمانا عبث بنتا ہے۔کیونکہ متوفیک کو تم نے خلاف قرآن وحدیث موت سے مقید کردیا۔پھر رَافِعُكَ فرمان الٰہی بالکل عبث ہوجائیگا۔مَعَاذَ اللہ۔باقی اس کی تمام تحقیق گذر چکی ہے۔

"مرزائی"۔ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ میں اِلَيْهِ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔اور اَللہ کی طرف جو جاتا ہے، وہ مر کر ہی جاتا ہے۔زندہ نہیں جاسکتا، یا یہ ماننا پڑیگا کہ خدا آسمان میں بیٹھا ہے۔

"محمد عمر"۔ اللہ تعالےٰ تو فرمادیں کہ جو زندہ ہے وہ میری طرف آتا ہے اور تم ہر بات میں اُلٹ کرتے ہو۔کیا اللہ تعالےٰ کے پاس موت ہی ہے۔حیات نہیں، ذرا قرآن کریم تو ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ پھر زندہ کریگا تم کو پھر تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے۔اس مقام پر بھی اِلَيْهِ کی ضمیر اَللہ کی طرف راجع ہے۔حالانکہ اَللہ تَعَالیٰ فرماتے ہیں۔تمہیں زندہ کر کے اَللہ کی طرف پھیرا جائیگا۔معلوم ہؤا، جو اَللہ کی طرف پھرے، وہ زندہ ہو کر تو جاسکتا ہے۔ورنہ نہیں۔

الملک ۲۹/۱

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۔اور اسی کی طرف جی اُٹھنا ہے۔فرشتے اَللہ کی طرف جاتے ہیں۔کیا مُردہ ہیں یا زندہ؟ نبی صلیّ اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں اَللہ کے پاس گئے۔مَعَاذَ اللہ کیا مُردہ تھے۔تم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے متبع ہو کر نبی صلیّ اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے بھی منکر ہوگئے۔تمہارا کس کس بات پر اور کس کس ذات پر ایمان رہا۔خدا کو تم چھوڑ بیٹھے، قرآن کو تم چھوڑ بیٹھے۔نبی صلیّ اللہ علیہ وسلم کو تم چھوڑ بیٹھے۔تمہارا کہاں ٹھکانا ہوگا۔باقی رہا تمہارا کہنا کہ خدا آسمان پر ثابت ہوجائیگا۔فرشتے خداوند تعالیٰ کی طرف مُڑتے ہیں یا خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں تو آسمان سے ہی آتے ہیں۔اس کی وجہ کیا ہے۔آہ! فقیر عرض کرتا ہے۔چونکہ ارشادِ الٰہی ہے:۔

marfat.com

نساء ۵/۱۸ — وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو احاطہ کرنیوالا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ ہر شیٔ کو محیط ہے۔ باقی ہر شے محاط اور محاط محیط کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مخلوق کا رجوع جب خالق محیط کی طرف ہوگا تو محیط کی طرف مائل ہوگا اور اللہ تعالےٰ عَلُوًّا كَبِيْرًا ہے۔ اسی واسطے جب کسی محاط کا رجوع اللہ کی طرف تسلیم کرینگے تو محیط بلند کی طرف ہوگا۔ اسی واسطے فرشتوں کا رجوع بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے نہ اَسْفَلَ السَّافِلِيْن کی طرف۔ اور اسی واسطے جب دعا مانگی جاتی ہے تو ہاتھ اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی واسطے نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بھی اپنے خالق کی طرف نظر فرماتے ہیں تو آسمان کی طرف ہی نگاہ اٹھاتے ہیں۔ جیساکہ ارشاد الٰہی ہے۔ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ۔ ہم آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف پھرا ہوا دیکھتے ہیں، ثابت ہوا کہ خدا کی طرف دیکھنے والا اپنی نظر پہلے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اِلَيْهِ کی ضمیر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی پہلے آسمان تک ہی محدود رہی اور یہی رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ کا تقاضا ہے اور مرزا صاحب کے نزدیک بھی تو خدا عرش پر ہے۔

(۱)۔ تحفۃ الندوہ ۱۹	خدا آسمان پر دیکھ رہا ہے۔
(۲)۔ اربعین ۶۴	تیرا خدا قادر ہے وہ عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔
(۳)۔ اربعین ۳ و ۱۷	خدا آسمان سے نازل ہوا۔
(۴)۔ اعجاز احمدی عربی ۶۹	واما مقامی فاعلموا ان خالقی * یَحْمَدُ نی من عرشہ ویوقرا اور میرا مقام یہ ہے کہ میرا خدا * عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے

مرزائیو! اب تو تمہارے مرزا صاحب نے خدا کو عرش پر تسلیم کر لیا۔ اب تو اِلَيْهِ کی ضمیر خدا کی طرف راجع کر کے آسمان پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہو جاؤ۔ کیونکہ طاقت عیسوی آسمان اول تک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اب بھی انکار کرو تو تمہاری سخت ہٹ دھرمی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اگر چاہو تو قرآن سے ثابت کیا جاوے۔

زخرف ۲۵/۷ — هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ۔ وہ ایسی ذات ہے۔ جو آسمان میں بھی الٰہ ہے۔ اور زمین میں بھی الٰہ ہے۔ آسمان کو بلند فرمایا۔ تاکہ علو مرتبت ثابت ہو۔ اور ملاحظہ ہو۔

فاطر ۲۲/۲ — اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ۔ ترجمہ:۔ اللہ کی

marfat.com

طرف ہی پاک کلمے چڑھتے ہیں، اور عمل صالح اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔

اے امتِ قدنی اب تو مومن بنجاؤ۔ کَلِمَاتِ طَیِّبَات کا رَفع بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں اور رَفع کے معنی چڑھنے بھی ثابت ہو گئے۔ تمہارے دونوں مطلب قرآن شریف سے پورے ہو گئے۔ آگے تمہیں خدا ہدایت بخشے، کیونکہ اگر یہاں رَفع کے معنی مرنے کے کرو گے تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ ہدایت کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ پانچ آیات سے معنی اُٹھانے کے دو آیات بمعنی چڑھنے کے اور تیسری بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ کے معنی چڑھنے کے۔ اب اگر ان سات آیتوں پر ایمان لاؤ گے اور حیات عیسوی عَلَى السَّمَاءِ کے قائل ہو جاؤ گے تو تمہارے واسطے خداوند کریم ساتوں دروازے جنت کے کھول دیگا۔ اگر ساتوں کو ٹھکرا دو گے۔ تو ساتوں دروازے بہشت کے بند کر کے ساتوں دروازے دوزخ کے کھول دیگا۔

آئیے! اس آیت متنازعہ فیہا کے متعلق ذرا تیرہ سو سال کے مفسرین کی رائے دریافت کر لیں کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہے:۔

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ کے متعلق کتب تفاسیر سے

ابن کثیر ۱/۳۶۳ | اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ يَعْنِىْ وَفَاةَ الْمَنَامِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِهٖ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُوْدِ اِنَّ عِيْسٰى لَمْ يَمُتْ وَاِنَّهٗ رَاجِعٌ اِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) اَىْ بِرَفْعِىْ اِيَّاكَ اِلَى السَّمَاءِ۔ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا۔ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ

یعنی مارنا نیند میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیند میں اٹھایا (اسی واسطے اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ فرمایا) حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور بیشک عیسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف واپس تشریف لانے والے ہیں، قیامت کے دن سے پہلے (اور کفار سے پاک کرنیوالا ہے) یعنی تجھے آسمان کی طرف اٹھا کر (اور علامہ ابن کثیر اس ترجمہ کی دلیل اخذ کرتے ہیں حدیث شریف سے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ جب نیند سے کھڑے ہوتے۔ سب تعریف اس ذات کے واسطے جس نے

marfat.com

ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَاِنَّہٗ رَاجِعٌ اِلَیْکُمْ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ نے تمہاری اس بات کا بھی رد کر دیا جو تم کہتے ہو، کہ عیسٰی اس امت سے پیدا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس امت میں وہی عیسٰی بن مریم واپس تشریف لائیں گے۔ قبل از قیامت نہ جیسا کہ تم کہتے ہو۔

(۲)۔ تفسیر کبیر ۲/۴۸۹ (یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ) اِنِّیْ مُتَمِّمٌ عُمْرَکَ اَنَّ التَّوَفِّیْ اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا وَلَمَّا عَلِمَ اللّٰہُ اَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّخْطُرُ بِبَالِہٖ اَنَّ الَّذِیْ رَفَعَہُ اللّٰہُ ھُوَ رُوْحُہٗ لَا جَسَدُہٗ ذَکَرَ ھٰذَا الْکَلَامَ لِیَدُلَّ عَلٰی اَنَّہٗ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ رُفِعَ بِتَمَامِہٖ اِلَی السَّمَاءِ بِرُوْحِہٖ وَجَسَدِہٖ ......
وَقَدْ ثَبَتَ بِالدَّلِیْلِ اَنَّہٗ حَیٌّ ...... (وَرَافِعُکَ اِلَیَّ) یَقْتَضِیْ اَنَّہٗ رَفَعَہٗ حَیًّا۔ ترجمہ:۔ (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ) بے شک میں پورا کرنے والا ہوں تیری عمر کو۔ بیشک توفی کے معنی شئ کو پورا لے لینا اور معلوم تھا اللہ کو کہ بعض لوگوں سے ایسا شخص بھی ہوگا جس کے دل میں یہ بات کھٹکے گی کہ جس کو اللہ نے رفع کیا ہے وہ اس کا روح ہے۔ اس کے جسم کے بغیر بیان فرمایا اس نے اس کلام کو تاکہ دلالت کرے کہ عیسٰی علیہ السلام آسمان کی طرف بتمامہ اٹھائے گئے ہیں۔ یعنی جسم مع روح ...... اور تحقیق دلیل سے ثابت ہوگیا کہ بے شک وہ عیسٰی علیہ السلام زندہ ہیں ...... وَرَافِعُکَ اِلَیَّ مقتضی ہے اس بات کا کہ بے شک عیسٰی علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا

(۳)۔ تفسیر کبیر ۳/۵۰۲ اَخْرَجَ اللّٰہُ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ مِنْ سَقْفِ الْبَیْتِ ......
وَصَعِدَ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ فِی الْجَبَلِ وَرُفِعَ اِلَی السَّمَاءِ قَالَ بَعْدَہٗ بَلْ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ۔ ترجمہ:۔ نکالا اللہ تعالٰی نے عیسٰی علیہ السلام کو مکان کی چھت سے اور چڑھ جائے گئے امت سے۔ اور اٹھائے گئے آسمان کی طرف۔ اللہ تعالٰی نے اس کے بعد فرمایا۔ بلکہ اٹھایا عیسٰی علیہ السلام کو اللہ نے طرف اپنی۔

(۴)۔ خازن ۱/۱۹۹ (وَاِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ)۔ مَعْنَاہُ اِنِّیْ قَابِضُکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ مِنْ قَوْلِھِمْ تَوَفَّیْتُ الشَّیْءَ وَاسْتَوْفَیْتُہٗ اِذَا اَخَذْتُہٗ وَقَبَضْتُہٗ تَامًّا۔ ترجمہ:۔ (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ) کے معنی ہیں کہ میں قبض کرنے والا ہوں تجھے اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف بغیر مارنے کے

marfat.com

عربوں کے قول سے توفیت الشیئ میں نے شیٔ کو پورا لے لیا جب پکڑے تو اس کو اور لیلے تو اس کو پورا۔

(۵)۔ **تفسیر معالم التنزیل** ۱/۲۹۹ اَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَفِّیْ اَلنَّوْمُ وَمِنْهُ قَوْلُهٗ عَزَّ وَجَلَّ اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فَجَعَلَ النَّوْمَ وَفَاةً وَكَانَ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ قَدْ نَامَ فَرَفَعَهُ اللّٰهُ وَهُوَ نَائِمٌ لِئَلَّا یَلْحَقَهٗ خَوْفٌ فَمَعْنَى الْاٰیَةِ اِنِّیْ مُنِیْمُكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ۔ ترجمہ:۔ بیشک مراد ساتھ توفی کے نیند ہے۔ اور اسی سے ہے اللہ کا فرمان اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا تو بنایا اللہ نے نیند کو وفات اور عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا نیند کی حالت میں تاکہ ان کو (رفع) کا ڈر نہ لاحق ہو جائے۔ تو معنی آیت کے ہوں گے۔ کہ میں تم کو سلانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

(۶)۔ **مدارک** ۱/۱۲۴ (مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ) مُتَوَفِّیْكَ قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ تَوَفَّیْتُ مَالِیْ عَلٰی فُلَانٍ اِذَا اسْتَوْفَیْتُهٗ اَوْ مُمِیْتُكَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُكَ الْاٰنَ اِذِ الْوَاوُ لَا تُوْجِبُ التَّرْتِیْبَ...... اَوْ مُتَوَفِّیْ نَفْسَكَ بِالنَّوْمِ وَرَافِعُكَ وَاَنْتَ نَائِمٌ حَتّٰی یَلْحَقَكَ خَوْفٌ وَتَسْتَیْقِظَ وَاَنْتَ مِنَ السَّمَاءِ اٰمِنٌ۔

ترجمہ:۔ (مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ) پورا لینے والا ہوں میں تجھ کو زمین سے یہ قول ماخوذ ہے۔ کہ میں نے فلاں سے مال پورا لے لیا۔ جب تو اس کو پورا لیلے۔ یا میں تجھے آسمان سے اترنے کے بعد مارنے والا ہوں اور اب اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس واسطے کہ واؤ ترتیب کو واجب نہیں کرتی۔...... یا پورا اٹھانے والا ہوں میں تجھے نیند میں اور اٹھانے والا ہوں تجھے اس حالت میں کہ تو سویا ہوا ہو تاکہ جاگتے ہوئے خوف لاحق نہ ہو۔ اور تو آسمان میں بے خوابی میں امن والا ہوگا۔ [۲۹۲]

"**مرزائی**"۔ بخاری میں متوفی کے معنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ممیتک یعنی موت کے لئے ہیں۔ کیا وہ غلط ہیں؟

"**محمد عمر**"۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول منقطع ہے مرسل نہیں ہے۔ اگر یہ مرسل ہوتا۔ باقی محدثین یا مفسرین نہ بیان کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم حضرت عباسؓ کا یہی قول رٹتے رہو۔ تو فقیر ثابت کرتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ممیتک

marfat.com

مراد لیا ہے۔ تو انہوں نے متوفیک کو متاخر بھی تو مانا ہے۔ جس کے تم قائل نہیں۔

(۷) تفسیر ابن عباس ۴۰۷ (اِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ) مقدم و مؤخر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ عبارت میں مقدم ہے۔ لیکن مصداق میں پیچھے ہے اور رَافِعُکَ پہلے ہے۔

مرزائی۔ کیوں پھر تم نے قرآن میں تقدم تاخر شروع کر دیا۔ ۲۹۲

محمد عمر۔ بھائی تم نے ہی پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منقطع کو تمام محدثین و مفسرین کے خلاف لے لیا۔ لیکن جب فقیر نے انہی حضرت عباسؓ کی تفسیر سے انہی کے تقدم تاخر کا ذکر کیا تو وہ تمہیں بُرا محسوس ہوا۔ اگر انہوں نے ممیتک معنی کئے ہیں تو انہوں نے تقدم تاخر بھی تو مراد لیا ہے۔ ان کی ایک بات کو مانتے ہو اور ایک کو ترک کرتے ہو اور قرآن کریم میں کئی جگہ ایسا تقدم و تاخر موجود ہے۔ سنو:۔

یٰمَرْیَمُ اقْنُتِیْ لِرَبِّکِ وَاسْجُدِیْ وَارْکَعِیْ مَعَ الرّٰکِعِیْنَ ہ ترجمہ:۔ اے مریم اپنے رب کی فرمانبردار ہو اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنیوالوں کے۔ اب تم بتاؤ کہ سجدہ مقدم ہے یا رکوع۔ یہاں آیت خداوندی میں سجدہ مقدم اور رکوع مؤخر ہے لیکن مصداق میں رکوع مقدم اور سجدہ مؤخر ہے۔ اور سنو:۔

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ہ

ترجمہ:۔ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ ہم اس کو آزماتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو بنایا۔ سننے والا۔ دیکھنے والا۔ یہاں آیت میں ابتلا مقدم ہے اور سمیع و بصیر بنانا مؤخر حالانکہ واقع میں اس کے خلاف ہے۔ سمیع و بصیر پہلے بنایا جاوے تو آزمائش کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب یا تو بخاری کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا نام نہ لینا۔ یا انکے قول تقدم اور تاخر کو بھی ماننا۔ لیکن تمہیں مرزائیت کب اجازت دیتی ہے کہ انصاف کو قبول کرو اور قرآن کریم کو تسلیم کر لو۔ یاد رکھو قیامت کے دن نبی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تمہارے خلاف شہادت۔ دینگے تو تمہیں معلوم ہوگا۔ وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا۔ اور فرمائیں گے قیامت کو۔

marfat.com

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب میرے امتی ہونے کے دعویداروں نے اس قرآن کو چھوڑا۔ اور یہ قادیانی تیرے قرآن اصلی وحی کو چھوڑ کر قادیانی جعلی جی کو مقدم سمجھتے تھے۔ ان مذکورہ بالا آیات سے بہ ترجمہ متقدمین صراحتاً ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہوا ہے اور بقرب قیامت آسمان سے اسی عیسٰی علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ نازل فرماوینگے اور وہ تلوار سے یہود و نصاریٰ کے ایمان کو درست فرمائینگے اور پھر ان کی شادی ہوگی۔ بچے ہوں گے اور وہ روضۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہونگے۔

جب مرزا غلام احمد قادیانی کو شیطان نے نبوت کے دعویٰ کے واسطے اکسایا۔ توان کو یہ سوجھی کہ پہلے عیسٰی علیہ السلام کو تمام مسلمان جو آسمان پر مانتے ہیں ان کے ذہن سے یہ نکالو۔ کہ عیسٰی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کیونکہ ختم نبوت میں فرق لازم آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا۔ کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ سوائے سرسید احمد کے اور ابوالکلام کے مرزا صاحب کی کسی نے نہ سُنی آخر مرزا صاحب اپنے مقصد پر اُترے کہ اگر عیسٰی علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد بھی ختم نبوت میں فرق لازم نہیں آتا۔ تو مجھے بھی نبی مان لو۔ اگر عیسٰی علیہ السلام کو بھی مردہ مانو تو میں بھی اپنی نبوت سے دست بردار ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ جب مرزا صاحب کی کسی نے بھی کوئی بات نہ سُنی توحیات عیسٰی علیہ السلام کی آڑ میں مرزا صاحب نے اپنی نبوت جعلی ظلی بروزی کا دعویٰ شروع کردیا۔ پھر برطانیہ کی امداد سے پکے اصلی نبی ہونیکا دعویٰ کردیا۔ جب لوگوں نے مرزا صاحب کے پول کھولے تو تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین کرکے خود سب سے بڑے بن بیٹھے جیسا کہ آگے انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا۔ حالانکہ مرزا صاحب پہلے مسلمانوں کی طرح اچھے بھلے حیات مسیح ناصری کے قائل تھے۔

"مرزائی"۔ بھلا یہ کبھی ہوسکتا ہے۔ کہ حضرت صاحب پہلے ایک واقعہ کے قائل ہوں۔ پھر انکار فرمادیں۔

"محمد عمر"۔ نغیر حوالجات پیش کرتا ہے۔ سُن لو۔

"مرزائی"۔ اس وقت نزول وحی نہ ہوگا۔

"محمد عمر"۔ بھائی وحی الٰہی کا نزول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہوچکا ہے۔ ہاں البتہ

marfat.com

وحی شیطانی کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسے ہی بناوٹی ظلی نبوت کا دعوٰی بھی تھا۔ پھر بھی بارہ سال تک حیات مسیح ناصری کے مسلمانوں کی طرح قائل تھے۔

براہین احمدیہ ۴۹۹

اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائینگے، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔

اور اس کتاب براہین احمدیہ کے لئے دس ہزار کا انعامی اشتہار بھی ساتھ ہی شائع کر دیا کہ میرے ان دلائل کو جو براہین احمدیہ میں خاکسار نے لکھے ہیں (جن میں یہ مذکورہ بالا حیات مسیح کا حوالہ بھی موجود ہے) باطل ثابت کر دیگا۔ تو اس کو دس ہزار روپیہ انعام دونگا اور پھر کتاب کو منقسم کر کے اور انعام بھی تقسیم کر کے چیلنج دیا۔ جب لوگوں نے اس بات کو لغو سمجھا تو خود ہی بعد میں اسی براہین احمدیہ سے اس بڑے مسئلہ حیات مسیح کو جو مرزائیوں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اعجاز احمدی میں باطل اور جھوٹا کہہ دیا۔ حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت حیات مسیح والی کا الہام مرزا صاحب کو جب ان کا ملہم مذکورہ بالا کرتا ہے تو وہ بھی حیات مسیح کے ترجمہ سے ہی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مرزا صاحب بھی کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے قدم دوسری طرف لیجاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

براہین احمدیہ ۴ / ۵۱۶

پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا۔ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ۔ اے عیسٰی میں تجھے کامل اجر بخشونگا یا وفات دونگا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی رفع درجات کر دونگا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔

اس سے پہلے اسی الہام کے معنی صحیح ہیں۔ اب اس الہام مرزائیہ سے یہ صاف عیاں ہے کہ اس کے ملہم مذکور نے تو کچھ خوف خدا کر کے صحت کی طرف رغبت دلائی۔ لیکن مرزا صاحب لفظ یا سے اور یعنی سے اپنی معقولیت کی مداخلت فرما رہے ہیں۔ ورنہ اس ملہم کو کیا شک تھا۔ کہ شکی واقعہ سے الہام کو کچا کرے اور معلوم ہوا کہ مرزا صاحب متوفی اور رافع کے معنی میں اپنے ملہم سابق اُستاذ الملائکہ سے بھی تجاوز فرما گئے ہیں۔ پھر جناب مرزا صاحب نے اپنے ملہم سابق اُستاذ الملائکہ سے مجلس مشاورت قائم فرما کر اپنے ملہم کو پکا کیا۔ کہ اگر تو میرے نظریئے کے مطابق نازل ہوگا تو تیرا میرا اتفاق ہوگا۔ ورنہ میں تیری گدی بھی سنبھال لونگا۔ تو مرزا صاحب کی دھمکی سن کر اُستاذ الملائکہ بھی کانپ گیا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام نبی اللہ کا مقابلہ کیا تو اس حال کو پہنچا کہ مجھے متبعین مرزا صاحب جیسے نصیب ہوئے اگر خدانخواستہ

marfat.com

ان کے مشورہ کو بھی قبول نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ اس عہدہ سے بھی سے بھی بڑھنا پڑے۔ لہذا سابق استاد الملائکہ بھی مرزا صاحب کے پیچھے ہو گیا اور آمین کہنی شروع کر دی۔ چنانچہ مرزا صاحب نے بعد ازاں کچھ پلٹا کھا کر خود دعوائے مسیح موعود ہونیکا شائع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے لعن طعن شروع کر دی کہ مسیح ناصری کے آسمان سے نزول کے مسئلہ میں یہ شخص اجماعِ امت کے خلاف چل کر امتِ محمدیہ سے خارج ہو رہا ہے۔ اور چاروں طرف سے ایک شور برپا ہو گیا تو مرزا صاحب اس اجماع کو تسلیم کرتے ہوئے بات کو گول مول کر کے مسلمانوں کے سامنے اعتبار جماتے ہیں۔

ازالۃ الاوہام ۱۳۱

ہم نے جو رسالہ فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے کشفی و الہامی امر کو شائع کیا ہے۔ کہ مسیح موعود سے مراد یہی عاجز ہے۔ میں نے سنا ہے۔ کہ بعض علماء اس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعات میں سے سمجھ لیا ہے۔ کہ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق علیہا کے ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بڑی غلطی ہے۔ اوّل تو یہ جاننا چاہیئے۔ کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدہا پیشین گوئیوں میں سے یہ ایک پیشگوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانے تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا۔ اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا اور پیشگوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں پوری ہوں۔ بلکہ اکثر پیشگوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کہ قبل از ظہور پیشگوئی خود انبیا کو ہی جن پر وہ وحی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چہ جائیکہ دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھ لیں۔

اس مذکورہ بالا عبارت میں صاف مرزا صاحب اقرار فرما رہے ہیں۔ کہ اے مسلمانوں اتنی جلدی مجھے اجماعِ امت سے خارج نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ الہام مذکورہ بشانِ خود میری سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی حیات سماوی کا مسئلہ اجماعی اور اتفاقی ہے۔ لیکن میرے دعوی مسیحیت کے لکھنے پر تمام علماء برخلاف ہو گئے تھا۔ پھر اس مسئلہ میں اپنی غلطی کا بھی گول مول اقرار کر لیا جو فرقہ اسلام میں انبیا علیہم السلام کی وحی میں غلطی تسلیم کرتے تھے۔ وہ خاموش ہو گئے اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے اقوال د

marfat.com

الہامات کاذبہ کی تاویلات کرکے درست کرنا شروع کردیا۔ اور جو کھرے اور سچے مسلمان تھے اور انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونیکا عقیدہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب کو کھلے الفاظوں میں کافر کہنا شروع کردیا۔ اور اعلان شائع کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ مسیح ناصری کے آسمان پر بجسدہٖ تشریف لیجانے اور قیامت کے قریب آسمان سے اترنے کا انکار کرکے قرآن کریم کے ظاہری اور حقیقی معنیٰ کو تبدیل کرکے خود مسیح ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ جو صراحۃً قرآن وحدیث کے علامات اور حقیقۃ مبینہ کے سراسر خلاف ہے۔ اور ہر طرح سے ابتدا تا انتہا مصنوعات کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی امت محمدیہ سے خارج ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب کا خود اپنا قول بھی امتِ محمدیہ کا مؤید ہے۔ اور ان کے برخلاف عائد ہوتا ہے۔

ازالۃ الاوہام ۱۳۰ | اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہوسکتا جو احکام قرآنی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔

اب مرزا صاحب کے اس فتوای کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیئے۔ کہ مرزا صاحب نے اس مسئلہ میں کتنے امور قرآنیہ کا انکار کیا۔

قرآن مجید	مرزا صاحب
(۱)۔ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ۔ حیات عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام	وفات مسیح ناصری عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہوچکے ہیں،
(۲)۔ بَلْ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بجسد عنصری آسمان پر تشریف لے جانا۔	انسان کا بمع جسم عنصری آسمان پر پہنچنا خدا کی قدرت سے باہر ہے۔
(۳)۔ فِی السَّمَآءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ آسمان پر انسان، انسانی لوازمات	

marfat.com

کے بغیر بقدرتِ الٰہی پورا کرسکتا ہے۔ } محال ہے۔
ہے۔ جیسا کہ اصحاب کہف زمین میں
بغیر لوازمات انسانی بقدرتِ الٰہیہ
سے زندہ موجود ہیں۔

(۴)۔ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ
(۱)۔ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا } میں مسیح بن مریم پیدا ہوا ہوں۔
قرب قیامت تشریف لانا۔ } عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئینگے۔
(۲)۔ اور حکومت کرنا۔

قرآن کریم کے چار امور کا مرزا غلام احمد صاحب نے حیات مسیح کے متعلق انکار کرکے تبدیلی کی ہے۔

ان کے علاوہ مرزا صاحب نے باقی قرآن کی تبدیلیاں بے شمار کی ہیں۔ جو انشاءاللہ موقعہ پر آپ سنیں گے۔ لہٰذا مرزا صاحب کی اس قرآنی تبدیلی اور انکار سے مرزا صاحب پر ان کا اپنا تحریر شدہ فتویٰ پورا حکم کا کام دیتا ہے۔ اب تم خود مرزا صاحب کے فرمان اور ان مذکورہ آیات کی تبدیلی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرلو کہ مرزا صاحب کون ہیں۔ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ۔

چنانچہ مرزا صاحب نے جب دیکھا کہ ایک ماؤلین کی جماعت میرے ساتھ ہوگئی ہے تو پھر کروٹ لی اور فرمایا۔

آئینہ کمالات ۴۳۸

ظهر علی بالنصوص القرآنية والحديثية ان المسيح ابن مريم عليه السلام قد توفی ولحق باخوانه من النبيين وكنت اعلم ان وفات المسيح حق ثابت بالنصوص البينة القطعية القرآنية والحديثية واعلم ان الهامی لاغبار عليه ولا تلبيس ولا تخليط ومع ذالك كان يقيني بان اعتقاد المسلمين في نزول المسيح حق لا شبهة فيه ولا ريب فعرى علی تطبيقهما كنت من المتحيرين فما قنعت بالنصوص نقطالاني وجدت في الاحاديث رائحة قليلة

بسیرۃ من دخن الاختلاف بظاھر النظر ....

وانجمت وعلمت من لدنہ ان النزول فی اصل مفھومہ حق ولکن ما فھم المسلمون حقیقتہا لان اللہ تعالیٰ اراد اخفاءہ۔

اور نصوص مبینہ قرآنیہ اور حدیثیہ سے مجھ پر ظاہر ہوا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اپنے تمام انبیا بھائیوں سے جا ملے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ مسئلہ وفات مسیح نصوص بینہ قرآنیہ اور حدیثیہ سے ثابت ہے، حق ہے اور جان لے کہ میرا الہام نہ اس پر کوئی غبار رکھ اور نہ فریب اور نہ ملاوٹ۔ اور باوجودیکہ میرا یقین تھا کہ مسلمانوں کا اعتقاد نزول مسیح میں سچا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور کوئی شک نہیں، تو مجھ پر ان دونوں کی تطبیق (مسلمانوں کے عقیدے کی اور مرزا صاحب کے الہام کی) مشکل ہو گئی۔ تو میں نے صرف قرآن کی آیات پر اکتفا کیا کیونکہ مجھے حدیثوں میں ذرا سے اختلاف کی بو آئی۔ (میرا کام بن گیا) ظاہر نظر میں (مرزا صاحب کی نظر میں، حقیقت میں نہیں)، (آگے چل کر فرماتے ہیں) میں الہام کیا گیا اپنے نفس کی طرف سے جتایا گیا کہ نزول اپنے مفہوم میں حق ہے اور لیکن مسلمانوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفا کا ارادہ کیا ہے۔

اے فرقہ مرزائیہ! خدا خدا سے ڈرو، اور فیصلہ کرو کہ مرزا صاحب کی اس عبارت آئینہ کمالات سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہی میرا بھی تھا۔ اور بہت عرصہ رہا۔ لیکن مرزا صاحب نے اپنی نفسانیت کی بنا پر الہام گھڑا، پھر قرآن کریم کو اس کے مخالف پایا، کیونکہ قرآن کریم حیات مسیح ثابت کر رہا ہے، جس کو مرزا صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں، چنانچہ ہر طرف سے ناکامی کی صورت دیکھ کر احادیث کو ٹھکرایا اور حدیثوں کو الٹ پلٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق بنانے کی کوشش کی، بس یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ پہلے حدیثوں کے معانی تبدیل کئے، جب لوگوں نے قرآن پیش کیا تو قرآن کے معانی کو بعد ازاں تبدیل کیا، جو مرزا صاحب کی عبارت سے واضح ہے۔ اب فقیر مرزا صاحب کی تحریر جو ان کے خلیفہ ثانی (لڑکے) نے لکھا ہے۔ پیش کرتا ہے:۔

کلمۃ الفصل ۴۷ حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے۔ کہ مسیح ناصری آسمان پر موجود ہے، اور آخری زمانہ میں زمین پر نازل ہوگا، اور آپ قریباً بارہ برس تک اسی عقیدہ پر قائم رہے۔

marfat.com

حیاتِ مسیح کا اقرار مرزا صاحب نے بھی فرمایا۔

اعجاز احمدی ۷

پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بیخبر اور غافل رہا، کہ خدا نے مجھے بڑے شدومد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے۔ اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر جما رہا۔ جب بارہ برس گذر گئے، تب وہ وقت آگیا، کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اسی بارہ میں الہامات شروع ہوئے۔ کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔

ماقبل مذکور ہو چکا ہے۔ کہ مرزا صاحب نے جب براہین احمدیہ لکھی۔ جس میں دس ہزار روپے انعام مقرر فرمایا، جو اس کے مکتوبہ مضمون کو باطل ثابت کر دے۔ مرزا صاحب کو اتنا ناز اس کی حقانیت پر تھا۔ لیکن جب اعجاز احمدی شائع کی۔ جس میں وفات مسیح پر زور دیا۔ اور حقانیت کا پکا دعویٰ اور ساتھ ہی انعامی اشتہار شائع کیا۔ جو اس مکتوبہ مضمون کو باطل ثابت کر دے۔ اس کو دس ہزار انعام دونگا۔

اے میرے مرزائی دوستو! خدارا نظر انصاف سے دیکھنا کہ اس وثوق سے دو متضاد باتوں کی اشاعت تو میرے خیال میں جو صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَھُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ کا مصداق ہو، وہی مرزا صاحب کی بات پر ایمان لا کر اپنی مرزائیت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ صاحب ہوش ایسے خَبِیْثَۃُ الْحُبِّ میں گر کر کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں حیاتِ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ان کا آسمان سے اترنا اور کہاں غلام احمد بن چراغ بی بی کا عیسیٰ ابن مریم کہلانا۔ دو فرمائیے۔ کہ دونوں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کونسا، یا دن کو کوئی شخص دن کہے تو کہو گے سچ ہے۔ اور جب تم پر اعتبار جم جائے تو کہے نہیں میں نے غلط کہا ہے۔ یہ تو رات ہے۔ تو کیا رات ہی کہنے لگ جاؤ گے، کچھ سوچو۔

"مرزائی"۔ نہیں تم بے سمجھ ہو۔ تمہیں علم دین سے کیا خبر؟ آیت آیت کو منسوخ کرتی ہے، حدیث حدیث کو، حضرت مرزا صاحب کی وحی بمنزلہ قرآن ہے۔ پہلے واقعی مرزا صاحب بھی مسلمانوں کے عقیدہ پر تھے، لیکن جب بارش کی طرح وفات مسیح پر وحی نازل ہوئی تو ان کو وہ عقیدہ حیات مسیح چھوڑنا پڑا اور وحی کو چھوڑ بھی نہ سکتے تھے، اس واسطے مرزا صاحب کو یہ عقیدہ حیات

marfat.com

مسیح کا بدل گرد خابت مسیح کا اقرار کرنا پڑا۔ ب

محمد عمر۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہ تم اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ جیسے تم کو مرزا صاحب نے بہکا دیا ویسے ہی تم بہک گئے۔ یہ نہ سوچا کہ خود مرزا صاحب فرماتے ہیں، کہ میں بارہ برس تک عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا قائل رہا۔ اور مرزا صاحب مدعی رسالت بھی رہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کے اس رویے سے کئی وجوہ سے کذب عیاں ہے۔

(۱)۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ان کے یوم پیدائش سے ہی اُن کو طاقت تکلم بخشی اور انہوں نے یوم پیدائش ہی لوگوں پر اپنی حقیقت کو ظاہر فرما دیا۔ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ اٰتٰنِیَ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَکًا اَیْنَمَا کُنْتُ الخ میں اللہ کا بندہ ہوں (اللہ کا بیٹا نہیں) مجھے اس نے کتاب دی ہے۔ اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اور جہاں میں رہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے الخ۔ اور خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام سے یوم ولادت ہی ان کی عبودیت اور نبوت اور برکت کا بلا دھڑک اقرار کروایا۔ تاکہ کذب مرزا صاحب ثابت ہو جائے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے الٹ پلٹ کر کے ترقی سے دعوائے نبوت نہیں کیا۔ اور مرزا صاحب نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعوائے بتدریج گھڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فوری دعوائے کرنا اصلیت پر مبنی تھا۔ اور مرزا صاحب کا دعوائے بتدریج یہی مرزا صاحب کے کذب کی واضح دلیل ہے۔ کیونکہ حقیقتاً بناوٹ پر دارومدار رکھا۔ اصلیت سیدھی فوراً آتی ہے بناوٹ سنبھل کر قدم رکھتی ہے۔

(۲)۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ نبی اللہ کو پیدائش سے ہی مِنْ جَانِبِ اللّٰہ اپنی ذات کا علم ہوتا ہے۔ جو دعوائے اوّل سے عیاں ہے۔ اور پیدائش سے ہی اپنی صفت رسالت و نبوت کا علم خدا کی طرف سے رکھتا ہے۔ جس کا رخ لوگوں پر ظاہر کرنے سے خائف نہیں ہوتا۔ جو باقی دلیلیں نمو ہے۔ اور اپنی برکت رکھنے کا علم بھی خدا کی طرف سے اس کو الہامی ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب ان امورات سے حتماً نا واقف تھے اور ان کا اپنا اقرار بھی موجود ہے۔ کہ میں بارہ برس تک بے خبر اور غافل رہا اور ان کی برکت کا کیا ہی کہنا ہے۔ کیا جو ان امورات نبوت سے بے خبر ہو وہ اپنے دعوائے نبوت

marfat.com

ہیں سچا کہلا سکتا ہے۔ خود ذات عیسیٰ لیکن ۱۲ برس تک ران کے اپنے دعوی کے مطابق اپنی ذاتِ عیسویت سے بے خبر اور دوسرے کو عیسیٰ کہتا رہے۔ پھر ان کا ملہم بھولن کو اپنی حقیقت صحیح بیان کرنے کی رہبری نہ کرے تو یہ دعو کا سابق اُستاد الملائکہ کا ہی ہے۔ جس نے مرزا صاحب کو پھسلایا۔ یہ خداوندی فعل نہیں۔ کیونکہ رب العزۃ کی ذات دھو کے اور فریب سے مبرّا ہے۔ اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اس کو حق ظاہر کرنے یا کرانے سے کسی کا خوف بھی نہیں۔ ایسا خائف اور فریبی ملہم یہ سابق اُستاد الملائکہ کا کام ہے، خدا کا نہیں۔ کیا کوئی مرزائی یہ ثابت کر سکتا ہے۔ کہ کوئی سچا نبی اپنی ذات سے بالکل بے خبر رہا ہو اور لوگوں کو دھوکے میں رکھے۔ لہذا ثابت ہوا، کہ مرزا صاحب کا پہلا عقیدہ جو الہام مصطفائی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات مسیح ثابت ہو چکا ہے اور قرآن خداوندی سے واضح ہے۔ جس کو ساڑھے تیرا سو سال تک اجماع امت نے سمجھا۔ وہی صحیح تھا۔ بعد میں مرزا صاحب شیطانی وساوس میں ملبوس ہو کر حواس باختہ ہو گئے اور فطرتی تقاضا بھی یہی ہے۔ کیونکہ مسلمان کی فطرت زمانۂ ابتدائیہ مسلمان کو گناہ سے مکلف نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ بہر زمانہ جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو اتصال خیر غیر مکلف مخلوط الخطایا عمر مکلف سے اچھا فتویٰ دیتی ہے تو بہر حال مرزا صاحب کا پہلا فتویٰ صحیح اور دوسرا غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر دعویٰ رکھتے ہو کہ مرزا صاحب کا الہام قرآن کا بالمقابل ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ تمہاری مسلمانی ہے۔ جس قرآن کا یہ دعویٰ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثل ایک سورۃ تو لا کر دکھاؤ اور تم مرزا صاحب کے جعلی اور غلط عربی اور غلط اُردو اور غلط فارسی اور غلط انگریزی کو بے مثل ذات کے بے مثل کلام کا بالمقابل کہو، تو ثابت یہ ہوتا ہے۔ کہ تم نے خداوند تعالیٰ کو اپنا خالق و عزیز سمجھا ہی نہیں۔ اور تم عقل سے اتنے دور ہو کہ تم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ خالق کے کیا صفات ہوتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے مابین کیا فرق ہے اور اتنے کوتاہ بین ہو کہ خالق کے کلام کا اس کی شان کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے اور کلام مخلوق کو کلام خالق کا ہم مرتبہ سمجھتے ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کلام خداوندی کو کلام مرزا صاحب سے منسوخ کرتے ہو۔ جس نسخ کی اجازت قرآن کریم بھی نہیں دیتا۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں

marfat.com

کرتے یا ہم کسی آیت کو نہیں چھوڑتے مگر اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل، اب تم خود فیصلہ کرو کہ مرزا صاحب کے خواہ کتنے بھی الہامات ہوں۔ کیا وہ ان آیات سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ یا مقابلہ کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہی ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈال کر ملاحظہ تو فرماؤ تا کہ تمہیں عیش دنیائے مرزائیت نظر سے دور ہو جائے اور موت یاد آ جائے۔ پھر حکم خداوندی کو دیکھنا کہ وہ مقدم ہے یا الہامات مرزا غلام احمد مقدم ہیں۔ اب آپ کے سامنے اصول تفسیر قرآنی پیش کرتا ہوں۔ جس سے آپ کو کذب مرزا صاحب اور صاف واضح ہو جائیگا۔ سنیے :-

تفسیر اتقان ۲/۳۶	خَبَرٌ لَا نَسْخَ فِيْهِ - خبر میں نسخ نہیں۔
اتقان ۲/۳۴	اَمَّا الْخَبَرُ الَّذِیْ لَیْسَ بِمَعْنَی الطَّلَبِ فَلَا یَدْخُلُهُ النَّسْخُ - لیکن وہ خبر، جو طلب کے معنی میں نہیں ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔
کتاب النّاسخ والمنسوخ لمحمد بن حزم ۳۱۳	وَالنَّسْخُ اِنَّمَا یَقَعُ فِی الْاَمْرِ وَالنَّهْیِ وَلَا یَجُوْزُ اَنْ یَقَعَ فِی الْاَخْبَارِ الْمَحْضَةِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ لَیْسَ بِنَسْخٍ - ضروری بات ہے

کہ نسخ امر اور نہی میں واقع ہوتا ہے۔ صرف خبروں اور استثنا میں نسخ نہیں ہوتا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صرف واقعہ عیسوی کی خبر ہے اور آیات قرآنیہ حیات عیسوی کی مخبرہ ہیں۔ لہٰذا اس خبر کو منسوخ کہنا یہ علوم قرآنیہ کی بے خبری کا ثبوت ہے۔ جو سراسر جھوٹ ثابت کر رہا ہے۔ کیونکہ جب نسخ ثابت نہ ہو، تو ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کا وفات مسیح کا آخری دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔

افسوس کہ مرزا صاحب نے ایسے واقعہ کی نسخ کی کوشش فرمائی جو ناممکن تھا۔ اگر اپنی امت مرزائیہ کے لئے نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ پر اتنا نسخ کا زور دیتے تو ان کی امت کے لئے مسلمانوں کے مقابلہ میں کچھ تو فائدہ رہتا۔ لیکن اس واقعہ میں ان کا الجھانا یہ ان کی ذات کو مفید پڑتا تھا اگر وہ پہلے حیات مسیح علیہ السلام پر چھاپہ نہ مارتے تو خود دعویٰ مسیحیت کیسے کر سکتے تھے۔ لیکن یاد رکھو:-

اے امت مرزائیہ انہی واقعات نو خاستہ کو اللہ تعالیٰ نے هَبَاءً مَّنْثُوْرًا کرنے کے واسطے ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ - آج

marfat.com

دِن یعنی یوم تنزیل قرآن حکیم سے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جس سے حیات مسیح ثابت ہو چکا اور انعام نبوت کو بھی میں نے پورا کر دیا ہے۔ آج کے بعد یعنی قرآن کریم کے نزول کے بعد اگر کوئی شخص تمہیں الہامی جھانسے دے اور نبوت کا مدعی بنے اور اس قرآنی عقائد سے بذریعہ وساوس خود بدلے تو تم اس قرآن کو پس پشت نہ ڈالنا، اس کے جعلی الہامات کو پھینک دینا۔ لیکن میرے قرآن کو پشت نہ ہو، کیونکہ تم پر محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شہادت دیں گے۔ وَقَالَ الرَّسُوْلُ یَارَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا۔ فرما دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میرے یہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہونے کے بعد عویدار اس قرآن کو مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام سے منسوخ کرتے رہے ہیں۔

اے مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام سے کلام خداوندی کو منسوخ کرنے والو۔ بتاؤ تمہارا اُس وقت کیا حال ہوگا۔ فَاعْتَبِرُوْا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ۔

قرآن مجید کو مقدم سمجھو۔ اور قلا تقطع المکذبین پر غور کرو، مجازی کلام اور مجازی مذہب اور مجازی نبوت کو چھوڑ کر حقیقی خدا کے حقیقی نبی اور حقیقی مذہب اور حقیقی نبوت کے دامنگیر بن جاؤ۔

"مرزائی"۔ اچھا مولوی صاحب اگر متوفی کے معنی موت کے لئے جاویں اور رفع کے معنی بلندی درجات کئے جاویں۔ اور نزول مسیح سے مراد بیدائش مسیح حسب دستور باقی انبیا تسلیم کیا جاوے تو میرے خیال میں آپ کو اس کے تسلیم کرنے میں کوئی انکار نہ ہوگا۔

"محمد عمر"۔ متوفی کے معنی کو نفرنے قرآن مجید سے بھی اور تمہارے مرزا صاحب کے الہام سے بھی معنی پورا لینے کے ثابت کر دئے ہیں۔ جس کی تحقیق کماحقہٗ گذر چکی ہے۔ اور رفع کی تحقیق بھی ہو چکی ہے۔ لیکن تمہاری اس مراد سے جو بلندی درجات کہتے ہو، اس معنی میں تمہیں بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ بصورت تقابل رفع اور نزول ضروری ہے مثلاً عیسٰی علیہ السلام کا رفع آسمانی مانے جاویگا۔ تو ہی نزول من السماء درست ہوگا اور اگر رفع عیسٰی علیہ السّلام سے مراد یہ لیا جاوے کہ عیسٰی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر کے ان کا رفع درجات کیا، تو پھر اس کے مقابلہ میں کہا جاوے کہ مرزا صاحب کا نزول ہوا تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوگا کہ مرزا صاحب کی ذلت ہوئی، یعنی اللہ نے

marfat.com

ذلیل کیا۔ کیونکہ رفع کا تقابل ضروری ہے۔ تو بایں معنی وفات مسیح و رفع و حیات و نزول مرزا صاحب سے مرزا صاحب کی تحقیر ثابت ہوئی ہے۔ جس کو تم برداشت نہ کر سکو گے اور عیسٰی علیہ السلام کی موت کے واسطے نص صریح قرآن میں موجود نہیں، حالانکہ حیات سماوی عیسوی کی نص صریح موجود ہے۔ اور باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح کہتے ہو، تو ذرا قرآن مجید کی کسی آیت پاک سے تو دکھاؤ کہ خدا تعالےٰ نے انبیاء علیہم السلام کی پیدائش پر نزول کا لفظ استعمال فرمایا ہو، جیسا کہ تم مرزا صاحب کی پیدائش پر اپنی اصطلاح میں لفظ نزول استعمال کر رہے ہو۔ اور اگر تم کسی صورت میں عربی زبان کے خلاف چلو اور کسی اصطلاح کو نہ مانو اور نزول سے مراد پیدائش ہی کرو تو پھر بھی تمہارے لئے بہت زیادہ دقت ہو گی۔ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے:۔

اِذْ بَعَثَ اللّٰہُ فِیْکُمُ ابْنَ مَرْیَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ فَیَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَۃِ الْبَیْضَاءِ شَرْقِیِّ دِمَشْقَ بَیْنَ مَھْرُوْذَتَیْنِ وَاضِعًا کَفَّیْہِ عَلٰی اَجْنِحَۃِ مَلَکَیْنِ۔	مسلم شریف ۲/۴۰۱

جو وقت اللہ تعالیٰ عیسٰی علیہ السلام کو بھیجے گا تو دمشق کے سفید شرقی مینار کے پاس اتریں گے۔ دو کیسری چادروں میں لپٹے ہوئے اور دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے ہوں گے۔ اب اگر نزول سے مراد پیدا ہونا لو گے تو مرزا صاحب کو چاہیئے تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس اطوار سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوتے۔ تو پھر تمہارے مرزا صاحب اتنے سامان کی معیت میں تشریف کیسے لا سکتے تھے۔ ذرا سوچ کر تو معنی بدلتے۔ تو ماننا پڑے گا کہ عیسٰی علیہ السلام جو مسیح بن مریم آسمان پر تشریف لے گئے ہیں، وہی اس حدیث کے مطابق تشریف لا سکتے ہیں۔ ورنہ تکذیب قرآن و حدیث لازم آئے گی۔

"مرزائی"۔ میری سمجھ میں یہ تو آ گیا۔ لیکن اللہ تعالےٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ مَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ وَاُمُّہٗ صِدِّیْقَۃٌ کَانَا یَاْکُلَانِ الطَّعَامَ (مائدہ)۔

نہیں مسیح بن مریم مگر ایک رسول۔ البتہ آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے۔ اور آپ کی والدہ راست باز تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ مریم علیہا السلام کا ترکِ طعام مسلم ہے۔ اور ساتھ ہی ترک طعام حضرت عیسٰی

marfat.com

علیہ السلام ثابت ہوگیا۔ پس مسیح کا بغیر کھانے کے جینا کیونکر ممکن ہے۔ اللہ تعالےٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ہ یعنی انبیاء کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو یا ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تم نے کہا تھا کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس سے صریح دلیل قرآنی اور کیا ہوگی۔ ختم

"محمد عمر"۔ یہ تمہاری پیش کردہ آیت تمہارے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ مرزائیت کے لئے کاری ضرب ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ تحقیق آپ سے پہلے رسول گذر چکے ہیں۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے نے تو ثابت کر دیا کہ تمام رسول تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نبوتیں گذار چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگیا۔ باقی رہا حیات عیسوی۔ تو خَلَتْ کا ترجمہ ہے (گذر چکے) تو یہ لفظ عام ہے، فوت ہو کر یا زندگی میں، دونوں کو خَلَتْ کا لفظ شامل ہے۔ خَلَتْ مشتق ہے خَلَوٌ سے، جس کے معنی عربی میں تنہائی کے ہیں۔ دوسرے معنی گذرنے کے، اب دونوں طرح کا استعمال قرآن کریم سے سنیئے اور مجرزی نہ کیجئے:-

(۱)۔ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں۔

(۲)۔ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو تم پر وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔

(۳)۔ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ۔ اللہ کا طریقہ وہ جو اس کے بندوں میں گذر چکا ہے۔

(۴)۔ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ۔ اور سنت اللہ کے گذرنے سے مطلب فوت ہونا نہیں۔ کیونکہ ارشاد الٰہی ہے۔ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ہ اللہ کا طریقہ بدل نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ فوت نہیں ہو سکتا۔ ان تمام آیات سے خَلَتْ کے معنی موت نہیں۔ اب مشترکہ خَلَتْ عرض کرتا ہوں۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ۔ تحقیق پہلے ان کے کئی امتیں گذر چکیں، تمام مر نہیں گئیں۔

marfat.com

بلکہ اکثر فوت ہوگئیں۔ اور باقی ماندہ منسوخ ہوگئیں۔ اس مقام میں خَلَتْ زندہ اور مردہ دونوں کو شامل ہؤا، اور اس آیت کریمہ سے امت مرزائیہ بھی امت حقیقیہ کے مصداق سے باہر گئی، کیونکہ اب اگر ہے، تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی سب باطل۔ اب کتب لغات سے تحقیق کریجیے۔

(۱)۔ قاموس ۱/۱۴	وَخَلَا الْقَوْمُ تَرَكُوْا شَيْئًا: أَخَذُوْا فِيْ غَيْرِهٖ۔
(۲)۔ قاموس ۴/۳۲۵	مَكَانٌ خَلَاءٌ مَا فِيْهِ أَحَدٌ۔ مکان خلاء کے معنی ہیں۔ کہ مکان خالی ہے۔ یہ نہیں کہ مکان مرگیا۔
(۳)۔ مجمع البحار ۱/۳۷۶	فَخَلَا عَنْهُمْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا ای ترکھم واعرض عنہم۔ پس چلاگیا اُن سے چالیس سال، یعنی اس نے اُن کو چھوڑ دیا اور اُن سے منہ پھیرا۔

ثابت ہؤا۔ کہ خَلَو کے حقیقی معنی تنہائی کے اور ترک کے ہیں۔ موت اس کی فرع ہے۔

چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت عیسٰی علیہ السلام بحیات تشریف لیجا چکے ہیں۔ اس واسطے رب العزۃ نے خلت کا ایسا کلمہ استعمال فرمایا جو فوت شدہ کو بھی شامل ہوجائے اور جو زندہ جاچکا ہو وہ بھی شامل ہوجائے۔ (تمام رسول گذر چکے)، چنانچہ عیسٰی علیہ السلام اپنی رسالت کو گزار چکے۔ اب رَسُولُ الرُّسُلِ۔ نبیّ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی باری آگئی ہے۔ اِس واسطے عیسٰی علیہ السلام کا نزول خادمانہ حیثیت سے ہوگا۔ کیونکہ تمام انبیا علیہم السلام کی رسالت آپ کی طفیل ہے، اللہ رَبُّ الْعِزَّۃ نے اسی واسطے فرمایا، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسل زندہ ہوں یا مُردہ تشریف لے جاچکے ہیں۔ اب سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ کی باری آگئی ہے۔ رُسل جن کا کلمہ پڑھتے گئے ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھنے والے تشریف لاتے رہے۔ اب جنکا کلمہ پڑھا جاتا تھا وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک حضرت عیسٰی علیہ السلام کو دوبارہ رب العزۃ اسی واسطے نازل فرمائیگے کہ تمام کی طرف سے متبعین ہونے کا نمونہ پیش ہوجائے۔ چونکہ آپ آخری نبی اور

marfat.com

نبی الانبیاء ہیں۔ اس واسطے بعد کے پیدا ہونے والے متبع نبی کی شہادت کو گوارا نہیں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہ لازم آئے۔ پہلے کو پھر واپس بلانے کے لئے محفوظ رکھ لیا۔ تاکہ ختم نبوت میں بھی فرق نہ آئے اور فرق تب آتا اگر حضرت عیسٰی علیہ السلام بعد میں پیدا ہوتے۔ پیدائش پہلی نبوت کی نزول دوسرا غلامی کا۔ اس سے مرزا صاحب کا بھی رد ہو گیا۔ کیونکہ اگر مسیح ہوتے تو غلامی سے باہر نہ جاتے۔ چونکہ اللہ تعالٰے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے پیدا ہونے کے امکان کو ہی توڑ دیا ہے، اس واسطے مرزا صاحب نے مسیحیت کے دعوای میں غلامی کا دعوای پہلے کیا اور نبوت کا بعد میں۔ تاکہ ان کی بطالت ظاہر ہو جائے کہ مسیح کی نبوت پہلے گذر چکی اور غلامی اب ہو گئی۔ کیونکہ حضرت عیسٰی علیہ السلام جب تشریف لاویں گے تو اپنی نبوت کا اظہار نہ فرماوینگے۔ بلکہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو غنیمت جانیں گے۔ تو مرزا صاحب کے جھوٹ کا پول تو ہر طرح ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالٰے نے موت کے لفظ کو چھوڑ کر خَلَتْ کا لفظ استعمال فرمایا، تاکہ مشترکہ لفظ سے حیات عیسوی بھی ثابت ہو جائے۔ تو اس کلمہ سے حیات عیسٰی علیہ السلام ہی ثابت ہوئی نہ کہ موت۔ جیسا کہ تم نے سمجھا۔ باقی رہا تمہارا کہنا کہ کَانَا یَاکُلَانِ الطَّعَامَ کہ وہ دونوں ماں بیٹا مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس میں سَابِقُ العِزَّتِ کے کئی مقاصد ہیں۔ پہلی بات تو اس لئے اللہ تعالٰے نے فرمایا کہ ماں بیٹے کا اتفاق ایسا اتفاق تھا کہ مل کر اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب اُن کا اکٹھا کھانا نہیں رہا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ علیحدہ ایک بھی نہیں رہا۔ جیسا کہ مثلاً کہا جائے کہ مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا محمود صاحب اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے تو کیا اس جملہ کہنے سے مرزا غلام احمد صاحب کی موت سے مرزا محمود صاحب کی موت خود بخود واقع ہو جائے گی؟ یہ تمہارا کتنا غلط اقتباس ہے۔ تمہارا دماغ کیوں ضائع ہو گیا۔ اگر تمہارا استمرار بھی لیا جائے۔ تو بھی کوئی خرابی نہیں۔ کیونکہ پھر بھی یہی ثابت ہوگا کہ وہ ماں بیٹا جب بھی کھانا کھاتے، اکٹھے مل کر کھانا کھاتے۔ تو ان کے اکٹھا کھانے میں استمرار ہے۔ جب ایک فوت ہو گیا تو استمرار مل کر کھانے کا ٹوٹ گیا۔ کیونکہ جب اکٹھے تھے۔ تو ہمیشہ مل کر ہی کھاتے، جب حضرت مریم علیہا السلام فوت ہو گئیں تو ان کا اکٹھا کھانے کا استمرار ٹوٹ گیا۔ نہ یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی فوتیدگی کے ساتھ عیسٰی علیہ السلام کا بھی

marfat.com

فوت ہونا ثابت ہؤا۔ جیسا کہ تم عقل کے ڈھیروں نے سمجھا ہے۔ اور اگر تمہارا کہا مانا جائے کہ وہ ہمیشہ ہی کھانا کھاتے تھے۔ اس میں استمرار ہے۔ تو اس کا مطلب ہی غلط ہو جائیگا کہ ہمیشہ کھانا ہی کھایا کرتے تھے، تو ہمیشہ ان کا کھانے میں ہی مشغول رہنا کہ ایک وقت بھی کھانے سے علیحدگی نہ ہو، تو محال ہے۔ اور اگر ایک آن کے لئے بھی کھانے سے فارغ تسلیم کیا جائے، تو استمرار ٹوٹتا ہے تو تمہارے یہ معنی عقلاً نقلاً خلاف ثابت ہو گئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ فرما کر یہودیوں کے عقیدہ الوہیت کو باطل کرنا مقصود تھا۔ کہ تم تو تثلیث کے قائل ہو۔ عیسٰی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مریم علیہا السلام کو مَعَاذَ اللہ خدا کی بیوی قرار دیتے ہو۔ حالانکہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانے سے کبھی مبرّا نہ تھے۔ اور خداوند کریم کی ذات کھانے سے مبرّا ہے۔ وہ دونوں کھانے کے محتاج اور خداوند کھانے سے پاک مبرّا۔ لہٰذا اِلٰہ نہیں سکے تو ان کے عقیدہ الوہیت کو باطل کرنے کے لئے رب العزۃ نے كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ فرمایا۔ نہ کہ وفات مسیح کے ثبوت کے لئے جیسا کہ تم نے اُلٹا مطلب لیا، باقی رہا تمہارا کہنا کہ فرمانِ خداوندی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ تو اس آیۃ کریمہ سے بھی اللہ تعالےٰ نے انبیا علیہم السلام کی الوہیت کو توڑنے کے واسطے ان کے اجسام کے واسطے کھانے کی محتاجی کا ذکر فرمایا ورنہ رب العزۃ کو کیا ضرورت تھی۔ ان کی خوراک کے ذکر کرنے کی کیا دوسرے انسانوں کو کھانے سے اس نے کبھی بھوکا رکھا ہے۔ بلکہ صرف اس واسطے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو درجہ نبوت سے بڑھا کر درجہ الوہیت نہ دینا چاہیئے۔ کیونکہ وہ کھانے کے محتاج اور کھانا حادث۔ لہٰذا ان کے استعمال کرنے والے بھی تمام حوادثات میں شامل ہیں۔ اور حادث ہونا الوہیت کے خلاف ہے۔

ایسے ہی عیسٰی علیہ السلام جب دنیا میں رہے۔ کھانا کھاتے رہے۔ کیونکہ زمین والوں کے واسطے خدا نے زمین کا کھانا بنایا ہے، جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے۔

ملک ۲۹ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ط۔ یہ وہ ذات ہے۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو عاجز کیا تاکہ تم اس کے رستوں میں چلو۔ زمین کے رزق سے کھاؤ۔

marfat.com

یہ تو ارشاد الٰہی ہے۔ زمین کے باشندوں کیواسطے، اب آسمان کے باشندوں کے لئے جو کھانے کے محتاج نہیں، ان کا ذکر فرمایا۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ہ اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے۔ اور جو تم وعدہ کئے گئے ہو۔	ذاریات ۲۲

چونکہ رزق ارضی اور سماوی دونو تھے، فرمایا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ زمین کے رزق طیب کو تم نے کھالیا، اب آسمان میں اگر عیسیٰ علیہ السلام جاکر آسمانی کھانے نہ کھاتے تو اس آیت کا مصداق کون ہوتا۔ یہ تو دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں کھانا تناول فرمانے کی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ کہ اجسام انبیا علیہم السلام کھانا کھانے کے بغیر گذارہ نہیں کر سکتے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کے واسطے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھانا پہنچتا ہے۔

کیا مریم علیہا السلام کو جنت کا کھانا آسمان سے زمین پر اتر سکتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں قریب سے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ ارشاد الٰہی ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جب مریم علیہا السلام کے پاس ذکریا علیہ السلام محراب میں تشریف لائے تو ان کے پاس کھانے پائے۔ تو فرمایا اے مریم، یہ کھانے تو نے کہاں سے حاصل کئے۔ مریم علیہا السلام نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

جب رب العزۃ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولیہ کو آسمان سے کھانے زمین پر نزول فرما دے۔ تو کیا ان کے بیٹے نبی روح اللہ کو خداوند کریم قریب آسمان پر نہیں عطا کر سکتا۔ تم جب والدہ کے پیٹ میں بے دست و پا ہوتے ہو۔ تو جلا طلب تمہاری خوراک تمہاری ماں کے پیٹ میں خدا مہیا فرماتا ہے۔ اور تمہارے باہر تشریف لانے سے قبل ماں کے پستانوں میں تمہارے لئے خوراک رکھ دے۔ لیکن اگر بجسد عنصری آسمان پر کسی نبی کو بلالے تو کیا فکر ہی کھانا کھلانے سے مَعَاذَ اللہ قاصر ہے۔ ماں کے پیٹ میں تو تمہاری عقل کھانا پہنچ تو تسلیم کرے۔ لیکن آسمان پر تسلیم نہیں کرتی۔ سُبْحَانَ اللہِ۔

کیا قوم موسیٰ علیہ السلام کے واسطے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کے فرمان الٰہی

سے آسمان سے بٹیر کا گوشت بھنا ہوا۔ اور ترنجبین نازل ہو سکتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اللہ ہیں۔ اُن کو اللہ کی غیر ذات مہیا نہیں کر سکتا۔

مائدہ ع ۱۵ | إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا اتارے (کیا مرزائی انہیں مائدہ کا جھگڑا ڈالنے والوں سے نہیں)۔ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو تم اگر تم ایماندار ہو۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ آسمان کا کھانا کھائیں اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے ہمیں سچ کہا ہے۔ اور ہم اس پر گواہی دینے والوں سے ہونگے۔ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا اُتار۔ ہمارے لئے بھی جو ہمارے اوّل و آخر کے لئے عید ہو۔ اور تیری طرف سے نشانی ہو گی اور ہمیں رزق دے اور تو بہتر ہے رزق دینے والوں کا۔ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تم پر وہ کھانا اُتارتا ہوں۔ پھر جس شخص نے اس کے بعد کفرانِ نعمت کیا تم سے۔ پس تحقیق عذاب کروں گا اس کو ایسا عذاب جو تمام جہانوں سے ایسا عذاب کسی کو نہ کروں گا۔

مِنَ الْعَالَمِينَ

کیا فرمانِ عیسیٰ علیہ السلام کی خداوند اتنی قدر فرمادیں۔ کہ ان کے کہنے سے اُن کی امت کے واسطے کھانا آسمان سے مومنین پر بذریعہ ملائکہ نازل ہو۔ لیکن اُنکو اگر خداوند کریم آسمان پر بلالیں۔ تو کھانے سے محروم رکھیں۔ اُن کے فرمان سے زمین پر کھانا نازل فرمانے کا مقصد الٰہی یہی تھا کہ منکرین کو معلوم ہو جائے کہ جو آسمان سے زمین پر اپنی امت کے واسطے کھانا نازل کروا سکتا ہے، وہ خود آسمان میں جا کر بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک نکتہ عرض کر دوں۔ کہ عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دونوں حصوں کو ثابت کر رہا ہے۔ آپ کے اوّل وہ جو اس وقت آپ کے رفع سماوی کے پہلے

marfat.com

ایمان لائے اور اٰخِرِنَا وہ جو آپ کی دوسری زندگی کے وقت ایمان لادیں گے۔ اگر عیسٰی علیہ السلام کی دوسری آمد آسمانی سے تسلیم نہ کروگے۔ اٰخِرِنَا کے مکذب ثابت ہوگے۔ اٰخِرِنَا پر ایمان تب ہی صحیح ہوسکتا ہے۔ کہ عیسٰی علیہ السلام کی دوسری سماوی آمد کو صحیح سمجھا جاوے۔ باقی رہا جواب وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ٥ تو ہم عیسٰی علیہ السلام کے خلود کے کب قائل ہیں۔ مطابق حدیث پاک بفرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم عیسٰی علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو شادی کرینگے۔ ان کی اولاد ہوگی۔ پھر ان کا وصال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر میں جو جگہ بارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کرام نے مابین حضور صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عنہ محفوظ ہے۔ اس مقام میں مدفون ہونگے۔ خلودِ عیسٰی علیہ السلام کا سوائے یہود کے اور کوئی مسلمان قائل نہیں۔ تمہاری اس پیش کردہ آیت سے بھی حیاتِ مسیح ہی ثابت ہوئی اور عیسٰی علیہ السلام کا آسمان میں کھانا بھی ثابت ہوگیا۔

"مرزائی"۔ جب کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان کی ٹٹی کہاں جاتی ہے۔ کبھی کسی نے گری ہوئی تو دیکھی نہیں۔ یا خداوند نے آسمان میں ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پ

"محمد عمر"۔ کیا حضرت عیسٰی علیہ السلام کوئی تمہارے مرزا صاحب کی طرح ہیں۔ کہ بول و براز چلتا ہی رہے۔ اور کیا آسمانوں میں قادیان کا آب ودانہ ہے کہ نجاست پیدا کرے۔ کیسی بھولی باتیں بناتے ہو۔ بھلا یہ تو فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو۔ اللہ تعالٰے نے دونوں کو کھانے کا ارشاد تو فرمادیا۔ لیکن ان کے بول و براز کے واسطے بیت الخلا کا کہیں ارشاد نہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی ایک شے سے روک بھی دیا۔ فرمایا۔ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور تم دونوں اس پودے کے قریب نہ جانا۔ معلوم ہوا کہ جنت کے تمام کھانوں میں بول و براز کا مادہ ہی موجود نہ تھا۔ ایک گندم ہی تھی جس سے روکا گیا۔ ثابت ہوا۔ کہ گندم میں مادہ بول و براز موجود تھا۔ یہی وجہ سے روکے گئے۔ اسی واسطے جب تک جنت کے باقی کھانے تناول فرماتے رہے تو تمام وہیں رہا۔ جب گندم تناول فرمائی تو بوجہ حاجت بول و براز دونوں کو زمین پر

پ

تشریف لانے کا حکم تھا۔ معلوم ہؤا۔ کہ انسان کے واسطے رب العزۃ نے ایسے کھانے بھی مہیا فرمائے ہوئے ہیں۔ جس سے بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی۔ تم بیچارے قادیان کی جنت کے کھانے کھانیوالے قدرت کے پاک میوہ جات جو فضلہ سے پاک ہیں۔ کیا جانو۔ دوسری عرض یہ ہے۔ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تین ماہ تک خداوند تعالیٰ کی طرف سے خوراک دیئے جاتے ہو۔ تو تمہاری ٹٹی کہاں جاتی ہے۔ ثابت ہؤا کہ خداوند انسان کو جس طرح چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی قدرت کے کمالات کو سمجھنا انسانی دماغ سے ماورا ہے۔ تیسری ایک عرض اور کردوں کہ اصحاب کہف کے متعلق اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں۔ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُودٌ آپ ان کو بیدار معلوم کرینگے۔ لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک وہ سوئے ہی رہینگے اب غور طلب امر یہ ہے۔ کہ ان کو کھانا کیسا کھلایا جاتا ہے۔ کیونکہ بغیر کھانے کے زندگی محال ہے اور وہ چلتے پھرتے بھی نہیں۔ ان کی ٹٹی کا کیا حال ہوگا، جو پہاڑ کی بند غاروں میں پڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ بند پہاڑوں میں انسان کا ہر طرح انتظام فرما سکتا ہے، وہ آسمان پر نہیں کر سکتا۔ اگر ہمت ہے تو حل پیش کرو یا توبہ کرو۔ آخر ماننا پڑے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ ٥ بے شک اللہ تعالےٰ بڑا رزق دینے والا ہے۔ اور بڑی طاقت والا ہے۔ جو ہر مقام پر روزی پہنچا رہا ہے۔ اور پہنچاتا رہا اور پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے تمام سوالات بفضلہ تعالیٰ حل کر دیئے گئے، کوئی اور سوال ہو تو پیش کرو۔

"مرزائی"۔ واقعی آپ نے خوب حل فرما دیا۔ اور آیات کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ ایک اور سوال ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کے سب رسول گذر چکے ہیں۔ اگر یہ مر جائے یا قتل کیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پھرے گا تو ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ اس آیت سے اللہ نے انبیاء کے گذر جانے کے دو ہی طریقے فرمائے ہیں۔ ایک بذریعہ موت اور دوسرا قتل۔ تیسری کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر رفع جسمانی ہوتا، تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔

marfat.com

"محمد عمر"۔ اب تم نے ختم نبوۃ کا مسئلہ تسلیم کر لیا کہ تمام انبیاء پہلے گذر چکے ہیں۔ پھر اس سے نہ بدلنا۔ خداوند تعالیٰ تمہیں ہدایت عنایت فرمائے۔ پہلے یہ فرماؤ، کہ مَاتَ اَوْ قُتِلَ کی ضمیر کا مرجع کون ہے۔ صیغہ ماضی کا اور ہے بھی واحد۔ ان دونوں میں ضمیر ھو مستتر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ معلوم ہوا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے خداوند تعالیٰ نے دو طریقے فرمائے ہیں۔ باقی رسل کے ساتھ تو تعلق خَلَتْ کا ہے۔ خَلَتْ فعل اور رُسُل فاعل سے جس فعل کا تعلق ہے، وہ خَلَتْ ہی ہے۔ اور خَلَتْ حیات و ممات دونوں کے واسطے مشترک فعل ہے، تو آپ کے ماقبل رسل کے واسطے خَلَتْ و حَلِیْمٌ نے ایسا فعل استعمال فرمایا۔ جو بعض رسل کی ممات اور بعض کی حیات کو ثابت کر رہا ہے جو ہر ذی شعور سے پوشیدہ نہیں۔ جس کی تحریر گذر چکی ہے۔ اگر میری تحقیق گذر چکی سے تحقیق مٹی نہیں تو حیات عیسیٰ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل ارشاد الٰہی فرمانے سے بھی مٹی نہیں اور تم کسی محاورہ کو کبھی نہ سمجھو، تو تم سے خدا سمجھے۔ اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ جملہ استعمال فرمایا، تاکہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل ہو۔ اَنَّ الرُّسُلَ قَدْ مَاتُوْا نہیں فرمایا۔ فتدبر۔ اس آیت میں موت کے دو اقسام ہیں۔ نہ حیات کے اور یہاں جھگڑا حیات کا ہے نہ موت کا۔

"مرزائی"۔ میرے پانچ دلائل تو بفضلہ خوب حل ہو گئے۔ جس سے میری تسلی ہو گئی۔ چند باقی رہ گئے ہیں۔

"محمد عمر"۔ ابھی تمہیں شک ہے۔

"مرزائی"۔ ان آیات میں تو بفضلہ تسلی ہو چکی ہے۔ باقی چند آیات کے متعلق ابھی تحقیق مطلوب ہے۔

نحل رکوع ۲۔ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝ ترجمہ: جن لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے سوا۔ وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ بلکہ وہ پیدا کئے گئے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

marfat.com

لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں سے ہیں۔ جنکو معبود جانا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا۔ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں۔ یعنی الٰہ سمجھتے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے۔

"محمد عمر"۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تاکہ تم مذہبی تعصب کو دور کرکے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور کسی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ کی کلام کو سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کو پکارتے ہیں۔ ان کی کمزوری اتنی ہے۔ کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وہ خود گھڑے ہوئے ہیں۔ مُردے ہیں۔ انمیں باحیا زندگی نہیں۔ اور نہ ان کو اتنا شعور ہے۔ کہ قیامت کب ہے۔ تم نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے۔ کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے معیارِ معبودیت قرار دیا ہے۔ اگر یہی سمجھے ہو۔ اور وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کو عموم کا فتوای دیکر عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرو گے تو تمہیں پہلے تو نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست برداری کا تمغہ نصیب ہے۔ اب تمہیں عموم سے الوہیت خداوندی سے گر کر الوہیت عیسوی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ تم نے سمجھا ہے کہ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کے معبود نہ ہونے کے یہی وجوہات ہیں۔

(۱)۔ کہ وہ خود مخلوق ہیں کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔

(۲)۔ مُردہ ہیں زندہ نہیں۔

(۳)۔ اور قیامت سے بے خبر ہیں۔ تو تمہارے اس عقیدہ کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے معبود ٹھیرے کیونکہ قیامت سے بے خبری کیا۔ وہ خود وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، ان میں شک نہ کرنا، فرمانِ الٰہی سے قیامت کے نشان ہیں اور دوسری دلیل ان کے قیامت سے باخبر ہونے کی یہ ہے۔ کہ انہوں نے خود فرمایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا۔ میرے لئے تین دن سلامتی کے ہیں اور رحمت کے ہیں۔ جس دن میں پیدا کیا گیا۔ اور جس دن میں مرونگا۔ اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے متعلق خدا کی طرف سے ان تینوں

marfat.com

ایام کا علم ہے۔ تب ہی تو ان ایام کی سلامتی کا انہوں نے اپنے متعلق ذکر فرمایا اگر بیخبری ہوتی تو ان ایام میں سلامتی کا ان کو کیسے علم ہو سکتا تھا۔ ثابت ہوا کہ:۔

(۱)۔ حضرت عیسٰی علیہ السلام کو اَیَّانَ یُبْعَثُ کا علم ہے بے خبری نہیں اور

(۲)۔ مردہ بھی نہیں بلکہ زندہ ہیں۔

(۳)۔ اور اِنِّیْ اَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ کے فرمان سے ان کو اللہ نے طاقت تخلیق بھی ان کی طاقت کے مطابق عطا فرمائی اور مِنْ دُوْنِ اللہ بھی نہیں، کیونکہ وہ رُوْحُ اللہ ہیں۔ نبی اللہ ہیں اور اجتماع نقیضین محال ہے۔ لہذا تم تو اس آیت کو اپنا استدلال ٹھیراؤ گے تو پکے عیسائی تثلیثی بنو گے۔ جب تک کہ اس آیت کریمہ کے معانی کو مطابق منشا الٰہی نہ سمجھو اور وہ یہ ہیں، کہ اللہ رب العزۃ کا اس مقام میں معبود حقیقی کے علاوہ معبود سمجھنے والوں کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ نہ کہ کسی نبی کی موت بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے تم نے دھوکا دیا ہے۔ جو بتوں کو پکارنے والے ہیں۔ ان کے واسطے تو یہ صاف مطلب ہے۔ وہ مِنْ دُوْنِ اللہ ہیں اور جو اَنْبِیَاءَ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ حیات بھی ہوں تو ان کے لئے یوں ہو سکتا ہے کہ اس آیت پاک میں رب العزۃ نے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں، جو معبودِ حقیقی میں موجود ہیں۔ اور ان میں نہیں۔ اور اَنْبِیَاءَ اللہ چونکہ مِنْ دُوْنِ اللہ نہیں اور اگر تم ضرور یہاں ہی کرو تو ان کی محض معبودیت کو اس آیت سے توڑنا مقصود ہے تو مِنْ دُوْنِ اللہ کے معنی ہونگے۔ مِنْ دُوْنِ اِذْنِہٖ۔ ملاحظہ ہو تفسیر نسفی ۲۶/۴۔

تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر جنکی تم پوجا کرتے ہو۔ معبود سمجھتے ہو عیسٰی علیہ السلام کو معبود کیوں نہیں بن سکتے۔ تین وجوہات ہیں:۔

پہلی وجہ تو یہ ہے۔ کہ وہ خود مخلوق مطلق ہیں۔ خالق بالذات نہیں۔ چنانچہ اس صفت سے حضرت عیسٰی علیہ السلام بھی موصوف ہیں اور خداوند خالق بالفعل بالذات ہے۔ کسی کی مخلوق نہیں۔ کیونکہ وَلَمْ یُوْلَدْ ہے۔ دوسری صفت یہ کہ گو وہ اس وقت حیات ہیں۔ لیکن بالقوۃ ہیں۔ مادہ میت موجود ہے۔ نہ یہ کہ وہ اس وقت مردہ ہیں۔ جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ کہ اگر عیسٰی علیہ السلام کو مردہ نہ سمجھا جائے تو وہ معبود بنجائینگے۔ یہ صفت بالفعل حضرت عیسٰی علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ دوسرے زندوں میں بھی موجود ہے۔ جب دوسرے زندہ بالقوۃ میت ہونیکی بنا پر معبود نہیں بن سکتے۔ تو

marfat.com

ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بن سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی مُردہ بالفعل کہہ کر فرمان خداوندی کو بدلانا کہ اُن کو چونکہ یہودی معبود سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر کہ معبود تمام بالفعل مُردہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بالفعل مُردہ ہیں، یہ سراسر دھوکے میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ آج آغاخانی اپنے آغاخان کو معبود سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مُردہ نہیں ہیں۔ تو کیا وہ مرزائیوں کے نزدیک بھی صحیح معبود ہونگے۔ کیونکہ وہ مُردہ نہیں۔ جو معبود باطل تھے وہ تو مر چکے۔ ایسے ہی جاپانی اپنے بادشاہ کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کا بادشاہ زندہ بھی ہے۔ کیا وہ بھی مرزائیوں کا معبود صحیح ہوگا۔ یا لامے نیپالی جنکو معبود سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی زندہ ہیں تو وہ بھی مرزائیوں کے معبود ہوں گے۔

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اَمْوَاتٌ فرمانا اس کا مطلب ہے کہ گو وہ زندہ بھی ہوں۔ چونکہ بالقوۃ اُن میں مادہ مَوت موجود ہے۔ لہٰذا یہ معبودیت کے خلاف ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ وہ ذات ہے۔ کہ نہ بالقوۃ نہ بالفعل اس کے واسطے عدم ہے ہی نہیں۔ اس کے واسطے عدم محال ہے۔ اسکی ذات واجب ہے۔ اور واجب ہی معبودیت کا مستحق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خداوند مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہے اور کوئی نہیں، تو ان تین امورات کو حقوق معبودیت توڑنے کے واسطے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ موت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنا مقصود الٰہی ہے۔ جو تم نے غلط تاویل کر کے غلط استنباط کیا ہے۔ خدا سے ڈرو اور حقیقت یہ ہے۔ کہ اس آیت کریمہ کو انبیا علیہم السلام یا محض عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کرنا ہی دیانت داری کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اَمْوَاتٌ کے ساتھ غَیْرُ اَحْیَاءٍ کی صفت بیان کرنا یہ تمہارے مقصد کے خلاف ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ یہاں مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ سے مُراد بت ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق اَمْوَاتٌ کہا اَمْوَاتٌ ایسے کہ جن کی شان میں حیات ہے ہی نہیں۔ باقی جتنے انسان اہل قبور ہیں اُن کی شان یہ نہیں۔ بلکہ وہ ایسے اَمْوَاتٌ ہیں، کہ جن کی شان میں حیات ہے۔ کیونکہ قیامت کو اُٹھائے جائینگے۔ اور انبیاء اللہ اور شُهَدَاء تو ویسے بھی حیات ہیں۔ جنکی شہادت قرآن کریم نے بیان فرمادی ہے، تو ثابت ہوا کہ اَمْوَاتٌ کے ساتھ غَیْرُ اَحْیَاءٍ بیان فرمانا یہ انبیا علیہم السلام کو شامل نہیں کرتا، چہ جائیکہ تم اس آیت سے موت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرو۔ کیونکہ یہ تمام صفات بیک وقت

marfat.com

جیسا کہ ارشاد الٰہی میں مذکور ہے۔ سوائے بتوں کے اور کسی میں نہیں۔ اسی واسطے رب العزت نے اپنی صفات کے اقرار کرانے کے واسطے بتوں کی نفی کا اقرار کرایا۔ اور ان کا عجز ثابت کیا۔ اب کتب تفاسیر متقدمین ملاحظہ فرمائیے:۔

تفسیر ابن کثیر ۲/۵۶۵	ثُمَّ اَخْبَرَ اَنَّ الْاَصْنَامَ الَّتِیْ یَدْعُوْنَھَا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَا یَخْلُقُوْنَ کَمَا قَالَ الْخَلِیْلُ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ وَاللّٰہُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ وَقَوْلُہٗ (اَمْوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَآءٍ) اَیْ ھِیَ

جمادات لا ارواح فیھا فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل (وما یشعرون ایان یبعثون)۔ ترجمہ:۔ پھر اللہ نے خبر دی کہ بت جنکو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ نہیں پیدا کر سکتے وہ کچھ۔ حالانکہ وہ پیدا کیئے گئے ہیں، جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے کہا۔ (ابراہیم علیہ السلام نے) اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ۔ کیا عبادت کرتے ہو تم جنکو تم خود گھڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اللہ کا فرمان اَمْوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَآءٍ۔ یعنی وہ جمادات ہیں۔ جن میں روح نہیں۔ پس نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ کہ قیامت کب ہے۔

(۱)۔ تفسیر خازن ۴/۷۰	(وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ) اَیْ الْاَصْنَامُ الَّتِیْ تَدْعُوْنَھَا اٰلِھَۃً مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ۔ ترجمہ:۔ یعنی بت جنکو تم معبود بنا کر اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ (آگے فرمایا) اَمْوَاتٌ اَیْ جَمَادَاتٌ

مَیِّتَۃٌ اَمْوَاتٌ یعنی جمادات مردہ ہیں۔

(۲)۔ معالم التنزیل ۴/۷۰	(وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ)۔ یعنی الاصنام من دُوْنِ اللّٰہِ سے مراد بت ہیں (اَمْوَاتٌ) اَیْ الاصنام۔ اموات

سے مراد بت ہیں۔

(۳)۔ ابن جریر ۱۴/۵۹	(اَمْوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَآءٍ وَمَا یَشْعُرُوْنَ اَیَّانَ یُبْعَثُوْنَ) حدثنا بشر حدثنا یزید قال حدثنا سعید عن قتادۃ قولہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وھی ھذہ

الاوثان التی تعبد من دون اللہ اموات لا ارواح فیہا۔

ثابت ہوا کہ من دُوْنِ اللّٰہِ سے اللہ کی مراد بت ہے۔ جن کی یہ صفات مذکور

بالا ہیں۔ جب مِنْ دُوْنِ اللہ کے انبیا علیہم السلام مصداق ہی نہیں۔ تو ان کی موت کیسے ثابت ہوئی۔ چہ جائیکہ عیسیٰ علیہ السلام بجسدہٖ حیات ہیں۔ اُن پر چسپاں کرو۔

اَب بُخاری شریف سے فیصلہ کریں

بخاری شریف ۲/۷۱۰ (مِنْ دُوْنِہٖ) بِالْاَوْثَانِ۔ مِنْ دُوْنِہٖ بُت ہیں۔

اَب خُدائی فیصلہ کریں

حج ۱۷/۸ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ ھُوَ الْبَاطِلُ۔ اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں مِنْ دُوْنِ اللہ کو، وہ باطل ہے۔

لقمان ۲۱/۳ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ الْبَاطِلُ۔ اور تحقیق جس کو تم پکارتے ہو تم سوا اُس کے باطل ہے۔ ان آیات سے ثابت ہؤا۔ کہ جن مِنْ دُوْنِ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ پکارتے ہیں۔ وہ باطل ہے۔ لہٰذا انبیا علیہم السلام مِنْ دُوْنِ اللہ نہیں ہیں۔ کیونکہ اُن کو باطل کہنا کفر ہے۔

"مرزائی"۔ ما غیر ذوی العقول کے واسطے مستعمل ہوتا ہے۔ اِس واسطے یہاں تو مراد بُت ہی ہو سکتے ہیں۔ ب

"محمد عمر"۔ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ کیا معنی کرو گے کہ جو غیر ذوی العقول ہیں۔ وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور غیر ذوی العقول نہیں۔ کیسی بھولی باتیں کرتے ہو۔ لفظ مَا قرآن کی اصطلاح میں ذوی العقول و غیر ذوی العقول دونوں کے واسطے مستعمل ہوتا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہؤا۔ کہ مِنْ دُوْنِ اللہ باطل ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو باطل کہنا کفر ہے۔ لہٰذا وہ مِنْ دُوْنِ اللہ نہیں۔ تو تمہاری پیش کردہ آیت کسی صورت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر چسپاں نہیں ہو سکتی۔ تو تمہارا استدلال باطل ہوگیا۔

ایک اور عرض کر دوں۔ بھلا یہ تو فرماؤ کہ کفار تو جنوں اور ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں تو وَالَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہٖ میں جن اور ملائکہ بھی شامل ہو گئے تو کیا فرشتے

marfat.com

بھی مرگئے ہیں۔ جو لفظ ملائکہ کو وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ سے نکالتا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نکالتا ہے۔

"مرزائی"۔ (اعراف ۲)۔ فِیْهَا تَحْیَوْنَ وَفِیْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرمایا۔ تم اس زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔

عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر ماننا فِیْهَا تَحْیَوْنَ کے خلاف ہے۔ تَحْیَوْنَ پر ظرف مقدم ہے۔ لہٰذا اسی میں حصر ہے۔ اس کی تائید میں یہ تین آیتیں ہیں۔

(۱)۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ط

"محمد عمر"۔ ذرا اس آیت کا ماقبل بھی پڑھیئے۔ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ہ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا۔ تو ارشاد فرمایا۔ اتر جاؤ تم بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اور تمہارے لئے زمین میں رہائش کی جگہ ہے۔ اور نفع ہے۔ ایک وقت تک۔ فرمایا اللہ نے اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے تم اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔

ان ستہ۶ امور کا ارشاد رَبُّ الْعِزَّۃ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارتے وقت کہا۔ تم نے آخری تین امور کو فوراً بیان فرما دیا۔ لیکن پہلے تین امور کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ حالانکہ اگر پہلے تین امور کو رَبُّ الْعِزَّۃ نے واپس لیا ہے، تو پچھلے تین امور کو بھی ضرور لے لیا۔ کیونکہ امورِ ستّہ کا اجراء ایک ہی وقت تو ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چھ۶ امور آدم علیہ السلام اور حوّا علیہا السلام کو جنت سے زمین پر اتارتے وقت فرمائے۔

(۱)۔ اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوّا علیہا السلام علیحدہ علیحدہ زندگی بسر کرو گے۔

(۲)۔ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لئے زمین میں جائے رہائش ہوگی۔

(۳)۔ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ہ اور تمہارے لئے ایک وقت تک یعنی کچھ زمانہ پھر زمین نہیں، زمین میں ہی نفع ہوگا۔

(۴)۔ فِيْهَا تَحْيَوْنَ۔ اسی میں تم زندگی بسر کرو گے۔

marfat.com

(۵)۔ وَفِيۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ اور اسی میں تمہاری موت ہوگی۔
(۶)۔ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُوۡنَ۔ اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔

خداوند تعالیٰ نے جب ان امور کے اجراء کا حکم سنایا۔ تو ساتھ ہی رحمتِ الٰہی نے اپیل گذار نے کا ارشاد بھی فرما دیا۔ جو تم مذہبی تعصب کی بنا پر پڑھتے نہیں۔ سنو۔ فرمایا۔ فَاِمَّا يَاۡتِيَنَّكُمۡ مِّنِّىۡ هُدًى فَمَنۡ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کی۔ تو ان پر کوئی خوف نہیں۔ اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور فرمایا وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۝ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو یہی دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہما السلام کو باوجود ان ستہ سزاؤں کے اجرائے کے ساتھ ہی ان کے اپیل کرنے پر سزا کو توڑنے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے زاری سے دعائیں کیں۔ (جس کا واقعہ طول ہے) تو رب العزۃ نے دعا کو منظور فرما کر اپیل منظور کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو اپیل دائر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ ارشاد الٰہی ہے:۔

بقرہ ۳۷۔ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ تو حکم ہوا۔ فَتَابَ عَلَيۡهِ‌ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ۝ پھر اللہ نے اپنے جاری کردہ ستہ احکام واپس لے لئے۔ کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

کیوں جناب! اب فرمائیے اگر تمام ستہ احکام سے تم کہو۔ کہ فِيۡهَا تَحۡيَوۡنَ کی تخصیص باقی ہے۔ تو اللہ نے باقی تمام احکام فَتَابَ عَلَيۡهِ سے واپس لے لئے لیکن فِيۡهَا تَحۡيَوۡنَ میں چونکہ ظرف مقدم ہے۔ وہ باقی ہے۔ تو تمہاری بات کون سنے گا۔ اگر فِيۡهَا تَحۡيَوۡنَ کو باقی اور برقرار سمجھتے ہو۔ اور لَكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مُسۡتَقَرٌّ کو بھی حصر کی وجہ سے حکم باقی سمجھتے ہو۔ تو باقی احکام کو بھی برقرار رکھو۔ یعنی بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ بھی باقی ہے۔ حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لیا۔ تب ہی آدم علیہ السلام اور حوا

marfat.com

علیہا السلام اکٹھے ہوئے جس سے تمام انسان ہم امت محمدیہ اور تم امت مرزائیہ وغیرہم پیدا ہوئے۔ اگر حکم واپسی نہ لیا ہوتا تو ہم تم کبھی نہ ہوتے۔ تو ثابت ہؤا۔ کہ فَتَابَ عَلَیۡهِ کے ارشاد سے جب ایک حکم کے واپسی کا ثبوت عملاً موجود ہے۔ تو دوسرے احکام بھی توبہ کی منظوری نے توڑ دئے۔ حصر بھی تب تک تھا۔ جب تک حکم باقی۔ جب حکم بر اپیل واپس۔ تو حصر بھی اپیل کی منظوری کے ساتھ ہی واپس ہو گیا۔ اور اگر کوئی خدشہ تمہارے دل میں آئے تو اس کا جواب دو۔ کہ اگر فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ میں ظرف مقدم ہے۔ تو وَلَکُمۡ فِی الۡاَرۡضِ مُسۡتَقَرٌّ میں بھی تو ظرف مقدم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انسانوں کے لئے ہی زمین میں جائے رہائش ہے اور کسی کے لئے نہیں۔ کیونکہ اس میں بھی حصر ہے۔ جب باوجود تقدیم ظرف کے زمین میں حیوانات دحوش وطیور جن وملائکہ وغیرہم بھی رہائش کر سکتے ہیں۔ تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور نہ ہی حصر ٹوٹتا ہے۔ فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ میں بھی ظرف کے مقدم ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اگر کچھ عرصہ کے لئے وقت گذار کر فِیۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُوۡنَ کے مصداق بن جائیں۔ تو کلام الٰہی میں کونسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ثابت ہؤا۔ کہ حصر کو برقرار رکھنے والا بھی وہ خدا اور توڑنے والا بھی وہ۔ اگر فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ وَفِیۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُوۡنَ کا حکم دے کر پھر آدم علیہ السلام کو بعد از توبہ مع اُن کی اولاد مومنین کے جنت میں دوبارہ لے جا سکتا ہے؟ تو اس کے لئے زمین کے باشندے کو آسمان پر رکھ کر پھر زمین میں لاکر جنت میں لیجائے گا تو اس کے قانون میں فرق نہ آئیگا۔ ایک اور بات عرض کردوں۔ کہ تم نے فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ کو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سماوی پر تو اعتراض کر دیا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ جب زندگی گذارتا ہے۔ تو وہ فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ کے خلاف نہیں۔ حصر تو ایک فرد کے لئے بھی ٹوٹ جائے تو تمام افراد سے حصر ٹوٹ جاتا ہے۔ حصر کا اعتراض کس پر کرتے ہو۔ جو حصر بیان کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے جاکر حصر بھی توڑنے والا ہے۔ تمہیں خالق کے کام پر کیا اعتراض۔ تم کون ہو۔ اور سنیئے۔ کیا ہوائی جہازیں یا سمندری جہازیں کئی انسان کئی دن گذارتے ہیں۔ بتاؤ فِیۡهَا تَحۡیَوۡنَ کے خلاف نہیں۔ کچھ سوچ کر تو بات کرتے۔ کیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک نہیں رہے۔ جن کے متعلق ارشاد الٰہی ہوا۔ لَوۡلَا اَنَّهٗ کَانَ مِنَ الۡمُسَبِّحِیۡنَ ۝ لَلَبِثَ فِیۡ بَطۡنِهٖۤ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ۝ اگر یونس علیہ السلام

marfat.com

تسبیح پڑھنے والوں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرتے۔ اب فرمائیے، اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرنا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَّأَمْوَاتًا کے خلاف نہیں۔ تم کیا سمجھو کلام خداوندی کو اور افعالِ خداوندی کو۔ کیا تم کلام اور افعال خداوندی کو متضاد سمجھتے ہو۔ نہیں نہیں۔ تمہاری عقلیں اور دماغ اور ایمان متضاد ہیں۔ وہ خود فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ جو ارادہ کرے کرلے، اس میں کوئی دخیل نہیں۔ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحسدہٖ جنت میں تشریف لے جانا یہ فِيهَا تَحْيَوْنَ کے خلاف نہیں۔ ملاحظہ ہو مسلم شریف۔ صفحہ

"مرزائی"۔ کیا یونس علیہ السلام آخر مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ تشریف لائے۔ آدمی ماں کے پیٹ سے باہر زمین پہ نہیں آتا۔ زمین کے بغیر تو گذر نہ ہؤا۔ پ

"محمد عمر"۔ دوست تم بات کو کیوں توڑ دیتے ہو۔ اچھا اس کا جواب بھی دیدوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آخر زمین پر ہی تشریف لائیں گے۔ ان کا گذارہ بھی تو آخر زمین پر ہی ہوگا۔ اُن کی موت بھی تو زمین پر ہی ہوگی۔ اور اس زمین سے ہی اُٹھائے جائیں گے، آمدم بر سر مطلب۔ فقیر عرض کر رہا تھا۔ کہ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ہی حکم کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ تو اس نے اپنے حکم میں پہلے سے ہی گنجائش رکھی تھی۔ کیونکہ اس کو اپنے عمل کا علم تھا۔ اس نے اپنے علم کے مطابق ہی حکم میں گنجائش رکھی۔ فرمایا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ متاع کا معطوف ہے مستقر پر تو اللہ تعالیٰ نے الیٰ حین کی غایۃ کو مستقر اور متاع دونوں کے لئے مقرر فرمادیا۔ یعنی تمہارا استقرار ارضی بھی ایک وقت تک محدود ہوگا۔ اور نفع بھی ایک وقت متعینہ تک ہی رہے گا۔ چنانچہ اسی حکم الیٰ حین میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ تو جتنا وقت ان کا یہاں مقرر تھا زمین پر گذرا اور گذاریں گے اور جتنا وقت ان کا آسمان پر مقرر ہے وہاں گذاریں گے، کیونکہ زمین کا بھی تو وقت مقررہ ہے۔ لہٰذا پس وپیش تو گذار نہیں سکتے تھے۔ جس وقت اور جس طریقے سے وقت گذارنے کا ارشادِ الٰہی ہؤا، الیٰ حین پر عمل پیرا ہو رہیں گے۔ جس میں تمہیں دخل نہیں۔ کیونکہ جتنا وقت ان کا لکھا جا چکا تھا۔ اس سے قبل وہ جا نہیں سکتے تھے۔ ان کی امت نے ارادہ صلیب کرلیا۔ تو خداوند تعالیٰ نے ان کی زندگی کا وقت چونکہ زمین پر ابھی گذرانا تھا۔ قوم نے گذارنے نہ دیا۔ تو رب العزت نے بمطابق وعدہ

marfat.com

آسمان پر اُٹھا لیا۔ اور اپنے اِلٰی حِیْنٍ کو پورا کرنے کے لئے پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لاکر اپنے وقت کو پُورا کر کے فوت ہوں گے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے الیٰ حین کو نبھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ انسان دنیا میں رہ کر بحکم الٰہی دو امور کو پُورا کرتا ہے، ایک تو مستقر سے مکانیت اختیار کرکے اپنی عمر کے دِن پورے کرتا ہے۔ دوسرا دنیاوی نفع وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے بڑا متاع دنیاوی اولاد ہے۔ کوشش کرتا ہے، تو حضرت عیسٰی علیہ السلام نے بارشادِ الٰہی اِستقرار ارضی کے تو کچھ حاصل ہوگئے۔ لیکن وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ کے بڑے دنیاوی نفع اولاد سے ابھی قطعاً محروم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی خاص حکمت یا جرم کے کسی کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھتے۔ اور انبیا علیہم السلام جرائم سے پاک و مبرا ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑا متاع اِلٰی حین اولاد دنیاوی کو پُورا کرنے کے لئے عیسٰی علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل فرمائینگے۔ تاکہ اپنے اس وعدہ کو پورا فرمائیں، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لاکر نکاح کرینگے اور اُن کی اولاد ہوگی۔ پھر فوت ہونگے۔ تو میرے پاس دفن ہونگے۔ تو ان متاع دنیاوی یعنی نکاح اور اولاد وغیرہ سے محروم رکھنا بہ قانونِ الٰہی وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ کے خلاف تھا۔ اس واسطے دوبارہ آسمان سے نازل فرمادیں گے اور تمہاری ہٹ دھرمی کو توڑیں گے۔

"مرزائی"۔ اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی مثال مانند مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ جب آدم علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے۔ تو ضروری ہے۔ حضرت عیسٰی علیہ السلام بھی نہیں گئے۔ ورنہ متابعت تامہ نہیں ہو سکتی جب آدم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اور ان کی قبر زمین میں ہے، تو ضروری ہے، کہ عیسٰی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں اور اُن کی قبر بھی زمین پر ہی ہے۔

"محمد عمر"۔ اوّل تو یہ مثال ذات عیسٰی علیہ السلام کی ذاتِ آدم علیہ السلام سے ہے۔ انکی زندگی موت کا ذِکر ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے وجود آدم علیہ السلام بغیر پدری وجود کے ظہور میں آیا ہے۔ ایسے ہی وجود عیسٰی علیہ السلام بھی بغیر پدری وجود کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ حقیقت اور منشأ خداوندی تو محاورہ زبانِ عرب و کلام تو اسی کا مقتضی ہے۔ ورنہ اس میں بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔

(۱) ۔کہ مشابہت ذاتی کو ترک کر کے مشابہت صفاتی کیوں مراد لی گئی۔ اگر بہر صورت صفات

marfat.com

کی طرف جانا ہی تھا۔ تو پہلے زندگی مقدم تھی یا موت۔ حق یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی تشبیہ کو مقدم رکھتے۔ لیکن یہ مرزائیت کو گوارہ کیسے، کیونکہ مرزائیت کی جڑ کٹ جاتی۔ اس وجہ سے مشابہت زندگی کو ترک کردیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین سے زمین میں عالم امر سے بغیر باپ کے کُنْ فرماکر پیدا فرمایا۔ بعد میں آسمان سے اوپر یا اٰدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۃَ سے جنت میں جگہ دی، پھر زمین پر اِھْبِطُوْا فرماکر اتارا۔ پھر یہیں نوت ہوئے۔ اور زمین پر ہی قبر بنی۔ ایسے ہی زندگی حضرت عیسٰی علیہ السلام کی۔ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں عالم امر سے کُنْ کہکر بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر رَافِعُکَ اِلَیَّ سے آسمان پر اٹھاکر جگہ دی اور آسمان میں آسمانی رزق قدرت سے دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی طرح طعام رغداً تناول فرمارہے ہیں۔ آسمان سے زمین پر مثل آدم علیہ السلام تشریف لادیں گے اور پھر فوت ہونگے۔ اور انکی قبر شریف زمین پر بنے گی۔ یہ ہے اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ۔ اس لئے جس کی تشبیہ دی گئی اس کا ذکر بھی کردیا گیا، لیکن مرزائی نہ سمجھا۔

"مرزائی"۔ آدم علیہ السلام تو مع بیوی بچے جنت میں رہے۔ ویسے ہی دنیا میں تشریف لائے۔ تمہارے کہنے کے مطابق تو حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی ویسے ہی مع بیوی بچے وہاں رہنا چاہیئے۔ پھر ویسے ہی تشریف لادیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

"محمد عمر"۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرمایا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ۔ صرف عیسٰی علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی نہ کہ اُن کے اہل وعیال کی، کیونکہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے بھی بیوی بچے تھے نہیں۔ اس واسطے اکیلے عیسٰی علیہ السلام کی اکیلے آدم علیہ السلام سے مثال دی۔ پھر تم زیادتی کرنیوالے کون ہو۔ ایسے ہی اگر اپنی طرف سے تشبیہات کو تام کروگے تو مشکل بن جائیگی۔ مثلاً خداوند تعالیٰ بخیل کی مثال فرماتے ہیں۔ مَثَلُہٗ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْہِ تُرَابٌ بخیل صاف پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو۔ اس جگہ تشبیہ کو کیسے تام کروگے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ مَثَلُہٗ کَمَثَلِ الْکَلْبِ میں کیسے تشبیہ تام ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ اب ان مثالوں سے ثابت ہوا، کہ مشابہت تامہ جو تم مراد لیتے ہو۔ وہ غلط ہے۔ اگر تمہاری مرضی کے مطابق محض موت ہی سے مشابہت ہوتی تو کسی قریب نبی سے ہوتی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے صرف تمام کے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کا ذکر کرنا یہ صاف واضح کررہا ہے،

marfat.com

جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ابوۃ موجود۔ لیکن خود ان کی ذات ابوۃ سے مبرا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابوۃ تو موجود۔ لیکن ان کی خود ذات پدری نسب سے مبرا۔ اس لئے اب الاباء سے تشبیہ دی۔ اور فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰہِ کَمَثَلِ اٰدَمَ۔ تو اس تشبیہ نے قدرت الہیہ کو ثابت کر کے تدنی عقیدہ کو باطل کر دیا جو تم خود سمجھتے ہو۔ اور یہی منشاء الٰہی ہے۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب۔

"مرزائی"۔ اچھا بھائی میری ایک اور عرض ہے۔ جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ارشاد ہے۔ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوۃِ وَالزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا (مریم ع۲)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تاکیدی حکم دیا ہے۔ کہ جب تک میں زندہ رہوں تو نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔

استدلال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینا اس کی تمام زندگی بھر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لئے روپیہ بھی ہے۔ اور وہ مستحقین زکوٰۃ بھی زندہ رہیں۔ پس وہ آسمان میں اگر زندہ فرض کئے جاویں تو وہاں روپیہ اور زکوٰۃ لینے والوں کا گروہ بھی ان کے ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ پ۳۱۲

محمد عمر "مرزائی صاحب" کیسی کچی بات ہانکتے ہو۔ جتنا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے کیا

(۱)۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔
(۲)۔ اور کس جنس کی ادا کرتے رہے۔
(۳)۔ اور ان کا سلسلہ معاش کیا تھا۔ جس سے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہو۔
(۴)۔ اور کس کو دی آپ کے مستحقین کون تھے؟
(۵)۔ مالیت کتنی تھی؟
(۶)۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ادا کرتے رہے۔ خمس یا ربع یا ثلث؟
(۷)۔ خداوند کریم نے ان پر ہر جنس سے زکوٰۃ کی کیا مقدار مقرر فرمائی؟

یہ بات تو بڑی دور کی ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ثابت کر دو۔ کہ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ کے قانون سے نبی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ پر زکوٰۃ فرض تھی۔ ۲۰ پ کتنی مقدار کی زکوٰۃ اور کس جنس سے ادا فرماتے رہے۔ جب نہیں نہ یہ نہ وہ، تو سمجھو کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے مال نصاب شرط ہے۔ جس کی تشریح موجود ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

پ۳۱۲ کا جواب

marfat.com

جو ہم نے رزق دیا ہے۔ اس سے تم خرچ کرو۔ یعنی زکوٰۃ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا۔ جس کی زکوٰۃ ادا کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اسی واسطے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنا تمام وقت سیاحی میں گزارتے۔ نہ کچھ مال جمع کیا نہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز، روزہ و حج وغیرہ فریضہ ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوگی۔ جب مال نصاب شرعی کو پہنچے گا۔ اور نماز بھی ہر فرد پر فرض ہے۔ لیکن حائضہ و نفاس والی عورت پر ادا کرنی فرض نہیں۔ کیونکہ شرع نے اس حالت میں نماز معاف فرمادی۔ لیکن بعد از فراغت پھر ادا کرنی فرض ہوگی، ایسے ہی دیوانے کے واسطے نماز وغیرہ کا ادا کرنا بعد از ہوش فرض ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ فریضہ باشرائط ادا کئے جاتے ہیں۔ ان کی فرضیت نہیں ٹوٹتی۔ فرضیت باقی رہتی ہے۔ لیکن ان کا ادا کرنا بعد از وصول شرط ہے۔ نماز اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتَابًا مَّوْقُوْتًا کے قانون وقت ہونے پر ادا کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کے موقعہ پر عرفات میں وقت مغرب موجود ہے۔ لیکن وہاں ادا نہیں کرسکتا۔ مزدلفہ میں پہنچ کر ادا کریگا۔ خواہ عشا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسے ہی روزہ ہر مومن پر فرض ہے۔ سوائے مرزائیوں کے۔ لیکن مومن مَنْ شَھِدَ مِنْکُمُ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْہُ کے قانون سے رمضان میں ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور بعض سے مثلاً مریض و مسافر ہو۔ رمضان میں بھی نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مومن موجود رمضان شریف کا مہینہ موجود، کھانا موجود لیکن نہ ادا کرنے کی اجازت اس کے واسطے علیحدہ حکم فَعِدَّۃٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ آگیا کہ وہ دوسرے وقت میں رکھ لے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ مال نصاب ہی موجود نہیں ہے اس واسطے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں اور دوسری بات یہ ہے۔ زکوٰۃ دنیاوی زمین کے مال کی ہے، نہ کہ آسمانی مال کی۔ ایک اور عرض کرتا ہوں۔ بھلا یہ تو فرمائیے، کہ تم اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہر وقت ہر حالت میں ہر جگہ مراد لو گے اور اس کی دلیل مَا دُمْتُ حَیًّا لو گے تو تمہارے لئے مشکل بن جائیگی۔ کیا زکوٰۃ کے لئے مَا دُمْتُ حَیًّا ہے۔ ان کو سیاحی کا وقت، بول و براز کا وقت، کھانے پینے کا وقت کونسا میسر ہوتا تھا۔ تو ماننا پڑیگا۔ کہ نماز کے واسطے مَا دُمْتُ حَیًّا سے مراد یہ ہے کہ جب شرط نماز وقت ہوتا۔ آپ نماز گذارتے۔ اور ایک دفعہ گذارنے سے پھر تمام وقت میں نماز پڑھنے کی فرضیت نہ رہتی،

marfat.com

باقی تعین اوقات کی خبر تو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر وقت معلوم ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر سے پانچوں وقت اَذان کی آواز سن کر یزید کے زمانہ میں صحابۂ کرام نماز پڑھتے رہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقت معلوم ہوتا ہے، باقی تعین جہت جیسا کہ مجاہد اور مسافر فَاَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ پر عمل کرتا ہے، وہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، انبیاء کرام ہر وقت عالمین سے کسی عالم میں ہوں عبادت الٰہی سے فارغ نہیں رہتے، خداوند اُن کو عالمین میں ہی جزائے خیر عطا فرماتے ہیں، کیا تم دوسرے سچے انبیاء اللہ کو بھی اپنے مرزا صاحب پر قیاس کرتے ہو، پھر عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنیکے ہیں، دنیاوی مال کو پاک کرنیکے واسطے خداوند کریم نے زکوٰۃ کو مقرر کیا ہوا ہے، کیا آسمان میں بھی ایسا مال ہے جسکی زکوٰۃ ضروری ہے یا خداوند کریم نے کہیں فرمایا ہو کہ سماوی مال کی بھی زکوٰۃ دیا کرو، یا کسی فرشتے نے کبھی زکوٰۃ دی ہو۔ کیسی سادی باتیں گھڑتے ہو۔ آسمان سے رب العزت نے مَنّ وسلویٰ نازل فرمائے۔ مائدہ اُتارا جو طاہر و مطہر تھا۔ ان کو نجس سمجھ کر ایمان خراب کرنا، یہ قدنی حکمت و شریعت ہوگی، تو ثابت ہوا کہ آسمان میں محض ان کے لئے وصیت زکوٰۃ موجود ۔ لیکن اس کی ادائیگی کی شرط مال نصاب موجود نہیں۔ لہذا وہاں ادا کرنی ہی فرض نہیں۔ چہ جائیکہ اس کے مستحقین کی تلاش سوچی جائے۔ میرے خیال میں آپ مرزا صاحب کو وہاں بھیجکر ہی کیوں نہیں پتہ منگا لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب دوبارہ دنیا میں تشریف لا دیں گے۔ بیوی ہوگی۔ بچے ہونگے۔ تو کمائی کی ضرورت ہوگی۔ مال نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ کے ادا کرنے اور مستحقین کی تلاش کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مرزائی بیچارے مسائل شرع کو کیا سمجھیں۔ جن کا دماغ پا پائے قادیانی نے کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیٰطِیْنُ بنا دیا ہو۔ دوست! ان من گھڑت باتوں سے وفات مسیح کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ خداوند کے ہاں ابتک قانونِ عیسوی ممتاز ہیں۔ جو دشمن کی عقل سے ماوراء ہیں۔ هٰذَا مِنْ عِنْدِیْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی۔

"مرزائی"۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا۔ (مریم ع ۲) پ ۱۶

استدلال سلامتی کے یہ تینوں اوقات بعینہٖ اس صورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے بھی آئے ہیں۔ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود نامسعود کے نرغے سے بچ کر آسمان پر جا بیٹھے ہیں۔ تو اس سلامتی کا ذکر کہاں ہے۔ وہ تو زیادہ اظہار اطمینان کا موقعہ

marfat.com

تھا۔ ان مواقع مذکورہ میں تو سب انبیاء مورد سلامتی بنے ہیں آپ کے شریک ہیں۔ لیکن من دو اہم اور عظیم الشان واقعات کی مسیح کے ساتھ خصوصیت ہے۔ یعنی آسمان پر جانا اور آسمان سے واپس آنا یہ سلامتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصًا جبکہ یہ مسیح کا کلام ان کے اختیار سے نہیں۔ بلکہ وحی الہٰی کے ماتحت ہے۔

"محمد عمر" حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بفرمان الہٰی اپنی تین ایام کا ذکر فرمایا جن میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شان بھی موجود تھی۔ اول تو اس لئے کہ اس صعود کا ذکر کرنا یہ۔ ان کے لئے باقی انبیاء علیہم السلام سے فخر ظاہر ہوتا تھا۔ رب العزت نے جب خود ان کے رفع جسمانی کا ذکر خصوصًا وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ سے فرما دیا۔ تو ان کو خود اپنی زبان سے ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ اگر قبل از رفع ہی اس سلامتی کے ایام کو گنتی میں ارشاد فرماتے۔ تو یہود پر خدائی حجت کیسے تام ہوتی۔ کہ تم نے میرے نبی کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل کر کے تلوار سے تمہیں درست کراؤں گا۔ اور یہود کو بہانہ مل جاتا۔ کہ تمہارا تو پہلے ہی ارادہ آسمان پر جانے کا تھا۔ ہمیں صلیب کی ملامت کیسے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند نے آسمان پر بلا وجہ نہیں رکھا۔ بلکہ یہود کے صلیب پر لٹکانے کی وجہ سے ان کو آسمان پر اٹھا گیا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ میں کوئی جرم نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کفار کو یہ بھی ظاہر کرنا تھا۔ کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم زمین پر جس کو چاہیں زندہ رہنے دیں۔ اور جس کو چاہیں مار دیں۔ جو میرے مخلص بندے ہیں۔ مجھے یہ بھی طاقت ہے۔ کہ میں ان کو اپنی قدرت سے آسمان پر بھی جگہ دے سکتا ہوں۔ چاہوں تو ملائکہ سماوی کو زمین پر جگہ دوں، تو میرے سامنے عذر کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جس کو چاہوں تو زمینی باشندے انسان کو معہ جسم آسمان پر جگہ دے دوں۔ مجھ پر کوئی معترض نہیں ہو سکتا۔ اور جو اعتراض کریگا وہ میرا منکر ہے۔ خواہ مرزائی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اسکو کسی سے طمع نہیں ہے۔ اس سے ہر ایک کو طمع ہے۔ سوائے مرزائیوں کے۔ اگر چاہے۔ تو تمام زمین والوں کی مخالفت میں محفوظ رکھے۔ اور اعلائے كَلِمَةُ اللّٰهِ کرائے۔ اور یہ سب سے بڑی شان ہے۔ اور یہ شان اسی کو مل سکتی تھی۔ جس کو تمام جہان سپرد کرنے مقصود ہوں۔ اسی واسطے یہ شان رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی گئی۔ اور حضرت

marfat.com

عیسیٰ علیہ السلام نے کلامِ خداوندی سے ان سلامتی والے دنوں کو انہی مذکورہ تین ایام میں حصر کب ظاہر فرمایا۔ کہ تمہیں اعتراض کا موقعہ ملا۔ کہ تین دن سلامتی والوں کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں ایام کا کیوں نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس سے کب ثابت ہوا۔ کہ باقی جتنے ایام سلامتی کے تھے۔ ذکر کئے گئے اور ان دونوں کو چھوڑ گیا۔ کیا اس عبارت وَالسَّلَامُ عَلَیَّ الخ میں مَائِدَۃ کے دن کا کہاں ذکر ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ بھی فرمایا۔ کہ تَکُوْنُ لَنَا عِیْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰیَۃً مِّنْکَ۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ تمام ایام سلامتی کا نہ ذکر کرنا، اس بات کی دلیل نہیں کہ اور کوئی دن سلامتی کا ان کے لئے ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ذکر ہوتا، یہ تمہارا قانون غلط ہے۔ جیسے مذہب جعلی ایسے ہی قانون جعلی، اگر ہے تو قرآن کی آیت یا حدیث پاک سے ثابت کرو۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان ایام ثلثہ کا ذکر محض ان کے تقرر اور جشن منانے کے واسطے ذکر کیا گیا ورنہ انبیاء علیہم السلام کے واسطے تو ہر وقت سلامتی ہے، زمین پر ہو یا آسمان پر، زندہ ہو یا عالم ارواح میں۔ کیونکہ ارشادِ الٰہی ہے۔ وَسَلٰمٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ ۝ تو ثابت ہوا۔ کہ رسولوں کے واسطے تمام اوقات سلامتی کے ہیں جیسا کہ ڈپٹی کمشنر ہر وقت سرکاری ملازم ہے، گھر میں ہو یا بازار میں یا عدالت میں، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کا ہر وقت سلامتی کا ہے۔ خواہ کوئی مقام ہو کوئی وقت ہو کوئی زمانہ ہو۔ کسی حالت میں ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ یعنی اپنی عمر کی سلامتی کا ابتدائی دن اور انتہائی دن کا اظہار بھی اس بات پر دال ہے کہ آپ کی تمام عمر سلامتی والی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ خداوندی بھی اس طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ رب ہے تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا، چونکہ ہر روز مطلع شمس بدلتا ہے۔ اسواسطے مَشَارِقُ اور مَغَارِبُ لفظ جمع استعمال کیا گیا۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا۔ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ۔ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ تو اس آیت کریمہ سے تمام مشارق اور مغارب کی نفی نہیں ہوئی بلکہ تشبیہ بیان کرنے کی وجہ ہے۔ چونکہ مشرق اور مغرب کی ابتداء شمس جہاں سے ہو۔ اس سے ایک دقیقہ بھی سورج پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور مغرب کی جہاں آخری انتہا ہے اس سے آگے سورج نہیں جاسکتا۔ تو سورج کی ابتداء و انتہا کے مطلعین کو بیان فرما کر اللہ رَبُّ الْعِزَّۃ نے رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ فرمایا۔ جس میں تمام مشارق

marfat.com

اور مخاطب محیط ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی تمام عمر کی سلامتی کو یوم ولادت اور یوم وصال کا ذکر کر کے محیط کر کے خَیْرُ الْکَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ کا ثبوت دیا۔ مرزائی سمجھ بیٹھے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بس دو دن ہی سلامتی والے تھے، باقی نہیں اور قیامت کو چونکہ ایک دن ہی محیط ہے۔ اس واسطے اس کی ابتدا اور انتہا کے بیان کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا میں صرف لفظ یوم پر ہی اکتفا فرمایا۔ بھلا یہ تو فرمائیے۔ کہ ان دونوں انبیا علیہما السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے دو دن کی بھی سلامتی کو کہیں مذکور نہیں کیا۔ ان کی عمر کے یہ دو دن بھی انکے لئے سلامتی والے نہیں ہیں۔ کچھ سوچ کر تو سوال کیا کرو۔ تو ان دونوں نبیوں کا اپنے یوم ولادت اور یوم وصال کا بیان کرنا ثابت کرتا ہے کہ ان کی دوسرے انبیاء علیہم السلام سے کوئی خاص نوعیت کی زندگی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شب معراج کا واقعہ باقی انبیا علیہم السلام سے نرالا تھا۔ یعنی جسمانی معراج تھا۔ اس واسطے فَاَوْحٰٓی اِلٰی عَبْدِہٖ مَآ اَوْحٰی کا ذکر فرما کر اپنے خاص تعلق کلامی کو ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی کا ذکر کر کے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سیر کو بیان فرمایا۔ لیکن ان کی پوری تفصیل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حالانکہ وَمَا ھُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍ موجود ہے۔ ایسے ہی رب العزت نے اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ بیان فرما کر مومنین کی تسلی فرمائی اور وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ یَقِیْنًا بَلْ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ سے منافقین اور کفار کو یقین دلایا۔ گو کفار اس پر اُلٹا سیدھا ایمان لے آئیں۔ لیکن منافق چونکہ لَآ اِلٰی ھٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰی ھٰٓؤُلَآءِ کا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے۔ چنانچہ حیات عیسوی بھی انہی امتحان سے ہے۔

"مرزائی" - ان آیات کی تو خوب تسلی ہو گئی۔ اب فرماؤ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتّٰی تُنَزِّلَ عَلَیْنَا کِتٰبًا نَّقْرَءُہٗ - (بنی اسرائیل ۱۲/۱۰)۔

کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نشانات طلب کئے۔ ان میں سے انہوں نے ایک یہ بھی نشان طلب کیا اور اس کو سب کے آخر میں بیان کیا اور اپنے ایمانی فیصلہ کو اس پر ٹھہرایا۔ کہ آپ آسمان پر جائیں اور وہاں سے کتاب لائیں۔ جس کو ہم پڑھ کر آپ پر ایمان لائیں۔ آپ کو اللہ تعالےٰ نے اس کے جواب میں یہ حکم دیا،

marfat.com

کہ میرا رب پاک ہے۔ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ یعنی اللہ کی قدرت میں تو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ لیکن رسول کو آسمان پر لیجانے کی سنۃ اللہ نہیں۔ اب جائے غور ہے کہ کفار کا یہ کہنا کہ تو آسمان پر چڑھ جائے اور کتاب لاوے، تب ہم ایمان لاوینگے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالےٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہیں اٹھا لیا۔ تاکہ سب کفار ایمان لے آتے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہوگا۔ جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ تو ایک بشر رسول ہے۔ اور بشر رسول آسمان پر جایا نہیں کرتے۔

"محمد عمر"۔ سُبْحَانَ اللّٰہ۔ واقعی یہ دماغ خداوند کریم نے تمہیں ہی نصیب فرمایا۔ کہ جس آیت کو پڑھو۔ مطلب خواہ کچھ ہو۔ تم آخیر اپنی طرف ہی لے جاؤ گے۔ یہی عادت تمہارے مرزا صاحب کی تھی۔ کہ جو شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالےٰ بیان فرمادیں۔ وہ مرزا صاحب فرما دیتے کہ یہ آیت میری شان میں نازل ہے۔ وہی طریقہ ان سے تم نے بھی سیکھا ہے۔ کہ بات کچھ ہو۔ تم نے اپنی بنا لینی۔ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہارے اس جال سے ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ سنئے فقیر تمہیں تمام آیت کا بیان کرکے پورا مطلب عرض کرتا ہے۔

بنی اسرائیل ۱۵/۱۰

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سوال کئے۔ جن سے پہلا سوال یہ ہے۔ کہ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا اور کفار نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائینگے۔ آپ کے لئے حتیٰ کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمے جاری کردے۔ کیا یہ بڑی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد الٰہی ہے۔ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۔ او

marfat.com

موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا۔ تو ہم نے کہا، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، تو اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی پتھر پر ماریں تو بارہ چشمے جاری ہو جائیں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کفار کے مطالبے سے جاری نہ کر سکتے تھے۔ لیکن چشمے جاری نہ کرنے کی وجہ خاص تھی۔ کہ اگر میری طاقت سے چشمے جاری ہو گئے اور کفار ایمان نہ لائے تو یہ مستحق عذاب ہو جائیں گے۔ اور یہ میری ذات کے خلاف ہے۔ اس واسطے ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا سے خود اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا۔ لیکن ان کو عذاب الٰہی سے بچا لیا۔ کیا زمین سے پانی جاری کرنا بھی طاقت نبوی سے بالا تھا۔ جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ کہ ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا کہدیا۔ کیونکہ بشری طاقت سے بات باہر نہ تھی، ورنہ آپ کے معتقدین نے جب پانی طلب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طلب اجازت خداوندی اپنے دستِ پاک سے چشمے جاری کر دیئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

مسلم شریف ۲ / ۲۴۶ — انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دَعَا بِقَدَحٍ فِیْہِ مَاءٌ فَوَضَعَ کَفَّہٗ فِیْہِ فَجَعَلَ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ اَصَابِعِہٖ فَتَوَضَّأَ جَمِیْعُ اَصْحَابِہٖ قَالَ قُلْتُ کَمْ کَانُوْا یَا اَبَا حَمْزَۃَ قَالَ کَانُوْا اَہْلَ الثَّلٰثِ مِائَۃٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں اپنا دستِ پاک رکھا۔ تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے شروع ہو گئے۔ تو آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے تھے۔ آپ نے فرمایا تین سو تھے۔

مومنین تو آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لئے آپ نے ان کے واسطے پانی اپنے دستِ پاک سے جاری کر کے دکھا دیا اور کفار کو ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا سے ٹال دیا۔

اے مرزائی دوست! اس مُعجن نے تو کفار کو ایمان سے بے نصیب رکھا۔ کہ انہوں نے ظاہر بشریت کو دیکھ کر انکار کیا اور طاقت نبوی کو نہ سمجھتے ہوئے لَنْ نُّؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْبُوْعًا سے اڑ بیٹھے۔ کیا جو شخص اپنے دستِ پاک

marfat.com

سے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ اس کے لئے چشمے زمین سے جاری کرنا کونسی بعید از طاقت بات ہے۔

کیا نوح علیہ السلام کی دعا سے تمام زمین و آسمان نے چشمے نہ چھوڑ دیئے۔ جس سے نوح علیہ السلام کی کشتی سے نجات ہوئی۔ جس کا منظر رب العزۃ بیان فرماتے ہیں۔

ہود ۱۲/۱۴ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اور وہ کشتی ان کو لے کر چلتی تھی پہاڑ جیسی کٹا ٹھوں میں۔ ابھی تمہیں طاقت نبوی کے چشمے جاری کرنے کی خبر نہیں ہوئی۔ اب رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طاقت سے جاری شدہ چشمے کا پانی مانگنے والو، خدا سے ڈرو۔ انبیا علیہم السلام کی طاقتوں کے اندازے لگانے کا زمانہ اب نہیں رہا۔ کیا مریم علیہا السلام کے حکم سے چشمہ جاری نہ ہوا۔ ملاحظہ ہو۔ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والدہ اللہ تعالےٰ نے آپ کے حکم کے ماتحت پانی رکھا ہے۔ جب چاہو زمین سے حکم کر کے پانی حاصل کر لو۔ کیا ایک ولیہ کے حکم کے ماتحت پانی نکل سکتا ہے۔ تو کیا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ چشمے جاری کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا باقی انبیا علیہم السلام نے باوجود انسانیت کے چشمے جاری نہ فرمائے۔ تو معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا فرما کر کسر نفسی کا اظہار کفار کے فائدے کے لئے تھا۔ باقی رہا کفار کا دوسرا سوال جس کو کفار کی عقل نے تمہاری طرح طاقت بشری سمجھ کر وراء سمجھا وہ یہ ہے۔ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ط۔ یا تمہارا باغ ہو کھجوروں اور انگور کا تو تو اُن کے درمیان نہریں جاری کرے اور ہر وقت پانی دیتی رہیں۔ تو اللہ رب العزۃ نے اس کا جواب دیا۔

فرقان ۱۸/۲ تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا۔ بہت بابرکت وہ ذات ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لئے اس سے اعلیٰ باغ بنادے جس میں ہر وقت نہریں چلتی رہیں۔ اور اگر چاہے تو آپ کے لئے کئی محلات بنادے۔

کفار نے شانِ نبوت کو کھجوروں اور انگوروں کے باغات تک محدود سمجھا۔ تم اُنسے

marfat.com

بھی بڑھ گئے۔ تم نے ان باغات کی ملکیت بھی وراء الوراء بھی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ باغات آپ کے رب کے نزدیک کیا شئی ہیں۔ میں آپ کے لئے ان طلب کردہ باغات سے بہتر باغات اور کوٹھیاں مہیا کر دوں۔ لیکن آپ کے لئے ایسے باغات اور مملکت اس بنا پر تیار نہیں کئے جاتے کہ یہ عالم فانی ہے۔ بعد از وصال جناب اگر کوئی سا کو برائی سے مَس کرے گا تو خداوند رب العزت نے جب بیتِ ابراہیمی شہید کرنے والوں کو کَعَصۡفٍ مَّاکُوۡل بنا دیا، بھلا ان باغات اور محلات شہید کرنے والے کو جو خداوند تعالےٰ کے امر کُن سے آپ کے لئے تیار کئے گئے ہوں، کیوں نہ طبقۂ ارض سے کفار کا ستیاناس کر دے گا۔ تو وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَہُمۡ وَ اَنۡتَ فِیۡہِمۡ کی وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو بنا بریں ھَلۡ کُنۡتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوۡلًا فرما کر اپنی عجز و انکساری کا اظہار فرما دیا۔ لیکن اپنی سلطنت میں کفار پر بھی عذاب الٰہی نازل ہونے نہ دیا۔ نہ یہ کہ آپ کی طاقت سے بالا تھا۔ جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔

باقی رہا کفار کا تیسرا سوال اَوۡ تُسۡقِطَ السَّمَآءَ کَمَا زَعَمۡتَ عَلَیۡنَا کِسَفًا۔ یا تو ہم پر اپنے گمان کے مطابق آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ اُن کے اس سوال سے معلوم ہوا۔ کہ وہ عذاب الٰہی سے آزمائش کے متمنی تھے۔ کیونکہ ہر شئے اپنے مقام اصلی کو مائل ہوتی ہے۔ کافر کا مقام بھی چونکہ عذاب الٰہی میں گرفتار ہونا ہے۔ اس واسطے وہ اپنی زبان سے ہی عذاب الٰہی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے جواب دیا۔ کہ تم سے پہلے بھی قوم شعیب علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا۔ تو اُن کو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر تباہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشادِ الٰہی ہے۔

شعراء ١٥/١٠ فَاَسۡقِطۡ عَلَیۡنَا کِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ؕ قَالَ رَبِّیۡۤ اَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ فَکَذَّبُوۡہُ فَاَخَذَہُمۡ عَذَابُ یَوۡمِ الظُّلَّۃِ ؕ اِنَّہٗ کَانَ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ۞

(قوم شعیب علیہ السلام نے کہا) کہ اگر تو سچا ہے، تو تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے گرا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو میرا رب خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے اُس کو جھٹلایا۔ تو اُن کو سائبان والے دن کے عذاب نے گرفتار کر لیا۔ بے شک وہ عذاب کا بڑا دن تھا۔

marfat.com

تو رب العزۃ نے فرمایا۔ کہ جب ہم نے قوم شعیب علیہ السلام کی طرف بادل بھیجا۔ تو وہ سایہ سمجھ کر نیچے چلے گئے تو اللہ تعالےٰ نے وہی ٹکڑا بادل کا گرا کر تباہ کر دیا۔ جب قوم شعیب علیہ السلام ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکی، تو تمہیں اگر برباد کیا جاویگا۔ تو ہمارا کیا بگاڑ سکو گے۔ لیکن تمہارے باقی پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں گے۔ اُن کے سوال کو کسی نے نہیں سُننا۔ ہمارے تباہ کرنے کو ہر کوئی الاپے گا۔ یہ نہیں کہ ہماری طاقت اب کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو گرا سکتے ہیں۔ سنیئے۔ ارشادِ الٰہی ہے۔

سبا ۲۲ / ۲ — وَاِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ (اور اگر ہم چاہیں۔ تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں لیکن پھر بھی ان کے پچھلے بے ایمان نہ مانیں گے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ٥ اس میں تو ہر رجوع کرنے والے بندے کے واسطے نشانی ہے۔

جب ان لوگوں کا خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں۔ تو یہ لوگ آسمان سے ٹکڑا گرانے سے بھی ایمان نہ لائینگے۔ اور دوسری صورت یہ ہے۔ کہ اگر ہم کسی کو تباہ نہ کریں، ویسے ہی آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ تب بھی یہ بے ایمان مرزائیوں کی طرح بہانے تلاش کرینگے۔ مسلمان نہ ہونگے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

طور ۲۷ / ۲ — وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ٥ (اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے ٹکڑا گرا ہؤا تو وہ کہینگے یہ تو بادل ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑیئے حتیٰ کہ یہ اُس دن کی ملاقات کریں گے، جس میں یہ بیہوش کئے جاویں گے)۔

تو رب العزۃ نے اُن کے سوال کا آخری جواب دیا۔ کہ اگر ہم اُن پر ٹکڑا بغیر تباہ کرے کے گرا دیں تو یہ بے ایمان اپنی من گھڑت تاویل کر کے گھنا بادل کہہ کر ٹال دینگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تباہ کرنے والا ٹکڑا گر نہیں سکتا۔ کیونکہ وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ رب العزۃ کی طرف سے اس بات کا حقیقی جواب دیا گیا۔ کہ ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں کفار کو قیامت تک عذاب کرنے کی میعاد مقرر کی گئی ہے۔ جب رب العزۃ نے کفار کے سوال فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ کا جواب یہ دیا۔ کہ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ يَقُوْلُوْا سَحَابٌ

marfat.com

مِّنْ قَوْمٍ - اب مرزائی کہیں کہ اگر آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کر ٹکڑا اگروا دیتے ۔ تو کفار ایمان لے آتے ، اب خداوند تعالیٰ کی بات کچی سمجھیں جو اس نے حقیقتِ کفار ظاہر فرمادی یا مرزائی کی ۔ پھر اس بات کا خداوند کریم جواب دیویں ۔ فَذَرْهُمْ تو حضور آپ ان کو چھوڑ دیجئے ۔ یہ کہیں کہ عذاب ضرور چاہیئے کیا تم خدا کے شریک بنتے ہو ؟ اگر خداوند تعالیٰ مرزائیوں کے اشارے پر چلتا تو ضرور گراہی دیتا ۔ لیکن ان کی کون سُنے ، مرزائی دوستو! قرآن کریم پڑھو ۔ اور اپنے ایمان کو درست کرلو ۔

کفار کا چوتھا سوال - اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۔ یا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لے آوے ۔ یہ بھی ان کی کم علمی اور خداوند کریم سے استہزا ہے ۔ کہ ہم تمہارا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ کا کہا نہیں مان سکتے ۔ خود اللہ یا اس کے فرشتے آکر کہیں ۔ تو یقین کرینگے ۔ بھلا ان کی کیا مجال کہ جلالِ الٰہی کو برداشت کرسکیں ۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو پہاڑ کو تجلی الٰہی سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ کر بیہوش ہو جائیں ۔ اور یہ خداوند کو اپنے پاس بُلوائیں ۔ توم موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا ۔ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً تو موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی اپنی قوم سے خدا کو دیکھنے والے چُنے ، تو ارشادِ الٰہی ہوا ۔ فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۔ تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا ۔ جب تم ایک کڑک کو برداشت نہیں کرسکتے ۔ تو جلالِ الٰہی اور ملائکہ کو کیسے گوارہ کرسکو گے ۔

خداوند تعالیٰ ان کو خود یا ملائکہ کی زیارت سے مشرف کرواتا ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا خاکستر ہونا یہ بھی مولائے ذوالجلال کو گوارہ نہ تھا ۔ اس واسطے ان کو اس کے جواب میں ان کے بھائیوں کی یاد تازہ کرانی ہی کافی سمجھی فرمایا ، فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ ۔ تمہارے ہی بھائی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے اس سے بڑا بڑھ کر سوال کرچکے ہیں ۔ اور عملی جواب دیکھ چکے ہیں ، اب اسی جواب کو نئے سرے سے دُہرانا یہ خلافِ قانون ہے ۔ اگر خداوند کریم یا ملائکہ کے انوار کو کفار کے ایمان لانے کے لئے اسے ظاہر کرنا مقصود ہوتا اور مرزائیوں کی خوشنودی منظور ہوتی ۔ تو ان کو جَلَّ وَعَلَا یہ جواب کبھی نہ دیتے ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خود اس کی ذات یا ملائکہ کے آنے سے کفار کو مومن بنانا مقصود ہوتا تو رُسل کو رَبُّ العزۃ نہ مبعوث فرماتے اور جب رُسل کو بھیجکر صراطِ مستقیم کی طرف بُلانا قانونِ الٰہی

marfat.com

مقرر ہوچکا تو خداوند اپنے قانون کو کفار کے لیے کیسے بدل دیتے اور اگر کوئی مرزائی کہے کہ خداوند خود نہ سہی کسی فرشتے کو ہی بھیج دیتے بھلا ان کی تسلی ہوجاتی اور وہ ایمان لے آتے۔ تو رب العزۃ نے اس کا جواب بھی دیا کہ اگر فرشتے رسل کی جگہ بھیجے جاتے تو انہوں نے ان کفار کو مہلت نہ دینی تھی۔ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ جواب دیا۔ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ٭ جو نہ مانتا تو اس کا کام پورا کیا جاتا۔ اور ان کی اپیل بھی نامنظور ہوتی، پھر ان کے بہانے کوئی نہ سنتا۔ یہ میرا رحم ہے کہ میں نے ان کے لئے رسل مبعوث فرمائے ہیں۔ فرشتے نہیں بھیجے۔ جیسا کہ شہر کا انتظام ہے۔ اگر فوج کے سپرد کیا جائے تو پھر وہ قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب کسی نے خلاف قانون کیا۔ فوراً گولی چلا دی۔ تو خدائی فوج کے سپرد نہ کرنا یہ ذوالجلال کی رحمت ہے۔ اور یہ رحم خداوندی بھی تعلقات مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہے ورنہ اگر تمہاری طرف نظر فرماوے تو تم تو بغیر عذاب الٰہی ماننے والے نہیں حجتیں اور تاویلیں تلاش کر کے قرآن مجید کے معانی بدل کر اپنا مدعا تو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہی رب العزۃ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انعام ۸/۱ — وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ۔ (یہ تو صرف فرشتوں کی رسالت کے طلبگار ہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں۔ اور ان کو مردے (قبروں سے اٹھ کر) کلام کریں، اور ان کے آگے (ان کی مطلوبہ) ہر شے جمع کر دیں تو یہ ایسے نہیں، کہ ایمان لے آویں۔ (بے ایمان ہی رہیں گے)۔ سوائے مشیت الٰہی کے۔ اگر مشیت الٰہی ہو۔ تو پھر ان کو زبردستی مومن بنا دے۔ فرمایا۔ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اور اگر اللہ چاہے۔ تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دے۔ لیکن چونکہ قانون شریعت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر ہوچکا ہے۔ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ دین میں زبردستی نہیں نیز فرمایا فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان لائے۔ اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ الحاصل جب عالم الغیب نے ان پر فتویٰ لگا دیا۔ کہ یہ بے ایمان ہی رہیں گے۔ یہ ملائکہ کی رسالت سے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہم مرزائیوں کا کیسے

marfat.com

اعتبار کریں۔ کہ اگر فرشتے نازل ہو جاتے تو کفار مسلمان ہو جاتے۔ تو رب العزۃ نے ان کے سوال تاتی باللہ والملٰئکۃ قبیلاً کا جواب حشرنا علیہم کل شیٔ سے پورا سطونک کر دیا۔

کفار کا پانچواں سوال۔ اَوْ یَکُوْنَ لَکَ بَیْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ یا تیرا سونے کا مکان ہوتا۔ اس کا ایک جواب تو گذر چکا۔ وَیَجْعَلْ لَّکَ قُصُوْرًا۔ اور دوسرا جواب۔ کفار زخرف کے مکان کو معیارِ نبوت سمجھنے لگے۔ جواب میں اللہ تعالےٰ نے سورہ زخرف ہی نازل فرما دی۔

زخرف ۲۵/۳	وَلَوْلَا اَنْ یَّکُوْنَ النَّاسُ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ یَّکْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُیُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَیْهَا یَتَّکِـُٔوْنَ وَزُخْرُفًا وَاِنْ کُلُّ ذٰلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃُ عِنْدَ رَبِّکَ

لِلْمُتَّقِیْنَ ۝ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے سونے کے خواہشمندو، تم کہتے ہو۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے مکان ہوتے۔ (اگر تم سے یہ توقع نہ ہوتی، کہ کافر لوگ متفق ہو کر ایک ہو جائیں گے۔ (اور سمجھیں گے کہ ہم بچے ہیں) تو ہم رحمٰن کے منکروں کے واسطے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیاں اور دروازے بھی چاندی کی بنا دیتے۔ اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں۔ وہ بھی چاندی کے بنا دیتے اور یہ تمام چیزیں سونے کی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام نہیں مگر دنیا کی زندگی کا نفع ہے اور آخرت آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

کیا تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سونے کے مکان کو سچائی کا معیار مقرر کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ میں تمہارے سونے چاندی کے مکانات بنا سکتا ہوں۔ اور جب تمہارے سونے چاندی کے مکانات بن جائیں۔ تو کیا تم نبی بن جاؤ گے۔ تمہارا یہ بھی معیار غلط ہے۔ اگر میں ان کے مکانات ایسے بنا دیتا۔ تو ان بے ایمانوں نے الٹا سمجھنا تھا۔ کہ ہم ہی برحق ہیں۔ اس واسطے خدا نے ہمیں اتنا سونا چاندی فراخی سے دیا ہوا ہے، جیسا کہ اب مرزائی اسی آزمائش میں گرفتار ہیں۔ لیکن رب العزۃ نے فرمایا۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سونے چاندی کا حریص ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ تمام سامان دنیا کی زندگی کا ہے یہ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ عظیم ہے،

marfat.com

marfat.com

کہ تمہارے اُکسانے سے دنیا کے مال کی خواہش نہیں فرماتے۔ بلکہ سُبحَانَ رَبِّیْ ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا فرماکر اپنی انکساری کرکے اسی حال میں اپنے رب کی تسبیح بیان فرمارہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا چاندی تو امتی ہیں۔ کوئی غوث ہے۔ کوئی قطب ہے۔ کوئی ابدال ہے۔ کوئی صدیق ہے۔ کوئی شہید ہے۔ یہ مال باقی رہنے۔ جس سے تم محروم ہو۔ وہ فانی ہے۔ جس کے تم طلبگار رہو۔ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ ھُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ ھُوَ خَیْرٌ۔ کیا تم چاہتے ہو۔ کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کی رغبت دلاکر دنیا کی طرف لیجائیں۔ نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ وہ آپ کی ذات ہے۔ جو لوگوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیْکُمْ۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرو۔ جب تمہیں بلائیں، واسطے اس کے کہ وہ زندگی بخشتے ہیں تم کو۔

باقی رہا کفار کا چھٹا سوال۔ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمَآءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتّٰی تُنَزِّلَ عَلَیْنَا کِتٰبًا نَّقْرَؤُہٗ۔ یہ کفار کا آخری سوال ہے۔ جب سمجھ لیا۔ کہ خداوند تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں کمزور ہونے دیتے ہی نہیں۔ سونے کا اعتراض کیا۔ تو بھی رب العزت نے منہ توڑ جواب دیا۔ کہ میں ان کفار کے مکانات بھی بنا سکتا ہوں۔ جب اپنے ہر سوال میں ناکام رہے۔ تو تنگ آکر آخری سوال پیش کیا۔ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمَآءِ۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے۔ کفار کا آخری سوال جو انہوں نے سمجھا۔ کہ انسان کا آسمان پر چڑھنا محال ہے۔ نہ یہ چڑھ سکیں گے اور پھر نہ ہم سے بات کہنے والے بنیں گے۔ اور مرزائی بھی باقی سوالات کو ممکن سمجھ کر خاموش رہا۔ لیکن اس سوال پر اس نے بھی اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اس میں شمولیت فرمائی۔ کہ واقعی یہ کڑا سوال ہے۔ اور انسان سے ناممکن ہے۔ اور واقعی آسمان پر چڑھنے کی بشری طاقت کہاں اور اگر ہوتی تو ھَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا کیوں جواب دیتے۔ یہ نہ سوچا کہ یہ سوال کفار نے تو معیار نبوت ٹھہرا کر کیا تھا۔ اگر ہم بھی یہی سوال پیش کریں گے تو ہمیں بھی مسلمان تَشَابَھَتْ قُلُوْبُھُمْ کہ کر انہیں سے شمار کرینگے جیسا کہ مرزائیوں کے اعتراض سے صاف ظاہر ہے۔ لہذا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے

marfat.com

قائل تو بن پر کسے ہی ہو گئے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب چونکہ ایک ٹیلہ پر نہ چڑھ سکتے تھے۔ لہذا تمام انبیا علیہم السلام کی ایسی ہی طاقت ہوتی ہوگی، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھ سکتے تو هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا کیوں فرماتے۔ اس اعتراض کو قائم رکھتے ہوئے اب بھی اگر جماعت مومنین میں کہلاؤ تو اس سے زیادہ دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کم از کم قرآن کریم ہی کچھ مطالعہ کر لیتے۔ تو شاید کہیں اس کا جواب مل جاتا لیکن یہ تو معترضین نبوت جماعت میں شمولیت پسند کرتے ہی نہیں عجیب تو رب العزت اور اس کے ماننے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ سنیئے۔

حجر ۱۴ / ۱ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝ اور اگر ہم اُن پر آسمان سے دروازہ کھول دیں تو یہ کفار اس میں چڑھ جائیں۔ (تو پھر بھی یہ کفار) کہیں گے ہماری آنکھوں کو بیہوش کیا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں جادو کیا گیا ہے) رب العزت نے کفار کے اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ کا جواب دیا۔ کہ یہ تو آسمان پر چڑھنے کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بالا سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ورا ء الوریٰ ہیں ان تمام کیلئے اگر آسمانی دروازے کھول کر چاہوں تو ان کو بجسمہٖ چڑھا دوں۔ کوئی طاقت بشری کے خلاف نہیں۔ لیکن یہ بے ایمان پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اپنی جعلی تاویلوں سے بہانہ بنائیں گے۔ کہ ہمیں آسمان پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ یا تو بیہوش کیا گیا ہے۔ یا بذریعہ جادو کچھ مسحور کیا گیا ہے اور ان کی یہ حقیقت صحیح ہے۔ کہ یہ بے ایمان میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہ ہونگے۔ تو معلوم ہوا۔ کہ یہی مرزائیوں والا اعتراض پہلے کفار بھی کر چکے ہیں اور طاقت بشری کو آسمان پر چڑھنا محال سمجھتے تھے۔ حالانکہ محال نہیں۔

مرزائیوں کا رفع سماوی کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق محال سمجھنا اور اسی بحث کو مقدم اور مرزائیت کا دارومدار اسی کو بنانا یہ واقعی کفار کے اسی اعتراض کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ کو یہ علم تھا۔ کہ مرزائی رفع سماوی کو محالات سے تصور کرینگے۔ لہذا اسی مسئلہ کو رب العزت نے ایسا آسان فرما دیا۔ کہ میں کفار کو بھی آسمان پر چڑھا سکتا ہوں۔ لیکن یہ بے ایمان پھر بھی ایمان نہ لاویں گے۔

marfat.com

جیسا کہ آج کل مرزائی۔ آؤ مرزائیو! اس نعرہ سماوی عیسوی کو محال سمجھنے والو تائب ہو جاؤ اور طاقت الہٰی اور فرمان یکتائی اور احادیث مصطفائی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ ٹھکراؤ ورنہ بَلْ شَكُّهُمْ تُ اَبْصَارَهُمْ نا ہو گے۔

اور جب کفار نے دیکھا۔ کہ رب العزۃ تو ہمیں بھی آسمان پر چڑھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو بے ایمانوں نے پھر ایک اور قید بڑھادی۔ جس سے خود نبوت کی خواہشمندی کا اظہار کیا۔ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَءُهٗ ۔ ہم آپکے آسمان پر چڑھنے سے بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ حتیٰ کہ ہم پر تو کتاب نازل نہ کرے ہم خود اس کو پڑھیں۔ پھر ہم آپ کو سچا مانیں گے ورنہ نہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ کہ کفار کو بھی خداوند تعالےٰ کے فرمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر تشریف لیجانے کا یقین ہو چکا تھا۔ لیکن انہوں نے ایسی کڑی قید لگائی، کہ آپ ہم پر کتاب نازل فرمادیں۔ تو کتاب انبیاء علیہم السلام اور رسل علیہم السلام پر نازل ہو سکتی ہے دوسرے پر نہیں۔ اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا تھا۔ تو خداوند کریم نے کفار کی تمام باتوں کا جواب دیا۔ کہ اُن کی مطلوبہ صورت کے مطابق تو ناممکن ہے اگر نبوت جاری ہوتی۔ تو رب العزۃ ان کی بات کو من وعن جواب دیتے۔ لیکن جو ممکن ہو سکتا تھا۔ پورا جواب دیا۔ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب تمہارے سامنے اُتار دیں اور تم اپنے ہاتھوں سے اُسے لیلو۔ لیکن پھر بھی یہ بے ایمان نہ مانیں گے۔ فرمایا۔

انعام ۷/۱ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۔ اور اگر ہم آپ پر چھٹی اتار دیں۔ کاغذ میں لکھی ہوئی تو یہ اپنے ہاتھ سے بھی اس کو لے لیں۔ تو پھر بھی یہ کفار کہیں گے کہ یہ سوا ظاہر جادو کے اور کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہیں۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ ہم اگر آپ پر تحریر شدہ چھٹی نازل فرمادیں۔ اور یہ اپنے ہاتھوں سے لے لیں۔ تو بھی یہ ایمان نہ لاویں گے۔ کیونکہ جب ایسی معجز کتاب جس کی مثل یہ نہیں لاسکے۔ آپ پر نازل شدہ ان کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اس صورت مجوزہ

marfat.com

ے بھی کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اس واسطے ان کو اس کے متعلق بھی یہی جواب دیجیے۔ کہ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا۔ حالانکہ بشر کے بعد جو لفظِ رسول ہے۔ اس سے ہی ان کا جواب ذی شعور کے واسطے کافی ہے۔ کیونکہ آسمانی کتاب کا لانا اور رسالت ان میں اتحاد ہے نہ کہ تغایر ذاتی۔ جو تم نے سمجھا ہے۔

تو تمہارا خیال کہ آسمان پر بشر کا جانا محال اور قدرت کے وراء ہے۔ یہ غلط ہے اور خداوند تعالٰے نے کفار کو آسمان پر چڑھ جانے کی دعوت بھی دی۔ لیکن ایمان شرط رکھی۔ اگر وہ اپنے ایمان لانے کی شرط منظور کر لیتے تو کیا تمہارے خیال میں خداوند کریم اپنی شرط سے مَعاذ اللہ پھر جاتے۔ جیسا کہ تم کہتے ہو، کہ یہ سُنَّۃ اللہ کے خلاف ہے۔ اگر سُنَّۃ اللہ کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالٰے کفار سے ایمان کی شرط لگا کر رَفع اِلیَ السَّماء کی دعوت نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ آسمان پر انسان کا جانا سُنَّۃ اللہ ہے۔ لیکن ایمان شرط ہے۔

اب اے مرزائیو! تم کہو کہ عیسٰی علیہ السلام کو مَعاذ اللہ تم مومن نہیں سمجھتے۔ تب ہی تو ان کے رَفع الی السَّماء کے قائل نہیں ہوتے؟ یا تم خود ایماندار نہیں جس کی وجہ سے تم عیسٰی علیہ السّلام کے رَفع اِلیَ السَّما کے قائل نہیں۔ ان دونوں امور سے ایک تو ضروری ہے۔ اب تمہارے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ یہ ہے پوری آیت اور کفار کے تمام اعتراضات اللہ جل شانہٗ نے جن کے جوابات منہ توڑ دیے۔ جن کی تحریف کر کے اور اغماض کر کے اپنے ایمان کا پول نکالا ہے۔ جو ہر اُولی الاَبصار اور ایماندار پر واضح ہو چکا ہے۔

اور اگر مُصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی سماوی طاقت مطلوب ہو تو کیا تمہارے ایمان لانے کے واسطے چاند کا ٹکڑے ہو کر نیچے آجانا اور پھر آسمان پر جا کر اکٹھے ہو جانا اور ان ٹکڑوں کے نشانات بھی بدستور رہوں تاکہ بے ایمان چاند کو دیکھ کر ہی طاقت مُصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہو جائے۔ لیکن جس کی قسمت اچھی ہو۔ اس کے واسطے ہی آپ کی نبوت کافی ہوتی ہے۔ کیا جس کی طاقت آسمانی چاند کو جس کا مقام زمین ہے ہی نہیں، زمین پر گرا دیں، یہ ہو سکتا ہے اور کیا زمین کے باشندے کا آسمان پر جانا محال؟ ذرا خدا سے ڈرو۔ مرزاجی کی قبر میں تم نے نہیں جانا اور نہ مرزاجی

marfat.com

نے تمہاری قبر میں کام آنا ہے۔ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے کام آئیں گے۔
اگر اُن پر پورا ایمان لے آؤ گے تو۔ آپ کے آسمان پر چڑھنے کا یقین تو کفار کو بھی تھا۔
جب ہی تو کہا وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے سے بھی ہرگز
ایمان نہ لاویں گے، حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ حتیٰ کہ تو ہم پر کتاب اتارے۔ ہم
خود اس کو پڑھیں، تو چونکہ وہ خواہشمند نبوت تھے۔ اجرائے نبوت کے بغیر وہ ایمان نہ لاتے
تھے۔ لہٰذا اُن کو ایسا ہی رَبّ العزت نے جواب دیکر اُن کو بے ایمان ثابت کیا۔
اور اگر وہ اس میں اجرائے نبوت کے مستدعی نہ ہوتے۔ تو شاید اللہ تعالےٰ اُن
کے ایمان لانے کی کوئی صورت نکال دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رَبّ العزت کو بیچ
اُن کی اسی قید سے تھا۔ تو جواب دے دیا۔ کہ اِن بے ایمانوں کے ہاتھ میں آپ
اگر چھٹی بھی لاویں گے۔ تب بھی یہ بے ایمان باز نہ آویں گے۔ اب تمہارا کہنا۔ کہ
هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا سے کیوں ٹال دیا۔ اگر سنۃ اللہ آسمان پر جانے کی ہوتی
تو آپ آسمان پر ضرور ان کے سامنے تشریف لے جاتے شاید وہ ایمان لے آتے
یہ تمہارا قیاس غلطی ہے۔ مخلوق کے متعلق اپنے مرزائیت کے قیاس نے تم لگا سکتے ہو خواہ
غلط ہو یا صحیح۔ لیکن منشاء الٰہی میں تم کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ جب عیسٰی علیہ السلام
آسمان پر تشریف لے گئے اور ان کو علم بھی تھا پھر وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ اپنی
بے ایمانی میں وہ اتنا تجاوز کر گئے۔ کہ اس کو اُلٹا خدا کا بیٹا ہی کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ
اگر آسمان پر ان کے کہنے سے تشریف لے جاتے تو رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ
وسلم اور حضرت عیسٰی علیہ السلام میں کیا فرق ہوتا۔ اور ان یہودیوں نے بھی یہی کہنا
تھا۔ کہ تمہاری شان اور شان عیسوی میں کیا فرق رہا۔ برابر ہی تو رہے۔ اسی واسطے هَلْ
كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا کہدیا۔ تو آپ کا یہ ارشاد بطور انکساری محض ان کی بے ایمانی
پر مہر لگانا تھا۔ ورنہ جب اللہ کریم عرش معلےٰ پر آپ کو بعجلت دعوت دے چکے
تھے۔ اور براق کی سواری بھیج کر بلا چکے تھے۔ اور عرش پر آپ کا تشریف لے جانا یہ
بھی مرزائیوں کے لئے سوگ ہے۔ اور تعریف کرنے والے تو تعریف ہی کر رہے ہیں چنانچہ
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا شعر بطور محبت یاد آگیا۔

حبیب خدا اشرف انبیا — کہ عرش مجیدش بود متکا

marfat.com

سوادِ جہاں گیر بگراں براق کر بگذشت از قصرِ نیلی رواق

تو پھر آپ کو خود رب العزت کے دربار میں آسمان پر چڑھنے کی التجا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور جو قدرت رکھتے پھر انکساری کرے۔ انکساری تو اسے ہی کہتے ہیں۔ اور آپ نے اُن کو جواب نہیں دیا۔ بلکہ حضور کی طرف سے عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر کے معلن نے ان کے اس اِسْتِحْنَا پر اُن کو نگاہِ نفرت سے دیکھتے ہوئے وَلَوْ فَتَحْنَا سے اپنی طاقت کا اظہار فرما کر تمہارے رَفعِ اِلَی السَّماء کو خلاف سُنَّۃُ اللّٰہ کہنے کو باطل ثابت کر دیا۔

"مرزائی"۔ تم نے یہ کہدیا کہ یہ حیاتِ مسیح کا عقیدہ کفار کا تھا۔ کیا یہ واقعی ہے۔ تو تم نے اپنی زبان سے کفر کا اقرار کرلیا۔

"محمد عمر"۔ دوست مرزائیوں کو بات اُلٹنے کا ڈھب خُوب ہے۔ فقیر نے عرض کیا ہے۔ کہ عیسٰی علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا اتنا بدیہی ہے۔ کہ جس سے کفار بھی منکر نہیں۔ یہ عقیدہ حیاتِ عیسٰی علیہ السلام ناصری فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح حدیثوں میں مروی ہے۔ جو انشاء اللہ آگے آئے گا۔ اور صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْھِمْ اَجْمَعِیْن کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کیا اُن پر بھی یہی فتوٰی لگاؤ گے۔ خدا سے ڈرو۔ تم بچے۔ باقی بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تا ہنوز تمام امت جھوٹے ہو گئے۔ اس مسئلہ مسیح علیہ السلام کی سماوی زندگی کی صداقت تو ایسی بیّن ہے۔ کہ کفار بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ جیسا کہ سورج اگر روشن ہو۔ تو اتنا بدیہی ہوتا ہے۔ کہ ہر منکر کافر بھی اس کے روشن ہونیکا اقراری ہوتا ہے اور اس وقت منکر کو لوگ بے ہوش یا پاگل کہتے ہیں۔ جیسا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت کے کفار بھی قائل تھے۔ ایمان لائیں یا نہ۔ تو ایسی بداہت کا اگر کوئی انکار کرے تو بدیہی امر کو کفار کے کہنے سے جھوٹا نہ کہا جائیگا۔ بلکہ منکر کو کفار سے بھی بدتر کہا جاوے گا۔ جیسا کہ توحید کے متعلق ارشادِ الٰہی ہے۔ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰہِ۔ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے پوچھئے کہ سات آسمانوں کا رب اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے۔ تو وہ کفار بھی جلدی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کیا اس امر کا تم مرزائی اس قول کفار سے جو مطابق واقعہ ہے۔ سچ کہو گے یا کفار کے اقرار سے تم حقیقت

marfat.com

کے منکر ہو جاؤ گے۔ کہ کفار نے چونکہ اس کی تصدیق کر دی ہے۔ لہذا ہم منکر ہیں۔ کیسی بھولی بھالی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ رب العزۃ نے ثابت کر دیا۔ کہ کفار تمام آسمانوں اور عرش عظیم کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ تو جو اس کا منکر ہو گا تو وہ کفار سے بھی بدتر کہلائے گا نہ کہ کفار کی اصلیت کو ماننے سے عقیدہ کفار کہلاتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری اُلٹی عقل نے تمہیں بہکایا ہؤا ہے اور جیسا کہ تم حیات سماوی عیسٰی علیہ السلام کو اور معراج جسمانی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو۔ بیٹھے اور وہ راہ اختیار کی جس کے منکر آج تک کفار بھی نہ ہو سکے۔ ناتھو وتدبر۔

"مرزائی"۔ بھائی میری بچی توبہ۔ پھر میں انشاء اللہ کبھی زبان پر نہ لاؤنگا۔ کہ انسان کا زمین سے آسمان پر جانا سنۃ اللہ نہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب خداوند کریم نے کفار کو آسمان پر لیجانے کا چیلنج دے دیا ہے۔ اور صرف ایمان شرط رکھی تو میں اگر نہ تسلیم کروں تو معاذ اللہ زمرۂ کفار میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب کچھ شکوک باقی ہیں۔ امید رکھتا ہوں۔ کہ آپ بڑی متانت سے جواب دینگے۔ ۳۵

"محمد عمر"۔ ضرور ضرور سوال کیجئے۔ فقیر انشاء اللہ العزیز آپ کو قرآن کریم سے ہی تسلی کرے گا۔

"مرزائی"۔ ایک عجیب بات تمہارے کلام سے ثابت ہوئی۔ جو کہیں سے آجتک میرے سننے میں نہیں آئی۔ اور وہ یہ ہے کہ میں جو آیات مرزائیوں سے پڑھ چکا ہوں۔ ان سے وفات مسیح ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن تم اسی آیت سے ہی حیات مسیح ثابت کر دیتے ہو۔ کمال ہے۔ ایک اور آیت عرض کرتا ہوں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ ○ اور ہم نے تجھ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کیا ہو سکتا ہے۔ کہ تو فوت ہو جائے اور وہ زندہ رہیں۔ ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالےٰ نے کس قدر غیرت سے فرمایا۔ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ ○ لیکن ایک تم ہو۔ عیسٰی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہو۔ مگر اس سَیِّدُ الْمَعْصُوْمِیْنَ کو فوت شدہ مانتے ہو۔ استدلال صاف ہے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جو اَنْفَعُ النَّاس ہے۔ دنیا سے رحلت فرما جاوے اور جو پہلے کا ہو، وہ زندہ رہے۔ پس ثابت ہؤا۔ کہ مسیح علیہ السلام نوت ہو گئے ہیں۔ ۳۵

marfat.com

"محمد عمر" - بھائی تمہاری پیش کردہ آیت نے تو خلود کی نفی فرمائی ہے - نہ یہ ثابت ہوا - کہ آپ کے پہلے جتنے ہیں - وہ تمام مر چکے ہیں - یہ تمہارا استنباط غلط ہے - اگر اس آیۃ سے یہی استنباط کرنا ہے - پھر تو بڑی جلدی تمہارا کذب ظاہر ہو گیا - کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرامؓ جو آپ سے قبل کے ہیں - کیا ان کی پیدائش آپ سے پہلے نہیں - لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ کے مصداق نہیں - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے اور بعد میں رہے - خلود ان کے لئے بھی نہ رہا - اور نہ ممکن تھا - حالانکہ تمہارے مجوزہ قانون کے مطابق جو تم نے گھڑا ہے - یہ چاہیئے تھا - کہ جو آپ سے پہلے تھے وہ سب فوت ہو چکے ہیں - تو یہ آیت کیسے درست ہوئی ایسا نہ ہوا اور نہ ہو سکتا تھا - تو معلوم ہوا - کہ تم نے آیت کے معنی غلط سمجھے ہیں - اس آیت کریمہ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے - کہ یہود و نصاریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرزائیوں کی بحبنتی کر چکے ہیں - اور وہی تمہارے بڑے بھائی ہیں - جن کے سوال کا جواب رب العزۃ نے فرمایا - ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے - کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری نبوت کو کیسے تسلیم کریں - حالانکہ تم نے ابھی اپنی عمر پوری کر کے تشریف لے جانا ہے - اور ہمارا نبی آسمان پر زندہ ہے - اور رُوحُ اللہ ہے - ہم تمہاری نبوت کو کیسے تسلیم کر لیں - ہم تو زندہ نبی کو ماننے والے ہیں - تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کے لئے ہمیشگی نہیں بنائی - پس اگر آپ وصال کر جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی انہوں نے بھی جو آپ سے پہلے ہیں، نوت ہونا ہے - اَفَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ نے حیاتِ مسیح کو ثابت کر دیا - کیونکہ هُمْ کی ضمیر راجع ہے - مِنْ قَبْلِ کی طرف - اگر مِنْ قَبْلِ موجود ہی نہیں - تو ضمیر کا مرجع ہی درست نہیں رہتا - کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا وصال ہو جائے تو کیا وہ (جو زندہ ہیں ابھی نوت نہیں ہوئے) ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی نہیں وہ بھی زندہ نہ رہیں گے - ان کو بھی اپنے وقت مقررہ پر ضرور موت ہوگی - خلد تو کسی کے واسطے بھی نہ رہا - تو برائی کی دلیل خلد کو بنانا یہ غلط ہوا - عیسیٰ علیہ السلام کے خلد کے ہم کب قائل ہیں - انہوں نے بھی آسمان سے زمین پر تشریف لا کر مرنا ہے - عزت خداوند کے قبضہ میں ہے - جسے چاہے عطا فرمائے رب العزۃ نے آپ کو رحمۃ للعالمین اور نذیراً للعالمین بنا کر بھیجا ہے -

marfat.com

تو نہیں سرخم کر دینا چاہیئے۔ اور کسی دوسرے کی طرف رغبت نہ کرنی چاہیئے۔ خلود تو سوائے خداوند کے اور کسی کے لئے بھی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و سلطنت جب سے شروع ہوئی، اس زمانہ سے لیکر قیامت تک بعد میں بھی اور جنت میں بھی مَادَامَتِ الْجَنَّۃ رہے گی۔ باقی تمام کے لئے نہ ایسی حکومت اور نہ نبوت۔ اور خدا کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابتدا موجود ہے۔ جس وقت آیت نازل ہوئی۔ تو آپ بالفعل حیات تھے۔ لیکن بالقوۃ نہیں۔ اور آپ کی نبوت بالفعل اور بالقوۃ قائم۔ اسی مقصد کو دوسرے مقام پر رب العزۃ نے حل فرمایا۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَّاِنَّھُمْ مَّیِّتُوْنَ ۝ اس وقت آپ میت نہ تھے۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا تو بالقوۃ ہی مُراد لیا۔ جو صاحب بصیرت پر واضح ہے۔

"مرزائی"۔ دیکھو اس آیت میں مذکور ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میت ہیں۔ اور وہ بھی۔ تو اس سے بھی موت عیسوی ثابت ہوئی ہے۔

"**محمد عمر**"۔ دیکھو بھائی اگر یہی مطلب لوگے۔ تو حیاتِ مسیح علیہ السلام عیاں ہے کیونکہ اللہ تعالےٰ نے آپ پر بھی مَیِّتٌ اسم فاعل کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور ان پر بھی اِنَّھُمْ مَّیِّتُوْنَ کا ہی لفظ استعمال فرمایا۔ اگر آپ کو بھی جس وقت اِنَّکَ مَیِّتٌ فرمایا گیا آپ میت نہ تھے۔ تو حیات عیسیٰ علیہ السلام بھی ثابت۔ کیونکہ نہ آپ اس وقت میت تھے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کرو گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتیدگی بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ حالانکہ آپ اس وقت حیات تھے۔ تب ہی تو آپ پر آیت نازل ہو رہی ہے۔ اگر حیات نہ ہوتے۔ تو آیت کس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور خطاب کس طرح صحیح ہوگا۔ تو ثابت ہؤا۔ کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ سے نہ آپ میت نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ بھی بالقوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بالقوۃ۔ اور رب العزۃ نے اِنَّکَ مَیِّتٌ کو مقدم رکھا اور اِنَّھُمْ مَّیِّتُوْنَ کو مؤخر۔ تاکہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا وصال ذاتی عیسیٰ علیہ السلام کے وصال ذاتی سے مقدم اور عیسیٰ علیہ السلام کا وصال آپ سے مؤخر ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اِنَّھُمْ مَّیِّتُوْنَ کو مؤخر رکھنے کی۔ تم مرزائی بیچارے کیا سمجھو، قرآنی نکات کو۔ اس آیت سے آخری امر یہی ثابت ہوا۔ کہ خلود کسی کے لئے نہیں، جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ نہ کہ وفات مسیح علیہ السلام، جو تم نے غلط بیانی سے

marfat.com

کام لیا ہے۔ حالانکہ وفات عیسٰی علیہ السلام کے مسئلہ میں اس آیت کو کوئی تعلق نہیں۔

"مرزائی"۔ اچھا مولوی صاحب سورہ صف میں حضرت عیسٰی علیہ السلام نے فرمایا۔ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُہٗٓ اَحْمَدُ۔ میرے بعد احمد آئیگا۔ اگر عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر زندہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو مِنْۢ بَعْدِی کا لفظ زبانِ عیسوی قرآن میں غلط ثابت ہوگا۔ حالانکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اگر وہ فوت نہ ہوگئے ہوں تو مِنْۢ بَعْدِی کیسے صحیح ہوگا۔ پ۲۸

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب تم ہوشیاری اور ہیرا پھیری سے وفاتِ مسیح ثابت کرنا چاہتے ہو۔ ایسے بھلا کب ہوسکتا ہے۔ مِنْۢ بَعْدِی کے معنی پیچھے کے ہیں۔ لیکن تمنے تدنی ایمان کے تقاضہ سے من بَعْدِ الْمَوْت کے کئے ہیں۔ حالانکہ من بعد کے ساتھ جبتک قرینہ غرق یا ہلاکت یا موت یا قتل وغیرہ نہ ہو۔ تب تک من بعد الموت مراد نہیں ہوسکتے۔ ورنہ قرآن کریم پر حملہ کرنا ہے۔ آیئے قرآن کریم سے تحقیق کرلیں۔ کہ صرف مِنْ بعد کا استعمال بغیر قرینہ موت وغیرہ کے کیسے ہوتا ہے۔ سنیئے:۔

۱۔ بقرہ $\frac{1}{6}$	وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

اور جب ہم نے موسٰی علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو بعد اس (موسٰی علیہ السلام) کے اب فرمایئے موسٰی علیہ السلام جب پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس آیت میں من بعدہٖ کی ضمیر کا مرجع موسٰی علیہ السلام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ موسٰی علیہ السلام کے جبل طور پر جانے کے بعد قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اگر یہاں مِنْۢ بَعْدِهٖ سے مراد مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهٖ لیا جاوے۔ تو دوسری مقام کی آیت معاذ اللہ غلط ہوگی۔ جیساکہ ارشادِ الٰہی ہے۔

۲۔ طٰہٰ $\frac{16}{4}$	قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۝

اللہ تعالٰے نے فرمایا۔ کہ اے موسٰی علیہ السلام ہم نے آپ کی قوم کو آزمایا۔ آپ کے (پہاڑ پر جانے کے بعد) اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسٰی علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رجوع کیا غصہ اور افسوس کرتے ہوئے۔ پ

marfat.com

تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہؤا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد قوم کو سامری نے بچھڑا پرستی سے گمراہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چالیس دن پورا کرنے کے بعد پہاڑ سے جب واپس تشریف لائے تو بہت ناراض ہوئے۔ اور ان کے اس کفر پر افسوس بھی کیا۔

اب بتائیے۔ یہاں تو معاملہ صاف ہو گیا۔ کہ من بعد بھی صحیح ہؤا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ثابت نہ ہوئی۔ بلکہ من بعد ذھاب موسیٰ الی جبل طور ثابت ہو گیا۔ اور یہی تمہیں حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اشکال تھا۔ جس من بعد سے تم موت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرتے تھے۔ اب وہی من بعد یہاں بھی موجود۔ اور اس وقت موت موسیٰ علیہ السلام ثابت نہ ہوئی۔ لہٰذا وہاں یَأْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ میں بھی آپ کی آمد من بعد رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء ثابت ہو گیا اور سنیئے۔

۲۔ اعراف ۹/۱۸	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ۔ اور پکڑا قوم موسیٰ علیہ السلام نے بعد اس (موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ طور پر جانے) کے ان کے زیور سے بچھڑا جس کا ڈھانچہ اور

آواز تھا۔

ان تین آیات سے صاف واضح ہو گیا کہ من بعد سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد مراد نہیں۔ اور اگر اس مقام پر من بعد سے موسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس دلیل سے حیاتِ مسیح ثابت ہوئی۔ اور رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بلا تاویل و تحریف آیت فرقانی سے ثابت ہو گیا۔ اور حیات سماوی عیسیٰ علیہ السلام کے باوجود بھی من بعد درست ثابت ہؤا۔

جب اُن تین آیات میں باوجود حیات موسیٰ علیہ السلام کے من بعد صحیح ہو رہا ہے اگر حیاتِ موسیٰ علیہ السلام نہ تسلیم کی جائے تو قرآن کریم کا انکار لازم آتا ہے۔ ایسے ہی اگر یَأْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ میں بھی اگر من بعد رفع سماوی عیسیٰ علیہ السلام کے آمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہ مانا جائے تو قرآنی آیت کا انکار لازم آتا ہے جو حیاتِ مسیح صراحۃً ثابت کر رہی ہیں۔ اور انکار قدنی قرآن کریم کے مقابلہ میں اور

marfat.com

تاویل تدنی کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

(۴)۔ نور ۱۸/۸ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۔ اور جو لوگ تم سے بلوغت کو نہیں پہنچے۔ تین دفعہ اجازت لیں۔ نماز فجر سے پہلے۔ اور جب اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو۔ اور عشا کی نماز کے بعد تینوں اوقات تمہارے لئے پردے کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر بعد صلوٰۃ عشا سے مراد عشا کی قضا مراد لو۔ تو پھر قبل صلوٰۃ الفجر معاذ اللہ غلط ثابت ہوگا۔ لہٰذا صلوٰۃ العشا سے مراد ادائیگی نماز کے بعد ہی ہوگی اور نماز ادا کرنے سے فوت نہیں ہوتی۔ بلکہ قائم ہوتی ہے۔ قبل از ادائے صلوٰۃ عدم صلوٰۃ موجود اور بعد از ادائے صلوٰۃ اثبات صلوٰۃ اور موجودیت صلوٰۃ متحقق۔

اس استدلال سے تو مرزائیت کی جڑ اکھڑ گئی۔ من بعد سے بجائے موت کے مراد لینے کے اثبات متحقق ہوگیا۔

اے فرقہ مرزائیہ! اب تو حیاتِ مسیح علیہ السلام پر لبّیک کہدو۔ اور من بعد سے من بعد الموت کی تاویل کرنے والو وفاتِ مسیح علیہ السلام سے تائب ہو جاؤ۔ اور امید رکھتا ہوں کہ اگر تم نے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی۔ تو انشاء اللہ العزیز حیاتِ مسیح علیہ السلام کی سماوی زندگی کے قائل ہو کر اپنی عاقبت درست کر لوگے۔

(۵)۔ تحریم ۲۸/۱ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۔ اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کروگی (اے ازواج مطہرات مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالےٰ وہ آپ کا مولیٰ ہے اور جبریل علیہ السلام اور اولیائے کرام اور فرشتے اس کے بعد (یعنی ان کے غلبہ کے بعد) پشتیبان ہیں۔

اس آیت کریمہ میں بھی بَعْدَ ذٰلِكَ سے مراد مِنْ بَعْدِ الْمَوْت نہیں۔ بلکہ بعد از غلبہ مراد ہے۔ اگر موت مراد لی جاوے۔ تو معنی عبارت کے بھی اور نشاء الٰہی غلط ہو جائے گا۔

(۶)۔ قلم ۲۹/۱ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۔ تکبر ہے (ولید بن مغیرہ) بعد اس کے

marfat.com

حرامزادہ ہے۔

اس آیۂ کریمہ میں رب العزۃ نے ولید بن مغیرہ کی قباحتیں بیان فرماتے ہوئے فرمایا۔ کہ وہ متکبر بھی ہے۔ باوجودان تمام ماقبل کی مذکورہ قباحتوں کے بعدازاں وہ حرام زادہ بھی ہے۔ تو یہاں بھی من بعد الموت مراد لی جائے۔ تو بعدازمرگ حرامزادہ ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کیونکہ رب العزۃ نے ولید بن مغیرہ کی صفاتی قباحتوں کو ذکر کرتے ہوئے اس حقیقی اور ذاتی عیب کو بھی ظاہر فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ذلیل کیا ہے۔ جو مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مراد لینے سے مقصد ربانی ہی فوت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قباحت زندگی سے ہی متعلق ہے۔ نہ پس ازمرگ۔

بولو مرزائیو! کَذٰلِكَ اٰمَنَّا بِكَلَامِ اللّٰهِ۔

۷۔ انبیا ۱۷/۵	وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا) کہ قسم خدا کی میں ضرور تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا۔ بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔

اس آیۂ کریمہ میں بھی کفار کے پیٹھ پھیرنے کے بعد ثابت ہوا۔ الوبعد سے موت ثابت نہ ہوئی۔ یہاں اگر من بَعْدِ الْمَوْتِ مراد لیا جاوے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی گت بنانا فضول ثابت ہوگا۔ فتدبر وتفکر۔

(۸) لقمان ۲۱/۳	وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ۔ اور اگر زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر اس کے بعد ان کی سیاہی بن جاویں۔

خواہ ساتوں سمندر ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہونگے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزۃ نے فرمایا کہ اگر تمام درخت قلمیں بن جائیں۔ اور اس کے بعد سمندر سیاہی بن جائیں۔ تو اگر یہاں مِنْ بَعْدِہٖ سے مراد لو۔ کہ تمام قلموں کی فنا کے بعد سیاہی کا مطلب کیا ہوگا۔ تو من بعدہ کا مصداق غلط ہو جاوے گا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا۔ کہ قلموں کی موجودگی میں سیاہی بھی موجود الد من بعد کا مطلب بھی صحیح۔

مرزائیو! آمین کہدو۔

۹۔ احزاب ۲۲/۴	وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ

marfat.com

مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ اور (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں۔ بعد اس کے اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو بدلیں۔ اگرچہ آپ کو ان (دوسریوں) کا حُسن بھلا معلوم ہو۔ مگر جو لونڈی ہو۔ (وہ آپ کے لئے حلال ہے)۔

اس آیت کریمہ میں من بعد سے یہ مراد نہیں کہ ازواج مطہرات کی فوتیدگی کے بعد آپ کے لئے کوئی اور عورت حلال نہیں۔ بلکہ ان کی موجودگی میں ہی۔ اب کے بعد کوئی اور آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔

یہاں اگر ازواج مطہرات کی فوتیدگی کے بعد حکم امتناعی مراد لیا جاوے۔ تو ارشاد الٰہی کی نافرمانی لازم آئے گی۔

لہٰذا ثابت ہؤا۔ کہ من بعد کے معنی بَعْدَ الْمَوْت لینا اصولِ خداوندی کے ہی خلاف ہے۔

۱۰۔ جاثیہ ۲۵/۳	فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥ پس کون ہدایت کریگا۔ اس (گمراہ) کو بعد اللہ کے (گمراہ کرنے کے)۔

اے اُمّتِ قدنیہ کیوں؟ مِنْ بعد بغیر موت درست ہؤا یا نہ؟ انصاف کرو۔ اور من بعد کو من بَعْدِ الموت پر بلا قرینہ موت وغیرہ حمل کرنا قرآن کریم کو بگاڑنا ہے۔ اب یا تو من بعد کو یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی میں بھی من بعد موت عیسیٰ علیہ السلام مُراد لینا چھوڑ دو۔ اور حیاتِ عیسیٰ علیہ السّلام کے قائل ہو جاؤ۔ یا اس آیت میں بھی معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی موت کے بعد ترجمہ کرو۔

یہ ہے جناب تمہارے پاپائے قدنی کی قرآن دانی۔ جس کو قرآن کے مقابلہ میں مقدم کیے بیٹھے ہو۔

آؤ باز آجاؤ! اور اپنے ایمان کو درست کر لو اور یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی کے صحیح معنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی رفع کے بعد آمدِ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لو۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

"مرزائی"۔ آیاتِ مذکورہ بالا سے تو خداوند کریم کے فضل سے پوری تسلّی ہو گئی۔ باقی عرض ہے۔ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر تسلیم کی جاوے۔ تو بڑی خرابی لازم

marfat.com

آتی ہے۔ یکمل پاکٹ بک میں یہاں ایک سوال زائد ہے، جو ص۴۲۵ میں ملاحظہ ہو۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ نحل ع ۳۔

دوسری آیت۔ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ حج ع ۱۔

بعض تم سے وہ ہے۔ جو وفات دیا جاتا ہے۔ اور بعض تم سے وہ ہے جو رذیل ترین عمر (انتہائی بڑھاپا) کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جنکی وجہ سے وہ جاننے کے بعد نہ جاننے والا بن جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب بتاؤ۔ کہ اتنی لمبی عمر مقرر کرکے تو آپ ان کو رذیل عمر سے موصوف کرنا چاہتے ہیں۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب پھر تم دھو کے سے باز نہیں آتے۔ یہ تو عوام النّاس گنہگاروں اور کفار کی حالت کا ذکر ہے۔ انبیا کرام ہر بات میں عوام سے ممتاز ہوتے ہیں۔ بحسب ذات بھی اور عمر میں بھی۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام کے متعلق ربّ العزّۃ نے اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ فرمایا ہے۔ اللہ ہی چنتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو اور انسانوں سے کیا چننے اور برگزیدہ کرنے کے یہ معنی ہیں۔ کہ ان لوگوں کو بھی رذیل عمر عطا کرنا ہے۔ کیا انبیا علیہم السلام جن کی برگزیدگی خداوندکریم نے قرآن کریم میں بیان فرمادی۔ ان کی عمر کو بھی تم رذالت سے تصور کرتے ہو کچھ سوچ کر تو بات کیا کرو۔ پھر لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ کہ بڑھاپے میں وہ رذیل عمر والا بے علم ہوجاتا ہے۔ اس کو انبیا علیہم السلام پر چسپاں کرنا توہین نبوت ہے۔ شاید تم نے مرزا صاحب پر ہی انبیا علیہم السلام کو قیاس کرلیا ہو۔ کیونکہ وہ جیسے ضعف کی طرف گئے۔ علم مفقود ہوتا گیا۔ حالانکہ انبیاء عظام اس قانون سے ممتاز ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے۔ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پچھلا وقت پہلے سے بہتر ہے۔ معلوم ہؤا کہ پنجابی مثال (دستر یا بہتر یا گیا) جو مشہور ہے۔ یہ حالت خداوند کے نافرمانوں کی ہے۔ مومنین کی نہیں۔ کیونکہ مومنین کے اعمال صالحہ کی کثرت اس کی درازئ عمر سے انکی ترقی مراتب کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ آیت مذکورہ بالا نے واضح کردیا ہے۔ اور مرزائیت کے اعتراض کے پرخچے

marfat.com

اَوْلَادَ ہے۔ اگر مومنین انبیا علیہم السلام کو بھی کفار کے ساتھ شامل کر دو گے۔ تو بڑی مشکل بن جائے گی۔ کیونکہ پہلے اکثر انبیا علیہم السلام بڑے بڑے معمّر ہوئے اور اطلیب العمر بھی ہوئے۔ ان کو ارذل عمر کہنا ایمان کے خلاف ہے۔ سنیئے:۔

بدایہ والنہایہ ۱/۸۸۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ۹۴۰ سال تھی۔

بدایہ والنہایہ ۱/۹۹۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر ۳۸۰ سال تھی۔

بدایہ والنہایہ ۱/۱۲۰۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ۹۵۰ سال تھی۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِیْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِیْنَ عَامًا۔ عنکبوت ع ۲

بدایہ والنہایہ ۱/۱۷۵، طبقات ابن سعد ۱/۹ — حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۲۰۰ سال تھی۔

بدایہ والنہایہ ۱/۱۹۲، طبقات ابن سعد ۱/۱۲۳ — حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ۱۳۷ سال تھی۔

بدایہ والنہایہ ۱/۱۹۷۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ۱۸۰ سال تھی۔

بدایہ والنہایہ ۱/۲۲۰۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔

وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ

ثابت ہوا کہ بڑھاپے میں ارذل عمر ہونا اور بے علم ہونا یہ شانِ انبیا علیہم السلام نہیں اور دوسری بات یہ ہے۔ کہ رَبّ العزّت کا ومنکم یعنی من تبعیضیہ کا ذکر ظاہر کر رہا ہے۔ کہ بعض اغیار ارذل عمر ہیں۔ اپنے نہیں۔ جو انبیا علیہم السلام ہیں۔
تیسری بات یہ ہے۔ کہ جنات اور ملائکہ بھی بڑے بڑے معمّر ہیں۔ کیا ان کو بھی ارذل عمر اور بے علم کہو گے۔

مجاہِ مرزائیت کو ہٹا کر قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ تو رَبّ العزّت ہدایت دینگے۔

"مرزائی"۔ اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ۔ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلقت میں لوٹاتے ہیں۔ یعنی وہ جوانی کے بعد بڑھاپے سے ہوتا ہوا نادان بن جاتا ہے۔ کیا یہ قانون عیسیٰ علیہ السلام پر حاوی نہیں۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب تم نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اس کا جو تم نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یعنی لگا کر مطلب کو دوسری طرف کیوں لے جاتے ہو۔ جب تم نے خود آیت کا ترجمہ کیا۔ کہ رَبّ العزّت فرماتے ہیں۔ کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں؛

marfat.com

ہم اس کو خلقت میں الٹاتے ہیں۔ تو اس آیت سے تو تم خود جھوٹے ثابت ہوئے۔ کیونکہ تم پہلے کہہ چکے ہو۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر تو سب انسانوں سے زیادہ عمر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمادی۔ جس کو تم بھی تسلیم کر چکے ہو۔ اور قانون الٰہی بھی تم نے خود پڑھ دیا۔ کہ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں۔ اس کو خلقت میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس قانون سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا قانونِ الٰہی سے ثابت ہوگیا۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی۔ تو اس کو نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ یعنی خلقت میں دوبارہ نہ لوٹا دیں تو وعدہ الٰہیہ پورا نہ ہوگا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلقت انسانی میں لوٹ آنا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ خلقتِ انسانی میں ہیں۔ اس لئے خلقت انسانی میں آپ کا دوبارہ تشریف لانا اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوگیا۔ باقی رہا تمہارا کہنا نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ سے مراد یعنی جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کو چاہیئے تھا۔ کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ کی بجائے نُنَكِّسْهُ فِي الشَّيْبَةِ فرماتے۔ کہ ہم بڑھاپے کی طرف لوٹاتے ہیں۔ خداوند عالم الغیب ہے۔ اس کو علم تھا۔ کہ مرزائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ کا انکار کرنا ہے۔ اس واسطے اس نے مرزائیوں کا ناک کاٹ کر رکھ دیا۔ فرمایا وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جس کو ہم عمر دراز دیتے ہیں، اس کو ہم خلقت میں الٹاتے ہیں۔ یعنی جس خلقت سے آتا ہے اسی خلقت میں دوبارہ لے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے دونوں مسئلے حل ہوگئے رفع عیسیٰ علیہ السلام بھی اور نزول من السماء بھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کا اصل حقیقی نسبی چونکہ سماوی ہے۔ یعنی بغیر باپ کے محض عالم علوی کے دم سے قیام ہوا ہے۔ اس واسطے ان کا آسمان پر تشریف لے جانا بھی نُنَكِّسْهُ کی بنا پر ضروری تھا اور چونکہ ان کا مادری قیام شکم انسانی تھا۔ اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ کے قانون سے پھر دوبارہ خلقت انسانی میں لوٹنا ضروری ہے۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع إلى السماء اور نزول من السماء دونوں ثابت ہوگئے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں حالتوں کو تسلیم نہ کرے وہ اس آیت اور قانون کا منکر ہے۔

مرزائی:۔ اچھا بھائی تم نے تو مجھے ہی خوب سر کے بل گرایا۔ یہ تو میری سمجھ میں خوب آگیا

marfat.com

لیکن یہ بتاؤ۔ کہ قرآن مجید میں جو مذکور ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً۔ الخ (روم ۶)۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ضعف سے پیدا کیا۔ اور پھر کچھ عرصہ میں قوت عطا فرمائی۔ اور پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا بنایا۔

کیا عیسیٰ علیہ السلام اس بڑھاپے میں آکر بجائے خدمت خلق کے اپنی خدمت کرائیں گے

محمد عمر:- مرزائی صاحب کیسے سادہ لوح ہیں۔ جیسے کسی نے بہکا دیا۔ پھندے میں آگئے تمہیں تمہارے آقا نے جس کنوئیں میں گرایا۔ بغیر سوچے سمجھے گر گئے۔ اللہ تعالےٰ نے فرمایا ہے خَلَقَكُمْ اس سے مخاطبین جن وانس ہیں۔ کیا ان کو بڑھاپا اتنا کمزور کر دیتا ہے۔ کہ وہ خدمت خلق کے قابل ہو جاتا ہے۔ کبھی نہیں۔ اور سنیئے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تم نے دوسرے انسانوں جیسی سمجھی ہے۔ جب کہ ان کی پیدائش ہی باقی انسانوں سے ممتاز ہے یعنی نطفہ رجلی سے نہیں۔ تو ان کا وجود ضُعْفًا وَّشَیْبَةً سے بھی ممتاز ہے۔ چنانچہ اس کی تائید قرآن کریم نے بھی فرمائی ہے۔

بقرہ ۳/۳	وَاٰتَیْنَا عِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ وَاَیَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اور دیئے ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو واضح دلائل اور طاقت دی ہم نے رُوح القدس کے ساتھ۔
مائدہ ۷/۱۵	اِذْ اَیَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ جب طاقت دی ہم نے تجھ کو اے عیسیٰ علیہ السلام روح القدس کے ساتھ۔ کلام کرتا تھا لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں بھی۔

ان دونوں آیات میں رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت خصوصی کا ذکر فرمایا۔ کہ اے لوگو عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے لوگوں کی طرح کمزور نہ سمجھنا۔ بلکہ اس کو میں نے رُوْحِ الْقُدُس سے طاقت دی۔ اور پھر دوسری آیت میں ان کی طاقت کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کہ تم ان کی طاقت کو ممتاز کیوں نہیں سمجھتے۔ ان کی طاقت امتیازیہ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے۔ تو پہلے ان کی بچپن کی باتوں سے اندازہ لگا لو۔ کہ جب اصول الٰہیہ سے ہے۔ کہ بچہ بچپن میں بوجہ کمزوری کلام کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے جیسے قویٰ میں طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ بچہ باتیں کرنی

marfat.com

شروع کر دیتا ہے ۔ لیکن حضرت عیسٰی علیہ السلام کی طاقت روح القدس سے ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ۔

پہلی طاقت یہ ہے کہ ۔۔ پیدا ہوتے ہی کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے ۔ کہ جب پیدا ہوتے ہی قوۃ غذائیہ کی طاقت کے بغیر طاقت روح القدس سے کلام کر رہے ہیں ۔ تو معلوم ہوا ۔ کہ ادھیڑ عمر میں بھی آپ کو روح القدس کی طاقت باقی رہے گی ۔ جو ۔ دوسروں سے ممتاز ہوگی ۔ اس لئے رب العزت بھی عیسٰی علیہ السلام پر قیامت کو اپنا احسان جتائیں گے ۔ کہ میں نے تمہیں روح القدس سے طاقت دی ۔ جس کے سبب سے تم لوگوں سے بچپن اور ادھیڑ عمر میں یکساں کلام کرتے رہے ۔ اگر ضعف پیری آپ کو لاحق ہوتا تو آپ کے کلام میں بھی ضعف آنا چاہیئے تھا ۔ کیونکہ ضعف پیری کے باعث ہر عضو کمزور ہوتا ہے ۔ جیسا کہ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے ۔ تو آواز نازک ہوتا ہے ۔ جب گھنڈی پھوٹتی ہے ۔ تو جوانی کا زوردار آواز انسان کی جوانی پر دال ہوتا ہے ۔ جب بوڑھا ہوتا ہے ۔ تو آواز بھی اعضا کی طرح لرزنا شروع ہو جاتا ہے ۔ بوڑھے انسان کا کلام اس کے بڑھاپے کا ثبوت ہوتا ہے ۔

دوسرا بینا انسان بوڑھے کو اس کے سفید بال اور کمزوری جسم سے اس کی کمزوری کا اندازہ بدیہی طور پر لگا لیتا ہے ۔ لیکن نابینا انسان بوڑھے کے لرزیدہ آواز سے اُسکے بڑھاپے کا اندازہ لگا لیتا ہے ۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے بینا اور نابینا دونوں کو عیسٰی علیہ السلام کی طاقت روح القدس کا اندازہ ہو جائے ۔ فرمایا وَ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۔ اے عیسٰی (علیہ السلام) میں نے تجھے روح القدس سے ایسی طاقت بخشی ۔ کہ تیرے اعضا پر تو کیا بڑھاپے کا اثر ہونا تھا ۔ تیری آواز تک میں تو فرق نہ پڑا ۔ جیسا کہ تو بچپن میں بڑوں سے بلا دھڑک بات چیت کر لیتا تھا ۔ بچپن کی وجہ سے تیرے کلام میں دوسروں کی طرح کمزوری نہ تھی ۔ تو ادھیڑ عمر میں کیسے ہو سکتی ہے ۔

لہذا ثابت ہوا ۔ کہ مرزائی صاحب کی پیش کردہ آیت سے عیسٰی علیہ السلام کی ذات مذکورہ بالا فرمان الٰہی سے ممتاز ہیں ۔ اور ان کی طاقت کا ثبوت قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے ۔ اب اگر مرزائی انکار کرے تو منکرین کو سُنانا فرض ہے ۔ نہ منوانا ۔

marfat.com

باقی رہا فرمانِ الٰہی - وَاٰتَیْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ہم نے ایمانداروں کو طاقت دی۔ تو یہ طاقت وقتی ہے - آگے ذکر ہے عَلٰی عَدُوِّھِمْ اُن کے دشمنوں پر طاقت دی - یعنی دشمنوں پر غلبہ دیا - یہاں دشمن کے مقابلہ میں وقتی غلبے کا اظہار ہے - نہ کہ عمر کے کم وبیش ہونے کی طاقت مراد ہے - عیسٰی علیہ السلام کے متعلق تو طاقت عمر عیسٰی علیہ السلام کا ذکر ہے - اور دوسری بات یہ ہے - کہ یہاں رُوح القدس کی تائید کا ذکر نہیں - کیونکہ یہاں نطفہ انسانی سے متعلق ہیں - اور وہاں رُوح القدس اصلیت اور طاقت کا اظہار ہے - اور عمرِ مہد اور کہولت کا ذکر ہے - خداوند کریم تم کو ہدایت کی توفیق بخشے - اور اللہ تعالٰے نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دئے ہیں۔ فرمایا:-

فاطر ۲۲ ۲	وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِہٖۤ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ۝ اور نہ زیادہ عمر دیا جاتا ہے - کوئی عمر رسیدہ اور نہ کم کیا جاتا ہے - اس کی عمر سے مگر یہ لوحِ محفوظ میں ہے - بے شک یہ اللہ پر

آسان ہے۔

اے فرقہ مرزائیہ اُس لو اللہ تعالٰے نے فرمادیا کہ میں جس کو اتنی عمر دیتا ہوں - وہ لوحِ محفوظ میں پہلے لکھی ہوئی ہے - اور اگر کسی کی عمر کم کر دیتا ہوں - تو یہ بھی پہلے ہی درج ہوتا ہے - اور یہ عمر کا بڑھانا اور کم کرنا اللہ پر آسان ہے - کوئی مشکل امر نہیں - جیسا کہ تم نے سمجھا ہے - فَتَدَبَّرْ - وَمَا عَلَیْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ۔

"مرزائی" :- اللہ تعالٰے فرماتے ہیں - وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَیَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَیَمْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ (فرقان ع ۲) - ترجمہ:- ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے رسول نہیں بھیجے - مگر وہ کھانا کھایا کرتے تھے - اور بازاروں میں پھرا کرتے تھے۔

صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالٰے نے مِنْ قَبْلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رسولوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا - منجملہ ان میں سے ایک حضرت عیسٰی بھی ہیں - لہٰذا معلوم ہوا - کہ آپ بھی اس دارِ فانی سے رحلت فرما گئے ہیں - ش۳۱۶

"محمد عمر" :- مرزائی صاحب قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق بدلانا اچھا نہیں لیکن

marfat.com

تمہیں کیا۔ جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد صاحب کو قبول کرلیا۔ تو اب ڈر کس بات کا جو چاہے کرو۔ تمہارے کفارہ مرزا صاحب ہو چکے ہیں۔ (گرو جنہاندے ٹپنے چیلے جان شڑاپ) پنجابی مثال مشہور ہے۔ مرزا صاحب نے جب قرآن کریم کی تحریف سے کم نہیں اٹھا رکھی۔ تو تم بھلا کب فرق رکھتے ہو۔ جب اسلام کی لڑی ٹوٹ جائے۔ تو اس فرقہ کا کوئی دانہ بھی بکھرنے سے رُکتا نہیں۔ خداوند آپ کو نیک ہدایت کی توفیق بخشے۔ بھلا یہ تو بتائیے۔ کہ کجا حیات مسیح کا مسئلہ اور کجا انبیا علیہم السلام کے کھانے کا مسئلہ۔ اس آیتِ کریمہ میں تو اللہ رب العزۃ نے تمام انبیا علیہم السلام کے کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ وہ تمام کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور بازاروں میں بھی پھرا کرتے تھے۔ یعنی وہ ان لوازمات انسانی سے مبرا نہ تھے۔ تو انبیا علیہم السلام کی ذاتیات کے لوازمات کا ذکر ہے۔ نہ موت کا۔ اور اس آیت کریمہ میں ان کی ذات سے الوہیت کے خلاف ثابت کرنا ہے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ تمام مرسلین کھا چکے اور چل چکے۔ تو پہلی بات تو تمہاری زبان سے کذب مرزا صاحب کی پختہ دلیل بن گئی۔ کہ جب تمام رسل کھاتے تھے اور چلتے تھے۔ تو تمہارے مرزا صاحب کا دعوای صراحۃً تمہارے فتوے کی رُو سے باطل ثابت ہوا۔ مرزائیت کا تو خاتمہ ہو گیا۔ جن کا پیشوا کاذب ان کے چیلوں کا کیا اعتبار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کی شرط اور بازار میں چلنے کو اکٹھا بیان فرمایا۔ کہ کھانا ارضی انسان کے تب لوازمات سے ہوسکتا ہے۔ جب زمین کے بازاروں وغیرہ کی نوت مشی رکھتا ہو۔ جب زمین پر رہے نہیں۔ زمین کے نیچے چلا جاوے۔ تب غذا بھی بدل گئی۔ جب آیۃ کریمہ سے مَشی فِی الاَسوَاق سے رَفع اِلَی السَّماء قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ تو غذا ارضی بھی ساتھ ہی مفقود۔ جب تشریف لا دیں گے۔ تب زمین کا کھانا کھا دیں گے۔

مرزائی صاحب! ایسی من گھڑت باتوں سے قرآنی آیات کو ہیرا پھیری کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ فقیر نے قبل ازیں تمہاری پیش کردہ آیات کے ساتھ ساتھ دیگر دلائل مفصلہ سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کر دیا۔ اب علیحدہ مجملاً عرض کرتا ہوں، سنیئے:۔

دلائل حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام

دلیل (۱)۔ آل عمران ۳/۵ | وَاِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰۤی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وَ

marfat.com

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

اور جب فرمایا اللہ تعالےٰ نے اے عیسیٰ (علیہ السلام) بے شک میں پورا اجر دینے والا ہوں۔ اور تمہیں اپنی طرف اٹھانیوالا ہوں۔ اور کفار سے تمہیں پاک کرنیوالا ہوں اور تیرے متبعین کو قیامت تک کفار پر فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر تم تمام کا مرجع میری طرف ہوگا۔ میں فیصلہ کرونگا تمہارے درمیان (حیاتِ مسیح میں) جو تم اختلاف کرتے ہو۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو عذاب کرونگا میں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب۔ اور نہیں ہے انکا کوئی مددگار اور لیکن جو لوگ ایمان لائے۔ اور انہوں نے عمل صالح کئے تو اللہ اُن کا اَجر اُنہیں پورا دیگا۔ اور اللہ تعالےٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ سے ربّ العزۃ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سات احکام جاری کر کے خطاب فرمایا۔ جن سے تین امورات سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق انعامات الٰہیہ تھے۔ اور چار امورات جو ان کی کامیابی کا نتیجہ مرتب ہونا تھا۔ ان کا ذکر فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتیازی پیدائش کے علاوہ اُن کی زندگی بھی ممتاز بنادی۔ کیونکہ وہ اپنی عبودیت سے متجاوز نہیں ہوئے۔ اور بوقتِ مصیبت خاص اپنے معبود حقیقی سے ملتجی ہوتے ہیں۔ تو ربّ العزۃ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بوقتِ نجات از دشمنان اپنے انعامات کی شرح فرماتے ہیں۔ فرمایا:۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى

جب اللہ تعالےٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام

(۱)۔ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ۔ (تم ان کے مصائب سے خائف نہ ہوئے اور مجھ سے فریاد کی تو) بے شک میں (تیرے اس صبر کا) پورا اجر دینے والا ہوں اور تیری اس نیکی کو دنیا میں بھی ضائع نہ کرونگا۔ کیونکہ قانون ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

marfat.com

بے شک اللہ تعالےٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالےٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرماتے ہوئے ان پر جو انعامات بیان کرنے مقصود تھے بوقت فریاد اپنے پہلے انعام کا ذکر فرمایا۔ اور یہ پہلی دلیل ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیونکہ اگر ان کو مردہ کرکے اجر کا ذکر کیا جاوے۔ تو معاذ اللہ خداوند کریم پر اعتراض لازم آئے گا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مبشر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ بوقت مصیبت پکارتے ہیں۔ تو رب تعالےٰ ان کی نہیں سنتے۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ تجھے مار کر اجر دونگا۔ کتنی بری بات ثابت ہوگی۔ معاذ اللہ ثُمَّ مَعَاذَ اللہ۔ تو اللہ تعالےٰ نے فرمایا۔ کہ میں تجھے پورا اجر دینے والا ہوں۔ (تم فکر مت کرو) تو سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ یا اللہ تو کیسے اجر دیگا۔ اسی زندگی میں یا مار کر تو اللہ تعالےٰ نے اس شبہ کو دور کیا اور فرمایا۔

(۲)۔ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ (مار کر نہیں بلکہ) تمہیں اپنی طرف (آسمان کی طرف) اٹھانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں خطاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ جب خطاب الٰہی عیسیٰ علیہ السلام روح مع جسم کو ہو رہا ہے۔ تو رفع روح مع جسم کا ہی تسلیم کیا جاوے گا۔ ورنہ خطاب خداوندی معاذ اللہ غلط ثابت ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ اس مقام پر کفار کے ہاتھوں بریت مقصود ہے۔ نہ موت۔ اگر موت ہی مقصود تھا۔ تو موت کے گھاٹ تو پہلے ہی کفار اتار رہے ہیں۔ ان کو فریاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کی بات کونسی قبول ہوئی

تیسری وجہ یہ ہے۔ کہ رفع کا مفعول درجہ یا مقام مذکور نہیں۔ بلکہ ذات عیسیٰ علیہ السلام روح مع جسم کے ہی مفعول بنایا جا رہا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے۔ کہ رب العزۃ نے اور کسی نبی کی وفات پر رفع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ لہذا رافعك الی سے مراد رفع الی السماء ہی ہوسکتا ہے۔ رب العزۃ کی ذات ہر شئی کو محیط ہے۔ لیکن رفع کا استعمال منسوب غلط وبلندی پر ہی ہوسکتا ہے۔ اور بلند آسمان ہی ہے جو میں قیام محال لہذا آسمان پر ہی رفع ہوسکتا ہے۔ اگر نیچے کو قبر میں ہوتا تو لفظ هُبُوط کا استعمال ہوتا۔ اور اسوقت جھگڑا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت وحیات کا ہے۔ یہود مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اور خداوند تعالےٰ نے چھڑا لینے کا وعدہ کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی کے طلب گار

marfat.com

تھے۔ اور زندگی کا ہی سوال کیا۔ ایلی ایلی لما سبقتنی اور ان کی دعا کی اجابت تب ہی درست ہو سکتی ہے۔ جب روح مع جسم کو یہود کے مظالم سے بچایا جاتا اور اگر معاذ اللہ عیسٰی علیہ السلام اپنی موت سے مرتے تو کیا یہود و نصاریٰ جوان کے مجسمے بنا کر ان کو معبود گردانتے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ ان کی قبر کو نہ پوجنے لگ جاتے اور خبر نہیں کیا کیا سونے اور چاندی اور زمرد دیا قوت جواہرات سے کیوں نہ سجاتے۔ اور یہود کی ناکامی بھی تب ہی ہو سکتی تھی۔ جب عیسٰی علیہ السلام کو روح مع جسم ہی رَبّ العزّۃ اٹھا لیتے۔ اور اگر زمین میں چھپا لیتے تو یہ بھی شانِ نبوی کے خلاف تھا کیونکہ یہ سزا اور عذاب اللہ تعالےٰ نے قارون کو دیا ہوا ہے۔ جو قیامت تک زمین بھی دھنسا چلا جائے گا۔ تو بجائے فریاد رسی کے اُلٹا عذابِ الٰہی ثابت ہوتا اور اگر پہاڑ میں چھپا لیتے تو یہ درجہ تو رَبّ العزّۃ نے اصحاب کہف کو عطا کیا ہوا ہے تو وہ ولی اور نبی کے پناہ دینے میں کوئی امتیازی صورت نہ رہ جاتی اور اگر زمین پر ہی ان کی نظروں سے اوجھل کر لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت محال تھی۔ تو رَبّ العزّۃ جل وعلا نے ان تمام حکمتوں کی بنا پر عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر پناہ دینا مناسب سمجھا۔ تو فرمایا کہ اے عیسٰی (علیہ السلام) گھبراؤ مت۔ اور اپنی زندگی سے ناامید نہ ہو۔ میں تجھے اپنی طرف اُٹھا لوں گا۔ ان یہود کی کیا طاقت ہے کہ تجھے قابو کر سکیں۔ تو میرا فرمانبردار بندہ نبی سائل۔ تو میں جو نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ ہوں۔ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ میری شان ہے۔ میں تیری دعا کو ایسا قبول کروں گا اور ایسی جگہ عطا کروں گا۔ جو اور کسی کو عطا نہ کی ہوگی۔ فرمایا رَافِعُكَ اِلَیَّ۔

"مرزائی"۔ تم نے تو مولوی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عیسٰی علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ کیا غضب کر رہے ہو۔ کچھ تو سوچو۔

"محمد عمر"۔ نہیں بھائی تمہاری عقل میں فرق ہے۔ کیا سلیمان علیہ السلام نے خداوند کریم سے دُعا نہیں فرمائی۔

ص وَهَبْ لِیْ مُلْكًا لَّا یَنْبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔
۲۳/۲ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیْحَ تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖ کیا موسٰی علیہ السلام نے جو دعا فرمائی

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی اَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَۃً مِّنْ لِّسَانِی یَفْقَهُوْا قَوْلِی وَاجْعَلْ لِّی وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِی هَارُوْنَ اَخِی اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِی وَاَشْرِکْهُ فِیْ اَمْرِی .... قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَکَ یَامُوْسٰی۔ تو رب العزۃ کی طرف سے جواب ملا۔ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَکَ یٰمُوْسٰی۔ اے موسیٰ علیہ السلام تیرا سوال قبول کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی تب تھی۔ کہ آپ نے رفع سماوی طلب کی ہو۔ یا زیادتی عمر طلب فرمائی ہو۔ اور رب العزۃ نے قبول نہ فرمایا ہو۔ تب زیادتی ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اَللّٰهُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی کی دعا فرمائی۔ درازیٔ عمر کی التجا نہیں کی۔ دنیا و عقبیٰ کیلئے دعا فرمائی۔ تو یہ کہ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ۝ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر۔ سو دعا قبول ہوئی اور حکم ہوا۔ کہ تجھے اس مقام پر علم سکھاؤں گا۔ جہاں ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہاں کا واقع فرمایا۔ عَلَّمَهٗ شَدِیْدُ الْقُوٰی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی۔ اور دعا قبول فرمائی۔ جو اور کسی کو وہ حاصل نہیں۔ اور نہ کسی کے دماغ میں یہ خبر آئی۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کی التجا فرمائی۔ تو مولائے ذو الجلال نے زندگی کو بحال رکھنے کیلئے نرالا مقام عطا فرمایا اور مُتَوَفِّیْکَ کی تفصیل دوسرے انعام وَرَافِعُکَ سے فرمائی تو یہ دوسرا انعام عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی کی دلیل ہے۔ جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جس کے تم مرزائیہ منکر ہو۔ اور ہیرا پھیری سے معنی الٹے ہو۔ اب اگر رَفَعَ اِلَی السَّمَاءِ نہ ہوتا۔ بلکہ اپنی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتے۔ تو معاذ اللہ یہود نبی اللہ کی تطہیر جسمانی جانتے نہ تھے۔ حلال و حرام سے بے خبر تھے۔ تو آپ کی جسمانی حالت کو خراب کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رَافِعُکَ اِلَیَّ کے تشریح فرمادی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے تیسری دلیل ہے۔ فرمایا۔

(۳)۔ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا میں تمہیں کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس میں رب العزۃ نے وَمُطَهِّرُکَ میں کَ خطاب کا ذکر کر کے مرزائیت کے عقیدہ کی جڑ کاٹ دی ہے۔ کہ میں تمہیں روح مع جسم کو کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور تطہیر ذاتی کا موجود فی الخارج ہونا۔ تب ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ جب روح مع الجسم ہی اٹھا کر کفار کے جال سے خداوند محفوظ فرمالیں۔ ورنہ تطہیر مطلق کے وعدہ سے تطہیر کلی

marfat.com

کا مضمون صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور کفار سے تطہیر کو مقید کرنا یہ ثابت کرتا ہے۔ کہ محض روحانی تطہیر مراد نہیں۔ کیونکہ رب العزت نبوت بعد میں عطا فرماتے ہیں۔ تطہیر پہلے کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیا کرام کی ذات مطہرہ ہوتی ہے۔ اس میں شک ہی نہیں۔ تو مطہرک کے ساتھ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار سے نجات کلی روح مع الجسم کیلئے پکا ثبوت ہے۔ ورنہ تطہیر من الکفار کی تکذیب ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے عیسیٰ علیہ السلام کی مطلوبہ دعا ہی پایۂ تکمیل تک نہ ثابت ہو سکے گی، یہ آیت کریمہ حیات مسیح علیہ السلام کی تیسری دلیل ہے۔ جو کفار سے اللہ کریم نے پاک کر کے آسمان پر جگہ عطا فرمائی ہے۔

(۴)۔ رب العزت نے جب حیوٰۃ عیسیٰ علیہ السلام سے جو مراتب متعلق تھے۔ ارشاد فرمادیئے۔ تو ان عطا کردہ مراتب سے جو نتیجہ مرتب ہونا تھا۔ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ تو تمہارے جانی دشمن ہیں۔ تو بعد از نزول من السماء جو شخص تمہاری کمان میں اتباع کریگا۔ ان کے لئے بھی میرا انعام خاص ہوگا۔ فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ۔ اور جو لوگ تیرے متبع ہونگے۔ ان کو قیامت تک کفار پر فوقیت دینے والا ہوں۔

اور یہ انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کیوں نہ نصیب ہوا؟ چونکہ اُن کی امت نے ان کو ذلت کی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جو کہ سخت مجرموں کو سزا کے طور پر دی جاتی ہے۔ اور اگر بقول مرزائیہ ان کو ہی غلبہ ہوتا تو معاذ اللہ خداوند کریم پر بے انصافی کا دھبہ آتا۔ کہ ان پر لَقَدْ کَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ۔ اور صلیب عیسوی کے باعث سے فتوای کفر چسپاں فرمایا۔ اور پھر خداوند ان کو بقول مرزائیہ قیامت تک سلطنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ یہ ہے۔ فرقہ مرزائیہ کے نزدیک سلطنت جس کا مداح آج مرزائی ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ سے مراد گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ نے مدعیان عیسویت پر فتوای کفر ثبت فرمایا ہے۔ اور متبعین وہ کہلا سکتے ہیں۔ جو ان کو ابن اللہ نہ سمجھیں۔ بلکہ نبی اللہ ہونیکا عقیدہ رکھیں اور ان کے نبی اللہ ہونے کا عقیدہ سوائے امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں رکھتا۔ تو خداوند کریم کا فرمانا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ

marfat.com

نوق الذین کفروا الی یوم القیمۃ ؁ وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوسکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتبعوک فرمانا کہ جو تیری اتباع کریگا یعنی تیری کمان میں تیرا کہا مانے گا اور وہ مسیحی یا امتی نہ ہوگا۔ امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہوگی۔ لیکن کمان عیسٰی علیہ السلام میں مؤمنین کا غلبہ تمام کفار پر ہوگا۔ اب خداوند کریم نے ان وعدوں کو کیسے پورا فرمانا ہے۔ اور متبعین عیسٰی علیہ السلام کا اس وقت دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں۔ اگر ہے تو فرقہ مرزائیہ ثابت کریں۔ امت عیسوی تو اس وقت ختم ہے۔ تو معلوم ہوا۔ کہ اب اس قوم کو جو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تائب ہو رجوع الی اللہ نہ ہوئے اور کفر پر مصر رہے۔ قرب قیامت حضرت عیسٰی علیہ السلام کی تلوار امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انکو درست کرے گی۔

اب اے فرقہ مرزائیہ فقیر عرض کرتا ہے۔ کہ عیسٰی علیہ السلام مبشر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کی رسالت کے بعد زمانہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسالت اور سلطنت بھی آپ کی ہی ہے۔ اور حکم زبردست جاری ہے۔ ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ؁ اور حضرت عیسٰی علیہ السلام سے بھی خداوند کریم کا وعدہ ہے۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔

اب اے مرزائیو! ان دونوں وعدوں کی تطبیق تو ذرا بیان کرو۔ وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارۃ۔ اعدت للکافرین ؁ آپ نے فقیر عرض کرتا ہے۔

خداوند تعالیٰ کا وعدہ الی یوم القیامۃ کا عیسٰی علیہ السلام سے اسی صورت میں پورا ہوسکتا ہے۔ جب شروع آیت رافعک کے معنی رفع الی السماء کئے جائیں۔ اور ان کا نزول من السماء الی الارض بقرب قیامت مطابق ارشاد الٰہی و فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا جائے۔ اور پھر ان کی اتباع میں جو امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ان کے متبعین کو قیامت تک جو کچھ زمانہ بھی دنیا کا باقی ہوگا۔ کفار پر غلبہ دیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی مذکور ہے۔

marfat.com

وَعِصَابَةٌ النَّبِیُّ تَکُوْنُ مَعَ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ۔ ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گا۔ (نسائی شریف ج۲)۔

اس وقت قرب قیامت اس انعامی وعدے کو پورا فرمائیں گے۔

اور تم مرزائی کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مطیعین کا غلبہ کب ہوا؟ جب کوئی ثبوت نہیں اور بفرمان الٰہی ہونا ضروری ہے۔ تو رب العزۃ نے اس وعدہ کو ان کے نزول من السماء کے بعد وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کو ضروری پورا کرنا ہے۔ اور اس فوقیت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی اتباع میں یعنی متبعین مومنین کی کمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوگی۔ تو جنگ میں فوقیت حاصل ہوگی۔ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سے جنگ عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ فوقیت کا حصول کفار کے مقابلہ میں تب ہی ہو گا۔ جب جنگ کا اثبات ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تلوار سے جہاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ثابت ہے۔ جو انشاء اللہ العزیز عنقریب ذکر آئے گا۔ کیا یہ حدیث اسی جگہ قرآنی کا ترجمہ نہیں؟ نبی کریمؐ کے ترجمہ کو چھوڑ کر مرزا صاحب کی تاویل کو کیسے تسلیم کریں۔ اور وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اب ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ کہ جب تسلیم کیا جاوے۔ کہ آخر قرب قیامت مومنین اور کفار میں جنگ ہو۔ اور اس جنگ کے زندہ کمان دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو ان کی اتباع اور کمان میں مومنین کو فوقیت حاصل ہو اور کفار کو شکست عظیم ہو۔ پھر یہ وعدہ اور رب العزۃ کا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جانے کی حکمت کا ظہور اب معلوم ہو رہا ہے۔ کہ اس وقت کفار اتنی بلندی میں پرواز کر رہے ہے۔ کہ دماغ اس کے سمجھنے میں متحیر ہے۔ اور اتنی طاقتور قوم جو لکھوکھا ہوائی جہازوں سے دشمن پر چھا جاتے ہیں۔ انسے مقابلہ کرنا محال ہو جاتا ہے۔ خداوند جل وعلانے طبقہ ہوا سے بالا آسمان تک کی پرواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تاکہ ایسی طاقتور قوم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کا نمونہ کر چکے ہیں۔ تو وہ اب اتنی زبردست طاقت میں کب کمی کریں گے۔ کہ میرا نبی کہیں مغلوب نہ ہو جائے۔ اور ان کفار کے ہوائی جہازوں والا ناز عیسیٰ علیہ السلام کی خاص شکل میں جو آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے نزول

marfat.com

نرم ٹینگے، توڑینگے، تاکہ ان کی ہوائی طاقت پر غالب آجائیں۔ اور ان کے کفر کا قلع قمع کریں۔ اور اس عظیم الشان واقعہ کی فتح کو رب العزۃ نے اپنے کلام وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔ سے بیان فرمایا۔ اور اس وعدہ کو علیٰ رغم انف مرزائیت ضرور پورا کر کے چھوڑینگے ۔ یہ ہے چوتھی دلیل حیات سماوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بدلالت التزامی ثابت ہوگئی ۔

(۵) ۔ اور ارشاد الٰہی ہوا ۔ کہ جب تمہارا غلبہ قیامت تک بعیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا ۔ تو پھر قیامت آئے گی ۔ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر تم تمام کا مرجع میری طرف ہوگا ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزۃ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ۔ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تمہارا بھی اور تمہارے متبعین کا بھی تمام کا مرجع میری طرف ہوگا ۔ اور لفظ ثُمَّ نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ کی معیت میں بمعہ ان کے متبعین غلبہ تسلط کے بعد خدا کی طرف سب کا مرجع ہوگا ۔ اور ان کی معیت میں سب کفار تثلیث پرستی چھوڑ کر خدا پرست ہوجائیں گے ۔ اور ضمیر کُمْ کے خطاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کردیا ۔ ورنہ کُمْ کی ضمیر کا خطاب صحیح نہ ہوگا ۔ جو اہل علم کے فہم سے بعید نہیں ۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہ حین حیات خطاب ہو رہا ہے ۔ اور بہ حین حیات ہی اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ خطاب ہے ۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے ۔ یہ ہے پانچویں دلیل اس آیت کریمہ کے جزو کی جو ماقبل بیان ہوچکی ہے ۔ اور ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ سے یہ یہود کو نصیحت فرمائی ۔ کہ اے تثلیثیو ، جب تم نے نزول عیسوی سے صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر میرے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے ۔ پھر آخر جب میری طرف تمہارا مرجع ہے ۔ تو بغیر عتاب ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے آتے ۔ اور پھر فرمایا فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ تو تمہارا فیصلہ کروں گا ۔ میں تمہارے درمیان جو تم حیات مسیح میں اختلاف کر رہے ہو ۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حیات مسیح علیہ السلام کے منکرین کے واسطے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر چھٹی دلیل مسکتہ ارشاد فرمائی ۔ کہ اے مرزائیو تم سے پہلے تثلیثی مشرک کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل کیا ۔ پھر زندہ ہو کر آسمان

پر گئے۔ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ وہ حضرت عیسٰی علیہ السلام پر قادر نہیں ہو سکے۔ ان کے صلیب پر لٹکانے سے پہلے ہی میں نے اس کو آسمان پر اٹھا کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اور جب تمہارا زمانہ آیا۔ تو تم نے بھی فرمان و ندرت خداوندی کو ٹھکراتے ہوئے عیسٰی علیہ السلام کو فوت شدہ تصور کر لیا۔ اور جب تم نے ہر آیت رفع و حیات سماوی عیسوی کی تاویلیں کر دیں اور تحریف سے کام لیا۔ اور انکار پر ہی مصر رہے۔ تو ارشاد فرمایا۔ کہ اب میں تمہارے جھگڑے کا آخری فیصلہ مجسمہ دلیل حضرت عیسٰی علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرما کر ہی کروں گا۔ اور تمہارے دجل و فریب کو میرا اصلی مجسمہ فیصلہ ہی پامال اور جھوٹا کرے گا۔ یہ ہے منکرین حیات مسیح علیہ السلام کے واسطے خدائی فیصلہ۔ جس کو مرزائی کچھ کر اغماض سے کام لے رہے ہیں۔ اور حیات عیسٰی علیہ السلام میں طرح طرح کی حجت کا ذبہ حیلہ سے مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں۔ اور خداوند رب العزت نے جب حضرت عیسٰی علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرما دیا۔ تو بتاؤ مرزائیو! تمہارے پلے کیا رہیگا؟ خاک۔ جعلی تھانیدار تب تک ہی عوام کالانعام کو لوٹتا رہتا ہے۔ جب تک اصلی تھانیدار کے دورے کا موقعہ نہ آئے۔ اور اصلی تھانیدار جب کسی جگہ آجا تو جعلی تھانیدار یا تو فراری ہو جاتا ہے۔ اور اس کو گرفتاری وارنٹوں سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یا موقعہ پر پکڑا جاتا ہے۔ اور اس کو جیل میں لیجایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اصلی و حقیقی عیسٰی علیہ السلام آسمان سے تشریف لا دیں گے۔ تو تم موقع پر ہی پکڑے گئے۔ تو بتاؤ کہ موقعہ پر گرفتار ہونے والے کی سزا میں کیا تردد ہوتا ہے۔ فافھم۔

اور اگر کسی کو حیاتِ عیسٰی علیہ السلام میں تردد ہو۔ تو وہ ان مذکورہ بالا ستہ دلائل خداوندی سے اپنا عقیدہ صحیح کرلے۔ اور اگر ان ادلہ قرآنیہ سے بھی کسی کا شک دور نہ ہو۔ اور حیاتِ سماوی عیسٰی علیہ السلام کا قائل نہ ہو، تو ان کے عتاب کے واسطے آیات العزۃ نے آگے

(۷)۔ منکرین کے واسطے ارشاد فرمایا:۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَاُعَذِّبُھُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ وَمَا لَھُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ۝ (لیکن جن لوگوں نے

maktabat.com

رحیات مسیح) کا انکار کیا۔ تو عذاب کروں گا میں ان کو دنیا و عقبیٰ میں سخت عذاب۔ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا)۔

اللہ رب العزۃ نے جب تین دلائل بدلالۃ مطابقی اور دو دلیلیں بدلائل تضمنی اور ایک دلیل بدلالت التزامی ثابت فرمائے۔ جو بلا طنزہ ثابت ہوگئیں۔ تو بعد از دلائل ثلاثہ ان دلائل مثبتہ کے منکرین کو سزا اور مومنین کو جزا کا حکم بھی ساتھ ہی جاری فرما دیا تاکہ سامعین کو معلوم ہو جائے کہ یہ معاملہ فیصلہ شدہ ہے۔ اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا، اے منکرین حیات مسیح علیہ السلام! اگر تم نے میرے دلائل

(۱)۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پورا اجر دینا۔

(۲)۔ ان کا آسمان پر بجسد عنصری اٹھایا جانا۔

(۳)۔ ان کو قبل از دار کفار کے پھندے سے بجسدہٖ بچالینا۔

(۴)۔ قرب قیامت ان کی کمان میں ان کی صحیح متبع فوج محمدیہ کا کفار پر غلبہ پانا۔

(۵)۔ اور بعد از غلبہ سب کا خدا پرست بن جانے کا انکار کیا۔ تو یاد رکھو۔ تمہیں دنیا و عقبیٰ میں سخت عذاب کروں گا۔ پھر میرے عذاب سے تمہیں چھوڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ (خواہ مرزا صاحب ہی کیوں نہ ہوں)۔ پھر منکرین کی سزا دلے حکم سنانے کے بعد حیات مسیح کے ادلّہ پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائی فرمایا۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَیُوَفِّیْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیْنَ ۝ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحین کئے۔ تو ان کو خداوند ان کا ثواب پورا دے گا۔ اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا۔ کہ جو لوگ حیات مسیح کے ان ادلّہ مذکورہ بالا پر ایمان لے آئے۔ اور وفات مسیح اور مصلوب مسیح کا عقیدہ ترک کر دیا اور پھر زر وزن و زمین کی لالچ سے اپنے ایمان کو بچالیا۔ اور اعمال صالحین کئے تو ان کی اس نیکی کا ثواب بھی ان کا رب ان کو پورا دیگا۔ اور اگر اس سزا و جزا کو سن کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔ تو حکم صادر ہوا کہ وہ ظالم ہے

marfat.com

وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیْنَ ہ اور اللہ تعالےٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

اے امرت قدنیہ! اگر تم عذاب شدید سے نجات چاہتے ہو۔ تو رفع وحیاۃ معادی عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہو جاؤ۔ تاکہ قرآن کریم پر تمہارا ایمان درست ہو جائے۔ ورنہ تمہارے لئے عذاب شدید الٰہی قریب ہے۔ جس سے تمہیں بچانے والا تمہاری جماعت کا کوئی طاقت نہ رکھے گا۔ اور پھر پچھتانا کام نہ دے گا۔ وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنُ ہ

دلیل (۲) نساء ۶/۲۲ — وَقَوْلِھِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُوْلَ اللّٰہِ وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِّہَ لَھُمْ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اخْتَلَفُوْا فِیْہِ لَفِیْ شَکٍّ مِّنْہُ مَا لَھُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْہُ یَقِیْنًا بَلْ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ وَکَانَ اللّٰہُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا ہ اور ان کے اس قول کے سبب سے (گرفتار عذاب کیا) کہ ہم نے رسول اللہ مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ صلیب چڑھایا۔ اور لیکن ان کو شبہ ڈالا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اختلاف کیا۔ ان کے متعلق صرف شک میں ہیں۔ سوائے خیالی اتباع کے۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی علم نہیں۔ اور یقینی بات ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ (اور ایسا کرنے میں) اللہ تعالےٰ بڑی حکمت والا ہے۔

مَوْلَائے ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام کو علم تھا۔ کہ فرقۂ مرزائیہ نے حیات و رفع عیسیٰ علیہ السلام اِلَی السَّمَاءِ کے متعلق جھگڑا کرنا ہے۔ تو ربّ العزۃ نے ایسی آیت بیان فرمائی۔ کہ جس میں تین امورات کو واضح اور یقینی طور پر دو بارہ ارشاد فرمایا۔

(۱)۔ کفار یہود کا کہنا غلط ہے۔ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ یہ ان کو ناواقفی کی بنا پر شک ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے شبیہ عیسیٰ علیہ السلام پیش کیا گیا۔ جس کو انہوں نے صلیب پر چڑھایا۔

سوال یہ ہوتا تھا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل صلیب نہ ہوئے تو پھر زندہ ہیں؟

marfat.com

یا اپنی موت مرچکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔
(۲) ۔ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اُٹھالیا ہے۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوچکا ہوتا۔ تو رب العزۃ فرما دیتے۔ بَلْ اَمَاتَهُ اللّٰهُ بل اللہ نے اس کو (اپنی موت) مارا ہے۔ جب بجائے اَمَاتَهُ اللّٰهُ کے رَّفَعَهُ اللّٰهُ فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سماوی ثابت ہوگئی۔
(۳) ۔ اور وفاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے قائلین کو جہالت کا خطاب دیا۔ مَنِ اتَّبَعَ هَوٰاهُ سے نوازا۔ پھر بھی مرزائیوں کا حیات و رفع عیسوی الی السّماء پر ایمان درست نہ ہو۔ تو اُن سے خدا سمجھے۔ پھر ارشادِ الٰہی ہو۔ کہ تم بیچارے منکرین اس حکمت رفع الی السّماء کو کیا سمجھو۔ فرمایا وَ کَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔

"مرزائی"۔ وَ لٰکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ سے مثیلِ مسیح ثابت ہوگا۔

"**محمد عمر**"۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ! مرزائیوں سے تو میرے خیال میں آریہ عربی کچھ اچھی سمجھتے ہیں۔ شُبِّہَ صیغۂ ماضی ہے۔ جو گذشتہ سے متعلق ہے۔ جب یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ تو ربّ العزۃ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اُٹھالیا۔ اور جو اندر لینے گیا تھا۔ اس کو ان کا شبہ بنا دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت اس کو عطا فرما دی۔ تو یہود نامسعود نے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس شبُہ کو اسی وقت دار پر لٹکا دیا۔ تو یہ زمانہ ماضیہ کا ذکر ہے۔ نہ آئندہ کا۔ اور اس کو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دی۔ اور مرزا صاحب نے مثیل ہونے کا خود دعویٰ کیا۔ ورنہ ذرا شکل کے عنوانات کا تقابل کرو۔ تو تباین ذاتی بیّن ہے۔ اور اگر تم نے ضرور ہی مرزا صاحب کو شبیہ بنانا ہے۔ تو شبیہ کو صلیب پر لٹکانے کی سزا اس جرم پر دی گئی تھی۔ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں مرزا غلام احمد صاحب نے

marfat.com

بھی زبان درازی فرمائی ہے جو عنقریب انشاءاللہ العزیز مذکور ہوگی۔ تو اس جرم میں تم مرزائی بھی مرزا صاحب کو صلیب پر لٹکا دیتے۔ کیونکہ شبیہہ لائق صلیب ہی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم اُس شبیہہ سے اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس شبیہہ کے ساتھ بھی اعتقاد رکھ لیتے۔ نہ تم نے وہ سزا دی۔ نہ ہم نے ویسا سمجھا۔ بلکہ ہم نے مرزا صاحب کو ہر پہلو سے پرکھا۔ سوائے بھروپیا ہونے کے کچھ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر صلیبی تنازع اور اُن کی قوم کے جھگڑے کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اُٹھا لینے اور اُن کی جگہ اُن کی شبیہہ کو دار پر لٹکانے کا ذکر فرما دیا۔ تو اس امر کی بھی ضرورت تھی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے زمانہ اور ان کی کارکردگی کا بھی ذکر کیا جاوے۔ تاکہ اگر اس واقعہ کو سُن کر کوئی اور مدعی بن بیٹھے تو سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے۔ تو فرمایا۔

دلیل (۳) وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ وَیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ یَکُوْنُ عَلَیْھِمْ شَھِیْدًا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے وقت) کوئی اہل کتاب (کے مدعیوں سے) ایسا نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ضرور ایمان لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اُن پر (اس ایمان لانے کی) گواہی دینے والے ہوں گے۔

ربّ العزۃ نے اس آیت کریمہ میں دلیل اِنّی ارشاد فرمائی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت تب ہوگی۔ جب ان مثلثین اہل کتاب سے کوئی تثلیث کا قائل نہ رہ جائیگا۔ بلکہ تمام توحید اور رسالت کے قائل ہو جائینگے اب حیات عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے زیادہ اور کیا راز ثابت ہوگا۔ اگر واقعی بقول تمہارے مرزائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوتے تو لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ کی بجائے آج گرجوں میں گھڑیال نہ بجتے اور جو صلیبی شکل گرجہ پر کندہ ہے۔ وہ نظر نہ آتے۔ اور پادری ہاتھوں میں باجے لئے صلیبی گانے نہ گاتے پھریں۔

marfat.com

معلوم ہوا، کہ ابھی عیسٰی علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا۔ اور دوسرا استدلال (۲) لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ ۔ لَیُؤْمِنَنَّ صیغہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہے۔ جو صیغہ معنیٔ استقبال کی تاکید کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ربّ العزۃ کا بصیغۂ استقبال لَیُؤْمِنَنَّ فرمانا ثابت کرتا ہے۔ کہ یہ زمانۂ مستقبلہ ابھی آنے والا ہے۔ جو عیسٰی علیہ السلام کی زندگی پر دال ہے۔ ورنہ اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔

دلیل (۴) آل عمران ۳/۵	وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَھْدِ وَکَھْلًا ۔ اور کلام کرے گا لوگوں کو بچپن میں اور بڑھاپے میں
مائدہ ۴/۱۵	تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَھْدِ وَکَھْلًا ۔

ان دونوں آیات سے ثابت ہے۔ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی عمر کے دو حصے ہیں۔ جو واؤ عاطفہ مغایرہ سے واضح ہے۔ کہ ان کی عمر کے دو زمانے مغائرین ہیں۔ زمانہ بچپن کا علیحدہ اور ادھیڑ کا علیحدہ۔ زمانہ بچپن کا تو عیسٰی علیہ السلام نے گذار دیا۔ اور ابھی زمانہ کھولت بعد از زمانہ نزول من السما گذاریں گے۔ جیساکہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

طبقات ابن سعد ۱/۳۴	قَالَ اَخْبَرَنِیْ ھِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِیْہِ عَنْ اَبِیْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ...... ان عیسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ حین رُفِعَ کَانَ ابْنُ اثْنَیْنِ وَثَلَاثِیْنَ سَنَۃً

وَسِتَّۃَ اَشْھُرٍ وکانت نُبُوَّتُہٗ ثَلَاثِیْنَ شَھْرًا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کہ عیسٰی علیہ السلام جب اٹھائے گئے آسمان کی طرف بتیس سال اور چھ ماہ کی عمر میں آسمان پر تشریف لے گئے۔ اور کھولت یعنی بڑھاپے کا زمانہ آسمان سے تشریف لاکر بسر کریں گے۔ ورنہ انکار آیت کریمہ لازم آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوگئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات مسیح اور رفع سماوی حضرت عیسٰی علیہ السلام کے قائل تھے۔ اور اس کے مقابلہ میں بخاری کا منقطع قول مستند نہیں۔ یا تقدم تاخر کے قائل ہوجائیے جس سے تمہاری جان جاتی ہے۔

marfat.com

"مرزائی" - ہماری جماعت یورپ سے عیسیٰ علیہ السلام کی کہولت کے زمانے کی تصویر شائع شدہ لائے ہیں لہذا ثابت ہوا۔ کہ وہ کہولت کا زمانہ بھی گذار چکے ہیں۔

"محمد عمر" - اوّل تو اس بات کو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، کہ تمہارا عکس سچا ہو۔ کیونکہ تیس ماہ تو انہوں نے بمشکل یہودیوں کی تبلیغ میں گذارے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ یہود نے ان کو کہولت کے زمانے تک پہنچنے کا موقع ہی کب دیا۔ دوسری عرض یہ ہے۔ کہ تم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویریں شائع کی ہیں۔ وہ ان کی ذات سے فوٹو نہیں لئے گئے۔ اسوقت کی دشمنی تو دنیا کو عیاں ہے۔ وہ بچارے جان چھپاتے پھرتے تھے۔ یہ اعکاس ان مجسموں کے ثابت ہو رہے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جعلی مجسمے انہوں نے یورپ کے گرجا گھروں میں نصب کئے ہوئے ہیں۔ یہ تثلیث پرست نقلی مجسمے جس وقت چاہیں تیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ تم نے مرزا صاحب کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ مثلیت کا مسئلہ تم نے عیسائیت سے سیکھا ہے۔ تیسری عرض یہ ہے کہ ان تصاویر کا اعتبار اسلام میں نہیں۔ مرزائیت میں یہ چیز مستند ضرور ہے۔ کیونکہ جیسا کہ عیسائیت میں بھی ظل و بروز معتبر اور مرزائیت میں بھی مذہب کا دارو مدار ظل و بروز پر ہے نہ مثلثین کے مذہب میں کوئی حقیقی و اصل شے اور نہ مرزائیت میں کوئی اصل و حقیقت۔ ان کا عنوان بھی مسیحی اور مرزائیوں کا عنوان بھی مسیحی۔ اسی واسطے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مغفورہ کو مسلمان کے لفظ سے خطاب کرتے ہو۔ تمہارے مرزا صاحب یا تم مرزائی جتنے بھی ہو۔ تم اپنی تحریر و تقریر میں جب لفظ مسلمان استعمال کرو۔ تو اس عنوان کے معنون امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ مرزائی اسلام میں شامل نہیں ہوتا۔ تمہاری اصطلاح میں مسلمان امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا اقرار تمہارے خلیفہ ثانی نے بھی کیا ہے۔ سن لو۔

کلمۃ الفصل ۵۱ | جہاں کہیں بھی (مرزائیوں کی تحریر و تقریر میں) مسلمان کا لفظ ہو۔ اس سے مدعی اسلام سمجھا جائے۔ نہ کہ حقیقی مسلمان (یعنی مرزائی مرزائی کی اصطلاح میں مسلمان نہیں)۔

marfat.com

تو محمود صاحب کی عبارت مذکورہ بالا سے صاف ثابت ہو گیا۔ کہ مرزائیوں کے واسطے اصطلاح لفظ مسلمان کے خطاب کی نہیں۔ بلکہ مسیحی ہیں۔ تو مرزائیوں کی اصطلاح میں بھی امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں۔ مرزائی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں اور نہ کہلواتے ہیں۔ تو معلوم ہوا۔ کہ مثلثیں بھی مسیحی۔ اور مرزائی بھی مسیحی۔ تو جو مثل اُن مسیحیوں میں معتبر وہی مثل ان مسیحیوں میں معتبر مثیل و ظل نہ اسلام میں معتبر اور نہ مسلمانوں میں مستند۔ تو یہ نصاریٰ میں تمہارے مرزائیوں کو مفید ہو سکتی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے واسطے نہیں۔

میرے خیال میں اس لئے اس مجسمہ کا مرزائی عکس لائے ہوں گے کہ اس تصویر اور مرزا صاحب کی تصویر کی مماثلت کا اندازہ لگائیں گے۔ کہ یہ مثیل مسیح کے مدعی تھے۔ تو بعد از تقابل شرمندگی تو ضرور طاری ہوئی ہو گی۔ اور یکتائی کو ملاحظ فرماتے ہوئے ایک کو نہ گرا ہوا ابھی زیر نظر ضرور ہو گا۔ یا شاید عرصہ دراز گذرنے کی وجہ سے کاریگر کو معاذ اللہ غلطی واقع ہو گئی ہو۔ فتفکروا وتدبروا۔

ثابت ہوا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آسمان سے زمین پر تشریف لاکر زمانۂ کہولت بسر کرنا ہے۔ اور جو شخص اس پر ایمان لایا وہ مومن بالقرآن اور مسلمان ہے۔ ورنہ نہیں۔ مولائے کریم نے سچ فرمایا ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اور بے ایمان قوم سے آیتیں اور رسُل بے ایمانی نہیں ہٹا سکتیں۔

پانچویں دلیل
مائدہ $\frac{7}{15}$

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

کہا عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے۔ اے اللہ ہمارے پالنے والے ہم پر آسمان سے کھانا اُتار ہمارے اوّل کے لئے بھی عید ہو گی اور ہمارے آخروں کے لئے بھی عید ہو گی۔ اور تیری طرف سے نشانی ہو گی۔ اور ہمیں تو رزق دے اور تو بہتر ہے رزق دینے والوں کا۔

اس آیت کریمہ میں رب العزۃ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا

marfat.com

کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امت کی خواہش پر دعا فرمائی۔ کہ اے اللہ ہم پر آسمانی کھانا نازل فرما۔ تو بعد ازاں اپنے دو فرقوں کا ذکر فرمایا۔ کہ یا اللہ جب تو ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے گا تو وہ دن میری عمر اوّل کے ماننے والے امتیوں کے واسطے یوم عید ہوگا اور میری آخری عمر کے متبعین کے واسطے بھی یوم عید ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوّل اور اپنے آخر میں اپنوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں؛ واؤ مغایرت کے لئے درمیان میں رکھ دی۔ تو پہلی آیت کریمہ دلیل ۴ والی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دو حصوں کا ذکر اور اس آیۃ کریمہ میں آپ کے ماننے والوں کے اوّلین و آخرین کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کر رہا ہے۔ اور پھر دونوں کی شکرگذاری کا بھی ذکر فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمر کا پہلا حصہ گذار لیا ہے۔ اور دوسرا حصہ ابھی گذارنا ہے۔ جو قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہو کر گذارینگے۔ جیسا کہ آیت اوّل میں بوضاحت گذر چکا ہے، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی پانچویں آیت؛

اب اے مرزائیو! اگر خداوند کریم کے کلام الحِزنا پر ایمان لانا ہے۔ تو حیاتِ سماوی عیسوی کے قائل ہو جاؤ۔ ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔

چھٹی دلیل
مائدہ $\frac{٦٠}{١٠}$

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ نہیں مسیح بن مریم (معبود) سوائے رسول کے ضرور گذر چکے ان کے پہلے تمام رسول۔

اس آیتِ کریمہ میں رَبّ العزۃ نے دو امور بیان فرمائے۔

(۱) عیسیٰ علیہ السلام کا لقب رَبّ العزۃ نے مسیح فرمایا اور کسی کا نہیں۔ اگر کوئی اور مدعی بنے یا کوئی کسی اور کو سمجھے تو کاذب ہے۔

(۲) عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا، تاکہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے آپ مصداق بنیں۔

"مرزائی" ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی اللہ تعالےٰ نے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی۔ تو تطبیق اٰیتین کیسے ہوگی۔ کیسی اُلٹ پلٹ باتیں بناتے ہو؟ پ

marfat.com

"**محمد عمر**" ۔ دوسری عرض یہ ہے ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ صحیح ہے ۔ کیونکہ آپ کے پہلے تمام انبیا علیہم السلام گذر چکے ہیں ۔ کسی کا وصال ہوا اور کوئی زمین سے گذر کر آسمان پر چلا گیا ۔ تو دونوں ہی خَلَتْ میں شامل ہوئے کیونکہ لفظ خَلَتْ دونوں کو شامل ہے ۔ جیسا کہ اس کی تحقیق ما قبل گذر چکی ہے ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی اشاعت چونکہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے ۔ اور تمام اس لحاظ سے گذر چکے ہیں ۔ اور اب جو آپ کی اشاعت ہوگی ۔ وہ ان کی اپنی نبوت کی نہ ہوگی بلکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شریعت کی تبلیغ فرماوینگے ۔ تو خَلَتْ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی صحیح ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لاویں گے ۔ تو ان کے پہلے من کل الوجوہ تمام انبیا علیہم السلام کا وصال ہو چکا ہوگا ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بھی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ صحیح ہو گا ۔ مشکل تو مرزائیوں کو ہوگی کہ جب یہ آیت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے ، اور مرزا صاحب کا عیسیٰ ہونے کا دعوای بھی ہے ۔ اور مرزا صاحب ہیں اجرائے نبوت کے قائل اب یا تو مرزا صاحب قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آیت کے مکذب ہیں ۔ کیونکہ اجرائے نبوت کا دعوای ہے ۔ اور یا عیسیٰ نہیں ، مشکل تو مرزا صاحب کو یا مرزائیوں کو ہے ، جو خَلَتْ کے معنی صرف موت لیتے ہیں ۔ لیکن اپنی نبوت کی ڈیوٹی ادا کرنے کے واسطے تشریف نہ لاوینگے ۔ بلکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی اشاعت کے واسطے تشریف لاوینگے ۔ اور جعلی عیسیٰ بننے کے مدعیوں کو جھوٹا کر کے ایمان دار بنائیں گے ۔ اور اگر بقول تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ تسلیم کر لیا جاوے ۔ تو قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ معاذ اللہ فرمان الٰہی غلط ثابت ہوگا ۔ اور رَافِعُكَ اِلَیَّ پر ایمان تب صحیح ہو سکتا ہے ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رَفَعَ اِلَى السَّمَاءِ تسلیم کیا جاوے اور قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پر ایمان تب حقیقۃً درست ہوگا ۔ جب ان کا قرب قیامت آسمان سے تشریف لانا تسلیم کیا جاوے ۔

marfat.com

ورنہ اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔

بھائی مرزائیو! تم سوچ لو۔ کہ اس آیت کریمہ پر صحیح ایمان لانا ہے یا نہیں، اگر قرآن کریم کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ تو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہو جاؤ اور اس امر کا اقرار کر لو کہ آپ قرب قیامت آسمان سے تشریف لائیں گے۔ ورنہ قرآن مجید کے منکر بن جاؤ گے۔

ساتویں دلیل
نساء ۶/۲۴

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ۔ ہرگز نا انکار کریں گے مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے۔ لَنْ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ تو مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسا کہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ہرگز نیکی پاؤ گے تم حتیٰ کہ محبوب شئے نہ خرچ کر دو گے۔ ایسے ہی ارشاد الٰہی لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ۔ ہرگز نہ انکار کریں گے مسیح علیہ السلام یعنی زمانہ آئندہ میں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ فرمان الٰہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ تو ان تثلیثیوں کے سامنے ابھی عیسیٰ علیہ السلام زمانہ استقبال میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کو معبود پکارتے ہیں۔ تشریف لا کر ان کو اپنی عبودیت کا سبق دیں گے، تو اگر حیات عیسوی اور نزول سماوی پر ایمان نہ ہو۔ تو اس آیت کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔

آٹھویں دلیل
زخرف ۲۵/۶

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں۔ ان کے نشان ہونے میں کسی قسم کا شک نہ کرنا اور میری تابعداری کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور تمہیں شیطان (عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کی نشانی ہونے سے) پھیر نہ دے۔ وہ تمہارے لئے ظاہرا دشمن ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اس کا نام بے دلیل ہے۔ اور حق جو صراحۃ النص سے ثابت ہے۔ خداوند تعالےٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے دلائل کو جب مکمل طور پر بیان فرما دیا اور وفات مسیح کے ماننے

marfat.com

والوں کا خوب رَد فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں منکرین کے لئے ایک ایسی حجت قائم فرمائی۔ کہ جس سے کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ چنانچہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا۔ جو قیامت کا منکر ہے وہ مومن نہیں۔ اور جو مومن نہیں یا تو وہ جے سنگھ ہو گا یا کرشن ہو گا یا رودر گوپال ہو گا۔ کچھ تو ہو گا ہی۔ کچھ نہ سہی تو انسان کی جائے نفرت ہی ہو گا، تو اللہ رب العزۃ نے فرمایا وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ ہ بے شک وہ عیسٰی علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں۔ جب قیامت قائم ہونا حق ہے اور قیامت ابھی آنے والی بھی ہے۔ تو عیسٰی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسٰی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مومن فوراً معلوم کرے گا۔ اب قیامت آئی۔ جیسا کہ مثلاً کوئی شخص گاڑی پر جا رہا ہو۔ اور گاڑی لاہور کی طرف جا رہی ہو۔ جب ریلوے اسٹیشن لاہور پر گاڑی جا کھڑی ہو گی تو سمجھنے والا ذی شعور فوراً سمجھ لیگا۔ کہ یہ اسٹیشن لاہور کا آگیا ہے۔ بس لاہور ہی آگیا۔ تو لاہور جانے والا اسٹیشن لاہور پر ضرور اُترے گا۔ اور جس کو علم نہ ہو گا وہ دوسرے واقف سے دریافت کرے گا۔ کہ بھائی یہ اسٹیشن کونسا ہے۔ وہ ضرور کہے گا۔ کہ میں جانتا ہوں یہ اسٹیشن لاہور کا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بیوقوف کہے کہ نہیں لاہور کا اسٹیشن تو ہے۔ لیکن میں نے لاہور جانا ہے۔ میں گاڑی سے نہ اتروں گا۔ تو گاڑی والے اُس کو حوالۂ پولیس کر دینگے۔ کہ اس شخص کے پاس ٹکٹ لاہور کا ہے۔ یہ اب اُترتا نہیں۔ تو پولیس اس کو گرفتار کرے گی۔ ایسے ہی انسان قیامت تک پہنچنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالٰے نے فرمایا کہ اے قیامت پر یقین نہ رکھنے والے اور ایمان نہ لانے والے بے ایمان خواہ تسلیم کر یا نہ کر۔ لیکن تو چونکہ مجھ پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے۔ اس واسطے میں تجھے پہلے سے ہی متنبہ کر دیتا ہوں۔ کہ وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِھَا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں۔ اس میں شک نہ کرنا اور فرمایا کہ یہ امر مشاہدہ سے متعلق ہے۔ کفار کو یعنی منکر حیات عیسٰی علیہ السلام کو تو ان کی آمد پر پتہ چل جاویگا۔ اور ان منکرین کو خود آ کر جھوٹا کرینگے۔ لیکن تم شک نہ کرو۔ میں تم کو کہتا ہوں۔ کہ حیاتِ عیسوی میں فَاتَّبِعُوْنِ تم میری تابعداری

marfat.com

کرنا اور فرمایا هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا یعنی قیامت کے قریب ان کے آسمان سے اترنے کا راستہ سیدھا ہے۔ وفات مسیح ناصری کا قائل گمراہ۔ اور اللہ تعالےٰ عالم الغیب نے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ہ میں نے نہیں کہا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہونگے) تمہیں کوئی شیطان اس عقیدہ سے نہ پھیر دے۔ بے شک وہ تمہارا (مومنوں کا) بڑا دشمن ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو حیات مسیح ناصری علیہ السلام سے مومنوں کے عقیدہ کو پھیرنے والا ہے وہ شیطان ہے۔ اور مومنوں کا دشمن ہے۔ اور عموماً علامت مقدم ہوتی ہے ذات سے۔ ورنہ علامت علامت نہ ہوگی۔ مثلاً آگ جلتی ہے تو دھواں پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ آگ بعد میں۔ جہاں سے دھواں نکلتا ہو۔ وہاں سے آگ کا ہونا یقینی امر ہے۔ تو دھواں علامت ہے۔ آگ کی۔ صبح پھوٹتی ہے۔ تو سورج کی آمد کے لوگ منتظر ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلیں، تو بارش کی امید ہوتی ہے۔ بادل آئیں تو بارش کا مقدمہ ہوتا ہے۔ تو علامات کا انکار اصل کا انکار۔ دھوئیں کا انکاری آگ کا منکر بادل کا منکر بارش کا انکاری۔ صبح کا منکر سورج کا منکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا منکر قیامت کا انکاری۔

ادلہ حیات مسیح از تفاسیر

دلیل (۱) تفسیر بیضاوی ۲/۱۱

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ) اَيْ مُسْتَوْفِيْ اَجَلَكَ وَ مُؤَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلِكَ الْمُسَمّٰى عَاصِمًا اِيَّاكَ مِنْ قَتْلِهِمْ اَوْ قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ تَوَفَّيْتُ مَالِيْ اَوْ مُتَوَفِّيْكَ نَائِمًا اِذْ رُوِيَ اَنَّهٗ رُفِعَ نَائِمًا اَوْ مُمِيْتُكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ الْعَائِقَةِ عَنِ الْعُرُوْجِ اِلٰى عَالَمِ الْمَلَكُوْتِ۔

(جب فرمایا اللہ تعالےٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام پورا اٹھانے والا ہوں میں تجھے) یعنی پورا کرنے والا ہوں تیری اجل کو، (ابھی نہیں ماروں گا) اور تجھے مہلت دینے والا ہوں تیری اجل مقررہ تک، اور تجھے ان کے قتل سے بچانے والا ہوں۔ یا زمین سے تجھے پورا اٹھانے والا ہوں۔ (آسمان کی طرف) باب توفیت سے یا پورا اٹھانے والا

ہوں سُلاکر۔ اس واسطے کہ روایت کیا گیا ہے۔ کہ بے شک وہ عیسٰی علیہ السلام نیند کی حالت میں اُٹھائے گئے۔ یا تیری شہوتوں کو مارنے والا ہوں جو تمہیں عالم ملکوت کی طرف چڑھنے سے روکنے والی ہیں۔

دلیل (۲) تفسیر جامع البیان ۵۲

(یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ) اَلْمُرَادُ مِنَ الْوَفَاۃِ ھٰھُنَا النَّوْمُ وَعَلَیْہِ الْاَکْثَرُوْنَ اَوْ فِی الْاٰیَۃِ تَقْدِیْمٌ وَتَاْخِیْرٌ تَقْدِیْرُہٗ اِنِّیْ رَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُتَوَفِّیْكَ یَعْنِیْ بَعْدَہٗ۔

مراد وفات سے اس جگہ نیند ہے۔ اور اسی پر اکثر ہیں۔ یا آیت میں تقدم و تاخر ہے۔ اصل اس کا یہ ہے۔ کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور مارنے والا ہوں تجھے بعد اس کے۔

دلیل (۳) تفسیر خازن ۱/۲۹۹

(اِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ) اِخْتَلَفُوْا فِیْ مَعْنَی التَّوَفِّیْ وَھٰھُنَا عَلٰی طَرِیْقَیْنِ فَالطَّرِیْقُ الْاَوَّلُ اَنَّ الْاٰیَۃَ عَلٰی ظَاھِرِھَا مِنْ غَیْرِ تَقْدِیْمٍ وَلَا تَاْخِیْرٍ وَذَکَرُوْا فِیْ مَعْنَاھَا وُجُوْھًا اَلْاَوَّلُ مَعْنَاہُ اِنِّیْ قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ مِنْ قَوْلِھِمْ تَوَفَّیْتُ الشَّیْءَ وَاسْتَوْفَیْتُہٗ اِذَا اَخَذْتَہٗ وَقَبَضْتَہٗ تَامًّا وَالْمَقْصُوْدُ مِنْہُ ھٰھُنَا اَنْ لَا یَصِلَ اَعْدَاءُہٗ مِنَ الْیَھُوْدِ اِلَیْہِ بِقَتْلٍ وَلَا غَیْرِہٖ اَلْوَجْہُ الثَّانِیْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَفِّیْ اَلنَّوْمُ وَمِنْہُ قَوْلُہٗ عَزَّ وَجَلَّ اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِھَا فَجَعَلَ النَّوْمَ وَفَاۃً وَکَانَ عِیْسٰی قَدْ نَامَ فَرَفَعَہُ اللّٰہُ وَھُوَ نَائِمٌ لِئَلَّا یَلْحَقَہٗ خَوْفٌ فَمَعْنَی الْاٰیَۃِ اِنِّیْ مُنِیْمُكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ۔ (اِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰی الخ) مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ توفی کے معنی میں۔ اس جگہ دو طریقوں پر۔ پس پہلا طریقہ یہ ہے۔ کہ آیت اپنے ظاہر پر ہے۔ بغیر تقدیم و تاخیر کے اور اس کے معنوں میں کئی وجوہ انہوں نے بیان کئے ہیں۔ پہلے معنی اس کے یہ ہیں۔ کہ میں تجھے اچکنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف بغیر موت کے۔ عربوں کے قول سے اخذ کیا گیا ہے۔ تَوَفَّیْتُ الشَّیْءَ وَاسْتَوْفَیْتُہٗ جب لے لوں اس کو میں اور اٹھا لوں میں۔ تمام شئی کو اور مقصود اس سے اس جگہ یہ ہے کہ نہ پہنچیں دشمن اس کے یہود سے طرف اس کی قتل وغیرہ کرنے کے لئے۔ دوسری

marfat.com

وجہ یہ ہے۔ کہ مراد توفی سے نیند ہے۔ اور یہ محاورہ اللہ کی کلام سے لیا گیا ہے۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا۔ تو اللہ نے نیند کو موت بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ نے اُن کو اٹھا لیا نیند کی حالت میں تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو۔ تو آیت کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اے عیسیٰ میں تجھے سلانے والا ہوں۔ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

دلیل (۴۷)
تفسیر خازن ۱/۳۰۰

وَلَمَّا عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْطُرُ بِبَالِهٖ اَنَّ الَّذِيْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ هُوَ رُوْحُهٗ دُوْنَ جَسَدِهٖ كَمَا زَعَمَتِ النَّصَارٰى اَنَّ الْمَسِيْحَ رُفِعَ لَاهُوْتُهٗ يَعْنِيْ رُوْحُهٗ وَبَقِيَ فِي الْاَرْضِ نَاسُوْتُهٗ يَعْنِيْ جَسَدُهٗ فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهٖ اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ فَاَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ رُفِعَ بِتَمَامِهٖ اِلَى السَّمَاءِ بِرُوْحِهٖ وَجَسَدِهٖ جَمِيْعًا اَلطَّرِيْقُ الثَّانِيْ اَنَّ فِي الْاٰيَةِ تَقْدِيْمًا وَتَاْخِيْرًا تَقْدِيْرُهٗ اِنِّيْ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمُتَوَفِّيْكَ بَعْدَ اِنْزَالِكَ اِلَى الْاَرْضِ وَقِيْلَ لِبَعْضِهِمْ هَلْ تَجِدُ نُزُوْلَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى الْاَرْضِ فِي الْقُرْاٰنِ۔ قَالَ نَعَمْ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَكَهْلًا وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ لَمْ يَكْتَهِلْ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّمَا مَعْنَاهُ وَكَهْلًا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور جب اللہ تعالےٰ نے معلوم کر لیا۔ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالےٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ اس کے روح کا رفع کیا ہے۔ نہ جسم کا، جیسا کہ نصاریٰ نے گمان کیا ہے کہ مسیح کے روح کا رفع ہوا ہے۔ اور جسم زمین میں باقی ہے، (جیسا کہ آج کل مرزائیوں نے بھی یہی عقیدہ بنا لیا ہے)۔ تو اللہ تعالےٰ نے ان کی بات کو رد کرنے کے لئے اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ۔ فرمایا۔ تو اللہ تعالےٰ نے خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بِتَمَامِهٖ آسمان کی طرف بمع جسم اور روح کے جمیعًا اٹھائے گئے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے۔ کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے۔ کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اور کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور زمین پر اتارنے کے بعد تجھے مارنے والا ہوں۔ اور بعض نے کسی سے اعتراض کیا کہ تیرے پاس

marfat.com

کوئی دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کی ہے۔ تو اس نے کہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان کُہلاً موجود ہے۔ اور یہ اس واسطے ھبوط الی الارض کی دلیل ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ادھیڑپن نہیں گذارا۔ اور کوئی بات نہیں۔ وکہلاً کا عمل عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد ہوگا۔ (معلوم ہوا کہ وفات مسیح کا عقیدہ ابتدا میں عیسائیوں کا تھا)۔

دلیل (۵)
تفسیر معالم التنزیل
۱/۲۹۹

(وَاِذْ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ)۔ اِخْتَلَفُوْا فِیْ مَعْنَی التَّوَفِّیْ ھٰھُنَا۔ قَالَ الْحَسَنُ وَالْکَلْبِیُّ وَابْنُ جُرَیْجٍ اِنِّیْ قَابِضُکَ وَرَافِعُکَ مِنَ الدُّنْیَا اِلَیَّ مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ یَدُلُّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ تَعَالٰی۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ اَیْ قَبَضْتَنِیْ اِلَی السَّمَآءِ وَاَنَا حَیٌّ لِاَنَّ قَوْمَہٗ اِنَّمَا تَنَصَّرُوْا بَعْدَ رَفْعِہٖ لَا بَعْدَ مَوْتِہٖ فَعَلٰی ھٰذَا لِلتَّوَفِّیْ تَاْوِیْلَانِ اَحَدُھُمَا اِنِّیْ رَافِعُکَ اِلَیَّ وَافِیًا لَمْ یَنَالُوْا مِنْکَ شَیْئًا مِنْ قَوْلِھِمْ تَوَفَّیْتُ مِنْہُ کَذَا وَکَذَا وَاسْتَوْفَیْتُہٗ اِذَا اَخَذْتَہٗ تَامًّا وَالْاٰخَرُ اِنِّیْ مُسَلِّمُکَ مِنْ قَوْلِھِمْ تَوَفَّیْتُ مِنْہُ کَذَا۔ اَیْ تَسَلَّمْتُہٗ وَقَالَ الرَّبِیْعُ ابْنُ اَنَسٍ اَلْمُرَادُ بِالتَّوَفِّی النَّوْمُ وَکَانَ عِیْسٰی قَدْ نَامَ فَرَفَعَہُ اللّٰہُ نَائِمًا اِلَی السَّمَآءِ مَعْنَاہُ اِنِّیْ مُنِیْمُکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَھُوَ الَّذِیْ یَتَوَفّٰکُمْ بِاللَّیْلِ اَیْ یُنِیْمُکُمْ۔

(و اذ قال اللہ یعیسیٰ انی متوفیک و رافعک) توفی کے معنی اس جگہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ حسن اور کلبی اور ابن جریج نے کہا۔ کہ میں اچکنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں تجھے اے عیسیٰ دنیا سے اپنی طرف بغیر موت کے۔ اس پر اللہ کا فرمان دلالت کرتا ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ یعنی چڑھایا تو نے مجھے آسمان کی طرف اور میں زندہ تھا۔ اس واسطے کہ اس کی قوم مدد کی گئی اس کے رفع کے بعد نہ اس کی موت کے بعد۔ اس بنا پر توفی کی دو حقیقتیں ہیں۔ ایک ان کی یہ کہ میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں۔ اپنی طرف کہ وہ تیرا کچھ نہ پا سکیں گے۔ یہ عربوں کے محاورے تَوَفَّیْتُ مِنْہُ کَذَا وَکَذَا سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اِسْتَوْفَیْتُہٗ جب تو اس کو پورا لے لے۔ اور دوسرا یہ کہ میں تجھے سلامت رکھنے والا ہوں۔ یہ بھی عربوں کے

marfat.com

تَوَفَّيْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا سے لیا گیا ہے ۔ یعنی جب تو اس کو بچالے ۔ اور ربیع بن انس نے کہا ہے ۔ کہ مراد توفی سے نیند ہے ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے ۔ تو اس کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھالیا ۔ اس کے معنی یہ ہیں ۔ کہ میں تجھے سلانے والا ہوں ۔ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ یعنی سُلاتا ہے ۔ تم کو رات میں ۔

دلیل (۶)
تفسیر مدارک ۱/۱۲۴

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ) ظَرْفٌ لِمَكَرَ اللّٰهُ (يٰعِيْسٰى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ) اَيْ مُسْتَوْفِيْ اَجَلَكَ وَمَعْنَاهُ اِنِّيْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ يَقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمُمِيْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ لَا قَتْلًا بِاَيْدِيْهِمْ ۔ (وَرَافِعُكَ اِلَيَّ) اِلٰى سَمَائِيْ وَمَقَرِّ مَلٰئِكَتِيْ (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) مِنْ سُوْءِ جِوَارِهِمْ وَخُبْثِ صُحْبَتِهِمْ وَقِيْلَ مُتَوَفِّيْكَ قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ تَوَفَّيْتُ مَالِيْ عَلٰى فُلَانٍ اِذَا اسْتَوْفَيْتَهُ اَوْ مُمِيْتُكَ فِيْ وَقْتِكَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُكَ الْاٰنَ اِذِ الْوَاوُ لَا تُوْجِبُ التَّرْتِيْبَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيْفَةً عَلٰى اُمَّتِيْ يَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيْرَ وَيَلْبَثُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهُ ثُمَّ يَتَوَفّٰى وَكَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَعِيْسٰى فِيْ اٰخِرِهَا وَالْمَهْدِيُّ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ فِيْ وَسْطِهَا اَوْ مُتَوَفِّيْ نَفْسَكَ بِالنَّوْمِ وَرَافِعُكَ وَاَنْتَ نَائِمٌ حَتّٰى لَا يَلْحَقَكَ خَوْفٌ وَتَسْتَيْقِظُ وَاَنْتَ فِي السَّمَاءِ اٰمِنٌ مُقَرَّبٌ ۔

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ) مکر اللہ کی ظرف ہے (يٰعِيْسٰى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ) یعنی پورا دینے والا ہوں تیری اجل کو اور معنی اس کے یہ ہیں کہ میں بچانے والا ہوں تجھے اس امر سے کہ تجھے کفار قتل کریں اور تجھے اپنی موت ماروں گا ان کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہو گا ۔ (وَرَافِعُكَ اِلَيَّ) اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنے آسمان کی طرف اور ملائکہ کے قیام گاہ کی طرف (اور پاک کرنے والا ہوں تجھے کفار سے) ان کے بُرے پڑوس سے اور ان کی خبث صحبت سے اور بعض نے کہا ہے کہ مُتَوَفِّيْكَ کے معنی زمین سے اٹھانے والا ہوں تجھے تَوَفَّيْتُ مَالِيْ عَلٰى مالی جب تو اس کو پورا لیلے ۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آسمان سے تیرے اترنے کے بعد تیرے وقت میں ، میں تجھے مارنے والا

marfat.com

ہوں ۔ اور اب تجھے اٹھانے والا ہوں ۔ اس لئے کہ واو ترتیب کو واجب نہیں کرتی،

دلیل (۷)
تفسیر کشاف ۱/۱۹۲

(اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ) اَیْ مُسْتَوْفِیْ اَجَلَکَ وَمَعْنَاہُ اِنِّیْ عَاصِمُکَ مِنْ اَنْ یَّقْتُلَکَ الْکُفَّارُ وَمُؤَخِّرُکَ اِلٰی اَجَلٍ کَتَبْتُہٗ لَکَ وَمُمِیْتُکَ حَتْفَ اَنْفِکَ لَا قَتْلًا بِاَیْدِیْہِمْ (وَرَافِعُکَ اِلَیَّ) اِلٰی سَمَائِیْ وَمَقَرِّ مَلَائِکَتِیْ (وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا) مِنْ سُوْءِ جِوَارِہِمْ وَخُبْثِ صُحْبَتِہِمْ وَقِیْلَ مُتَوَفِّیْکَ قَابِضُکَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ تَوَفَّیْتُ مَالِیْ عَلٰی فُلَانٍ اِذَا اسْتَوْفَیْتَہٗ وَقِیْلَ مُمِیْتُکَ فِیْ وَقْتِکَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُکَ الْاٰنَ وَقِیْلَ مُتَوَفِّیْ نَفْسَکَ بِالنَّوْمِ مِنْ قَوْلِہٖ وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِہَا وَرَافِعُکَ وَاَنْتَ نَائِمٌ حَتّٰی لَا یَلْحَقَکَ خَوْفٌ وَتَسْتَیْقِظُ وَاَنْتَ فِی السَّمَاءِ اٰمِنٌ مُقَرَّبٌ ۔

(اس کے معانی بیان ہو چکے ہیں ۔ اسواسطے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں) ۔
ان سے ثابت ہوا کہ خداوند کریم نے حضرت عیسٰی علیہ السلام کو قبل از رفع سماوی وعدہ فرمالیا ۔ کہ میں تجھے ان کفار کے خبث صحبت اور برے پڑوس میں نہیں رہنے دونگا ۔ بلکہ جہاں میرے ملائکہ رہتے ہیں ۔ تجھے بھی وہی مقام عنایت کرونگا ۔ اور نُزُوْل من السّماء کے بعد تجھے اپنی موت ماروں گا ۔ ان کفار کے ہاتھ سے نہ تو مارا جائے گا ۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ چونکہ قرآن پاک نے مُتَوَفِّیْکَ کے معنی نیند کے بھی لئے ہیں ۔ وَھُوَ الَّذِیْ یَتَوَفّٰکُمْ بِاللَّیْلِ اور وہ اللہ جو تمہیں رات کو سلاتا ہے ۔ تو ثابت ہوا ۔ کہ سونا بھی توفی کے معنی قرآن میں موجود ہیں ۔ اور عیسٰی علیہ السلام آسمان پر تشریف بھی لے جا چکے ہیں ۔ تو یَتَوَفّٰکُمْ بِاللَّیْلِ کے معنی کے لحاظ سے مُتَوَفِّیْکَ کے معنی ہوں گے ۔ سلانے والا ہوں تجھے اور بعض نے ان کے معنی چڑھانے والا بھی کئے ہیں ۔ کیونکہ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کے معنی جوب چڑھایا تو نے مجھے قرآن مجید میں موجود ہیں ۔ تو مُتَوَفِّیْکَ کے معنی بھی تجھے چڑھانے والا ہوں ہی ہوں گے ۔

دلیل (۸)
تفسیر ابن کثیر ۱/۳۶۶

وَقَالَ الْاَکْثَرُوْنَ اَلْمُرَادُ بِالْوَفَاۃِ ھٰھُنَا النَّوْمُ کَمَا قَالَ تَعَالٰی (وَھُوَ الَّذِیْ یَتَوَفّٰکُمْ بِاللَّیْلِ) وَکَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ اَلْحَمْدُ

marfat.com

لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ اِمَاتَتِنَا) اَلْحَدِیْث...... (وَقَوْلِہِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُوْلَ اللّٰہِ وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِّہَ لَھُمْ اِلٰی قَوْلِہٖ یَقِیْنًا بَلْ رَّفَعَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ وَکَانَ اللّٰہُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا ہ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ وَیَوْمَ الْقِیَامَۃِ یَکُوْنُ عَلَیْھِمْ شَھِیْدًا) وَالضَّمِیْرُ فِیْ قَوْلِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ عَائِدٌ عَلٰی عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَیْ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِعِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ وَذٰلِکَ حِیْنَ یَنْزِلُ اِلَی الْاَرْضِ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ۔

وَقَالَ ابْنُ اَبِیْ حَاتِمٍ حدثنا ابی حدثنا احمد بن عبد الرحمٰن حدثنا عبد اللّٰہ بن ابی جعفر عن ابیہ حدثنا الربیع ابن انس عن الحسن انہ قال فی قولہ تعالٰی (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ) یَعْنِیْ وَفَاۃَ الْمَنَامِ رَفَعَہُ اللّٰہُ فِیْ مَنَامِہٖ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لِلْیَھُوْدِ اِنَّ عِیْسٰی لَمْ یَمُتْ وَاِنَّہٗ رَاجِعٌ اِلَیْکُمْ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی (وَمُطَھِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا) اَیْ بِرَفْعِیْ اِیَّاکَ اِلَی السَّمَاءِ (وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ) وَھٰکَذَا وَقَعَ فَاِنَّ الْمَسِیْحَ عَلَیْہِ السَّلَامُ لَمَّا رَفَعَہُ اللّٰہُ اِلَی السَّمَاءِ تَفَرَّقَتْ اَصْحَابُہٗ شِیَعًا بَعْدَہٗ۔

اور اکثروں نے کہا ہے۔ کہ وفاۃ سے مراد اس جگہ نیند ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالٰے نے فرمایا ہے (وہ سُلاتا ہے تم کو رات میں) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اُٹھتے تو فرمایا کرتے تھے (اَلحمد للّٰہ الذی احیانا بعد اماتنا)۔ آخیر حدیث تک (یعنی سب تعریف ہے۔ اس اللہ کے واسطے جس نے ہمیں نیند کے بعد اٹھایا) اور اللہ کا فرمان بھی شاہد ہے۔ کفار کا قول کہ ہم نے مسیح بن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا ہے اس کو اور نہ صلیب پر لٹکایا ولیکن شبہ ڈالا گیا اُن کے لیے یقینی بات ہے۔ بلکہ اُٹھایا اس کو اللہ نے اپنی طرف اور اللہ تعالٰی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں آخیر تک اور پھر اللہ کا قول شاہد ہے (اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے مگر ضرور ایمان لائیگا عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ ان کے مرنے سے پہلے اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہونگے) اور اللہ کے فرمان قَبْلَ مَوْتِہٖ میں ہ کی ضمیر عیسٰی علیہ السلام پر عائد ہے۔ یعنی کوئی اہل کتاب

marfat.com

سے ایسا نہیں ہوگا۔ مگر ضرور عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے گا۔ اور یہ (سب کا ایمان لانا اُس وقت ہوگا) جب اتریں گے زمین کی طرف پہلے قیامت کے (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کا ترجمہ حدیث سے کیا ہے)۔ کہا ابن ابی حاتم نے حدیث بیان کی ہم کو میرے باپ نے اس نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبد الرحمٰن نے کہا اس نے کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد اللہ بن ابی جعفر نے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ربیع بن انس نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی) یعنی نیند کی وفاۃ اٹھایا اس کو اللہ تعالےٰ نے اس کی نیند میں فرمایا حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کہ عیسٰی علیہ السلام مرے نہیں۔ اور وہ تمہاری طرف واپس تشریف لانے والے ہیں۔ قیامت کے پہلے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) یعنی (تجھے پاک کرنے والا ہوں) میں تجھے آسمان کی طرف اُٹھا کر۔ (اور فوقیت دینے والا ہوں جنھوں نے تیری اتباع کی قیامت تک اور ایسے ہی واقع ہوا۔ کہ مسیح علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان کی طرف اُٹھالیا۔ تو آپ کے بعد کئی فرقے علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔ (آگے تمام واقعہ مذکور ہے جو بوجہ طوالت بیان نہیں کیا گیا۔

(اب تو حدیث و تفسیر سے حیات مسیح ناصری علیہ السلام کا مسئلہ واضح ہوگیا اور آسمان پر ان کا تشریف لے جانا بھی اَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ ہوگیا۔ اب بھی اگر تمہاری مرزائیت تمہیں ایمان لانے سے روکے تو تمہیں خداوند تعالےٰ ہدایت کی توفیق عنایت فرماوے اس سے زیادہ فقیر کچھ نہیں کہہ سکتا)۔

دلیل (۹)
تفسیر ابن جریر ۳/۱۸۳

حدثنی محمد بن الحسین قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط عن السدی ثُمَّ اِنَّ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ حَصَرُوْا عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِّنَ الْحَوَارِیِّیْنَ فِیْ بَیْتٍ فَقَالَ عِیْسٰی لِاَصْحَابِهٖ مَنْ یَّاْخُذُ صُوْرَتِیْ فَیُقْتَلُ وَلَهُ الْجَنَّةُ فَاَخَذَهَا رَجُلٌ مِّنْهُمْ وَصُعِدَ بِعِیْسٰی اِلَی السَّمَآءِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۔ فَلَمَّا خَرَجَ الْحَوَارِيُّوْنَ اَبْصَرُوْهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ فَاَخْبَرُوْهُمْ اَنَّ عِيْسٰى قَدْ صُعِدَ بِهٖ اِلَى السَّمَآءِ فَجَعَلُوْا يَعُدُّوْنَ الْقَوْمَ فَيَجِدُوْنَهُمْ يَنْقُصُوْنَ رَجُلًا مِّنَ الْعِدَّةِ وَيَرَوْنَ صُوْرَةَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِمْ فَشَكُّوْا فِيْهِ وَعَلٰى ذٰلِكَ قَتَلُوا الرَّجُلَ وَهُمْ يَرَوْنَ اَنَّهٗ عِيْسٰى وَصَلَبُوْهُ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۔

حدیث بیان کی مجھے محمد بن حسین نے کہا اس نے حدیث بیان کی ہم کو احمد بن مفضل نے کہا اس نے حدیث بیان کی ہم کو اسباط نے سدی سے پھر تحقیق بنی اسرائیل نے محاصرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور مکان میں اُنیس آدمی حواریوں سے تھے ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میری صورت کون قبول کرے گا۔ پھر قتل کیا جاوے گا ۔ اور اس کو جنت ملے گا۔ تو ایک آدمی نے اُن سے آپ کی تصویر قبول کرلی ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھائے گئے ۔ پس یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ کا پس جب حواری نکلے تو انہوں نے اُنیس ۱۹ آدمی دیکھے تو انہوں نے خبر دی ان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمان کی طرف چڑھائے گئے ہیں ۔ تو انہوں نے قوم کو گننا شروع کیا ۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو گم پایا ۔ اور ان آدمیوں میں ایک آدمی کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دیکھ رہے ہیں ۔ تو انہوں نے اس کے متعلق شکایت کی، اور اسی فیصلے پر انہوں نے اس (مشبہ) آدمی کو قتل کر دیا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں ۔ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی صلیب پر لٹکایا ہے، یہ فیصلہ ہے اس کے متعلق اللہ کے فرمان کا ۔ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۔ (اور نہیں قتل کیا ۔ انہوں نے اس کو اور نہ صلیب دیا ہے، بلکہ اُنکو شبہ دیا گیا ہے ۔ (یہ بھی حدیث سے تفسیر کی گئی ہے) ۔

دلیل (۱۰) ابن جریر ۳/۱۸۳	حدثنی المثنی قال حدثنا اسحٰق قال حدثنا عبد اللّٰه بن ابی جعفر عن ابیه عن الربیع فی قوله (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ) قال یعنی وفاة المنام رفعه اللّٰه فی منامه قال الحسن قال رسول اللّٰه صلی

marfat.com

اللہ علیہ وسلم للیھود ان عیسیٰ لم یمت و انہ راجع الیکم قبل یوم القیامۃ۔

حدیث بیان کی مجھ کو مثنیٰ نے کہا۔ اس نے ہمیں حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن ابی جعفر نے اس نے اپنے باپ سے روائیت بیان کی۔ اس نے ربیع سے بیان کیا اللہ کے فرمان (انی متوفیک) کے متعلق اس نے کہا۔ کہ وفات کے معنی نیند کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی نیند میں اٹھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں۔ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے تمہاری طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔

ونیل (۱۱)
تفسیر ابن جریر ۳/۱۸۴

قال حدثنی المثنیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنی معاویۃ بن صالح ان کعب الاحبار قال ما کان اللہ عز و جل لیمیت عیسیٰ بن مریم انما بعثہ اللہ داعیا و مبشرا یدعو الیہ وحدہ فلما رأی عیسیٰ علیہ السلام قلۃ من اتبعہ و کثرۃ من کذب بہ شکی ذالک الی اللہ عز و جل فاوحی اللہ الیہ انی متوفیک و رافعک الی و لیس من رفعتہ عندی میتا و انی سابعثک علی الاعور الدجال فتقتلہ ثم تعیش بعد ذالک اربعا و عشرین سنۃ ثم امیتک میتۃ الحی قال کعب الاحبار و ذالک یصدق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال کیف تھلک امۃ انا فی اولھا و عیسیٰ فی اخرھا۔

حدیث بیان کی مجھ کو مثنیٰ نے کہا اس نے حدیث بیان کی ہم کو عبداللہ بن صالح نے کہا۔ اس نے حدیث بیان کی مجھے معاویہ بن صالح نے کہ تحقیق کعب احبار نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں اور کوئی بات نہیں مبعوث کیا اس کو اللہ نے بلانے والا اور خوشخبری دینے والا جو اللہ وحدہ لاشریک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے متبعین کم ہیں اور آپ کے مکذب زیادہ ہیں۔ ان کی شکایت کی اللہ عز و جل کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں تجھے پورا اجر دینے والا

marfat.com

اور اپنی طرف اُٹھانے والا ہوں۔ اور جس کو میں اُٹھاؤں میرے پاس وہ میت نہیں ہوتا اور بے شک میں عنقریب تجھے کانے دجال پر مبعوث کروں گا۔ تو اس کو قتل کریگا تو اس کے چوبیس سال بعد پھر ماروں گا میں تجھے جیسا کہ زندے کو مارا جاتا ہے۔

کہا کعب احبار نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موید ہے۔ جہاں آپ نے فرمایا کس طرح ہلاک کی جائے گی۔ ایسی امت جس کی ابتدا مجھ سے ہو۔ اور انتہا عیسیٰ علیہ السلام سے ہو۔

دلیل (۱۲) تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۱۸

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن ابن اسحٰق عن محمد بن مسلم الزھری عن حنظلة بن علی الاسلمی عن ابی ھریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَیَھْبِطَنَّ اللہُ عیسیٰ ابنَ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدلًا وَاِمَامًا مُقْسِطًا یَکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ وَیَضَعُ الْجِزْیَةَ وَیُفِیْضُ الْمَالَ حَتّٰی لَا یَجِدُ مَنْ یَأْخُذُہٗ وَلَیَسْلُکَنَّ الرَّوْحَاءَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ یَدِیْنُ بِھِمَا جَمِیْعًا۔

حدیث بیان کی ہم کو ابن حمید نے کہا اس نے حدیث بیان کی ہمیں سلمۃ نے ابن اسحٰق نے محمد بن مسلم زہری سے اس نے حنظلۃ بن علی اسلمی سے اس نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ضرور اُتارے گا۔ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو حکومت والا۔ انصاف والا اور امام منصف ہوگا۔ صلیب کو توڑ دے گا۔ (تمام دنیا میں یہود و نصاریٰ نظر نہ آئینگے۔ گرجا گھر مسجدیں ہو جائیں گی) اور خنزیر کو نابود کرے گا۔ (شکار کے طور پر نہیں ورنہ بجائے یقتل کے یذبح ہوتا۔ خنزیر کا نام نشان نظر نہ آئے گا۔ اور کفار کو جزیہ لگائے گا۔ اور مال عام ہو جائے گا۔ صدقہ قبول کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ کہ جس کو آدمی دے سکے۔ (ہر ایک امیر ہوگا) اور مکہ کے بازاروں میں یا عمرے کے لئے ضرور جائے گا۔ یا دونوں اکٹھے کرے گا۔

marfat.com

دلیل (۱۳)
تفسیر نیشاپوری
۲/۲۰۰

وَقَالَ الرَّبِیعُ ابْنُ اَنَسٍ اَنَّہٗ تَوَفَّاہُ وَرَفَعَہٗ اِلَی السَّمَاءِ نَائِمًا حَتّٰی لَا یَلْحَقَہٗ خَوْفٌ وَّلَا رُعْبٌ اَخَذَھَا مِنْ قَوْلِہٖ اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِھَا وَقِیْلَ التَّوَفِّیْ اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا اَیْ اٰخُذُکَ بِرُوْحِکَ وَبِجَسَدِکَ جَمِیْعًا فَرَفْعُکَ اِلَیَّ دَفْعًا لِوَھْمِ مَنْ یَّتَوَھَّمُ اَنَّہٗ اُخِذَ بِرُوْحِہٖ دُوْنَ جَسَدِہٖ وَقِیْلَ مُتَوَفِّیْکَ قَابِضُکَ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ تَوَفَّیْتُ مَالِیْ عَلٰی فُلَانٍ اَیْ اِسْتَوْفَیْتُہٗ وَقِیْلَ اَجْعَلُکَ کَالْمُتَوَفّٰی لِاَنَّہٗ اِذَا رُفِعَ اِلَی السَّمَاءِ اِنْقَطَعَ خَبَرُہٗ وَاَثَرُہٗ عَنِ الْاَرْضِ فَیَکُوْنُ مِنْ بَابِ اِطْلَاقِ الشَّیْءِ عَلٰی مَا یُشَابِھُہٗ فِیْ اَکْثَرِ خَوَاصِّہٖ وَصِفَاتِہٖ وَقِیْلَ الْمُضَافُ مَحْذُوْفٌ اَیْ مُتَوَفِّیْ عَمَلِکَ وَرَافِعُ طَاعَتِکَ فَکَاَنَّہٗ بَشَّرَہٗ بِقَبُوْلِ طَاعَتِہٖ ...... وَقِیْلَ فِیْ نَسَقِ الْکَلَامِ تَقْدِیْمٌ وَّتَاْخِیْرٌ لِاَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِی التَّرْتِیْبَ وَالْمَعْنٰی اِنِّیْ رَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُتَوَفِّیْکَ بَعْدَ اِنْزَالِکَ اِلَی الدُّنْیَا یُؤَیِّدُہٗ مَا وَرَدَ فِی الْخَبَرِ اَنَّہٗ سَیَنْزِلُ وَیَقْتُلُ الدَّجَّالَ ثُمَّ اِنَّہٗ تَعَالٰی یَتَوَفَّاہُ بَعْدَ ذٰلِکَ۔

اور کہا ربیع بن انس نے کہ تحقیق اللہ نے سُلایا عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کو اُٹھایا آسمان کی طرف سونے کی حالت میں تاکہ ان کو خوف اور رعب لاحق نہ ہو۔ اور اس ترجمہ کو انہوں نے لیا اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِھَا سے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ توفی کے معنی شی کو پورا لینا یعنی لینے والا ہوں میں تجھے بمع روح وجسم تمام کے پس اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف یہ اس شخص کے وہم کو دور کرنے کے واسطے کہ جس نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو لیا گیا ہے۔ جسم کو نہیں۔ (جیسا کہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے) اور بعض نے کہا ہے کہ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی اٹھانے والا ہوں تجھے زمین سے اور یہ محاورہ تَوَفَّیْتُ مَالِیْ عَلٰی فُلَانٍ یعنی پورا اٹھالیا میں نے اس کو فلاں سے اور بعض نے کہا ہے کہ متوفی کی طرح تجھے بنانے والا ہوں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی خبر منقطع ہوگئی اور اثر آپ کا زمین سے ہے تو (یہ بھی محاورہ ہے) کہ اکثر خواص اور صفات کی وجہ سے شیٔ کا اطلاق اس کے شبہ پر ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مضاف محذوف ہے۔ یعنی تیرے عمل کو پورا

marfat.com

دینے والا ہوں۔ اور تیری طاعت کی بنا پر تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ تو (عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی) گویا کہ ان کی طاعت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نسق کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اس لئے کہ واؤ ترتیب کی مقتضی نہیں۔ اور معنی یہ ہوں گے کہ اٹھانے والا ہوں میں تجھے اپنی طرف اور دنیا کی طرف اتارنے کے بعد تیری توفی کرنے والا ہوں اور جو حدیث شریف میں مذکور ہے اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ عنقریب اتریں گے (آسمان سے) اور دجال کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن کو مارے گا۔

دلیل (۱۴۲) تفسیر کبیر ۲/۶۸۹

فعیسیٰ علیہ السلام لما رفع الی السماء صار حالہ کحال الملائکۃ فی زوال الشھوۃ والغضب والاخلاق الذمیمۃ....... وان التوفی اخذ الشیٔ وافیا ولما علم اللہ ان من الناس من یخطر بباله ان الذی رفعه اللہ ھو روحه لا جسده ذکر ھذا الکلام لیدل علی انه علیه الصلوٰۃ والسلام رفع بتمامه الی السماء بروحه وجسده ویدل علی صحۃ ھذا التاویل قوله تعالیٰ: وما یضرونک من شیٔ۔ وان یکون ایضا توفی بمعنی استوفی وعلی کلا الاحتمالین کان اخراجه من الارض واصعاده الی السماء توفیا له۔

پس عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کا حال ملائکہ کے حال کی طرح ہو گیا۔ شہوۃ اور غضب اور اخلاق ذمیمہ کے زوال میں......... اور بیشک توفی کے معنی پورا لینا اور جب اللہ نے معلوم کر لیا کہ بعض لوگوں سے ایسا شخص بھی ہے (جیسا کہ مرزا صاحب) کہ اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو اٹھایا ہے جسم کو نہیں۔ اس کلام کا ذکر فرمایا تاکہ اس امر پر دلالت کرے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اپنے روح اور جسم کے ساتھ ہی اٹھائے گئے۔ اور اس حقیقۃ کے صحیح ہونے پر اللہ تعالیٰ کا فرمان وما یضرونک من شیٔ دلالت کرتا ہے۔ (کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب روح بمعہ جسم ہی اٹھائے جائیں۔ اور کبھی توفی بمعنی استوفی کے ہوتا ہے دونوں احتمالوں پر عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے نکالنا اور آسمان کی طرف چڑھانا عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہے۔

marfat.com

دلیل (۱۵) تفسیرِ بیضاوی ۲/۸۲

وَبَل رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیهِ) رَدٌّ وَاِنکَارٌ لِقَتْلِهٖ وَاِثْبَاتٌ لِرَفْعِهٖ۔

بَل رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیهِ۔ رد ہے اور انکار ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اور رفع کا اثبات ہے۔ وَالْمَعْنٰی اَنَّهٗ اِذَا اُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ اٰمَنَ بِهٖ اَهْلُ الْمِلَلِ جَمِیْعًا وَرُوِیَ اَنَّهٗ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ حِیْنَ یَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَیُهْلِکُهٗ وَلَا یَبْقٰی اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا یُؤْمِنُ بِهٖ حَتّٰی تَکُوْنَ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً وَهِیَ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ۔

اور معنی یہ ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام دینوں والے ایمان لائیں گے۔ اور مروی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب دجال نکلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہلاک کریں گے۔ اور کوئی اہل کتاب سے باقی نہ رہے گا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے گا۔ تاکہ دین ایک ہو جائے۔ اور وہ اسلام ہے۔

دلیل (۱۶) تفسیرِ خازن ۱/۵۱۵

اَنَّ الْهَاءَ فِیْ قَتَلُوْهُ عَائِدَةٌ اِلٰی عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَالْمَعْنٰی مَا قَتَلُوا الْمَسِیْحَ یَقِیْنًا کَمَا ادَّعَوْا۔ بے شک ھا قتلوہ میں لوٹتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور معنی (یہ ہیں) نہیں قتل کیا انہوں نے مسیح کو یقیناً۔ جیساکہ دعوی کیا انہوں نے۔ کہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے۔

اِنَّهُمْ قَتَلُوْهُ۔ وقیل ان قوله یقینا یرجع الی مابعده تقدیره وما قتلوه بل رفعه الله الیه یقینا والمعنی انهم لا یقتل عیسیٰ علیه السلام ولم یصلبوه ولکن الله عز وجل رفعه الیه۔ یعنی بعیسیٰ علیه السلام هذا قول ابن عباس واکثر المفسرین۔

تفسیرِ خازن ۱/۵۱۶ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ) یعنی ومامن اهل الکتاب (اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ) وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنْ اَهْلِ التَّفْسِیْرِ اِلٰی اَنَّ الْهَاءَ یَرْجِعُ اِلٰی عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَیْضًا وَالْمَعْنٰی وَمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِعِیْسٰی قَبْلَ مَوْتِ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَذٰلِکَ عِنْدَ نُزُوْلِهٖ مِنَ السَّمَاءِ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ فَلَا یَبْقٰی مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِیْنَ اِلَّا اٰمَنَ بِعِیْسٰی حَتّٰی تَکُوْنَ الْمِلَّةُ الْوَاحِدَةُ وَهِیَ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ۔

marfat.com

مفسرین کی جماعت اس طرف گئی ہے، کہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہی اور وہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اور معنی یہ ہیں، کہ اہل کتاب سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائیگا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے وقت ہوگا، آخیر زمانہ میں تو اہل کتاب سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائیگا، یہانتک کہ ایک مذہب ہو جائیگا۔ اور وہ دین اسلام ہے۔ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب حیات مسیح کا۔

دلیل (۱۷) معالم التنزیل ۱/۵۱۵

(وَمَا قَتَلُوْہُ يَقِيْناً) اَیْ مَاقَتَلُوْہُ عِيْسٰى يَقِيْناً (بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ) وَقِيْلَ قَوْلُهٗ يَقِيْناً يَرْجِعُ اِلٰى مَا بَعْدَهٗ وَقَوْلُهٗ مَا قَتَلُوْہُ كَلَامٌ تَامٌّ تَقْدِيْرُہٗ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَقِيْناً وَالْهَاءُ فِيْ قَتَلُوْہُ كِنَايَةٌ عَنْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ (وَمَا قَتَلُوْہُ يَقِيْناً) یعنی نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً (بلکہ اٹھالیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف) اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ کا فرمان یقیناً مابعد کے متعلق ہے۔ اور وَمَا قَتَلُوْہُ کلام پوری ہے۔ اس کی حقیقت ہوگی، بلکہ اٹھالیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یقیناً اور قَتَلُوْہُ میں ہٗ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔

دلیل (۱۸) تفسیر مدارک ۱/۱۵۴

(وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ) اَوِ الضَّمِيْرَانِ لِعِيْسٰى يَعْنِيْ وَاِنْ مِّنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيْسٰى قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى وَهُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَكُوْنُ فِيْ زَمَانِ نُزُوْلِهٖ رُوِيَ اَنَّهٗ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ فَلَا يَبْقٰى اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا يُؤْمِنُ بِهٖ حَتّٰى تَكُوْنَ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ۔

یا ضمیر اُن کی عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے یعنی اور کوئی بھی اہل کتاب سے نہیں مگر ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے پہلے اور وہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں ہونگے اور

marfat.com

روائیت کیا گیا ہے۔ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آخیر زمانہ میں آسمان سے اتریں گے تو کوئی بھی اہل کتاب سے باقی نہ رہے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایمان لائیگا۔ حتیٰ کہ دین ایک ہی رہ جائے گا اور وہ دین اسلام ہے۔

دلیل (۱۹) تفسیر کشاف ۱/۲۱۲

رُوِیَ اَنَّ رَهْطًا مِنَ الْیَهُوْدِ سَبُّوْهُ وَسَبُّوْا اُمَّهٗ فَدَعَا عَلَیْهِمْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَبِكَلِمَاتِكَ خَلَقْتَنِیْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ مَنْ سَبَّنِیْ وَسَبَّ وَالِدَتِیْ فَمَسَخَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّهُمَا قِرَدَةً وَخَنَازِیْرَ فَاجْتَمَعَتِ الْیَهُوْدُ عَلٰی قَتْلِهٖ فَاَخْبَرَهُ اللّٰهُ بِاَنَّهٗ یَرْفَعُهٗ اِلَی السَّمَاءِ وَیُطَهِّرُهٗ مِنْ صُحْبَةِ الْیَهُوْدِ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ اَیُّكُمْ یَرْضٰی اَنْ یُّلْقٰی عَلَیْهِ شِبْهِیْ فَیُقْتَلَ وَیُصْلَبَ وَیَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنَا فَاَلْقَی اللّٰهُ عَلَیْهِ شِبْهَهٗ فَقُتِلَ وَصُلِبَ وَقِیْلَ كَانَ رَجُلًا یُّنَافِقُ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا اَرَادُوْا قَتْلَهٗ قَالَ اَنَا اَدُلُّكُمْ عَلَیْهِ فَدَخَلَ بَیْتَ عِیْسٰی فَرُفِعَ عِیْسٰی وَاُلْقِیَ شِبْهُهٗ عَلَی الْمُنَافِقِ فَدَخَلُوْا عَلَیْهِ فَقَتَلُوْهُ وَیَظُنُّوْنَ اَنَّهٗ عِیْسٰی۔

روایت کیا گیا ہے کہ یہود کے ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اُن کی والدہ کو گالیاں دیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اُن پر بددُعا فرمائی، تو میرا رب ہے اور قسم ہے مجھے تیرے کلمے کی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ لعنت بھیج جنے مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دیں، اللہ نے اُن کو شکل انسانی سے بگاڑ کر بندر اور خنزیر بنا دیا، تو باقی یہود عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر جمع ہو گئے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ اس کو آسمان کی طرف اُٹھا لیگا اور یہود کی صحبت سے پاک کر دیگا۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تمہارا کونسا پسند کرتا ہے۔ کہ اس کی طرف میری شبہ ڈالی جاوے۔ تو قتل کیا جاوے اور صلیب دیا جاوے۔ اور داخل ہو گا جنت کو۔ تو ایک آدمی نے اُن سے کہا کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈالدی تو قتل کیا گیا اور صلیب دیا گیا اور بعض نے کہا ہے۔ کہ وہ آدمی منافق تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام سے منافقت کیا کرتا تھا، تو جب ارادہ کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا تو منافق نے

marfat.com

کہا میں تمہیں عیسیٰ کی خبر دیتا ہوں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ منافق پر ڈالا گیا تو وہ منافق پر داخل ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ عیسیٰ ہی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کے بازو کا ٹوٹنا اور لنگراہٹ کا ہونا اور دائیں آنکھ میں نقص ہونا، زبان میں لکنت کا پایا جانا، دائمی خارش کا رہنا، دماغ کی خرابی، گردہ دھانے سے شاہ رگ کا کٹنا، پھوڑا نکلنا۔ یہ تمام مرزا صاحب کو عیسےٰ علیہ السلام کے متعلق منافقت اور تبرا بازی کا نتیجہ ہے، جو ان کی بددعا سے ہی ثابت ہو رہا ہے۔

دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اُٹھایا جانا جو بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ کی تائید میں حیات سماوی عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر رہی ہے۔

تیسری بات جو ان سے منافقت رکھتے اور ان کی شبہ کا متمنی تھا تو وہ دار پر لٹکا گیا۔ اور بصورت دیگر یہ کہ اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہہ کی ضرورت اس لئے تھی کہ جوان کو آسمان پر چلے جانے کو جائز سمجھے کہ حضور میں اس بات کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ آسمان پر تشریف لے جاویں اور میں آپ کی شبیہہ بنجاؤں اور آپ بچ جائیں تو وہ بھی ایک بار دوبارہ ضرورت ہی نہیں اور جو ان کے آسمان پر جانے کو ہی محال اور بُرا سمجھے اور ناممکن سمجھے، وہ کیسے اور کیوں؟ اور شبیہہ کا وجود بھی اس وقت ضروری تھا۔ جب کہ اُن کو یہودیوں کے پھندے سے چھوڑانا مقصود تھا اور اس کو اکیلے نفاق کی وجہ سے سزا دینی مقصود تھی،

دلیل (۲۰)
تفسیر کشاف
۱/۳۱۳

وَالضَّمِيْرُ اِنْ لِعِيْسٰى بِمَعْنٰى وَاِنْ مِّنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى وَهُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِىْ زَمَانِ نُزُوْلِهٖ رُوِىَ اَنَّهٗ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَلَا يَبْقٰى اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا يُؤْمِنُ بِهٖ حَتّٰى تَكُوْنَ مِلَّةً وَّاحِدَةً وَهِىَ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ

marfat.com

فِیْ زَمَانِہِ الْمَسِیْحُ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الْاَمَنَۃُ حَتّٰی تَرْتَعُ الْاُسُوْدُ مَعَ الْاِبِلِ وَالنُّمُوْرُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَیَلْعَبُ الصِّبْیَانُ بِالْحَیَّاتِ وَیَلْبَثُ فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً ثُمَّ یَتَوَفّٰی وَیُصَلِّیْ عَلَیْہِ الْمُسْلِمُوْنَ وَیَدْفِنُوْنَہٗ

اور ان کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہے باین معنیٰ کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائیگا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے پہلے اور وہ اہل کتاب جو آپ کے نزول کے زمانے میں موجود ہوں گے، روائیت کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں اتریںگے۔ تو اہل کتاب سے کوئی بھی باقی نہ رہ جاویگا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیح ایمان لائیگا۔ (بیٹا کہنا چھوڑ دینگے اور رسول اللہ ہونیکا محض عقیدہ رکھیں گے) حتیٰ کہ ایک دین ہو گا۔ اور وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تعالےٰ مسیح کے زمانے میں دجال کو ہلاک کریگا اور ایسا امن واقع ہو گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ چرینگے۔ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکری کے ساتھ اور لڑکے سانپوں سے کھیلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال رہائش فرمائینگے۔ پھر فوت ہوں گے اور اس پر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اور اس کو دفن کرینگے۔

اس عبارت سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ اتنا امن عامہ ہوگا۔ کہ شیر اونٹ کے ساتھ چرینگے اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکری کے ساتھ چرینگے۔ لیکن وہ ان کو کھائیں گے نہیں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا امن کا زمانہ جو آنے والا ہے اور ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے نہیں، اگر آتے تو ضرور ایسا ہی ہوتا۔ مرزا صاحب نے دعوائے مسیحیت کا کیا، سبحان اللہ کجا اللہ کجا ٹیں ٹیں، کجا عیسیٰ علیہ السلام اور کجا مرزا غلام احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اتنا امن عامہ ہو گا اور زمانہ مرزا غلام احمد صاحب کا یہ کہ انسان انسان کا دشمن ہے۔ کروڑوں بھوک کے مارے مر رہے ہیں جیلیں مجرموں سے پر ہیں، کچہریاں فوجداری اور دیوانی دعووں سے دوانی ہیں، احترام ماں باپ کیا، بھائی بھائی سے کیا، عورت خاوند سے بیزار، خاوند عورت سے بیزار، ہر چیز کی گرانی، عرصہ دراز سے قحط، انسان و حیوان بیماریوں میں مبتلا، زمین حرکت میں، بادل گھرتے ہیں لیکن بارش مفقود

marfat.com

ہے، فصل نظر نہیں آتا، کیا یہ امن ہے؟ کیا یہ زمانہ عیسوی ہے، اسلام کے خاص خاص مقامات نظر آرہے ہیں، کیا یہ زمانۂ فساد نہیں، معلوم ہوا کہ زمانۂ عیسے علیہ السلام قریب ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کا دنیا مصداق بن چکی ہے اور بجائے اس کے کہ مرزائیت کا زور ہوتا، مرزائی مرزائیت سے تنگ آکر تائب ہو رہے ہیں، مرزائیوں کی حالت اتنی ناگفتہ بہ ہے، کہ باوجود ہر شاطرانہ چال کے دنیا کے کسی گوشے میں جلسۂ مرزائیت محال ہو چکا ہے۔ کیا وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ کے یہی معنی ہیں، کیا تم نے عربی پڑھی نہیں بلکہ عربی آلو پڑھا ہوا ہے، جو تمہارے دماغ میں علم قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہونے دیتا۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب، خفتہ را خفتہ کے کند بیدار، تم نے پہلے کہا تھا، کہ توفی کے معنی پورا اجر دینے کے توفی کے معنی پورا اٹھا لینے کے، اب میں نے دیکھا ہے، کہ تم نے بھی توفی کے معنی موت کے لئے ہیں، جب ہم اِنِّیْ مُتَوَفِّيْكَ میں معنی مارنے والے کے کرتے ہیں۔ تو تم سیخ پا ہو جاتے ہو، کہ اوہو اوہو غلط معنی کرتے ہو اور اب تو توفی کے معنی مذکورہ بالا عبارتوں میں تم نے خود موت کے کئے ہیں۔ مسلمان کہلاتے ہو، اپنے گھر کا قرآن نہ بناؤ۔ توفی کے معنی قرآن مجید میں موت کے آتے ہیں، دیکھو وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ۔ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا۔ يَتَوَفّٰىهُمْ۔ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ يَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ۔ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا۔ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔ کیا ان میں معنی موت نہیں تو اور کیا، قرآن میں معنی موت کے ہوں، تفسیروں میں ہوں، حدیثوں میں ہوں، لیکن تم نہیں مانتے، ہمارے مرزا صاحب قرآن کے معنی بدلنے والوں کو ہی درست کرنے تشریف لائے ہیں،

"محمد عمر"۔ دوست تم نے تو مرزائیت والا پورا زور لگا دیا، ناراضگی معاف، قرآن کریم تو نہ تمہارے گھر کی کتاب ہے۔ نہ میرے گھر کی، خدا کی کتاب ہو، عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو جتنا عرب اہل لسان سمجھتے ہیں اتنا

marfat.com

نہ تم سمجھتے ہو، نہ میں اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سمجھا ہے ایسے تم اور ہم نہیں سمجھ سکتے، علیٰ ہذا القیاس صحابہ کرام بعد ازاں تابعین بعدہٗ تبع تابعین بعد ازاں خیر القرون نے جتنا سمجھا اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے، ساڑھے تیرہ سو سال سے زائد عرصہ گذر چکا ہے، قرآن کریم کو نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آجتک کوئی مسلمان مُتَوَفِّيكَ اور تَوَفَّيْتَنِيْ کے معنی نہ سمجھ سکا، صرف مرزائیوں کو ہی اب سمجھ آئی ہے، مَعاذ اللہ سب گمراہ اور صرف تم ہدایت پر ہو کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر مثال تمہارے ذہن نشین ہو جائے گی تو اصل بھی جلدی ذہن نشین ہو گا، کسی کے پاس کوئی اس غرض سے جائے، کہ مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ جس سے میں شادی کرا لوں۔ تو مسئول عَنہٗ جواب دے کہ تمہارے گھر میں ایک عورت رہتی ہے تم اس سے شادی کرالو، تو سائل جواب دیگا، کہ وہ تو میری ماں ہے، میاں خبردار ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ماں سے شادی ہو سکتی ہے، غضب کر رہے ہو، تو مسئول عنہ کہے، کہ میاں صاحب تیری لڑکی بھی عورت اور وہ بھی عورت، عورت ہونے میں تو یکساں ہیں، یا یہ کہو، کہ تمہاری ماں عورت نہیں، تو وہ ضرور کہے گا کہ تُو تو بیوقوف ہے، یا اسلام کے توانین سے ناواقف ہے، جو ماں کو عورت سمجھ کر شادی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شرعی منہیات کو دیکھتا ہی نہیں، تو مسئول عَنہٗ کہدے کہ تم ہمشیرہ سے شادی کرلو، وہ بھی تو عورت ہے، خالہ سے کرلو، پھوپھی سے کرلو، وَغَیْرَھُنَّ وَغَیْرَھُنَّ، دیکھو جی میں اس بھلے آدمی کو اس کے گھر کی اتنی عورتیں گنا رہا ہوں یہ ان سے شادی نہیں کرتا اور میری طرف دوڑتا ہے، کیا وہ عورتیں نہیں، تو سائل ایسے شخص کو حواس باختہ شمار کریگا اور یہی سمجھے گا کہ شاید جو مجھے تعلیم دیتا ہے، کہ ہمشیرہ سے شادی کرلو، ماں وَغَیْرَھُنَّ سے شادی کے لئے کہتا ہے، میں تو اس بیوقوف کے کہے ایسا فعل جس سے شریعتِ مطہرہ نے منع فرمایا ہے، کر نہیں سکتا، اسے سوال نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے، کہ یہ اپنی بیٹی سے خود نکاح کریگا، کیونکہ اس کے نزدیک اچھا کام ہے، تبھی تو مجھے ترغیب دلاتا ہے،

بھائی جھگڑا تو یٰعِیْسٰیٓ اِنِّیْ مُتَوَفِّيكَ اور فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ کا ہے۔ کہ اس آیت کے

marfat.com

ماتحت کسی صحابی نے، کسی تابعی نے کسی مفسر نے یہ استنباط کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اوّل تو اکثریت اسی طرف ہے، کہ یہاں معنی موت کے نہیں، بلکہ توفی کے معنی پورا اٹھانے کے تمام کرتے ہیں، اور جب ان آیات متنازعہ فیہا کا تنازعہ تفاسیر سے حل کرتے ہیں، تو ان آیات کو چھوڑ کر ہمارے قرآن سے ہمیں وہ مقامات پیش کرتے ہیں، کہ جہاں قرینہ موت، فرشتہ، ہلاکت وغیرہم موجود ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے مقام پہ قرینہ حیات موجود لیکن مرزائی منکر، اور اتنی تحریف کے درپے ہیں کہ رفع کے معنی پھیرتے ہیں، توفی کے معنی بدلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السّماء کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانی فرمادے تو بھی انکار، اور اگر کسی نے موت کے معنی کئے بھی ہوں تو وہ موت عیسوی ثابت نہیں کرتا، بلکہ نسق عبارت کو مقدم مؤخر مانتا ہے۔ اب مرزائی اس کے معنی مُمِيتُكَ تو فوراً اپنے مطلب کے لئے لے لیتا ہے، لیکن انہوں نے جو آگے تقدم و تاخر کو لکھا ہے اس کا قائل نہیں ہوتا، کبھی کسی تفسیر کا حوالہ دیتا ہے، کبھی کسی تفسیر کا۔ ذرا اس آیت کے ماتحت تو کوئی مستند تفسیر نکال کر دکھاؤ۔ اور بعض مفسرین جنہوں نے مُمِيتُكَ کا لکھا ہے۔ تو ان کے تمام عقیدہ کو بیان نہیں کیا جاتا۔

آؤ مرزائیو! اگر ہمت ہے تو دکھاؤ، کہ متقدمین یا متاخرین میں سے کوئی شخص وفاتِ مسیح کا قائل ہؤا ہو، معنی گو کسی نے مُمِيتُكَ کے بھی کئے ہوں، پھر بھی وہ عبارت کے تقدم و تاخر کو مانیں گے، اور حیاتِ مسیح کے قائل ہونگے۔ کیونکہ حیاتِ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی کئی آیتیں صریح ہیں، موت کی ایک بھی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیاتِ مسیح علیہ السلام کے قائل تھے۔ جیسا کہ فقیر نے مفسرین کی بیان کردہ حدیثیں حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مختصراً پیش کی ہیں، تم ایک تفسیر سے ہی پیش کر دو، جس میں لکھا ہو۔ اِنَّ عِيسٰى مَاتَ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ فقیر نے دکھایا ہے، اِنَّ عِيسٰى لَمْ يَمُتْ کہ حضرت عیسیٰؑ مرے نہیں۔ کوئی کسی کتاب سے ہی حدیث پیش کر دو۔

"مرزائی"۔ میں نے سمجھ لیا کہ تفسیر ابن عباس کے متعلق کہہ رہے ہو، کہ اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدم و تاخر کو لیا ہے، تو بخاری شریف میں اِنِّیْ مُمِيتُكَ مراد لینا ہمارے مخالف نہ ہؤا، کیونکہ تقدم و تاخر میں حیاتِ مسیحؑ ثابت ہو گی،

marfat.com

لیکن مولوی صاحب اس تفسیر کے متعلق تو حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان کے راوی جنکو مفسرین نے ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے وہ مجاہیل ہیں، پ

"محمد عمر"۔ تمہارے راوی کشن سنگھ اور گنڈا سنگھ اور شرن پت ملا وامل ہو تو روایت کو مضبوط سمجھو، تفسیر تمہیں سب سے آخری فیصلہ عرض کرتا ہے۔ کہ مُمِیْتُکَ کا قول با سند نہیں۔ اس واسطے قابل عمل نہیں، اور ہم تفسیر ابن عباس کی طرف جاتے ہی نہیں۔

"مرزائی"۔ تمام مفسرین کا لکھنا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ پ

"محمد عمر"۔ بھائی اگر تمام مفسرین کا منسوب کرنا تمہارے لئے محض اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو تقدم و تاخر بھی تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ بنا بریں تفسیر ابن عباس کا تقدم و تاخر لکھنا صحیح ثابت ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں، تو متوفی کے معنی نیند اور پورا اٹھانا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت اور صحیح ہؤا۔ جس کا اگر انکار کرو تو منکر قرآن بنجاؤ، تم مرزائی بیچارے کیا سمجھو؟

لفظ کے معانی دو اقسام کے ہوتے ہیں، حقیقی اور فرعی۔ حقیقی معنی تمام معانی کے واسطے جنس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور باقی فرعی تمام اس کے انواع ہوتے ہیں، جب لفظ بولا جائے تو پہلے حقیقی معنی مراد لئے جاوینگے، اگر کوئی قرینہ متعلقہ موجود ہو، تو اس کے انواع میں سے مطابق قرینہ مراد لئے جا دینگے، چنانچہ توفی کے اصل معنی اَخذ الشئ وافیاً ہیں، جیسا کہ ماقبل اس کی تحقیق گذر چکی ہے۔ اور اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی ہؤا ہے۔ باقی موت نیند وغیرہ سب فروعات اور انواع ہیں، چنانچہ جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں، ان کے لئے موت، فرشتہ، ہلاکت یا دغیو وغیرہ قرائن موجود ہیں،

توفی کے انعامی اشتہار کا جواب

"مرزائی"۔ میرا دعویٰ ہے اور انعام بھی پیش کرتے ہیں، جو توفی کے معنی سوائے موت کے ثابت کردے، جس فعل توفی کا فاعل خدا ہو، مفعول ذی روح ہو، باب تفعل سے کوئی ایسا فعل دکھاؤ جیسا کہ میں نے تمہارے سامنے آیات پڑھی ہیں، پ ۲۹۲

"محمد عمر"۔ تم جلدی سے روک دیتے ہو، مطلب کو پورا نہیں کرنے دیتے۔ سنیئے میں

marfat.com

تمہیں ایسی آیات پیش کر دیتا ہوں، پھر تم ایمان لانا یا نہ۔ گو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں

(۱)۔ بقرہ ۳/۳۸	ثُمَّ تُوَفّٰی کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ o پھر پورا دیا جائیگا ہر نفس جو اس نے عمل کیا اور وہ ظلم نہ کئے جائینگے
(۲)۔ آل عمران ۴/۱۸	ثُمَّ تُوَفّٰی کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ o ترجمہ ہو چکا ہے۔
(۳)۔ نحل ۱۴/۱۵	یَوْمَ تَأْتِیْ کُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰی کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ o قیامت کے دن آئیگا ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کریگا اور پورا دیا جاویگا ہر نفس جو اس نے عمل کیا اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔

ان آیات کریمہ میں باب توفی یعنی تفعل ہے۔ اور جس کو دیا جاویگا وہ نفس ہے۔ اور فاعل حقیقی معطی خداوند کریم ہے۔ تین آیات باب توفی کی ایسی پیش کر دی گئیں، جن کے معنی مارنے کے کئے جاویں تو کفر لازم آجائے گا۔ کیوں جناب مرزائی صاحب کچھ خدا کا خوف کرو، اور ایمان لے آؤ، سنو۔

(۴)۔ زمر ۲۴/۵	اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت اور جو نہیں مرے سلاتا ہے ان کو ان کی نیند میں۔

اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا۔ تم نے جھٹ پڑھ دیا، جو اپنے مطلب کی آیت تھی، لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ قرآن مجید ہے اس میں غداری کرنا جہنم کا ایندھن بننا ہے، حضرت العزت عَالِمُ الْغَیْبِ کو مرزائیوں کا پہلے ہی سے علم تھا کہ مرزائیوں نے توفی بھی موت لینے ہیں، اس واسطے اس نے اپنی کتاب لاریب میں توفی کے دونوں معنی بیان فرما دیئے اور ثابت فرما دیا، کہ معنی قرینہ سے کیا کرو، جو محاورہ عرب کو نہ سمجھے وہ میری کلام کو نہ پڑھے توفی بمعنی موت و توفی بغیر موت یعنی نیند وغیرہ، تو پہلی آیت کریمہ میں موت قرینہ تھا، تو معنی موت ہوئے اور دوسری آیت میں قرینہ نوم یعنی نیند ہے، اس واسطے توفی بمعنی نیند ہوئے تو دوسرے جملہ میں وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا میں وہی پہلی توفی موجود

marfat.com

ہے، توفی فعل اور فاعل اللہ کریم اور مفعول نفس ذی روح ۔ لائیے انعام ۔ لیکن مرزائی اور انعام دینا یہ بعید از عقل سلیمہ ہے، جس نے خداوند سے وعدے کو پورا نہیں کیا، وہ مسلمانوں سے وعدہ کب پورا کرتا ہے، تو توفی کے دونوں معنی ثابت ہو گئے، موت بھی اور بغیر موت بھی، وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا میں توفی موجود، لیکن موت موجود نہیں،

(۵) انعام ۷/۷	وَهُوَ الَّذِیْ یَتَوَفّٰکُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہ ذات ہے، جو تمہیں رات کو سلاتا ہے، اور جو تم دن میں عمل کرتے ہو، جانتا ہے ۔

کیوں جناب مرزائی صاحب باب توفی موجود، فاعل اللہ اور مفعول ذی روح،

تمہارا مرزائیوں کا چیلنج منظور اور توفی کے معنی موت کے علاوہ نیند، اور پورے اُٹھانے کے ثابت ہو گئے، اگر صحیح مرزا صاحب کے بنتے ہو، تو انعام رکھ دو۔

وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ؕ

"**مرزائی**" ۔ مولوی صاحب یہاں قرینہ لیل موجود ہے، اس واسطے توفی کے معنی نیند میں موت نہیں ۔ ۲۹۶

"**محمد عمر**" ۔ اچھا اب قرینہ یاد آیا، جب انعام رکھا تھا، تو تمہارا قانون کیا تھا ۔ اپنے قانون کو یاد کرو ۔ اور ذرا دیر کے واسطے اپنے خالق کو یاد کرو ۔ مرزا صاحب کو ذرا دیر کے لئے پس پُشت رکھو ۔ کیونکہ تمہاری جان مرزا صاحب کے قبضہ میں نہیں، خداوند کے قبضہ میں ہے ۔ سچ کہنا کہ تمہارا قانون خداوند کریم کی آیات کریمہ پیش کر کے توڑ دیا گیا یا نہیں، جب تمہارا قانون ٹوٹ گیا اور توفی کے معنی موت کے علاوہ ثابت ہو گئے، تو معلوم ہوا ۔ کہ یہ تمہارا جعلی قانون تھا اصولی قانون نہ تھا، جو آیت قرآنی نے ھَبَآءً مَّنْثُوْرًا کر دیا ۔ اور ان آیات قرآنی نے تمہارے قانون کے بخیے اُدھیڑ دیئے ۔ یہ تو بتاؤ کہ یہاں تو ایک لیل کا قرینہ موجود ہے، اُس آیت میں پانچ قرائن موجود ہیں، کیا اگر یہاں ایک قرینے سے توفی کے معنی بدل گئے ہیں، تو وہاں پانچ قرائن موجود سے توفی کے معنی نہ بدلے،

marfat.com

لیکن تمہاری مرزائیت تمہیں صحیح معنی کرنے سے عاجز کر دے، تو فقیر کا کیا قصور ہے۔
(۱)۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی کی دعا فرمانا اور اللہ کریم کا قبولیت فرما کر حوصلہ افزائی کرنا۔
(۲)۔ رَافِعُكَ إِلَيَّ۔
(۳)۔ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔
(۴)۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
(۵)۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ۔

کیا یہ وعدے زندگی کے متعلق نہیں؟ اور دنیاوی ہیں یا اُخروی۔ جب دنیا میں وعدے دنیاوی ہو رہے ہیں، تو تم جعلی تاویلیں کر کے آیت کے معنی بگاڑو تو تمہیں خدا بگاڑے۔ اور سنیئے۔

(۶)۔ آل عمران ۴/۱۹
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور کوئی بات نہیں قیامت کو تمہیں تمہارے اجور پورے دئے جائیں گے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب، تم تو کہتے تھے، توفی موت ہی ہے اور کچھ نہیں۔
اب تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا۔ کہ موت علیحدہ ہے اور توفی علیحدہ ہے، تو ثابت ہوا۔ کہ توفی کے معنی موت ہی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔ اب اہل لسان کی بات ماننی پڑے گی، جو علامہ رازی نے لکھی ہے۔ سنو۔

تفسیر کبیر ۲/۶۹۰
وَعَلَىٰ كِلَا الْاِحْتِمَالَيْنِ كَانَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِصْعَادُهُ إِلَى السَّمَاءِ تَوَفِّيًا لَهُ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَىٰ هٰذَا الْوَجْهِ كَانَ التَّوَفِّي عَيْنَ الرَّفْعِ إِلَيْهِ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ تَكْرَارًا۔ قلنا قوله إني متوفيك يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء فلما قال بعده ورافعك الي كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكرارًا۔

اور احتمالین پر عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے نکالنا اور آسمان کی طرف چڑھانا اس کے لئے توفی ہے۔ (امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے توفی کے معنی واضح کر دئے) پھر اگر کہا جائے

marfat.com

تو اس وجہ پر توفی کے معنی عین اللہ کی طرف چڑھنا تو اس کا فرمان وَرَافِعُکَ اِلَیَّ تکرار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں، کہ اللہ کا فرمان انی مُتَوَفِّیْکَ حصول توفی پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ جنس ہے۔ اس کے ماتحت کئی نوعیں ہیں، بعض اس کی موت کے ساتھ اور بعض آسمان کی طرف چڑھانے کے ساتھ، تو جب اللہ نے بعد اس کے فرمایا وَرَافِعُکَ اِلَیَّ تو اس قسم سے (آسمان کی طرف چڑھنے) کا یقین ہو گیا۔ اور تکرار نہ ہوا۔ اور آسمان پر چڑھنے کا امر یقینی ہو گیا۔

تو ثابت ہوا۔ کہ توفی کے معنی اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا شئی کو پورا لینا جنس اور اصل اصعاد ہے اموت ونیند وغیرہم اس کے انواع اور فروعات ہیں، ہر لفظ کے معنی پہلے اصل لئے جاوینگے فرع بعد میں، اور فرع بھی وہی مراد لی جاوے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لی ہو، صحابہ کرامؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ اور سلف صالحینؒ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آجتک یہاں تمام نے توفی کے معنی پورا لینے اور آسمان پر چڑھنے کے مراد لئے یا جو معنی موت کے کرے تو ترتیب کے تقدم وتاخر کا قائل ہو، ہر صورت تمام فرقے معانی خواہ کیسے بھی مراد لیں، لیکن ہر ایک نتیجہ حیات مسیح سماوی کا نکالے تو آپ کون ہیں، جو ان سے تمام معانی چھوڑ کر نصف معنی وہاں سے لے کر اپنے مطالب کی طرف پھیر لے جاؤ، اور تمام مفسرین وسلف صالحین کو غلطی پر سمجھو اور صرف اپنے آپکو یا اپنے ہمنواؤں کو قرآن کریم کے معانی اُلٹ پُلٹ کرکے حق پر سمجھو تو یہ اسلامی ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور وہ تمام سلف صالحین کی قرآن دانی کو کبھی غلط اور دھوکا نہیں سمجھیگا، اور اپنے دفار اور ریسٹ کے متمنی کو خود غرضی کی بنا پر جھوٹا سمجھے گا۔

"مرزائی"۔ تم نے جو معنی اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا کے کئے ہیں، وہ بھی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، لفظ شئی غیر ذوی العقول پر بولا جاتا ہے اور مُتَوَفِّیْکَ میں اور تَوَفَّیْتَنِیْ میں ذوی العقول ہیں، تم بیچارے عربی کو کیا سمجھو۔

"محمد عمر"۔ میرے دوست اب تم قریب قریب آگئے ہو، شکر ہے تمہاری زبان سے بھی توفی کے معنی اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا نکلا، لیکن تمہیں جو آگے مغالطہ ہوا ہے۔ وہ محض وکالت مرزائیہ نے دھوکا دیا ہے۔ اگر اسلامی وکیل ہوتے تو دھوکے کے

marfat.com

گڑھے میں کبھی نہ گرتے۔ کیونکہ قرآن مجید کو ہی ملاحظہ فرمالیتے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہؤا۔ کہ ذوی العقول پر قابض وقادر ہے، اور غیر ذوی العقول پر نہیں، مگر خیر یہ تمہارے اختیار نہیں، یہ کفالت مرزائیہ کا اثر ہے، کہ قرآن کریم کو ملاحظہ نہیں فرمایا، تو پاؤں پھسل گیا، اچھا اب بھی سنبھل جاؤ، اور توفی کے معنی اَخْذُ الشَّیْءِ وَافِیًا کے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے واسطے یکساں تسلیم کرکے سمجھ لو۔ کہ توفی کے اصل معنی شئ کو پورا اٹھالیا، ذوی العقول سے ہو یا غیر ذوی العقول سے اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

(۲)۔ رعد ۱۶/۱۳ قُلِ اللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ۔ فرمادیجئے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر شئ کا خالق ہے، اب ذرا دیر کے لئے دماغ درست کرو، تو تمہیں سمجھ آجائے گی۔ لفظ شئ کے استعمال سے کل شئ میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول تمام شامل ہیں یا نہیں، لیکن اگر آنکھوں پر مرزائی چشمہ لگا کر ملاحظہ فرماؤ گے، تو شاید اس مقام پر بھی یہی سمجھ آجائے، کہ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ میں بھی غیر ذوی العقول کا خالق اللہ اور ذوی العقول کا خالق مرزا صاحب ہو۔ بھائی میرے خیال میں جب کبھی وکالت کا موقعہ ملتا ہوگا تو یہ مصرعہ ہی جناب کی زبان پر ہوتا ہوگا۔

ع صبا شرمندہ مے گردد بروئے گل نگہ کردن

یعنی ہر مطلب کو اُلٹ سمجھنا۔ تمہارے اس شبہ کو دور کرکے توفی کے معنی پورا اٹھانا اور نیند کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھانا ثابت ہؤا۔

(۳)۔ حجر ۱۴/۲	وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُہٗ
(۴)۔ نحل ۱۴/۵	اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَدْنٰہُ اَنْ نَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ۝
(۵)۔ نحل ۱۴/۱۴	وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتٰبَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَّھُدًی وَّرَحْمَۃً وَّبُشْرٰی لِلْمُسْلِمِیْنَ ۝

دلیل ۱۲۔ تفسیر کبیر ۳/۵۰۲ قَالَ کَثِیْرٌ مِّنَ الْمُتَکَلِّمِیْنَ اَنَّ الْیَھُوْدَ لَمَّا قَصَدُوْا

marfat.com

قَتْلَهُ رَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَی السَّمَاءِ۔

کہا جماعت کثیر نے متکلمین سے کہ یہود نے جب ارادہ کیا اس کے قتل کا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف۔

دلیل (۲۲) تفسیر کبیر ۳ ۵۰۲

وَ کَلُوْا بِعِیْسٰی رَجُلاً یَحْرِسُهٗ وَصَعِدَ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْجَبَلِ وَرُفِعَ اِلَی السَّمَاءِ وَ اَلْقَی اللّٰهُ شِبْهَهٗ عَلٰی ذَالِکَ الرَّقِیْبِ فَقَتَلُوْهُ وَهُوَ یَقُوْلُ لَسْتُ بِعِیْسٰی۔

یہود نے ایک آدمی کو وکیل بنایا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھائے گئے، اور آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے شبہ ڈال دیا اس رقیب پر تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں،

دلیل (۲۳) تفسیر کبیر ۳ ۵۰۴

قَالَ السُّدِّیُّ اَنَّ الْیَهُوْدَ حَبَسُوْا عِیْسٰی مَعَ عَشَرَةٍ مِّنَ الْحَوَارِیِّیْنَ فِیْ بَیْتٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْیَهُوْدِ لِیُخْرِجَهٗ وَ یَقْتُلَهٗ فَاَلْقَی اللّٰهُ شِبْهَ عِیْسٰی عَلَیْهِ وَرُفِعَ اِلَی السَّمَاءِ فَاَخَذُوْا ذَالِکَ الرَّجُلَ وَقَتَلُوْهُ عَلٰی اَنَّهٗ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ۔

کہا سدی نے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دس حواریوں کی معیت میں ایک مکان کے اندر بند کر دیا، تو اُن پر یہود سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، تاکہ اُن کو نکال کر قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ اُس پر ڈال دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو یہود نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور انہوں نے اُسے قتل کر دیا، اس خیال سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں،

دلیل (۲۴) تفسیر کبیر ۳ ۵۰۴

(وَمَا قَتَلُوْهُ یَقِیْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ) رَفْعُ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ اِلَی السَّمَاءِ ثَابِتٌ بِهٰذِهِ الْاٰیَةِ وَنَظِیْرُ هٰذِهِ الْاٰیَةِ قَوْلُهٗ فِیْ اٰلِ عِمْرَانَ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔

(اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً بلکہ چڑھایا،

اس کو اللہ نے اپنی طرف) عیسیٰ السلام کا آسمان کی طرف چڑھنا اس آیت سے ثابت ہے اور اس کی مثال اللہ کے فرمان سورۃ آل عمران میں گذر چکی ہے۔
اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مَامَضَتْ آیات کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کے ثابت ہونے کا ارشاد فرمادیا ہے۔ اب اگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی عبارت کا تم نے ہیر پھیر کیا تو غیر مسموع اور لغو سمجھا جاوے گا۔

دلیل (۲۵) تفسیر ابن جریر ۶/۹	حدثنا محمد بن الحسین قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط عن السدی ...... اَنَّ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ قَدْ صَعِدَ بِهٖ اِلَی السَّمَاءِ

بے شک عیسیٰ علیہ السلام تحقیق چڑھائے گئے آسمان کی طرف،

دلیل (۲۶) تفسیر ابن جریر ۶/۱۲	حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمٰن قال حدثنا سفیان عن ابی حصین عن بن جبیر عن ابن عباس وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ قَالَ مَوْتَ عِیْسَی بْنِ مَرْیَمَ۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے مگر قسم اللہ کی ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے اُسکے مرنے سے پہلے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مَوْتِهٖ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ (یعنی عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے مرنے سے پہلے۔

دلیل (۲۷) تفسیر ابن جریر ۶/۱۲	حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابی عن سفیان عن ابی حصین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۔ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِیْسٰی (عَلَیْهِ السَّلَام)۔

دلیل (۲۸) تفسیر ابن جریر ۶/۱۲ | حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علیه

marfat.com

عن ابی رجاء عن الحسن فی قولہ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ قال قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، واللہ انہ لحی عند اللہ ولکن اذا انزل اٰمنوا بہ اجمعون ٥

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے فرمان میں وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ ۔ فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قسم ہے اللہ کی بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور لیکن جب وہ اتریں گے تمام اس کے ساتھ ایمان لاوینگے۔

دلیل (۲۹)
تفسیر ابن جریر ۶/۱۲

حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابو اسامہ عن عوف عن الحسن اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ قال عیسیٰ لم یمت بعد۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ کے متعلق آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ابھی مرے نہیں،

دلیل (۳۰)
ابن جریر ۶/۱۲
ابن کثیر ۱/۵۷۶

حدثنی محمد بن سعد قال حدثنی ابی قال حدثنی عمی قال حدثنی ابی عن ابیہ عن ابن عباس قولہ وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ یعنی انہ سیدرک اناس من اھل الکتاب حین یبعث عیسیٰ فیؤمنون بہ

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے فرمان وَاِنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ ، یعنی تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کو اہل کتاب سے لوگ پائیں گے، جب اللہ ان کو بھیجے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا دیں گے۔

کیوں جناب! یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالےٰ عنہ کا فرمان اور اس کو کہتے ہیں فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تم لئے پھرتے ہو۔ تُمِیتُکَ بغیر سند کے۔ جس کی سند ہی نہیں، اس کا کیا وثوق ہو سکتا ہے۔ کہ ان کا فرمان ہے یا نہیں، تم مرزا صاحب کی تقلید کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستند فرمان اور قرآن کے صحیح ترجمے کو جو حضرت عباس

marfat.com

رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کیا ہے چھوڑ کر اپنا ترجمہ کرو۔ اور جو قول محض ان کی طرف منسوب ہے، کہ لے کر ادھر ادھر کی باتیں ملا کر بتنگڑ بنا لیتے ہو، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ جو صحیح منقول ہے۔

دلیل (۳۱) تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۷	وَاِنَّمَا شُبِّهَ لَهُمْ فَقَتَلُوا الشِّبْهَ وَهُمْ لَا يَتَبَيَّنُوْنَ ذَالِكَ ثُمَّ اِنَّهُ رَفَعَهُ اِلَيْهِ وَاِنَّهُ بَاقٍ حَيٌّ وَاِنَّهُ سَيَنْزِلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْاَحَادِيْثُ الْمُتَوَاتِرَةُ الَّتِيْ سَنُوْرِدُهَا اِنْشَاءَ اللّٰهُ قَرِيْبًا۔

اور کوئی بات نہیں شبہ دیا گیا ان کو، تو انہوں نے اس شبہ کو قتل کر دیا، اور وہ اس کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ پھر تحقیق اٹھایا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، اور بے شک وہ باقی ہیں، زندہ ہیں، اور بے شک وہ عنقریب اتریں گے۔ روز قیامت کے پہلے۔ جیسا کہ اس پر تمام احادیث متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ جن کو انشاء اللہ ہم جلدی بیان کرینگے۔

(اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء الی الارض صحیح ثابت ہوا۔ ان کا زندہ بجسد عنصری آسمان پر موجود ہونا۔ اور نازل ہونا ان احادیث متواترہ سے ثابت ہوا۔ اور جو کوئی ان کا منکر ہو، وہ قرآن اور احادیث متواترہ کا منکر ہے)۔ کیوں جناب ایسی واضح ایک ہی روایت تو دکھاؤ اگر ایمان ہے۔

دلیل (۳۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۷	(ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا) اى باعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه الى السماء وبعد نزوله الى الارض (اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب پر بھگتیں گے، یعنی ان کے اعمال پر جو ان سے انہوں نے مشاہدہ فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف جانے سے پہلے بھی اور زمین پر اترنے کے بعد بھی۔

دلیل (۳۳) تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۷	وقال ابن ابى حاتم حدثنا ابى حدثنا على ابن عثمان اللاحقى حدثنا جويرية ابن بشر قال سمعت رجلًا قال

marfat.com

لِلْحَسَنِ یَا اَبَا سَعِیْدٍ قَوْلَ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ (وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ) قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِیْسٰی۔ اِنَّ اللّٰہَ رَفَعَ اِلَیْہِ عِیْسٰی وَھُوَ بَاعِثُہٗ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ مَقَامًا یُؤْمِنُ بِہِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَکَذَا۔ قَالَ قَتَادَۃُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَیْدِ بْنِ اَسْلَمَ وَغَیْرُہٗ وَاحِدٍ وَھٰذَا الْقَوْلُ ھُوَ الْحَقُّ کَمَا نُبَیِّنُہٗ بَعْدُ بِالدَّلِیْلِ الْقَاطِعِ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ وَبِہِ الثِّقَۃُ وَعَلَیْہِ التُّکْلَانُ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ یا ابا سعید اللہ کے فرمان (وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ) کا کیا مطلب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے پہلے ایسا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور وہ اس کو بھیجنے والا ہے۔ قیامت کے پہلے ایک مقام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نیک و بد ایمان لائے گا۔ اور اسی طرح قتادہ نے اور عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے کہا ہے۔ اور سوائے ایک کے اور یہی بات سچی ہے۔ جیسا کہ ہم انشاء اللہ اس کو بعد میں عنقریب دلیل قاطع سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے ساتھ وثوق ہے۔ اور اسی بات پر بھروسہ ہے۔

دلیل ۴۳
تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۴

قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابومعاویۃ عن الاعمش عن المنھال ابن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ رفع عیسیٰ مِنْ رَوْزَنَۃٍ فِی الْبَیْتِ اِلَی السَّمَاءِ

اور اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشندان سے آسمان کی طرف۔

اب سناؤ! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار باسند حدیثیں حیات مسیح علیہ السلام کے متعلق ہیں، کہ ان کا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا تھا۔ اگر اب بھی کہو، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری والا جو بے سند مذکور ہے وہی مستند ہے۔ اور اس سے وفات مسیح ثابت ہوتا ہے۔ تو اس ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں، سوائے اس کے کہ وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ ٥

marfat.com

دلیل (۳۵) تفسیر جامع البیان ۵۱

فَالْمُرَادُ کَهْلًا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ
تو مراد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کہولت کی ان کے نزول کے بعد ہے۔
وَقِیْلَ فِیْ ذِکْرِ وَکَهْلًا بِشَارَةٌ لِمَرْیَمَ بِبَقَائِهٖ اَوْ اِشَارَةٌ اِلٰی اَنَّهٗ لَا یَصِلُ اِلٰی سِنِّ الشَّیْخُوْخَةِ
اور بعض نے کہا ہے۔ وَکَهْلًا کے بیان میں مریم علیہا السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہنے کی خوشخبری ہے، یا اشارہ ہے کہ وہ ابھی ادھیڑ عمر کو پہنچے نہیں۔

دلیل (۳۶) تفسیر بیضاوی ۲/۱۰

اِنَّهٗ رُفِعَ شَابًّا وَالْمُرَادُ وَکَهْلًا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ۔
بے شک عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے (آسمان کی طرف) جوانی کی حالت میں اور ادھیڑ عمر کا زمانہ (آسمان سے) نزول کے بعد گذاریں گے۔

دلیل (۳۷) تفسیر خازن ۱/۲۹۳

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ وَکَهْلًا یَعْنِیْ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ کَهْلًا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ مِنَ السَّمَاءِ اِلَی الْاَرْضِ وَیَقْتُلُ الدَّجَّالَ۔
اور حسن بن فضل نے کہا، وَکَهْلًا یعنی اور کلام کریگا ادھیڑ عمر میں آسمان سے اترنے کے بعد اور اس میں نص ہے اس امر پر کہ عیسیٰ علیہ السلام عنقریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔

اس مذکورہ بالا عبارت سے ثابت ہوا، کہ نصوص قرآنیہ جیسا کہ یہ بھی ان سے ایک نص ہے سے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع وحیات سماوی اور نزول من السماء کا منکر ہے وہ اجماعًا نصوص قرآنیہ کا منکر ہے۔

دلیل (۳۸) تفسیر معالم التنزیل ۱/۲۹۳

(وَکَهْلًا)۔ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ وَکَهْلًا بَعْدَ نُزُوْلِهٖ مِنَ السَّمَاءِ۔
اور کہا حسن بن فضل نے اور زمانہ ادھیڑ عمر عیسیٰ علیہ السلام

marfat.com

دلیل (۵۲) تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹	حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید عن قتادہ وانہ لعلم للساعۃ قال نزول عیسیٰ ابن مریم علم للساعۃ القیامۃ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ وانہ لعلم للساعۃ کے متعلق فرمایا آپنے کہ عیسیٰ ابن

مریم علیہما السلام کا اترنا قیامت کا نشان ہے۔

دلیل (۵۳) تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹	حدثنا ابن عبد الاعلی قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادہ فی قولہ وانہ لعلم للساعۃ قال نزول عیسیٰ بن مریم علم للساعۃ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وانہ لعلم للساعۃ کے متعلق آپنے فرمایا عیسیٰ ابن

مریم علیہما السلام کا اترنا قیامت کی نشانی ہے۔

دلیل (۵۴) تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹	حدثنا محمد قال حدثنا احمد قال حدثنا اسباط عن السدی وانہ لعلم للساعۃ قال خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامۃ۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وانہ لعلم للساعۃ کے متعلق آپنے فرمایا، عیسیٰ

ابن مریم علیہما السلام کا نکلنا ہے۔

دلیل (۵۵) تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹	حدثت عن الحسین قال سمعت ابا معاذ یقول اخبرنا عبید قال سمعت الضحاک یقول فی قولہ وانہ لعلم للساعۃ۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ضحاک سے

سُنا۔ وہ اللہ تعالےٰ کے فرمان وانہ لعلم للساعۃ کے متعلق فرماتے تھے
یعنی خروج عیسیٰ ابن مریم ونزولہ من السماء قبل یوم القیامۃ۔
کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہما السلام کا نکلنا اور ان کا آسمان

marfat.com

سے اُترنا قیامت کے پہلے ہے۔

دلیل (۵۶) تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹

حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وھب قال قال ابن زید فی قولہ وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ قال نزول عیسی ابن مریم علمٌ للساعۃ حین ینزل۔

ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ کے متعلق فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کا اترنا قیامت کا نشان ہیں، جب اتریں گے۔

کیوں جی مرزائی صاحب اس کو کہتے ہیں تفسیر پیش کرنا اور حوالے کا لطف بھی یہی ہے۔ کہ بغیر کسی جعلی تاویل کے یا اپنی طرف سے کسی لفظ بڑھانے کے عبارت کا ترجمہ ہی بیان کرنے سے مخاطب کے مطلب کو پورا کردے، سامع ایمان لادے یا نہ۔ اور مخاطب کو متکلم پر اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ بشرطیکہ مخاطب سامع میں کچھ ایمان اور انصاف کا کچھ ذرہ باقی ہو۔ لیکن اگر مرزائیت نے بالکل ہی صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَھُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ بنا دیا ہو۔ تو اس کو اللہ ہی ہدایت دے۔

چھپن حوالہ جات عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آسمان پر چڑھنے اور اُن کا قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کے قرآن سے بلا تاویل دکھی زیادتی اور اس کا ترجمہ حدیث شریف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تبع تابعین سے باسند پیش کئے گئے۔

اب تمہیں اگر ضرورت نجات اخروی ہے۔ اور قیامت کے میدان میں وحدہٗ لاشریک کے روبرو کھڑا ہونا حق سمجھتے ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا بہتر سمجھتے ہو، تو مرزا غلام قادیانی کی جماعت میں شامل ہو کر ان کے عقیدہ کے مطابق بنالو، ورنہ یاد رکھو۔ عیسیٰ بن چراغ بی بی جیسے خود ساختہ مسیح کے ماننے والوں کو عیسیٰ بن مریم علیہما السلام تلوار سے ہی درست کریں گے۔ کیونکہ جب ورم میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو اس کو پلٹسوں سے جسم کے اندر بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جراح اس پر بغیر چیر پھاڑ کے اور کوئی حیلہ نہیں کرتا۔ تاکہ زہر بدن میں نہ

marfat.com

پھیل جائے۔

اے جعلی مسیح کے معتقدو۔ اب تم بھی امت مصطفٰےؐ کے پکے اور ظاہرا دشمن باہر نکل چکے ہو۔ اب بھی اگر تمہارے ایمانوں میں پیپ نہیں پڑی، ابھی محض گندا خون ہی کھولتا ہے۔ یعنی کسی کے بہکانے میں ہی چل رہے ہو۔ تو ان تمام حوالہ جات سے تسلی کر کے مومنین مُصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم میں رَچ بچ جاؤ، اور اگر مرزائیت تمہارے ایمانوں میں گھر چکی ہے اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ذرہ بھی تمہارے اندر باقی نہیں رہا، تو تمہارا علاج بھی سوائے عیسوی ٹیکہ کے اور کوئی نہیں تم عیسٰی بن مریم کا نام گڑھ کر ہی عیسٰی علیہ السلام کو مردہ سمجھ بیٹھے ہو نہ۔ تمہیں یہ علم ہونا چاہیئے۔ کہ مسیح عیسٰی علیہ السلام کا خداوند کریم نے لقب رجسٹرڈ کیا ہؤا ہے۔ جب وہ نام والا آ گیا تو یاد رکھو۔ قدنی اس کی تلوار کے وار سے پھر چھڑا نہ سکے گا۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مظلوم ہے۔ اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں۔ تمہارے جعلی مسیحوں کے واسطے ہی خداوند کریم نے اصلی مسیح کو آسمان پر محفوظ رکھا ہے۔ مسیح عیسٰی علیہ السلام کا نام ہے۔

نساء ٦/٢٣ ۔ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۔

مائدہ ٦/١٠ ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۔

مائدہ ٦/١٠ ۔ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ

توبہ ١٠/١٤ ۔ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

توبہ ١٠/١٤ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۔

آل عمران ٣/٥ ۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

نساء ٦/٢٤ ۔ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ ۔

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ

marfat.com

مرزائیوں کے اعتراضات کی حقیقت

مرزائی: "حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ قال ابن عباس مُتَوَفِّیْکَ مُمِیْتُکَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کے مقابلے میں کسی اور کا ترجمہ مسموع نہیں، جو وفاتِ مسیح ثابت کر رہا ہے۔ ص۳۲۵"

محمد عمر: پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ چھ حدیثیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق گذر چکی ہیں، لہذا ان کے مقابلہ میں یہ قول مستند نہیں، فقیر اور عرض کرتا ہے۔ کہ مرزائی صاحب آپ کا ایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے یا ان کی کتاب پر۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ وہ تو حیات مسیح کے قائل تھے۔ جیسا کہ انہوں نے بخاری شریف جلد اول ص۴۹۰ میں باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام تحریر فرمایا ہے۔ اور اس کے ماتحت حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء کی صحیح و مرفوع حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر تمہاری طرح وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہوتے۔ تو کوئی ایک ہی وفات مسیح علیہ السلام ناصری پر صحیح حدیث نقل فرما دیتے یا ایسے ہی ایک باب جیسا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تحریر فرمایا ہے۔ بجائے اس کے باب وفاتِ عیسیٰ علیہ السلام کا لکھتے۔ اور اس کی حدیثیں پیش فرماتے۔ مگر نہیں بلکہ بجائے وفاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تحریر فرمایا۔ تو معلوم ہوا۔ انکا عقیدہ بھی وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا نہ تھا۔ بلکہ حیاتِ عیسوی کے معتقد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی نہیں۔ بلکہ تمام محدثین نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے اور ان کی آئندہ زندگی کے حالات درج فرمائے۔ باب وفات عیسیٰ علیہ السلام کسی محدث کا بھی نہ لکھنا بلکہ ان کی آئندہ زندگی سے متعلقات والی احادیث کا درج کرنا حیاتِ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے اجماعی مسئلہ ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف پر ایمان کامل ہے۔ تو اُس کی

marfat.com

دو صورتیں ہیں۔

(۱)۔ تمام کتاب پر ایمان ہے یا نصف پر یا ربع پر یا اپنے مطلب بر آری پر یا کتاب بخاری شریف کو محض آلۂ کار بنا کر اپنے مرزائیوں کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اگر تمام کتاب پر ایمان ہے۔ تو دریافت طلب یہ امر ہے۔ کہ دوسری جزو کے باب التفسیر کے ایک بے سند قول پر تمہیں عقیدہ رکھنے کا موقعہ ملا لیکن پہلی جلد کی صفحہ ۴۹۰ کی صحیحہ اور متواترہ حدیثیں جو حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہی ہیں، ان پر عمل کرنے سے تمہیں کونسی ممانعت درپیش ہے۔ کیونکہ تم نے تمام انبیاء کرام سے ایک نبی کے متعلق اپنے ایمان کو صحیح یا غلط پر رکھنا ہے۔ تو تمہیں احادیث صحیحہ مرفوعہ اور متواترہ کو درگذر کرتے ہوئے آگے ایک غیر مستند قول پر تمہارا یقین جا ٹھہرا۔ تو معلوم ہؤا، کہ تم مرزائیوں نے بخاری شریف کا نام پبلک کے سامنے ایک آلۂ کار بنایا ہؤا ہے۔ تاکہ مسلمان لوگ بخاری شریف کا صرف نام سُن کر مرتد ہو جائیں اور بخاری شریف کے کسی حصّے پر بھی تمہارا ایمان درست نہیں۔ بخاری شریف کی ایسی مستند حدیثوں کو چھوڑ کر ایک بے سند قول کو جو محض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی طرف منسوب ہی ہے جس کی سند آج تک کوئی مرزائی پیش نہیں کر سکا اور نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کو باسند بیان کیا ہے۔ آؤ اگر اسی پر تمہارا ایمان جم چکا ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے ہی حل کر دوں۔ سنیئے!

تفسیر ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۳۹

(اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ) مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ۔

یعنی اس عبارت کے سیاق میں تقدم تاخر ہے۔ یعنی رفع پہلے اور متوفی بعد میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ اگر مُتَوَفِّيْكَ کے معنی مُمِيْتُكَ کے کرتے ہیں۔ تو رفع کو مُقَدَّم بھی مانتے ہیں۔ اور توفی کو بعد میں۔ تو رفع سماوی عیسوی کے بِجَسَدِهٖ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ بھی قائل ثابت ہوئے۔ تمہاری طرح وفات مسیح علیہ السلام کے تو وہ بھی ثابت نہ ہوئے۔

marfat.com

تو تمہارا مدعا تو مُتَوَفِّيكَ کے معنی مُمِيتُكَ کرکے بھی ثابت نہ ہوا۔

"مرزائی" - تفسیر اتقان میں اس تفسیر کے راوی مجاہل لکھتے ہیں۔ لہذا یہ مستند نہیں،

"محمد عمر" - پہلی بات یہ ہے۔ کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرح قابل قبول نہیں۔ کیونکہ تمام محدثین و مفسرین کی خاموشی اس کے صحیح ہونے پر دال ہے۔ تمام سے محض ایک شخص کی جرح قابل قبول نہ ہوگی، جب تک کہ جماعت محدثین یا مفسرین کی جرح موجود نہ ہو، جو کم از کم تین ہوں، جب اور کسی کی جرح اس پر نہیں، تو محض ایک جرح حجت نہ ہو سکیگی،

دوسری بات یہ ہے، تفسیر ابن عباس پر جو اتنی بڑی اور باسند کتاب ہے اس کے تو رجال پر جرح فوراً یاد آگئی، لیکن مُتَوَفِّيكَ کے معنی مُمِيتُكَ کا جو تم نے حوالہ دیا ہے۔ اس کی تو سند کا تو ایک رجل بھی مذکور نہیں کیا وہ قابل حجت ہے۔ یا اس تفسیر ابن عباس کے مقابلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باسند حدیثیں پیش کردو۔ ورنہ اس قول کی تشریح کے لئے اس تفسیر کو پیش کرنا صحیح ہوگا، ایک صورت تو یہ ہے۔ اب اگر تمہارا ایمان مومنوں والا ہے اور بخاری شریف کو بحیثیت کتاب احادیث ہونے کے سمجھتے ہو تو بخاری شریف کی احادیث صحیحہ پر ایمان رکھو، جو حیاتِ مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا بتا رہی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور اگر تم نے بصورتِ دیگر بنظر مرزائیت بخاری شریف کو دیکھنا ہے۔ تو آؤ تمہاری تسلی تمہارے مرزا صاحب سے ہی کرا دیں۔

تحفہ بغداد مصنفہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی **۲۳**	فَالْحَقُّ اَنَّ الْاَحَادِيْثَ اَكْثَرُهَا اٰحَادٌ وَلَوْ كَانَتْ فِي الْبُخَارِيِّ اَوْ فِيْ غَيْرِهَا وَلَا يَجِبُ قُبُوْلُهَا اِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيْقِ وَالتَّنْقِيْدِ۔

پس حق بات یہ ہے۔ حدیثیں اکثر احاد ہیں اگرچہ بخاری میں ہوں یا کسی اور میں اور ان کا قبول کرنا واجب نہیں۔ مگر تحقیق و تنقید کے بعد بخاری شریف کی احادیث صحیحہ کو تو تاویل باطلہ سے ٹھکرا دو، اور جو قول بے سند بیان کیا ہو، ان تمام کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دیتے ہو۔ مرزا صاحب تو

marfat.com

بخاری کی حدیثوں میں احاد ثابت کر رہے ہیں، اور تم ایک منقطع قول کو آیات قرآنیہ اور احادیث مرفوعہ صحیحہ کے مقابلہ میں حجت بنا رہے ہو، کچھ شرم سے کام لو اور اگر تم نے کسی قانون کو ہی ہر صورت قبول نہیں کرنا، اپنا ہو یا پرایا، تو آؤ تمہیں ایک حدیث صحیحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نُزُوْل مِنَ السَّمَاءِ کی سُنا دیتے ہیں، تاکہ میدانِ محشر میں تمہارے سامنے تمہارے ایمان نہ لانے پر تمہاری بے ایمانی ثابت ہو جائے اور حجت بنے۔

کنز العمال ۷ ۲۶۸	قال ابن عباس قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فعند ذالک ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء علیٰ جبلِ افیق۔

قیامت کے علامات بیان فرماتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت (یعنی قرب قیامت) اتریں گے میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم (عیسیٰ بن چراغ بی بی نہیں) آسمان سے جبل افیق پر۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل فرمایا، یہ حدیث تین سندوں سے مرفوع ہے، کسی موقعہ پر تفعیر عرض کرونگا۔

انصاف

خادم صاحب نے اپنی پاکٹ بک کے صد ۲۹۴ تا صد ۲۹۵ توفی کے معنی موت کے لیکر چند حدیثیں پیش کیں، جن میں حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ دُور کا تعلق بھی نہیں، خادم صاحب انصاف یہ ہے کہ آپ یا تو ایسی باسند چند حدیثیں پیش کر دیجئے جنمیں حضرت عیسیٰؑ کا مرنا لفظ موت سے ثابت ہو، تاکہ توفی کی ترجمانی تمہارے عقیدہ کیمطابق ہو جائے، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا، تو تم یہ فرض ہے کہ توفی کے معنی چڑھنے کے یا پورا اٹھانیکے جو تمام مفسرین امت محمدیہ نے کئے ہیں، اور اسکی تائید میں موت کے علاوہ بھی توفی کا استعمال نیند اور پورا ادا کرنیکے قرآن کریم میں پیش کیا گیا اور توفی کے معنی چڑھنے کی مزید تائید کے لئے رفع کا لفظ بھی حیات مسیحؑ کو ثابت کر رہا ہے اور صحاح ستہ و دیگر کتابوں کی احادیث صحیحہ مصطفویہ حیات عیسیٰؑ کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانیکی موجود ہیں تو آپ اپنے محض مرزائی ہونیکی وجہ سے کیوں اعراض کر رہے ہو، باوجودیکہ حضرت عیسیٰؑ کیلئے لَمْ یَمُتْ کا جملہ بھی موجود ہے لیکن پھر بھی امت مرزائیہ اصل کو چھوڑ کر توفی کے محاورے موت کے دیکھ کر اڑے رہیں اور امت محمدیہ توفی کے معنی خلاف موت قرآن اور حدیث سے دکھاتے رہیں تو جھگڑا ختم نہ ہوگا جب تک آپ عیسیٰؑ کی موت کا لفظ نہ دکھائیں یا لَمْ یَمُتْ کی "

اِنعام

اگر کوئی مرزائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے
مرفوعًا وفات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت دے
تو
فقیر اس کو مبلغ ایکہزار روپیہ انعام پیش کریگا،

"مرزائی" - تفسیر خازن نے المراد بالتوفی حقیقۃ الموت لکھا ہے ۲۹۵
"محمد عمر" تم تلاش کروگے اور آیتوں کے مطابق لیکن اگر خازن پر ایمان ہے۔ تو فقیر اس کے متعلق بسط سے بیان کرچکا ہے۔ نمونہ پھر عرض کرتا ہے۔ تفسیر خازن نے اسی آیت کے تحت اِنِّیْ تَارِکُکَ وَرَافِعُکَ مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ لکھا ہے۔
بیشک میں پورا اٹھانے والا ہوں تمہیں اور چڑھانے والا ہوں تجھے بغیر موت کے، کیوں جی، یہ ہے خازن اور یہ بیان ہے متنازع فیہا آیت کا۔ آؤ تمہیں میں ایک قاعدہ عرض کروں، کہ جب تمہارا کوئی مرزائی تمہیں کسی تفسیر کا حوالہ پیش کرے تو تم اس کو یہ کہنا کہ اگر تفسیروں پر ایمان رکھتے ہو، تو ان متنازعہ فیہا آیات کا بیان دکھاؤ تو جو مضمون فقیر نے ماقبل عرض کیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہی نکلے گا۔ کبھی غلط نہ ہوگا۔ پھر مرزائی کی جان جائے۔ جو کہے کہ اگر تو تفسیر کا حوالہ نہیں دکھاتا تو میں مرتا ہوں، مرزائی کبھی کسی تفسیری کتاب کو اٹھانا گوارا نہ کرے گا۔ کیونکہ کتب تفاسیر تمام مرزائی کے برخلاف ہیں، اور مرزا صاحب پہلے تو موجود تھے نہیں اور مفسرین نے وہی مذہب و روش اختیار کی ہے۔ جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی آئی، اور وہ حیات سماوی عیسوی اور ہبوط من السماء عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ اسی واسطے انہوں نے اس پر دلائل لکھے ہیں، وفات عیسیٰ پر ایک بھی نہیں۔

marfat.com

"**مرزائی**" - تفسیر کبیر میں لکھا ہے متوفی کے معنی ہیں. مُسْتَوْ عُمُرَ كَ فَحِيْنَئِذٍ اَتَوَفَّا
فَلَا اَتْرُكُهُم حَتّٰى يَقْتُلُوْكَ اس سے بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوتی ہے
"**محمد عمر**" - دوست تفسیر کبیر کے حوالہ جات فقیر پہلے بیان کر چکا ہے - دوبارہ لوٹانے
کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے وکیل مرزائی نے جو تمہیں دھوکا دیا، وہ واضح
کر دوں، تم نے تفسیر کبیر کی عبارت پیش کی ہے۔ تمہارا یقین تفسیر کبیر پر بھی نہیں۔ اگر
تمہارا یقین اسی پر ہے۔ تو پہلے تفسیر کبیر کے حوالہ جات سابقہ ملاحظہ ہوں، پھر مرزائیت
کے پردے کو ایک طرف رکھ کر سوچو، کہ متوفی کے معنی تم نے خود ہی مُسْتَوْ عُمُرَ كَ
بیان کئے ہیں۔ یعنی تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں، تو تم نے خود تسلیم کر لیا، کہ متوفی کے
معنی پورا کرنے والا ہوں۔ اس عبارت سے موت تو ثابت نہ ہوئی۔ بلکہ پورا کرنا ثابت
ہوا۔ اگر مارنا مقصود ہوتا، تو تمّ عُمُرَ كَ ہوتا۔ یعنی عمر پوری ہو چکی، پھر تو موت ثابت
ہوتی۔ اور مُتَمِّمُ عُمُرَ كَ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ تمہیں مارنا چاہتے
ہیں، ابھی تیری عمر پوری نہیں ہوئی، اس لئے میں تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں، وقت
سے پہلے یہ تجھ پر قادر نہیں ہو سکتے۔

مرزائیت کے وکیل صاحب کو کچھ عبارت کھانے کی عادت ہے. لیکن یہ ان کے اختیار
نہیں، یہ ان کا دیرینہ شیوہ ہے۔ سنیئے۔

فَحِيْنَئِذٍ اَتَوَفَّاكَ فَلَا اَتْرُكُهُم حَتّٰى يَقْتُلُوْكَ بَلْ اَنَا رَافِعُكَ اِلٰى سَمَائِىْ
وَمَقَرِّ مَلٰئِكَتِىْ وَاَصُوْنُكَ اَنْ يَّتَمَكَّنُوْا مِنْ قَتْلِكَ تو اس وقت پورا اٹھانے
والا ہوں تم کو، پس نہیں چھوڑوں گا میں ان کے پاس تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں، بلکہ
میں اپنے آسمان کی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں اور ملائکہ کے پاس تجھے قریب
رکھنے والا ہوں اور تجھے بچاؤں گا اس بات سے کہ وہ مسلط ہو جائیں تیرے قتل سے؟
اور اسی صفحہ کی پچیسویں سطر پر توفی کے معنی کئے اِنَّ التَّوَفِّىْ اَخْذُ الشَّيْءِ وَافِيًا
توفی کے معنی پورا اٹھانے کے ہیں، یہ اس لئے فرمایا تاکہ بعد میں مرزائیوں کو خوش
کرنے کے واسطے اَتَوَفَّاكَ میں دھوکا نہ ہو، اور اس کی پوری تحقیق پہلے گذر
چکی ہے) پھر آگے آخیر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ نکالا ہے۔ جو اسی صفحہ کے
دوسری طرف یعنی $\frac{۲}{۶۹۰}$ پر سطر گیارہ پر مذکور ہے۔ اِنَّ قَوْلَهٗ رَافِعُكَ اِلَىَّ يَقْتَضِىْ

marfat.com

اَنَّہٗ رَفَعَہٗ، جناب بے شک اللہ کا فرمان رَافِعُکَ اِلَیَّ مقتضی ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔

کیوں جناب اور حوالہ دو تفسیر کبیر کا، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مرزائیت کے دانت کھٹے کر دئے، پھر تفسیر کبیر کو ہاتھ نہ لگانا، اس کی تحقیق پہلے گذر چکی ہے۔ اس واسطے جو شخص اس کو پڑھ لیگا وہ تمہارے دھوکے میں کبھی نہ آئیگا۔

"مرزائی" - تفسیر درمنثور میں لکھا ہے ابن جریر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے مُتَوَفِّیْکَ کے معنی مُمِیْتُکَ کے کئے ہیں، یعنی مارنے والا۔ تو تمہاری بات کیسے سُنیں۔ ۹۹

محمد عمر۔ دوست اس کا مکمل جواب فقیر نے ابھی قریب ہی دیا ہے۔ کہ اگر مُمِیْتُکَ کے معنی کئے ہیں، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرجانا مراد نہیں لیا، بلکہ عبارت کو مقدم مؤخر تسلیم کیا ہے، یعنی رفع سماوی پہلے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ بعد نزول ماریگا، ابھی مارا نہیں، یعنی مُمِیْتُکَ معنی کرنے سے بھی وفات مسیح جو تمہارا عقیدہ ہے ثابت نہیں ہوتا، اگر کچھ انصاف ہے، تو ایمان کو مقدم رکھو، نہ کہ مرزائیت کو اور افسوس یہ ہے، کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میرے دوست نے دیا ہے۔ لیکن ان کی یہ عبارت نہ ملاحظہ فرمائی ہوگی، وَرَافِعُکَ اِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا مِنْ غَیْرِ مَوْتٍ میں تجھے دنیا سے بغیر موت کے اُٹھانے والا ہوں،

یہ ہے میرے وکیل دوست کا تجاہل عارفانہ، خداوند ہدایت بخشے۔ اور قرآن اور حدیث صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق بخشے، خدا جس کو علم نصیب فرمادے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹہ بھی گلے میں ڈالے جس سے ایمان بھی آجائے۔

"مرزائی" - تفسیر فتح البیان میں فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کے نیچے لکھا ہے۔ قیل ھذا یدل علی اَنَّ اللہَ سُبْحَانَہٗ تَوَفَّاہُ قَبْلَ اَنْ یَّرْفَعَہٗ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اُٹھانے سے قبل وفات دیدی تھی،

محمد عمر۔ یہ فرقہ وہابیہ کی تفسیر ہے۔ اس واسطے ان کا ذمہ دار فقیر نہیں، مرزائیت وہابیت کا بودا ہے۔

"مرزائی" - اچھا مولوی صاحب یہ تفسیر تو آپ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

marfat.com

تفسیر کشاف نے لکھا ہے، مُتَوَفِّيْكَ کے معنی مُمِيْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ یعنی طبعی موت سے مارنے والا ہے اور مدارک میں بھی یہی لکھا ہے، جو حنفیوں کی مستند کتاب ہے، اب بتاؤ کہ کیا یہ مرزائی تھے۔ ۲۹۹؎

"محمد عمر" کاش اگر مرزائیت قبول نہ کرتے تو مخلوق خدا کو اتنا دھوکا نہ دیتے، کہ تمام عبارت چھوڑ دی اور آخری جملہ لے لیا، پوری عبارت عرض کرتا ہوں، ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔

تفسیر کشاف ۱/۱۹۲	(انی متوفیك) اَیْ مُسْتَوْفِیْ اَجَلَكَ وَمَعْنَاهُ اَنِّیْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ یَقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمُؤَخِّرُكَ اِلٰی اَجَلٍ كَتَبْتُهٗ لَكَ وَمُمِیْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ لَا قَتْلًا بِاَیْدِیْهِمْ۔

(اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ) یعنی تیری اجل کو پورا کرنے والا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں، کہ میں تجھے اس امر سے بچانیوالا ہوں، کہ کفار تجھے قتل کریں، اور تجھے مہلت دینے والا ہوں جس اجل تک میں نے اس کو لکھا ہے۔ اور (بعد ازاں) تیری اپنی موت سے تجھے ماروں گا، تو ان کے ہاتھوں قتل نہ ہو گا۔

یہ ہے جناب تفسیر کشاف، جس کا نام ہی کشاف ہو، یعنی پردے کھولنے والا، جس نے آج تک کسی بے دین کا پردہ نہیں رہنے دیا، بھلا وہ مرزائیت کا پردہ کیسے رہنے دے، کشاف کا مال مسروقہ اور کشاف کی گود میں رکھتے ہو، بھائی چور بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے۔ اور سنیئے۔

وَقِیْلَ مُمِیْتُكَ فِیْ وَقْتِكَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُكَ الْاٰنَ۔

اور بعض نے کہا ہے کہ تیرے وقت میں میں تجھے مارنے والا ہوں، (اور وقت تیرا کب ہو گا) آسمان سے اُترنے کے بعد اور اب اُٹھانے والا ہوں (آسمان کی طرف)

کیوں جناب اب بتائیے! مرزائیت کا گورکھ دھندا کشاف نے نکالدیا۔ یا نہ، اگر بالتفصیل دیکھنا ہے۔ تو ما قبل تفسیروں کے باب میں ملاحظہ ہو، اور بعینہٖ یہی عبارت مدارک وغیرہ میں مذکور ہے۔ یہ ہے تمام جھوٹ کا پول، مرزائی "یَتَوَفّٰی" کو تمام تفاسیر کا حوالہ ملاحظہ ہو، معنی موت ہی لکھے ہیں،

۲۹۹؎ کامل

جس سے توفی کے معنی موت ہی لکھے گئے ہیں۔

محمد عمر - جناب عرض یہ ہے کہ متنازعہ فیہا آیت کے ماتحت توفی کے معنی کسی مفسر سے دکھاؤ، جب کسی مفسر نے موت وہاں نہیں لکھے تو ثابت ہؤا، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، جیساکہ ماقبل گزر چکا ہے۔ اور مرزائیوں نے باقی آیات کو جس میں رب العزت نے توفی بمعنی موت کئے ہیں، اس میں کسی کو جھگڑا نہیں، اور وہاں قرائن موت وغیرہ موجود بھی ہیں، تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے، اور اس کی کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اس کو سمجھا ہے۔ اھد شتی القرون والا نہیں سمجھ سکتا، پھر تیرا سو برس سے زائد گزر چکے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو سمجھ نہ آئی، جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کو سمجھ آئی کیا توفی کے معنی میں اپنے مرزا صاحب کو سچا کرنے کیواسطے الجھ رہے ہو، کیا متوفی کے معنی قرآن مجید میں مختلف نہیں، جہاں معنی زندہ اٹھانے کے ہیں، وہاں اگر موت کے معنی لیتے ہو، تو تمہیں چاہیئے، کہ جہاں موت کے معنی ہوں وہاں زندہ اٹھانے کے کر لو، کیونکہ تم مرزائیوں نے تو قرآن کے معنی اُلٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہؤا ہے۔ اپنا اپنا ٹھیک ہے۔ کسی نے سڑکوں کا ٹھیکہ لیا، کسی نے عمارتوں کا، کسی نے بڑھئی کا، کسی نے قرآن کے معنی اُلٹ کرنے کا۔

اے فرقہ مرزائیہ! یاد رکھو۔ قیامت کو تم نے پیش ہونا ہے۔ کچھ سوچو، جو اپنے مرزا صاحب کے کلام ناقص کو مثلاً مرزا صاحب کہیں کہ مرزائیت انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اس کی کئی کئی تاویلیں کر کے بات کا بتنگڑ بناؤ، مرزا صاحب فرمائیں کہ میں آدمی زادہ نہیں ہوں یعنی آدمی کا تخم ہی نہیں، تم ان کو کئی نخروں نزاکتوں سے اچھل اچھل کر سیخ پا ہو کر سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو ایسے جس کو خدا الٹا کرے اس کو کون سیدھا کرے۔ لیکن ضرور کوشاں تو ہو حتیٰ کہ آیات فرقانیہ مرزا صاحب کے مقابلہ میں بھی آ جاویں، تو تم مرزا صاحب کو صحیح سمجھتے ہو، اور آیاتِ صریحہ کو اُلٹ دیتے ہو، جیساکہ توفی کے معنی قرآن کریم میں سونے کے بھی آئے اور پورا اٹھانے کے مستعمل بھی ہوئے اور وہی لفظ پورا اجر دینے کے لئے بھی استعمال ہؤا، اور موت کے معنی میں بھی آیا، لیکن تم مرزائیوں نے مرزا صاحب کی تقلید کر لی، قرآن کے معنی

marfat.com

مرتد کر لئے، ایمان رہے، یا نہ رہے۔

کیا قرآن کریم میں ظلم کا لفظ مختلف معنوں میں مستعمل نہیں ہؤا، مثلاً کفار کے واسطے بھی آیا،

شعراء ۱۹/۲ — وَاِذْ نَادٰی مُوْسٰی اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ۔
اور جب موسیٰؑ کو خداوند نے بلایا کہ اے موسیٰ ظالموں کی قوم کی طرف آ جو قوم فرعون ہے۔

نحل ۱۴/۹ — فَتِلْكَ بُیُوْتُهُمْ خَاوِیَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا۔
تو یہ ان کے گھر خالی پڑے بہ سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔

ہود ۱۲/۱۰ — وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔
اور نہ مائل ہو تم ظالموں کی طرف پھر تمہیں آگ مس کریگی،

ہود ۱۲/۹ — وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِیَ ظَالِمَةٌ
اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِیْمٌ شَدِیْدٌ۔

اور اسی طرح تیرے رب کی گرفت ہے۔ جب اس نے کسی بستی کو پکڑا جو ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ سخت تکلیف دینے والی ہے۔

آل عمران ۳/۹ — وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۝
اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ (جیسا کہ مرزائی)

مسلمانوں پر بھی استعمال ہؤا

بقرہ ۱/۱۴ — وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ یُّذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ
وَسَعٰى فِیْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَا
اِلَّا خَآئِفِیْنَ ۝

اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا یہ کہ اس میں اللہ کے اسم کا ذکر کیا جائے، اور اس کے خراب کرنے کی کوشش کی، یہی ہیں جن کے لئے جائز نہیں کہ مساجد میں داخل ہوں مگر خائف ہو کر۔

مومنوں پر استعمال ہؤا۔

حجرات ۲۶/۲ — یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ یَّكُوْنُوْا خَیْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ یَّكُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

marfat.com

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِیْمَانِ وَمَنْ لَّمْ یَتُبْ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۔

اے ایمان والو نہ ہنسی اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی شاید وہ اس سے اچھے ہوویں اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کی، شاید وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ عیب جوئی کرو اپنے مسلمانوں کی اور نہ پکارو تم بُرے لقبوں سے ایمان لانے کے بعد گنہگار ہونا ہے، اور جس شخص نے توبہ نہ کی تو یہی وہ ظالم ہیں۔

تو ظلم کے لفظ کا مصداق علیحدہ علیحدہ اور متبائن ہونیکی وجہ سے مطلب الگ، جو تم فرقہ مرزائیہ پر ڈالتا ہوں کہ بتاؤ ظلم کے معنی کیا کیا ہونگے، یا ایک ہی، جب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو پھر وہاں کیوں نہیں، اور سنیئے۔

لفظ عربی کا ایک عین ہے۔ لیکن وہ ایک لفظ اڑتالیس (۴۸) معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔

مَعانی العَین

(المنجد ۵۶۸)

(۱) الباصرة
(۲) وتطلق على الحدقة
(۳) مجموع الجن
(۴) اهل البلد
(۵) اهل الدار
(۶) الاصابة فى العين
(۷) (قال به عين) اى اصابة فى عينه
(۸) الخالص الواضح
(۹) النفيس
(۱۰) العز
(۱۱) العلم
(۱۲) عين الابرة
(۱۳) ثقبها
(۱۴) الجاسوس
(۱۵) الجماعة
(۱۶) الحاضر من كل شئ
(۱۷) بعته عينا بعين اى حاضر ابحاضر
(۱۸) خيار الشئ
(۱۹) دوائر رقيقة على الجلد
(۲۰) الدينار
(۲۱) الذهب المضروب
(۲۲) النقد الحاضر
(۲۳) ذات الشئ و نفسه
(۲۴) السيد

marfat.com

(۲۵) شریف قومہ

(۲۶) رئیس الجیش

(۲۷) طلیعتہ

(۲۸) الشمس او شعاعھا

(۲۹) المال

(۳۰) العتید من المال

(۳۱) مصب ماء القناۃ

(۳۲) مفجر ماء البیر

(۳۳) ینبوع الماء

(۳۴) المیل فی المیزان

(۳۵) الناحیہ

(۳۶) النظر

(۳۷) منظر الرجل

(۳۸) فلان عین علی فلان ای ناظر علیہ

(۳۹) ھو عبد عین او صدیق عین ای یخدم و یصادق رئاءً

(۴۰) (و یقیتہ عین عنۃ) اذا رئیتہ عیانا ولم یرک

(۴۱) و یدتہ اول عین ای اول شئ

(۴۲) ویقال لا تطلب بعد عین ای بعد معاینۃ وھو مثل یضرب لمن ترک شیئاً یراہ ثم تبع اثرہ بعد فوت عنہ

(۴۳) (وصار خبرا بعد عین)

(۴۴) (وانت علی عینی) ای فی الاکرام والحفظ جمیعًا

(۴۵) ماھو عرض عین ای قریب

(۴۶) وعلی عینین ای تعمدہ بجد و یقین

(۴۷) (لقا عینہ) ای صلۃ او اغلظ لہ فی القول۔

(۴۸) ونعم اللہ بک عیناً ای انعمھا

کیوں جناب مرزائی صاحب ایک لفظ "عین" اور اٹھتالیس اس کے معانی اب قرآن کریم کی آیت سے تسلی فرمائیے۔

بقرہ ۱/۷	فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۔ تو جاری ہوئے اس سے بارہ چشمے۔
آل عمران ۳/۲	يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ دیکھتے تھے وہ ان کو اپنی دو مثلیں آنکھ کا دیکھنا
طٰہٰ ۱۶/۲	وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ اور تاکہ پرورش کیا جاوے تو میری نگرانی میں،

marfat.com

ان آیات کریمہ میں اگر معین کے جو معنی ایک جگہ کئے گئے ہیں مثلاً پانی کے چشمے کے تو دوسری جگہ آنکھ کے ہیں، دوسری جگہ بدل کر پانی کے چشمے کو آنکھ کے ترجمہ کی جگہ کئے جاویں، تو معانی بدل جاوینگے۔

تو ثابت ہوا کہ عربی کا ایک لفظ مشترک المعنی کو قرینہ کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاویگا۔ اور ترجمہ بھی وہی کیا جاویگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تابعین اور تبع تابعین نے بعد ازاں ہمارے اسلاف نے جو تراجم ان آیات کے کئے ہوں۔ لہذا توفی بھی جب مشترک المعنی ہے۔ تو مسلمان نے جب کسی جگہ توفی کے معنی کرنے ہونگے تو اسلاف کے ترجمہ کے مطابق اور قرائن کے مطابق اور شان نزول کے مطابق آیت کو سمجھے گا پھر اس سے آیات باقیہ کو تطبیق دے کر پھر اپنے عقیدہ و عمل کو درست کریگا، یہ نہیں ؎

رجس لائی گلیں اوسے نال اٹھ چلی)

اے مرزائی صاحبانو! قرآن کریم خدا کی کلام ہے، سنبھل کر قدم رکھو۔

"مرزائی" ۔ تم نے حوالے تو مفسرین کے بہت پیش کئے، لیکن مفسرین کو بھی غلطی لگی ہوئی ہے۔ دیکھئے تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے۔

وَانَّمَا احْتَاجَ الْمُفَسِّرُوْنَ اِلٰی تَاوِیْلِ الْوَفَاۃِ بِمَا ذُکِرَ لِاَنَّ الصَّحِیْحَ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی رَفَعَہٗ اِلَی السَّمَاءِ مِنْ غَیْرِ وَفَاۃٍ کَمَا رَجَّحَہٗ کَثِیْرٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِیْنَ وَاخْتَارَہٗ ابْنُ جَرِیْرِ الطَّبَرِیُّ وَوَجْہُ ذَالِکَ اَنَّہٗ قَدْ صَحَّ فِی الْاَخْبَارِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نُزُوْلُہٗ وَقَتْلُہُ الدَّجَّالَ۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، کہ مفسرین نے تاویل سے کام لیا ہے۔ تو حقیقۃً عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ؎

"محمد عمر"۔ مرزا صاحب کو جب تمام مفسرین کی عبارتوں کا جواب نہ آیا اور جب دیکھا کہ تمام مفسرین حیات مسیح، رفع سماوی عیسٰی علیہ السلام کے ہی دلائل پیش کر رہے ہیں تو وہابی کی عبارت اس لئے پیش کی کہ صاحب فتح البیان نے کہا ہے، کہ تمام مفسرین نے تاویل کی ہے۔ وکیل صاحب کو ابتک تاویل کے معنی نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ مرزا صاحب پر بھی سنکر ہی ایمان لائے ہو۔

marfat.com

ان کی کتابوں کا مطالعہ کبھی نہیں کیا۔ منشی یعقوب علی صاحب ایڈیٹر الحکم نے مرزا صاحب کے درس سے نوٹ لکھے ہیں۔

ترجمان القرآن ۱۶/۸۵	ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۔ یہ ہے حقیقت ان امور کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔

مرزا صاحب نے تاویل کے معنی حقیقت کئے ہیں۔ تو ثابت ہوا۔ کہ صاحب فتح البیان کی عبارت سے توفی کی حقیقت ہے رفع الی السماء جو مفسرین نے بیان کی ہے، تاویل وہ ہے جو تم کرتے ہو، وہ ہے ہیرا پھیری جو اُردو میں مثل مشہور ہے، عربی میں اس کے معنی حقیقت کے ہیں۔ جو تمہارے مرزا صاحب نے بھی کئے ہیں۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، جیسا کہ کسی بدمعاش کو بھلا مانس کہا جاتا ہے۔ باقی صاحب فتح البیان نے بھی تو مرزائیت کی جڑ کاٹ کاٹ کے رکھدی ہے۔ ذرا اپنی پیش کردہ عبارت فتح البیان کو ہی پڑھ لو۔ تم نے تو ترجمہ بھی چھوڑ دیا تا کہ پول نہ کھل جائے۔ لکھا ہے کہ مفسرین نے توفی کی حقیقت رفع الی السماء بیان فرمائی، اور صاحب فتح البیان نے کہا، بِلَاَنَّ الصَّحِيْحَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی رَفَعَهٗ اِلَى السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ وَفَاتٍ۔ اسواسطے کہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا بغیر وفات کے فتح البیان کی عبارت کا مطلب بیان نہیں کیا کہ کہیں رگ نہ کٹ جائے اور اس فتح البیان کی عبارت سے تمہارا فتح البیان کا حجۃ ۲۱ بھی حل ہو گیا، اور یہ کہ توفی کے معنی نواب نے رفع الی السماء ہی لئے ہیں، جس کے متعلق فرمایا، یا تو تم نے آدھی عبارت وہاں رکھ دی اور آدھی کاٹ کر یہاں بیان کر دی، لیکن دروغ گو را حافظہ نباشد، یہ یاد نہ رہا، کہ وہاں تو توفی کی تفسیر ۲۱ میں تو میں نصف عبارت پیش کر رہا ہوں، اور اگر متصل ہی یہ عبارت باقی ماندہ لکھ دی تو میرا ردّ میری پاکٹ بک میں ہو جائے گا، بغیر سوچے ہی لکھ دیا اور پھر فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے آگے فرمایا، وجہ ذالک اَنَّهٗ قَدْ صَحَّ فِی الْاَخْبَارِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نزولہ وقتلہ الدَّجَّال۔ رفع الی السماء کی وجہ یہ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور ان کا دجال کو قتل کرنا ثابت ہے۔

marfat.com

کیوں جناب مرزائی صاحب "مفسرین کو غلطی لگی" یا حیات مسیح علیہ السلام ثابت کردی، اور مرزائیوں کے وکیل منصف نے یہ عبارت لکھ کر مرزائیت کے دعوے وفات مسیح کی بنیاد اکھاڑ دی، اگر یہ عبارت نہ لکھتے تو فتح البیان والے سابقہ اعتراض کا پردہ رہ جاتا، لیکن اس عبارت سے پہلے ڈھول کا پول نکل گیا، اور مرزائی کی چوری نکل آئی۔

"مرزائی" - اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ میں یہ ضروری نہیں، کہ اِنَّہٗ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، بلکہ اس کا مرجع قرآن کریم یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، چنانچہ معالم التنزیل میں زیر آیت ہذا لکھا ہے، قَالَ الْحَسَنُ وَجَمَاعَۃٌ اِنَّہٗ یعنی اِنَّ الْقُرْاٰنَ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت کا قول ہے، کہ اِنَّہٗ کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے۔ پھر جامع البیان میں بھی اسی آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ قیل الضمیر للقراٰن، اور پھر مجمع البیان میں بھی لکھا ہے وقیل ان معناہ ان القراٰن لدلیل الساعۃ لانہ اخر الکتاب۔

"محمد عمر" - میں اپنے وکیل مرزائیہ سے مؤدبانہ گذارش کرتا ہوں، کہ تم نے صرف مرزائیت کی وکالت ہی اختیار کر رکھی ہے۔ یا ان تحریرات پر بھی ایمان ہے، اگر صرف وکالت ہی ہے تو خیر کوئی بات نہیں، وکیلوں کا کام نیرہ ڈنگے مارنا ہوتا ہی ہے، کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی ہے کہ جاؤ، مؤکل مقدمہ میں رہ جائے یا جیت جائے وکیل کو کیا، اس نے تو دام لے ہی لینے ہیں، اور اگر دوسری صورت یعنی ان تحریرات پر ایمان ہے تو اب فقیر عرض کرتا ہے، کہ تمہارے تمام کلام میں دو حوالہ جات ہیں، پہلا معالم کا اور دوسرا جامع البیان کا، تو گذارش ہے کہ معالم کا جو تم نے حوالہ دیا ہے، تو اب عرض یہ ہے۔ کہ آپ کا ایمان قرآن کریم پر ہے یا معالم پر، اگر قرآن کریم پر ہے تو قرآن کریم میں اِنَّہٗ کے ماقبل تمام رکوع میں قرآن کریم کا ذکر ہی نہیں، تو اس کی طرف ضمیر کیسے راجع کر سکتے ہو جب مرجع مذکور ہی نہیں، تو ضمیر کا راجع کرنا خلاف اصول نحوی عربی ہے۔ سنئے فقیر تمام رکوع پڑھتا ہے، اگر شک ہو، تو قرآن کریم نکال کر دیکھ لیجئے۔

marfat.com

زخرف ۲۵/۶

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

کیوں جناب فرمائیے! اب تو یقین ہو گا یا نہیں، اگر قرآن کریم پر یقین ہے تو ایمان لے آؤ کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور وہ نشان ہونگے قیامت کے ورود کا اور بصورت دیگر اگر قرآن پر ایمان نہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں، صاحب معالم علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اگر علامہ بغوی صاحب معالم التنزیل پر ایمان ہے تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا ہے۔ (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) يَعْنِي نُزُولَهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ يُعْلَمُ بِهَا قُرْبُهَا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کے علامات سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ قیامت کا قرب معلوم ہوگا۔

تو معلوم ہؤا کہ علامہ بغوی پر تو تمہارا ایمان نہیں، اگر ان پر ایمان ہوتا تو پہلے اس عبارت کو ملاحظہ فرماتے، پھر انہوں نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر دلیلاً پیش کی ہے۔ اس پر ہی ایمان لے آتے۔ چلو نہ سہی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا ہے، اس پر ہی ایمان لے آتے، سُن لیجئے۔ اسی آیت کے ماتحت لکھا ہے۔

معالم التنزیل ۶/۱۱۶

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْعَيْنِ أَيْ أَمَارَةٌ وَعَلَامَةٌ۔

اور ابن عباس اور ابوہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پڑھا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ لام اور عین دونوں کو مفتوح یعنی زبر سے جس کے معنی نشان کے ہیں،

marfat.com

کیوں جناب اب حضرت عباس کی قرأت کو بھول گئے۔ ابتو تمام صحابہ کرام کی جماعتی قرأۃ لَعَلَمٌ ثابت ہے۔ اب بھی اگر موت یاد ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق عیسٰی علیہ السلام کو قیامت کا نشان تسلیم کر کے ان کے نزول مِنَ السَّمَاءِ پر ایمان درست کر لو۔ تاکہ تمہارا اعتقاد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصًا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ کے مطابق ہو جائے، اور تمہاری نجات کی کوئی صورت نکل آئے، ورنہ ثابت ہو رہا ہے کہ تم نہ مفسرین کے قائل ہو نہ صحابہ کرام کے محض لوگوں کو دھوکا دینا اور اسلام سے گمراہ کرنا مقصود ہے، اور صاف صاف ثابت ہو گیا کہ تمہارا معالم التنزیل کو پیش کرنا محض اس کا نام لے کر مرزائیوں کو خوش کرنا مقصود ہے۔ کہ واہ وا واہ وا کہدیں کہ ہمارے وکیل نے بھی تفسیر معالم پیش کر دی بچاروں کو یہ علم نہیں کہ صحیح پیش کر رہے ہیں یا غلط اور بصورت دیگر اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ تو اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ اول تو یہ یقین نہیں کہ یہ قول جو علامہ بغوی نے پیش کیا ہے یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی ہو، کیونکہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اقوال حسن بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کئی مقامات پر پیش کئے ہیں، اسواسطے یہ یقینی امر نہیں، دوسری وجہ ان کے قول نہ ہونے کی یہ ہے، کہ ابن جریر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اس کے برخلاف پیش کیا ہے، سنیئے:۔

تفسیر ابن جریر ۲۵/۴۹	حدثنی یعقوبُ قال حدثنا هشیم قال اخبرنا حصینٌ عن ابی مالك وعوف عن الحسن قالا فی قوله وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ قالا نَزُوْلُ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَقَرَءَ

اَحَدُهُمَا: وَاِنَّهٗ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ ۔حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے روایت کی ہے وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فرمان الٰہی کے متعلق تو دونوں نے کہا ہے۔ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہ عیسی ابن مریم کا نزول (علامت ہوگی قیامت کی)، اور دونوں سے ایک نے یہ آیت بھی پڑھ دی۔

اے مرزائی وکیل صاحب! اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان ہے، تو

marfat.com

پڑھو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چھوڑ دو مرجے جی کا کلمہ اور حیات سماوی اور نزول من السماء عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہو جاؤ اور قرآن کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقائد کو پس پُشت نہ ڈالو۔

دوسرا حصّہ تمہارے اعتراض کا ہے تفسیر جامع البیان کا حوالہ اور مجمع البیان کا۔ مجمع البیان تو چونکہ دوسرے عقیدے کے ساتھ متعلق ہے، اسواسطے فقیر اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کرتا، وہ خود جانیں۔ لیکن جامع البیان کے متعلق اب بھی دلیسے ہی عرض ہے۔ کہ تمہارا قرآن پر ایمان ہے یا صاحب تفسیر شیخ معین علیہ الرحمۃ پر ایمان ہے، اگر قرآن مجید پر ہے، تو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، بلا کھٹکے اور اگر شیخ معین الدین صاحب پر ایمان ہے، تو انہوں نے پہلے فرمایا ہے (وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ) اَیْ عَلَامَاتُہَا بِاَنَّ نُزُوْلَہٗ مِنْ اَشْرَاطِہَا یعنی قیامت کی علامتوں سے ہے، اس لئے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی شرطوں سے ہے۔ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے، معلوم ہُوا کہ معاملہ ضد پر مبنی ہے ایمان پر نہیں، ورنہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ مرفوعہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کو ترک کرکے تمام امت کے مفسرین و اسلاف کو چھوڑ کر اکیلے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے آمین کہدینا یہ تمہارا مرزائیوں کا ایمان ہی گوارہ کر سکتا ہے۔ بھائی اور مسلمان تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری نسبت اتنا ہی کہدینا کافی سمجھتا ہوں، وَاللّٰہُ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ہ فقط۔

"مرزائی"۔ اگر تمہاری بات کو ہی درست فرض کر لیا جاوے، تو اس صورت میں اِنَّہٗ کی ضمیر کا مرجع ابن مریم مثلاً یعنی مثیل مسیح ماننا ہو گا، مثل کے معنی لغت میں اَلشِّبْہُ وَالنَّظِیْرُ مانند اور نظیر کے ہیں، یعنی مثیل (المنجد) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّوْنَ کہ جب ابن مریم کا مثیل بھیجا جاوے گا، تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہلانے والے ان پر تالیاں بجائیں گے۔ نیز منتہی الادب میں مَثَل کے معنی مانند اور ہمتا اور نظیر کے لکھتے ہیں، اور شرح عقائد کے حاشیہ پر لکھا ہے، قال مقاتل ابن سلیمان وَمَنْ تَابَعَہٗ من المفسرین نے

marfat.com

تفسیر قولہ تعالیٰ وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ قال ھُوَ المَھْدِیُّ یَکُوْنُ فِی اٰخِرِ الزَّمَانِ وَبَعْدَ خُرُوْجِہٖ تَکُوْنُ اَمَارَاتُ السَّاعَةِ۔

مقاتل بن سلیمان اور اس کے ہمخیال مفسرین نے لکھا ہے کہ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ سے مراد مہدی ہے۔ جس کی آمد کے بعد قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونگی، پ۲۲

"محمد عمر" سبحان اللہ مرزائی صاحب گرتے بھی ہیں تو اپنے ہی پیشاب سے ہی پھسل کر، کیوں نہ ہو آخر مرزائیت کا اظہار کیسے ہو، دراصل بیچارے سادہ لوح ہیں، ان کے بس کی بات نہیں، چونکہ یہ مرزا صاحب کے معتقد۔ اس لئے کسی مرزائی نے جب کوئی بات کہدی اور ساتھ قرآنی آیت پڑھدی، آہ آ، آہا آ کرکے حسن ظن کی بنا پر اسی گڑھے میں گر گئے، وہ حسن کا ظن یہ سوچنے کا موقعہ ہی نہیں دیتا، کہ آیت کے کیا معنی ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے، بس مان لی، صحیح ہو یا غلط۔ مرجا صاحب کی ہو چہاں ہو یا نہ، ہمیں تو کہدینے اور لکھ دینے اور اعتقاد سے غرض ہے، صحت کا خیال ہوتا تو مرجائی کیوں ہوتے۔ بھلا مرزائی صاحب یہ تو فرمائیے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّوْنَ تمام آیت میں بھیجا جاویگا، کون سے لفظ کے معنی ہیں، بھلا مثلاً کے معنی تو تم نے مثیل بنالئے۔ اور بھیجا جائیگا کہاں سے نکال لیا، آؤ ذرا شرط لگائیں۔

اِعلان

جو مرزائی اس آیت کریمہ سے یا قرآن کریم کے کسی اور مقام سے دکھادے۔ کہ مسیح کا مثیل آئیگا،

تو

فقیر اس کو بفضلہ تعالیٰ

ایک ہزار روپیہ انعام دیگا،

اوّل تو اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ نے جب مرزائیت کے نیچے اوپر کے دانت

marfat.com

کھٹے کردئے، اور مرزائیت کے تمام سوالات کا جواب ایک ہی آیت قرآنی نے تمام کردیا، جس نے حیات عیسٰی علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی کو حتمی ثابت کردیا، اور ترجمہ بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے، جناب مرزائی نے ربوہ سے درے سانس نہ لیا، ربوہ بھاگتے ہوئے کو پکڑلائے، کہ یا قرآن کو مان، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کے سمجھے ہوئے مطلب قرآنی سے حیات مسیح اور ان کے قرب قیامت تشریف لانے پر ایمان لے آ۔ اور یا مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع کر اور ربوہ جا۔ مرزائی کا چارہ نہ چلتے ہوئے آہ بھری اور اس کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کی قرب قیامت آنے کو ان الفاظ میں تسلیم کرنا پڑا کہ اگر تمہاری بات کو ہی درست فرض کرلیا جاوے۔ اجی یہ ہماری بات ہے یا خداوند کریم کی۔ اِنَّہٗ کی ضمیر کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کی طرف خداوند راجع فرمارہے ہیں، یا ہم۔ ہم پر احسان جتارہے ہو، کیا ہمارے کلام کو تسلیم کررہے ہو، یہ کلام خداوندی ہے۔ اگر ایمان صحیح لے آؤگے تو نجات پاؤگے، ورنہ جہنم کا ایندھن تم بنوگے۔ تمہارا قرآن کریم کو اُلٹ بیان کرنا ہمیں کیا تکلیف دہ ہوسکتا ہے اگر قرآن کریم کی تبدیلی سے نکر ہے تو تم کو، ہمیں کیا نکر ہے۔

اِعلان

آؤ مرزائیو! اگر اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ میں محض عبارت قرآنی سے ضمیر کا مرجع سوائے حضرت عیسٰی علیہ السلام کے کسی اور کو ثابت کردو، تو جھوٹے کی زبان کاٹ دی جائے،

اب مثلاً کا نیصلہ قرآں سے کرالیں، کہ آیا مثلاً سے مثیل مسیح مراد ہیں، یا کچھ اور، اگر مثل سے مراد مثیل آپ کریں تو ترکیب نحوی میں کیا بنے گا، کیونکہ اگر مثل سے مراد مثیل کیا جاوے، تو مثلاً کو مقدم چاہیئے تھا، مضاف بنتا تو تمہارا مطلب صحیح تھا، مگر جب مؤخر رکھا تو ثابت ہؤا، کہ مثلاً تمیز ہے اور جو ابن مریم علیہ السلام

marfat.com

کے بیان کرنے میں ابہام تھا، وہ مثلانے دور کر دیا، یعنی ابن مریم علیہ السلام کی ذاتی مثال کے بیان کرنے کا ذکر ہے، نہ کہ ان کے واسطے کسی اور مثیل کی ضرورت ہے جیسا کہ تم نے سمجھا ہے، اور یہ قرآن کریم کے عین خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ان کے بعد کی آیت کے آگے رب العزۃ نے خود فیصلہ فرما دیا ہے۔ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اور ہم نے اسی ابن مریم علیہ السلام کو ہی مثال بنایا بنی اسرائیل کیواسطے، یعنی اللہ تعالے نے اپنی قدرت کاملہ کی حجۃ اور نشانی بنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر یہاں معنی نظیر کے لئے جاویں تو معنی ہی بگڑتے ہیں یعنی تشبیہ شئ کی بنفسہ لازم آئے گی۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی، کہ شیطان ذہن کو مثیل مسیح کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ تو وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ ماقبل والی آیت کو ملاحظہ فرما لیا کرو، پس دماغ مثلیت سے بھی باز رہے گا۔ ملاحظہ ہو، آیت سابقہ کو فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ۔ تو ہم نے غرق شدہ فرعونیوں کو ان کے پہلوں کے لئے بھی اور مثال بنائی پچھلوں کے لئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرعونی جو غرق شدہ تھے ان کو مثال فرمایا۔ تو فرعونی بھی تمہارے خیال کے مطابق مثیل ثابت ہوئے۔ اور مثیل بھی فرعون کے نہیں، بلکہ آخرین کے اور آخرین وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جیسا کہ رب العزۃ نے ارشاد فرمایا ہے۔

دخان ۲۵ ۱	فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۔ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ كَذٰلِكَ ۣ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۔

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالے نے فرمایا، پس لے چلیئے آپ اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو رات کے وقت، تم ضرور تعاقب کئے جاؤ گے اور دریا کو خشک ہی رہنے دیجئے۔ اس لئے کہ ان کا تمام لشکر غرق کیا جائیگا، انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں، اور بلڈنگیں مع سامان چھوڑے جس میں وہ عیش کرتے

marfat.com

تھے، ایسے ہی ہوًا اور وارث کیا ہم نے ان کا پچھلی قوم کو۔ (یعنی بنی اسرائیل کو)۔
وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ قوم آخرین کو ہم نے وارث بنایا اور وہ کون تھے؟ جو وارث بنے، ضروری بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور وہ مثل تب بن سکتے تھے، جب وہ بھی فرعونیوں کی طرح پانی میں غرق ہوتے، ورنہ مثلاً نہیں کہلا سکتے یا فرعونیوں کو بنی اسرائیل کی طرح زندہ رکھا جاتا جب زندہ نہیں رہے۔ بلکہ غرق ہوگئے تو ثابت ہؤا کہ مثلاً کے معنی یہاں بھی نشان عبرت کے ہیں، تو مثلاً میں تمہارا غیر کو مثیل مراد لینا یہ تمہاری غلطی ہے وہاں بھی مراد نشانی ہی ہے، اور نشانی خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ورنہ مرزا صاحب کو بھی تمہیں مُغْرَقُوْنَ میں شمار کرنا پڑے گا۔ تو فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ کے مصداق ثابت ہونگے۔ آگے تم سوچ لو۔

تو بنی اسرائیل کے مثیلوں کو تمہارے قاعدے کے مطابق غرق کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِیْنَ جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کیا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھران کو غرق کر دیا۔ اور پھر فرمایا فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِیْنَ ہ تو ہم نے ان کے سلف و خلف کے واسطے ان کو ایک نشانی بنادی، تاکہ ان کو معلوم ہوجائے، کہ جو خداوند کے سوا کسی کو رب مقرر کرتا ہے۔ تو خدا یوں بدلہ دیتا ہے، تو ان کو غرق کرکے دوسروں کے واسطے عبرت بنادی۔ اگر یہاں مثیل کے معنی لئے جاویں تو معنی ہی غلط بنتے ہیں، کیونکہ جب غرق ہوگئے تو مثیل کیسے رہ گئے، تو ثابت ہؤا، کہ مثلاً بھی بمعنی نشان کے ہیں، جب ماقبل نشان کا ذکر فرمایا تو مابعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے واسطے نشان ہونا

اب تم اے فرقہ مرزائیہ! بتاؤ کہ کس نبی کا اللہ نے مثیل بنایا اور جس کو مثیل بنالیا، تو اس کو دار پر لٹکا دیا گیا اور وہ نبی نہ تھا بلکہ منافق تھا، مرزا صاحب بھی منافق ثابت ہوں گے، تو تمہارا یہ معنی کرنے مثیل کے غلط ثابت ہوئے۔ اور سنیئے۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کے کیا معنی کرد گے۔ کچھ تو

marfat.com

سوچ کر بات کرتے۔

اور وکیل دوست کو المنجد کی ص۸۵۳ کا ترجمہ المثل کا الشبہ و النظیر پڑھنے کا موقعہ ملا لیکن اسی لفظ کے ماتحت ہی لکھا ہے (المَثَل).......العبرة - الحجة ۔ تمہاری پیش کردہ لغت کی کتاب المنجد سے بھی ثابت ہوا کہ مثل کے معنی عبرۃ اور حجۃ کے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ مثل بمعنی عبرہ اور حجۃ کے لئے ہیں، جو اس آیت کا ماقبل اور مابعد بھی ثابت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے اس واسطے اس نے اسی آیت کے ماقبل بھی اور مابعد بھی لفظ مثل کو استعمال فرمایا، جس کے معنی عبرۃ اور حجۃ کے ہیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ اس کے معنی بھی آیت اور حجۃ کے ہیں، تاکہ مرزائی اس مقام پر نظر کے نہ کریں، سیاق سباق کے ربط کو توڑنا یہ مرزائیہ کا کرتب ہے۔ قرآن کریم کی روانی اس پر دال نہیں، جیسا کہ ہر ذی شعور کے واسطے بیان ہو چکا ہے۔

آگے پھر دوست نے ”اِنَّہٗ“ کی ضمیر کا مرجع امام مہدی علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور دلیل پیش فرماتے ہیں، چونکہ شرح عقائد کے حاشیے پر لکھا ہے۔

کیوں جی! بھلا یہ فرمایئے کہ اتنی تفسیریں اور حدیثیں پیش کی گئیں، ان پر یقین نہ آیا، کیا شرح عقائد کا حاشیہ قرآن سے زیادہ معتبر ہے؟ جب ماقبل اس کے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں، بلکہ ابن مریم کا ہے تو ہم قرآن کریم کو پس پشت کیسے ڈال دیں، تم دلیلیں تلاش کرتے ہو، شاید تمہارے پاس کوئی شرح عقائد ہو اس پر کسی فضول آدمی نے لکھ دیا ہو، مکان میں دیکھو، کیا بلوں میں چوہے ہوتے ہیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں، اصل کتاب پیش کرو۔ محشی کا کیا اعتبار ہے۔ آیئے اگر آپ نہ دیکھ سکتے ہوں، تو فقیر آپ کو دکھا دے، تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ لگے۔ کہ حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح سے مراد مہدی ہے۔ سُنیئے۔ مہدی مراد ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

شرح عقائد نسفی ۱۲۴	وَمَا اَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَوْمِنْ عَلَامَاتِهَا مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْاَرْضِ وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَطُلُوْعِ

marfat.com

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَهُوَ حَقٌّ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اشراط یا علامات سے جو خبر دی ہے دجّال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا اور یاجوج ماجوج کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور مغرب سے سورج کا چڑھنا تو یہ حق ہے۔

کیوں جی وکیل صاحب! یہ ہے شرح عقائد اصل، جس کا نام سنا کر تم نے دھوکا دیا۔ اب بتاؤ کہ بل اچھی یا اصل مکان۔ آپ کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں صاحب خانہ نے مکان میں جگہ نہیں دی تمہارے مخالف اسی لئے تم بل میں گھسے۔ لیکن آپ کو حاشیہ نظر آیا، اصل پر کیوں نہ نظر پڑی، خیر تمہارے اس بہانے سے فقیر نے اصل کتاب پیش کر دی، مسلمانوں کو تمہاری چوری نظر آگئی۔ اگر اس کے متعلق پھر کبھی موقع ملا، تو انشاء اللہ العزیز۔

"مرزائی"۔ اہل سنت وجماعت بعض روایتیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کرتے ہیں، مثلاً مسند امام احمد حنبل یا درمنثور یا فتح البیان یا ابن کثیر جن میں اس آیت کے متعلق نزول مسیح قبل از قیامت مراد ہے۔ وہ تمام ضعیف ہیں، دیکھو عاصم اور ابو یحییٰ اور غالب بن فائد اور فضیل بن مرزوق رقاشی ان کے راوی ہیں اور یہ تمام اسماء رجال کی کتب میں ضعیف لکھے ہیں۔

"محمد عمر"۔ آیئے جناب مرزائی صاحب! اسماء رجال سے ان کے متعلق تحقیق کر لیں، جن پر تم نے جرح کی ہے۔

تقریب التہذیب ۱۸۳	(عاصم بن بھدلہ) وھو ابن ابی نجود بنون وجیم الاسدی مولاھم الکوفی ابوبکر المقرئ صدوق له اوھام حجة فی القرأة

وحدیثه فی الصحیحین۔

عاصم بن بھدلہ کوفی سچا ہے (کذب فی الحدیث سے مبرا ہے) کچھ وہم بھی کرتا ہے قرأۃ میں اس کی دلیل حجۃ ہے۔ اور اس کی حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ جب بخاری مسلم نے اس کی حدیث کو مستند سمجھا ہے۔ تو آپ کون ہیں، جس کو وہم ہو، وہ بات کرنے میں عجلت نہیں کرتا، احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اگر کوئی شک کی بات کرے،

marfat.com

تو وہ ضرور حجۃ نہ ہوگی، اس حدیث میں چونکہ اس نے شک کا اظہار نہیں کیا لہذا صحیح ثابت ہوئی۔

میزان الاعتدال ۲/۵ عاصم بن ابی نجود مقرؤنا احد السبعة القراء ۵ وھو فی الحدیث دون الثبت صدوق یھم۔ وقال ابوحاتم محله الصدق۔ قلت ھو حسن الحدیث وقال احمد وابو زرعة ثقة۔ وقال احمد بن حنبل کان ثقة انا اختار قراءته۔

جس کو امام الحدیث احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماویں کَانَ ثِقَةً کہ وہ ثقہ فی الحدیث ہے اور پھر نقد رجال خود علامہ ذہبی جو پرکھنے والے ہیں وہ ارشاد فرماویں اور خود فیصلہ کردیں قُلْتُ ھُوَ حَسَنَ الحدیث، میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث حسن بیان کرتا ہے تو آپ معترض کون ہیں، جس سونے کو صراف صحیح کہدے جس نے نہ کچھ لینا نہ دینا کوئی طمع ہی نہیں تو گاہک کو اگر پسند نہ ہو تو اس کے پاس رقم ہی نہیں، جب نقاد رجال الحدیث سے تم نے فیصلہ چاہا تو اس نے سب کچھ بیان کرکے آخر فیصلہ دیا کہ حسن الحدیث ہے۔ تو جو پھر بھی اُن کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرے تو معلوم ہوا اس کا اپنا ایمان درست نہیں۔

تهذیب التهذیب ۵/۳۸ (عاصم بن بھدله وھو ابن ابی نجود) وخطأه ابوبکر بن ابی داؤد روی عن زر بن حبیش وابی عبد الرحمن وقرء علیھا القرءات وابی وائل وابی صالح السمان وابی رزین والمسیب بن رافع ومصعب بن سعد ومعبد بن خالد وسواء الخزاعی وجماعة وعنه الاعمش ومنصور وھما من اقرانه وعطاء ابی رباح وھو اکبر منه وشعبة وسفیانان وسعید بن ابی عروبة والحمادان وشرائدة والوخیثمة وشریک والوعوانة وحفص بن سلیمان والوبکر بن عیاش وقرء علیه وغیرھم۔ وقال عبد اللہ بن احمد عن ابیه کان رجلا صالحا قاریا للقرآن واھل الکوفة یختارون قرأته وانا اختارھا وکان خیرا ثقة۔ وقال ایضا عاصم صاحب قرآن وحماد

marfat.com

صاحب فقہ و عاصم احب الینا قال ابن معین لا باس بہ و قال العجلی کان صاحب سنۃ و قراءۃ و کان ثقۃ راسًا فی القرأۃ ویقال ان الاعمش قرء علیہ وھو حدث وکان یختلف علیہ فی زر و ابی وائل ۔ وقال ابن ابی حاتم عن ابیہ صالح وھو اکثر حدیثا من ابی قیس الاودی و اشعر و احب الیّ منہ وھو اقل اختلافا عندی من عبد الملک بن عمیر وقال سألت ابا زرعۃ عنہ فقال انہ ثقۃ قال وذکرہ ابی فقال محلہ عندی محل الصدق صالح الحدیث ۔ وقال النسائی لیس بہ باس وقال ابو بکر بن عیاش سمعت ابا اسحق یقول ما رأیت اقرء من عاصم اخرج لہ الشیخان مقرونا بغیرہ قلت قال ابو عوانہ فی صحیحہ لم یخرج لہ مسلم سوی حدیث ابی بن کعب فی لیلۃ القدر و ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال العجلی کان عثمانیا وقال ابن شاہین فی الثقات قال ابن معین ثقۃ لا باس بہ من نظراء الاعمش ۔

(عاصم بن بہدلہ کے آٹھ جلیل القدر استاد ہیں جن سے یہ روایت بیان کرتے ہیں) زر بن جیش ۔ ابی عبد الرحمٰن سلمی اور ان دونوں سے عاصم نے قرأت بھی سیکھی ہے ۔ یہ دونوں اس کے قرآن کریم کی قرأت کے استاد تھے، اور ان دونوں نے عاصم کو ایسا علم قرأت و تجوید میں یکتا زمانہ بنایا کہ مرزائی کو بھی ماننا پڑا ۔ تیسرے استاد حدیث ابی وائل ۔ ابو صالح سمان ۔ ابو رزین ۔ مسیب بن رافع ۔ مصعب بن سعد ۔ معبد بن خالد اور یہ جلیل القدر رواۃ حدیث سے شمار کئے گئے ہیں ۔ اگر ان کی شان علیحدہ علیحدہ عرض کروں ، تو طوالت کا خطرہ ہے ۔ اب اس کے شاگرد حدیث سن لیجئے)

اعمش ۔ منصور ۔ عطاء بن ابی رباح ۔ شعبہ ۔ دونوں سفیان ۔ سعید بن ابی عروبہ ۔ دونوں حماد ۔ زائدہ ۔ ابو خیثمہ ۔ شریک ۔ ابو عوانہ ۔ حفص بن سلیمان ۔ ابو بکر بن عیاش ۱۵ جلیل القدر رواۃ احادیث صحیح جو ان کے شاگردوں سے ہیں وہ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمادئے اور فرمایا کہ ان کے علاوہ اور بھی ان کے شاگردان حدیث ہیں ۔

marfat.com

(اور گیارہ ان کے معتمین ہیں)

احمد بن حنبل[1] رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیک آدمی ہے۔ قرآن کریم کا قاری ہے۔ کوفی اس کی قرأت کو بڑا پسند کرتے تھے۔ (اور کوفہ اس وقت قرأت کا مرکز تھا اور سب سے بہتر پڑھنے والے تھے) اور میں اس کو پسند کرتا ہوں اور عاصم بہتر ثقہ فی الحدیث ہے۔

ابن معین[2]۔ اس کی حدیث اخذ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں،

عجلی[3] نے کہا حدیث و قرأۃ کا ماہر ہے اور ثقہ یعنی پکا آدمی ہے (اور بڑی بات یہ ہے) کہ حدیث اور قرآن میں اعمش کا اُستاد ہے۔

ابو حاتم[4] نے کہا کہ یہ بڑا مشہور آدمی تھا۔

ابو زرعہ[5] } نے فرمایا، کہ ثقہ ہے۔ یعنی حدیث میں پکا ہے۔ اور میرے باپ نے کہا کہ سچا آدمی ہے اور صالح الحدیث ہے۔

نسائی[6] نے فرمایا، اس کی حدیث میں کوئی ڈر نہیں۔

ابو بکر بن عیاش[7] نے فرمایا۔ میں نے عاصم جیسا قاری کوئی دیکھا ہی نہیں۔

ابو بکر بزاز[8] } نے فرمایا میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے اس کی حدیث کو چھوڑا ہو، بلکہ تمام اس کی حدیث کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ عاصم مشہور آدمی ہے (عوامی نہیں)۔

ابن حبان[9] نے اپنے ثقات میں عاصم کا ذکر کیا ہے۔

ابن شاہین[10] نے کہا کہ عاصم حدیث کے ثقہ آدمیوں سے ہے۔

ابن معین[11] نے فرمایا کہ اعمش کو جس نے دیکھنا ہو، وہ عاصم کو دیکھ لے۔ یہ حدیث میں ثقہ ہے۔ اس کی حدیث معتبر ہے کوئی ڈر نہیں،

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے عاصم جس کو معاذ اللہ تم نے تھوک دیا

marfat.com

تھا۔ کہ اس کی حدیث موضوع ہے۔ اور تم بیچارے تو موضوع اور ضعیف مرفوع و مرسل وغیرہن کی تفریق کو کیا جانو۔ بس جو منہ میں آیا کہہ دیا مطابق ہو یا نہ۔ سُنا کیسا راوی ہے۔ ارے جس کو ابن معین جیسے اور ابن شاہین جیسے اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان جیسے اور ابو بکر بزار جیسے جلیل القدر نقادوں نے جو رجال احادیث کو پرکھنے والے ہیں، اور مشاہیر نقاد مشہوروں میں، جب وہ عاصم کی تعریف کر چکے ہیں، اگر آج مرزائی انکار کر دے تو اس کی کیا وقعت، جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے مصنوعات میں پھنس چکا ہے۔ وہ حقیقت کو بیچارہ کیا پہنچ سکے۔ اور اس کا پرکھنا کب صدق پر مبنی ہو گا۔ جس کا مقدمۃ الجیش ہی غلط راستے پر جا رہا ہو۔ اور جس کے سابقین گڑھے میں گر چکے ہوں، اور اس کے توامین کب بچ سکتے ہیں، جن کی آنکھ دھندلی ہو، اس کو تمام دنیا دھندلی نظر آئیگی۔

"مرزائی"۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ کہ وقال النسائی لیس بحافظ اور دارقطنی نے بھی کہا ہے۔ پ ۳۴۶

"محمد عمر"۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کا جواب ابن حجر عسقلانی نے دے دیا ہے۔ فرمایا تہذیب التہذیب ص۳۹ وقال النسائی لیس بہ باس۔ کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں جناب میں یہ کہہ رہا ہوں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا۔ کہ مرزائی بعد میں عاصم پر اعتراض کرینگے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا۔

"مرزائی"۔ دیکھو ابن حجر عسقلانی نے ہی اس کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اعمش نے کہا ہے۔ کہ محدث تو واقعی بڑا ہے۔ لیکن زر اور ابی وائل کی حدیث جو اس نے بیان کی ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ پ ۳۴۶

"محمد عمر"۔ سوال کا موقعہ تو یاد رہا لیکن جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ یاد نہیں، سو اس کے آگے اس کا جواب دیا ہے۔ کہ ابو حاتم اپنے باپ صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ بہت تھوڑا اختلاف ہے۔ تو معمولی اختلاف کسی خاص روایت میں مثلاً عبد الملک بن عمیر کی روایت میں تو وہ معمولی بات ہے۔ اتنے بڑے راوی کو ٹھکرا دینا ایمان کے خلاف ہے۔

پ ۳۴۶ کا حل

marfat.com

"مرزائی" عقیلی نے کہا ہے لم یکن الاسوء الحفظ۔ ۳۴۶

"محمد عمر" ۔ اس کا جواب دوسرے صفحے پر ہی موجود ہے ۔ وقال ابوبکر بزاد لم یکن بالحافظ ولا نعلم احد أترك حديثه على ذالك وهو مشهور ۔

ابوبکر بزاز نے اس کا جواب دیا ہے، کہ گو یہ حافظ نہ تھا، لیکن باوجود اس کے کسی نے عاصم کی حدیث کو ترک نہیں کیا۔ کیونکہ اس کی نیکی اور علم مشہور تھا، اور جس کو گیارہ بڑے بڑے محدثین اور نقادین نے تسلیم کیا ہو۔ تو پھر تمہاری بات کو کون سنتا ہے۔ تمام تو خدا کے قائل بھی نہیں۔ تم اس کی الوہیت کا انکار کردو۔ لیکن تمہیں الوہیت سے کیا غرض۔ بھائی اصل بات یہ ہے۔ کہ عاصم بڑے صوفی اور نیک تھے، اگر کہیں ان کو قرآن کی قرأت پڑھتے ہوئے شبہ ہو جاتا، تو خواہ صحیح بھی ہو، جب تک یہ اپنے شبہ کو دوسرے سے رفع نہ کر لیتے، تب تک چین نہ لیتے، اور آگے نہ پڑھتے، یہ اتقا کی علامت ہے۔ نہ سوء حفظ کی، جو تم نے سمجھا ہے۔ اس کی تشریح بھی دیکھو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمادی ہے۔ وقال شهاب بن عباد عن ابی بکر بن عیاش دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت اسمعه يردد هذه الاية نحققها كانه في المحراب ثم ردوا الى الله مولهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ۔

ابوبکر بن عیاش وغیرہ کا کہنا کہ اس کا حافظ کمزور تھا، اس کی وجہ یہ ظاہر فرمائی کہ میں ایک بار عاصم کے پاس گیا، تو وہ موجود تھا، تو میں نے اس کا قرآن سننا شروع کر دیا (سبحان اللہ عاصم کا قرآن پڑھنا اور امام احمد بن حنبل اور اعمش وغیرہم کا قربان ہونا تو کیا ہی لطف آتا ہوگا، مرزائی بیچارے کیا جانیں، جن میں قرآن پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں)۔ تو ہم معلوم کر رہے تھے۔ کہ آپ (یعنی عاصم) محراب میں ہیں۔ اور اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ٥ تو ان کا یہ بار بار پڑھنا ان کے حافظے کی کمزوری نہ تھی، بلکہ اعمش کو جتانا تھا کہ میرے متعلق جو تم سوء حفظ

marfat.com

کا خیال رکھتے ہو، حکومت تمہاری نہیں، حکومت خداوند کی ہے۔ وہ تم سے تمام حساب لیگا، جو تم اس کے بندوں کی طرف ایسا خیال رکھتے ہو، نماز میں ہی قرآن پڑھتے پڑھتے سب کچھ سمجھا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہ نہ خیال کرو کہ میں اپنے خلف سے ناواقف ہوں، بلکہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی پیچھے،

تو اے مرزائیو! یاد رکھو، ایسے اولوالعزم اور بزرگوں کو اتہام لگانا، جس کو زمانہ تسلیم کرچکا ہو اچھا نہیں ہوتا، تُو تُو اتُو تُو اکرح کے بعد پھر کبھی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی حدیث کو ضعیف نہ کہنا، چہ جائیکہ کسی وکیل کی سُنی سنائی بات جن کا کام ہی عموماً جھوٹ پر ہوتا ہے۔ کسی کو بُرا نہ کہنا اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی حدیث کو موضوع نہ کہنا، دیکھو ان کا مدلح ادھر کتنا بھاری دھرا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔

ابو یحییٰ الاعُرَجَ مصدع } دوسرا راوی جس پر تم نے جرح کی ہے۔ اس کے متعلق سنیئے!

تقریب التہذیب ۳۵۴	مِصْدَعْ بکسر اولہ وسکون ثانیہ وفتح ثالثہ ابویحیی الاعرج المعرقب مقبول من الثالثة

(مِصْدع رضی اللہ عنہٗ کے اساتذہ کرام، جن سے یہ حدیثوں کو نقل فرماتے ہیں۔

تہذ التہذیب ۱۰/۱۵۷	روی عن علیؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وَ الحسنؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وابن عباسؓ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہما) وابن عمرؓ وبن عاص (رضی اللہ تعالے عنہم) وعائشہؓ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ثابت ہوا، کہ مصدع رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ

marfat.com

خیر القرون سے ہیں، اور تابعی ہیں، اور جن کے یہ پانچ اساتذہ ہوں تم ان کو ضعیف اور شیعہ کہو، اور ان کی حدیث کو موضوع کہو اور قسم قسم کے اتہام دکا ڈو تو تمہیں خدا تعالیٰ ہدایت دے۔

(مصدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جنہوں نے آپ سے روایات بیان کی ہیں)۔

تهذيب التهذيب ۱۰/۱۵۷

وعنه سعد بن اوس العدوی رحمة الله عليه وسعيد بن ابی الحسن بصری رحمة الله عليه وعمار الدهنی رحمة الله عليه وشمر بن عطيه رحمة الله عليه وابو رزين الاسدی رحمة الله عليه وهلال بن يساف رحمة الله عليه۔

قال ابو حاتم مصدع ابو يحيیٰ الاعرج الانصاری يقال مولی بن عفراء وكذا قال احمد وقال ابن المدينی سمعت ابن عيينة قال حامد الدهنی كان مصدع عالمًا بابن عباس. قُلْتُ اِنَّمَا قِيْلَ لَهُ الْمُعَرْقَبُ لِاَنَّ الْحَجَّاجَ اَوْبِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَرَضَ عَلَيْهِ سَبَّ عَلِيٍّ فَاَبٰى فَقَطَعَ عُرْقُوْبَهُ۔

ابو حاتم نے کہا مصدع ابو یحییٰ اعرج انصاری کا نام ہے۔ ابنا عفرا کا غلام ہے احمد نے بھی ایسا ہی کہا ہے اور ابن مدینی (علی بن المدینی) نے کہا کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا ہے۔ کہ عمار دہنی نے کہا ہے، مصدع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا بڑا عالم تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کو معرقب اس لئے کہا جاتا ہے، کہ حجاج نے یا بشر بن مروان نے اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سب کرنے کے لئے کہا۔ یعنی کہا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دو، تو مصدع نے انکار کر دیا، تو اس کی عرقوب یعنی پٹھ کاٹ دیا گیا، تو بےچارہ لنگڑا ہو گیا، تو اس کو معرقب کہا جاتا ہے۔

marfat.com

"مرزائی" - علامہ ذہبی نے اس کے متعلق لکھا ہے، سعدی نے اس کو زائغ جائر عن الطریق لکھا ہے - تم بھی بس مولوی صاحب ایسے ہی ہو، جو کام کی بات ہو، اس کو چھپا لیتے ہو۔ ۳۲۵

"محمد عمر" - سبحان اللہ! بات کو چھپانا مرزائیوں کا کام ہے، فقیر انشاء اللہ تعالیٰ بات صاف صاف کہد دیتا ہے - اور لکھ دیتا ہے - کوئی ایمان لائے یا نہ، اصل بات یہ ہے کہ تم بچارے سادہ لوح آدمی ہو، تمہیں جیسا کسی نے بہکا دیا تم اس کے جال میں آگئے، آج کل وکیلوں کا کام ہے - الٹی ٹیڑھی بات کرکے لوگوں سے پیسے بٹور لئے - کوئی وکیل پیسے چھیننے کا کام کرتا ہے - کوئی ایمان چھیننے کا، لیکن تم تحقیق کرلیا کرو - کیونکہ تم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا حساب اپنا اپنا ہونا ہے - آیئے فقیر عرض کرتا ہے - پہلی بات تو یہ ہے - کہ تم نے دھوکہ دیا جب تم نے حوالہ دیا، تو میں نے کتاب میزان الاعتدال کھولکر دیکھی تو علامہ ذہبی نے پہلے ہی اس کے متعلق فیصلہ کردیا - کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شاگرد ہے - اور سچا ہے - سُنو -

میزان الاعتدال ۳/۱۷۲	المعرقب عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدوق - معرقب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شاگرد ہے اور سچا ہے

دیہ تو ہے فتوای امام ذہبی کا) آگے اس نے (جوزجانی) سعدی کا قول نقل کیا ہے - تو اس کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے - سُنو -

تہذیب التہذیب ۱۰/۱۵۸	وقد ذکرہ الجوزجانی فی الضعفاء فقال زائغ جائر عن الطریق یرید بذالک ما نسب الیہ بالتشیع و

الجوزجانی مشہور بالنصب والانحراف فلا یقدح فیہ قولہ -

ذکر کیا (سعدی) جوزجانی نے مصدع کو ضعیفوں میں اور زائغ جائر عن الطریق کہا ہے - حالانکہ خود جوزجانی (سعدی) بڑا بت پرست اور بے دین مشہور ہے - اس کے متعلق اس کا کوئی حرج نہیں -

marfat.com

میرا دوست یہ عبارت ہی چھوڑ گیا، معلوم ہوتا ہے طغرا جائز سمجھتے ہو، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر کوئی مرزائی کسی مسلمان کو برا کہدے تو اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ طاعن بیچارہ خود مطعون ہے۔ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں طاعن کے لئے بھی تو ثقہ ہونا شرط ہے۔ ایرے غیرے نتھو خیرے کے طعن کا بھی تو کوئی اعتبار نہیں، یہ معاملہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مرزا صاحب کی حدیث نہیں، کہ بشن پت اور ملاوامل آریہ بھی جنکے راوی اور کاتب وحی مرزائیت میں بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ فتدبر وتفکر۔

(غالب بن فائد)

میزان الاعتدال ۲/۳۲۱	(غالب بن فائد) عن سفیان ثوری۔ غالب بن فائد سفیان ثوری کے شاگردوں سے ہیں۔ (اس لئے یہ معتبر راوی ہیں)

"مرزائی"۔ تم آگے کیوں نہیں پڑھتے، اس کے متعلق لکھا ہے۔ قال الازدی یتکلمون فیہ، ازدی نے کہا ہے۔ کہ اس کے متعلق کچھ لوگ باتیں بناتے ہیں،

"محمد عمر"۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ ازدی کا محض متکلم فیہ کہنا کوئی غلاف نہیں، کیونکہ کلام مجمل ہے۔ اگر کسی عیب سے معیوب قرار دیتے مثلاً کذب وغیرہ کا تو واقعی ایک قابل اعتراض امر تھا، جب محض متکلم فیہ فرمایا، تو اس کا جواب بھی تو ساتھ ہی سُنا دیا وہ نہیں پڑھا، کہ قال ابو حاتم لا باس بہ ابو حاتم نے کہا ہے کہ اس کی ذات کے متعلق کوئی ایسا عیب ناک کلام نہیں۔ اس واسطے اس کی حدیث کے دلیل اخذ کرنے میں کوئی ڈر نہیں،

"مرزائی"۔ عقیلی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ میزان ۳۲۲

"محمد عمر"۔ آپ غلط فرما رہے ہیں۔ بلکہ وہاں تو لکھا ہے۔ قال العقیلی یخالف فی حدیثہ۔ عقیلی نے کہا ہے کہ اس کی ایک حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ تو جس کی ایک حدیث میں اختلاف کیا جاوے اس کی تمام حدیثیں مختلف فیہ نہیں ہوسکتیں، اور پھر اختلاف فرمایا جھوٹ نہیں فرمایا اور مرزا صاحب

marfat.com

کی کسی بات میں اتحاد ہے؟ ان کی ہر بات ہی مختلف ہے، یعنی ان کا اپنا کلام ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے۔ آپ نے اُن پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ان کو تو سچے سمجھو اور اگر کسی راوی کی کسی ایک حدیث میں کسی نے اس کے خلاف کہہ دیا۔ تو اس کو ہمیشہ کے لئے معاذاللہ متروک کہدو کسی نے ان کو متروک کیوں نہ کہدیا، جب احادیث کے ناقدین ان کو لاباس بہ فرما رہے ہیں، تو ان کے ایک حدیث کے اختلاف سے تمام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔

غالب بن فائد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد

ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں۔ مگر علامہ ذہبی کے نزدیک ان سے حدیثوں کا بیان کرنے والا شاگرد ایک ہی کا نام لکھا ہے۔ روی عنہ سعل بن عثمان العسکری
"مرزائی"۔ تمہاری ایک روایت ابن عباس رضؓ سے جو تم ابن جریر کی بیان کرتے ہو، اس میں فضیل بن مرزوق شیعہ ہے۔ اس کی روایت کو ابو حاتم نے حجت قرار نہیں دیا، اور نسائی نے ضعیف کہا ہے، ابن حبان نے ضعیف اور خطا کار لکھا ہے نیز ابن معین نے بھی ضعفاء میں شمار کیا ہے۔ ان تین کو تو تم نے معاف کر دیا، اب اس کے ضعف کی کیا صفائی پیش کرتے ہو، جو سرے سے ہی شیعہ ہے، رافضی نہ تمہارے نزدیک حجت نہ ہمارے نزدیک، لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت تو ضرور ہی ضعیف اور موضوع ثابت ہو گئی۔ دیکھا جناب مرزائی کے کذب کو ایک روایت کو تولے ہی ڈوبا۔ ۳۲۷

محمد عمر۔ مرزائی صاحب یہ بھلا کبھی ہو سکتا ہے۔ کہ مرزائی اہلسنت وجماعت کی پیش کردہ روایت کو ضعیف ثابت کر دے۔ فقیر نے ابن جریر کی اکثر روایتیں حیات مسیح علیہ السلام کے متعلق پیش کیں، لیکن مذکورہ بالا رواۃ کی روایات کو پیش ہی نہیں کیا گیا۔ فقیر کو علم تھا، کہ مرزائی ان پر معترض ہو گا، تو پہلے اس کے اعتراضات کو صاف کر کے پھر انشاء پیش کرونگا، چنانچہ اب انشاء اللہ بعد از صفائی شکوک فقیر انشاء اللہ پیش کرے گا، پہلے رواۃ پر جو تم نے اعتراضات کئے، فقیر نے بالوضاحت ان کے تسلی بخش جوابات دئے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اُن کو تم بخوبی

marfat.com

سمجھ گئے ہونگے، باقی رہا اس راوی کے متعلق تو اس کی صفائی کے متعلق بھی انشاء اللہ اپنی طاقت کے مطابق کمی نہیں رکھونگا۔ تمہارے اس اعتراض میں فضیل بن مرزوق کے متعلق دو اتہام ایک شیعہ ہونیکا اور ایک اس کے غیر ثقہ فی الحدیث ہونے کا۔ اُن کی شیعیت کا جواب تو علامہ ذہبی نے دیا ہے، کہ ان کو شیعہ حجاجی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہیں دیں، ملاحظہ ہو۔

میزان الاعتدال ۲/۳۳۵	وَكَانَ مَعْرُوْفًا بِالتَّشَيُّعِ مِنْ غَيْرِ سَبٍّ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو نہ گالی دینے کی وجہ سے لوگ شیعہ کہتے تھے، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم

اجمعین کو گالی دینا اور دلوانا حجاج بن یوسف کا شیوہ تھا، اور جو شخص اس زمانہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گالی نہ نکالے اس کو حجاجی شیعہ ہونیکا فتوای دیتے تھے، جیسا کہ پہلے مرتب کے واقعہ میں گذر چکا ہے۔ تو تم مرزائی بھی حضرت فضیل بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ کہتے ہو، ثابت ہؤا کہ تم بھی حجاجی ہو، اسی واسطے تمہارے افعال و اقوال بھی حجاج بن یوسف والے صادر ہو رہے ہیں۔

اگر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہ دینا ہی رفض ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مرزائی رافضی کہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے بھی فرمایا ہے ان کان رفضا حب اٰل محمد فلیشھد الثقلان انی رافضی۔

کیوں جناب اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہ دینا یہ شیعت نہیں ہے۔ سنیئے اب ان کے ضعف کو صاف کر دوں جو تمہارے دل میں جمایا گیا ہے۔

فضیل بن مرزوق کے اساتذہ حدیث

تہذیب التہذیب ۷/۲۹۸	روی عن ابی اسحٰق السبیعی[۱] وعدی بن ثابت[۲] وعطیۃ العوفی[۳] والاعمش[۴] ومیسرہ[۵] بن حبیب وشفیق[۶] بن عقبہ وجبلہ بنت مصفح[۷]

وغیرھم اور ان کے سوا اور بھی ہیں۔

marfat.com

فضیل بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگردان حدیث

وعنہ زہیر بن[1] معاویہ و وکیع[2] وعبد[3] الغفار بن الحکم وحسین[4] ابن علی جعفی والو اسامۃ[5] والفضل[6] بن موفق ویحییٰ[7] ابن ادم ویحییٰ[8] بن ابی بکر ویزید[9] بن ہارون ومحمد[10] بن ربیعہ الکلابی ومحمد[11] بن فضیل ونعیم[12] بن میسرۃ النحوی وزید[13] ابن الحباب والونعیم[14] وعلی[15] بن الجعد وآخرون یہ ۱۵ جلیل القدر آپ کے حدیث کے بڑے طالب الحدیث ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ہیں، آگے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جنہوں نے ان کو ثقات کہا ہے۔

فضیل بن مرزوق کو ثقہ فی الحدیث کہنے والے

(۱) ۔ قال معاذ بن معاذ سالت ثوری عنہ فقال ثقۃ۔

(۲) ۔ وقال الحسن بن علی الحلوانی سمعت الشافعی یقول سمعت ابن عیینہ یقول فضیل بن مرزوق ثقۃ۔

(۳) ۔ وقال ابن ابی خیثمہ عن ابن معین ثقۃ۔

(۴) ۔ وقال احمد لا اعلم الا خیراً۔

(۵) ۔ وقال ابن ابی حاتم عن ابی صالح الحدیث صدوق۔

(۶) ۔ وقال ابن عدی ارجوانہ لاباس بہ۔

(۷) ۔ وقال الحسین بن الحسن المروزی سمعت الھیثم بن جمیل یقول جاء فضیل بن مرزوق وکان من ائمۃ ہدا۔

(۸) ۔ وقال ابن شاھین فی الثقات۔

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین ائمہ کرام و دیگر چیدہ چیدہ ائمہ حدیث جس کو ثقہ کہیں، تم ان کو ضعیف کہو، تو یہ تمہاری مرزائیت کا شیوہ ہے۔ کیا لو عاش ابراہیم والا بدلہ

marfat.com

لیتے ہو، جو ثقہ کو ضعیف کہتے ہو، جب وہاں پہنچے تو انشاء اللہ اس حدیث پر نظر کی
اور آپ کی باتیں ہونگی، لوگ سنیں گے ہاں اس کو کہتے ہیں انصاف جس کی
وجہ سے ابن حبان نے اور نسائی نے ضعیف کہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضیل
عن عطیہ عن ابی سعید اس سند والی ضعیف ہے۔ جیسا کہ ابن حجر عسقلانی
رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام فضیل کی روائتیں کو صحیح
اور قابل اعتبار ہونگی۔

عطیہ کے علاوہ باقی حدیثوں کو موضوع کہنے والا خود جھوٹا سمجھا جاوے گا،
یہ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعض روایتوں کے راوی، جن کو ثقات ثابت
کر دیا گیا، جو ابھی تک تحریر نہیں کی گئیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
کی بعض حدیثیں جن میں یہ راوی نہیں بیان ہو چکی ہیں۔

"مرزائی" - قَالَ: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں علم مصدر ہے۔ مصدر کبھی کبھی
مبالغہ کے لئے بھی آتا ہے، جیسے زَيْدٌ عَدْلٌ زید عادل ہے۔ اسی طرح مسیح
اچھی طرح قیامت کا جاننے والا تھا یعنی اس کو یقین تھا، کہ قیامت ہوگی، اور
وہاں وہ اپنے دشمنوں کو پا بہ زنجیر دیکھے گا، اس میں یہود پر بھی ایک حجت ہی
کیونکہ ان کا ایک گروہ منکر قیامت تھا، یا وہ یہود نا مسعود کی ہلاکت کو جانتا
تھا، اگر نشانی بھی تسلیم کی جاوے، تو ساعۃ سے مراد قیامت کبریٰ تو ہو نہیں سکتی
ہاں یہود کی ہلاکت کی گھڑی مراد ہو سکتی ہے، اور مطلب یہ بنجائیگا کہ عیسیٰ بن مریم
کا بن باپ پیدا ہونا یا مبعوث ہونا اس بات کا بدیہی نشان تھا، کہ سب بنی
اسرائیل گندے ہو چکے ہیں، اور ان کی ہلاکت دروازے پر کھڑی ہے۔ (۲۲۵)

"محمد عمر" - خداوند بھائی مرزائیوں کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماوے،
قرآن کریم کو اُلٹ بیان کرنا مرزائیوں پر بس ہے، میں تو اب تک یہی سمجھتا
رہا ہوں، کہ شاید عیسائی یا آریہ ہی قرآن کے معنی تبدیل کر کے اُلٹ پلٹ
کرتے ہیں، لیکن جب تمہاری سنی تو تم نے تو بس اپنا اُلّو سیدھا کرنے کے لئے
خواہ قرآن کی کیسی ہی چوری کرنی پڑے نہیں ٹلتے، عبارت کسی مطلب کی مقتضی
ہو یا نہ ہو کئے اپنا اُلّو سیدھا کر لینا۔

marfat.com

بھلا یہ تو فرماؤ کہ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأۃ بھول گئی، بخاری شریف میں بے سند قول آجائے تو اس کو اُلٹا کر لو اور کہہ دو جی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح ہو یا نہ ہو اور یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف قرأت موجود ہے۔ وَاِنَّہٗ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَۃِ ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور قیامت کا نشان ہیں، تو تم مرزائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پر کیوں نہیں ایمان لاتے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم اگر ایمان نہ لاؤ گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمی ہو گی اور اگر تم ایمان لے آؤ گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھ جائے گی۔

کلا وحاشا یہ تو ہرگز خیال ہی نہیں کیا؟ آریہ اور عیسائی وہندو ایمان نہیں لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انہوں نے بگاڑ لیا ہے یا ان کی امت میں کچھ فرق آیا، یا اگر مرزائی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہ ہونگے، تو کیا جنت کا دروازہ نہ کھلے گا، یہ تو ناممکن ہے جنت کی چابیاں تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں رب العزۃ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، فقیر کا بیان کرنے کا مطلب صرف یہی ہے۔ کہ کوئی مرزائی یہ نہ کہے، کہ کسی نے سمجھایا نہیں، اگر تمہیں خداوند نے معنی الٹنے کا ٹھیکہ ہی دیا ہے تو فقیر کو ایسے لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں دو قرأتیں ہیں، وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ وَاِنَّہٗ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَۃِ اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، دوسری قرأۃ عَلَمٌ کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جس کے تم منکر ہو، اس کے تو صاف معنی ہیں کہ عَلَمٌ کے معنی نشان ہیں، اور پہلی صورت میں لَعِلْمٌ ہو، اَیْ مَا یُعْلَمُ بِہٖ ۔ یعنی جس کے ساتھ معلوم ہو، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی نشان کے ہونگے۔ جیسا کہ تفسیر کشاف ۳/۴۲ میں منکشف ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ایسے بہت سے استعمال موجود ہیں، مثلاً وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَخَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ وَعَلٰی سَمْعِہِمْ تو ان دونوں مقامات پر سَمْعٌ بمعنی مَا یُسْمَعُ بِہٖ مراد ہے تو یہ محاورہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے ایسے ہی بھلا تم تو بیان کرو۔ فقیر تمام امت مرزائیہ کو چیلنج دیتا ہے کہ یہ ڈھکوسلا

marfat.com

جو تم نے قرآن کریم میں چھوڑا ہے۔ یہ تیرہ سو سال پہلے آجتک کسی مسلمان نے بیان کیا ہے۔ اگر نہیں، تو مرزائیو خدا سے ڈرو۔ اور اس کے کلام کو بُری طرح نہ بدلو، خود تو جہنم رسید ہو چکے ہو، دوسروں کو گمراہ کر کے ان کا بوجھ تو اپنے ذمّہ نہ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے۔ کہ اگر انَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ میں مصدر بمعنی مبالغہ لیا جاوے تو مطلب ہی فوت ہوتا ہے، اور دو خرابیاں لازم آئیں گی، تو اس آیت کریمہ کے مرزائی معنی پھر یوں نہیں گے، کہ قیامت کا علم صرف عیسٰی ہی جانتے ہیں، ان کے سوا معاذ اللہ خدا کو بھی علم نہیں، دوسری خرابی یہ کہ عیسٰی علیہ السلام قیامت کا علم بالذات جانتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، تو اگر لَعِلْمٌ سے علامت ہونے پر ایمان لے آئیں یا اگر لَعِلْم سے مَا يُعْلَمُ بِهٖ یعنی علامت کے معنی کئے جاویں تو فبہا، ورنہ مرزائی معنی مُراد لینے سے مذکورہ بالا دو خرابیاں لازم آئیں گی، جو صراحۃً کفر ہے۔

اور باقی تمہاری یہ باتیں کہ اپنے دشمنوں کو پابہ زنجیر دیکھیں گے اور یہود پر حجت ہوگی، اور ان سے ایک گروہ منکر تھا، تو یہ سب تمہاری منگھڑت بات ہے۔ نہ یہ بات آیت کریمہ میں مذکور ہے نہ قرآن کی کسی آیت میں ہی ہے، اس واسطے ایسے لغویات کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سب مرزائیات ہیں، کسی آیت کا ترجمہ نہیں خارج از آیت فقیر کسی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں،

آخر تنگ آکر جب تمہارا کوئی چارہ نہ چلا، اور گرنے کے لئے تمہیں کسی گڑھے نے بھی جگہ نہ دی، تو تمہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اگر حضرت عیسٰی علیہ السلام کو نشانی تسلیم کر بھی لیا جائے، تو قیامت کبرٰی مراد نہیں ہوسکتی، تو فقیر یہی عرض کرے گا، کہ تمام بناوٹی تاویلیں چھوڑ کر بس اسی پر پکا یقین جما لو کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام قیامت کا نشان ہونگے، قرآن کریم میں تو کوئی فرق نہیں، کسی غیر کی بات پر تو تم بلاشک نہ ایمان لاؤ، لیکن حیات مسیح علیہ السلام اور قرب قیامت اُن کا نشان قیامت ہونا تو قرآن سے ثابت ہے۔ اتنی بات مان کر کہ وہ قیامت کی علامت ہونگے، پھر ایک غداری سے تم باز نہ آئے کہدیا کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کی گھڑی ان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ بھائی جب یہ اقرار کر چکے ہو،

marfat.com

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، تو آگے پھر ان کے آنے سے متعلق پھر آیت وضاحت کر رہی ہے۔ کہ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ سے صرف پہلے مسیحیوں کو ہی ہلاک کریں گے، یا ایمان لائیں گے بلکہ پچھلے مسیحیوں کو بھی درست کرینگے، تمہیں بنی اسرائیل کا کیوں اتنا فکر ہے۔ وہ تو تشریف لا کر تمام مسیحیوں کو مسلمان کرینگے، پہلے ہوں، یا پچھلے، یہ تو ان کی آمد پر فیصلہ ہو گا، تو دیکھا جاوے گا، اگر تمہیں فکر ہے تو تم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو، کہ مسیحیوں کو درست کرتے کرتے تمہاری زبان سے سُن لیں، کہ مسیح موعود علیہ ما علیہ، تو تم پر کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیں بجبیں نہ ہو جائیں، کہ تم بھی مسیحی ہو، تمہیں بھی درست کرتا ہوں، پہلے پہلے ہی درست ہو جاؤ، یہ ہے تمہارے ع۲ کا جواب۔

"مرزائی"۔ ساعة سے مراد ہلاکت بنی اسرائیل کی گھڑی بھی ہوسکتی ہے۔

"محمد عمر"۔ لفظ ساعة جس کا ترجمہ قرآنی محاورہ کی اصطلاح میں قیامت ہے وہ مومن کے لئے تو وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ۔ یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی زیادہ تھوڑی دیر میں ختم ہو گی، لیکن کافر کے لئے خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ پچاس ہزار سال لمبی ہو گی اس کا نام ہے ساعة۔ اور اسی کے متعلق ارشاد الٰہی ہے۔ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قیامت قریب آ گئی، اس کے قرب کی علامت فرمائی وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب وہ آسمان سے تشریف لے آئے تو سمجھ لینا کہ بس قیامت آ گئی، کیونکہ ان کی آمد قیامت کو مستلزم ہو گی اور قیامت صرف بنی اسرائیل کے لئے ہی نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ بلکہ ہر ایک کیلئے ہو گی۔ کسی کیلئے كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اور کسی کے لئے خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ۔ تو تمہارا قیامت کو صرف ایک بنی اسرائیل کے لئے ہی مقرر کر دینا یہ قرآن کریم کا صراحتہً انکار ہے۔

"مرزائی"۔ اگر یہی معنی لئے جائیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، تو فَلَا تَمْتَرُنَّ کے معنی لغو بنجاتے ہیں، کیونکہ یہ بات معقولیت سے بعید

ہے۔ کہ ابھی وہ نشانی آئی بھی نہیں، مگر خداوند آنحضرت کے منکروں کو فرماتا ہے کہ تم اس میں شک کرو۔ ظاہر ہے کہ جب نشانی نے ابھی ایک نامعلوم مدت کے بعد آنا ہے تو ان کو شک سے ابھی کس بنا پر روکا جاتا ہے۔ تو اس جگہ مسیح قیامت کی نشانی ہونیکا تذکرہ نہیں، بلکہ قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانی ٹھیرایا گیا ورنہ یہ حصہ بے معنی مبتلا ہے۔ پ۲۵

محمد عمر۔ بھلا یار تم نے آخیر علم کے معنی نشانی تو تسلیم کرلیا، یہ ہے جناب وہ سچائی، جو منکر کی زبان سے بھی وہ بے نیاز کہلوا دیتا ہے۔ علم کے معنی نشان تو تسلیم کرچکے، کیوں نہ ہو، تمہارے آقا قادیانی جب تسلیم کریں تو تمہاری تو صرف ہٹ دھرمی ہے۔

اب باقی رہی یہ بات کہ ضمیر اِنَّہٗ کی تو یہ بھی تمہارے مرزا صاحب حضرت عیسٰی علیہ السلام کو نشانی تسلیم کرچکے، اعجاز احمدی ص۲۱ دیکھ لیجئے، باقی عبارت قرآنی تو جب ماقبل اس کے سوائے حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نہ قرآن کریم کا ذکر ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو تم ان کی طرف قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کیسے اِنَّہٗ کی ضمیر ان کی طرف راجع کرسکتے ہو، علم کے معنی نشان تم نے تسلیم کرلیا، تو اِنَّہٗ کی ضمیر کا مرجع سوائے عیسٰی علیہ السلام کے تمہیں کوئی جاہل سے جاہل عربی دان بھی نہ بنانے دیگا، تمہاری دو باتیں باقی رہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا لغو بنجاتا ہے۔ تو یہ تمہارا کہنا ہی لغو ہے۔ کیونکہ جو چیز ابھی موجود فی الخارج نہ ہو، تاکید بھی اسی کی زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر جو چیز ابھی دور آنے والی ہو، تردد بھی اس میں ہی ہوجاتا ہے۔ کہ خبر نہیں آئے یا نہ؟ جیسے تم کو اللہ تعالٰی نے اس تردد کو دور کرنے کے واسطے فرمایا، کہ حضرت عیسی علیہ السلام قیامت کی علامت تو ضرور ہیں، لیکن مدت دراز ہونے کی وجہ سے کہیں انکار نہ کردینا، تاکید فرمائی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ عیسی علیہ السلام کی آمد قیامت کے نشان ہونے میں شک نہ کرلینا، ورنہ گمراہ ہوجاؤ گے۔

اور دوسری وجہ تاکید کی یہ ہوتی ہے کہ حکیم کو جب علم یقینی ہوتا ہے، کہ میرا مریض فلاں شے سے نہیں بچ سکیگا، اور اس کا پرہیز نہیں کریگا، تو وہ ذرا

marfat.com

ڈانٹ دیتا ہے - کہ دیکھنا ایسا نہ ہو، کہ کہیں فلاں شئ کھا بیٹھو، تمہارے لئے مُہلک ہوگی، ایسے ہی چونکہ خداوندکریم کو علم تھا، کہ فرقہ مرزائیہ ایسا پیدا ہونے والا ہے - جو مسلمان بھی کہلائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نشان قیامت ہونے میں شک کرینگے - تو اس نے اپنے علم کے مطابق وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ فرماکر ساتھ ہی تاکیدی حکم جاری فرمادیا کہ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِھَا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کی نشانی ہونے میں شک نہ کرنا اور شکیوں پر فتوٰی بھی جڑ دیا، وَلَا یَصُدَّنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ کہ کہیں تمہیں اس علامت ساعت والے عقیدہ سے شیطان نہ روک لے، ثابت ہؤا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی تسلیم نہیں کرتے اور اس عقیدے سے رد کتے ہیں - وہ بفتوٰی خداوندی شیطان ہیں، ان کے رد کنے سے اپنا عقیدہ بگاڑنا نہیں چاہیئے، اور نہ ہی اس عقیدہ سے رُکنا چاہیئے۔

دوسری بات تمہاری یہ کہ اللہ تعالٰی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو فرماتا ہے - کہ تم اس میں شک نہ کرو، تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کیا ضرورت منکر ہو چاہیں جہنّم میں جائیں، منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامت قیامت پر مضبوط کرنے کی کیا ضرورت، علامت قیامت پر مضبوط کرنے کی اُسے ضرورت ہوتی ہے، جو قیامت کا قائل ہو، جو قیامت کا قائل ہی نہیں، اُسے علامات پر مضبوط کرنے کی کیا ضرورت، تو یہاں منکرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شک کو دور نہیں کیا جارہا، بلکہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا جارہا ہے - کہ تم چونکہ حیات سماوی عیسیٰؑ و ہبوط عیسوی علیہ السلام کا یقین رکھتے ہو - تو تمہیں یہ بھی واضح کردیتا ہوں، کہ وہ قرب قیامت آسمان سے تشریف لاویں گے - اور ذرا دیر ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو، کہ کہیں شک میں پڑ جاؤ، یا تمہیں کوئی مرزائی بہکائے تو تمہیں شک نہ ہو جائے، کہ اتنا عرصہ گذر گیا ہے خبر نہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں یا نہ؟ تو فرمایا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِھَا وَلَا یَصُدَّنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ اور شیطان تم کو بہکا نہ دے وہ تمہارا ظاہرا دشمن ہے،

marfat.com

اس کے جال میں نہ پھنس جانا، تو رب العزۃ نے قربِ قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کو اور علامت قیامت نہ سمجھنے والوں کو شیطان کا فتوای دیا، اور فرمایا وہ تمہارا ظاہرا دشمن ہے۔

"مرزائی"۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کے بعد ہے۔ وَاتَّبِعُوْنِ کہ میری پیروی کرو، اگر قیامت کی نشانی مسیح تھے، تو اس کی مناسبت میں یہ فرمانا چاہیئے تھا۔ کہ تم اس کی پیروی کرنا، یہ کہنے کے کیا معنی کہ میری اتباع کرو، اس میں یہ کہہ کر کہ میری پیروی کرو، صاف بتا دیا کہ کوئی مسیح ناصری نہ آئیگا، بلکہ تم اے مسلمانو! خود مسیح بنو، اور اس کا طریق یہ ہے۔ کہ تم میری اتباع کرو۔ ؎۳۴۵

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! آپ کی منطق اُلٹی ہے، بھلا یہ تو فرمائیے، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم جاری فرماتے ہیں، تو وہ بواسطہ ہوتا ہے۔ یا بغیر واسطے کے جب قرآن کریم ہمارے پاس بغیر واسطہ نہیں پہنچا۔ تو اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ۔ بفرمانِ الٰہی واسطہ ثابت ہوتا ہے۔ اور بِمَا اُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو واسطے کا ثبوت پکا ہو گیا، اور قانون خداوندی ہے۔ کہ جو حکم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے خطاب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ پھر ارشاد الٰہی شروع ہوتا ہے۔ مثلاً توحید کا ارشاد ہوا، تو آپ کی وساطت سے فرمایا، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو قُل کے ارشاد نے وساطت نبوی محکم فرما دی، جب توحید الٰہی پر کوئی شخص ایمان لائے گا تو از روئے آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہوا آپکی ذات پر ایمان لائے بغیر وحدت پر مومن کا ایمان صحیح نہ ہو گا۔ اور اس حکم کو بھی مطابق وساطت یعنی اپنے ایمان کو مطابق ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست کرنا پڑے گا۔ علیٰ ہذا القیاس رب العزۃ نے جب وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا سے سب کو حکم جاری فرما دیا، تو وَاتَّبِعُوْنِ کی وساطت پر ایمان لانے کا ساتھ ہی حکم جاری فرما دیا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

؎۳۴۵ کا حل

marfat.com

کا بھی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کی نشانی ہونے پر ہے، تو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کے ساتھ چونکہ میرا بھی ایمان ہے۔ تو تم تمام میری امّت ہو۔ اس واسطے جو میرا متبع ہو اور میری امت میں داخل ہو، اس کا حق ہے۔ کہ موافق ارشاد الٰہی وَاتَّبِعُوْنِ میری اتباع میں عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانے پر ایمان رکھے، اور آگے ارشاد الٰہی ہوا، کہ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا) یہی سیدھا راستہ ہے تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے پر ایمان نہ رکھے تو پہلے وہ ارشاد الٰہی وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کا منکر۔ دوسرے وَاتَّبِعُوْنِ کے انکار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج اور تیسرا وہ صراط مُّسْتَقِيْمٌ سے بھی دور اور چوتھے وہ بحکم خداوی آگے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام زندہ کو بھی مردہ سمجھ بیٹھا تو اطاعت شیطان میں داخل ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ ماننے سے اور اُن کو قیامت کی علامت نہ ماننے سے چار احکام کے انکار کا مجرم ٹھیرا، جن کا خمیازہ کوئی شئ ہو ہی نہیں سکتا۔

جواب تیسرا وَاتَّبِعُوْنِ سے رب العزۃ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی حیات عیسوی اور قرب قیامت ان کے تشریف لانے سے تمہیں دھو ڈالے اور تمہیں میرے کہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا سے بھی کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ تو آگے ارشاد فرمایا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے وَاتَّبِعُوْنِ تم میری حدیثوں کا مطالعہ کرلو، ان میں حیات مسیح اور ان کا علامت قیامت ہونے کا مفصّل بیان مذکور ہے۔ ان سے تمہاری تسلّی ہو جائے گی، اور آگے ارشاد ہوا کہ اگر پھر بھی تمہیں کوئی شیطان بہکائے۔ تو فرمایا کہ وہ شیطانی راہ جارہا ہے۔ وہ رحمانی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے۔

اور چوتھا جواب یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوْنِ سے اسلئے اتباع مصطفائی کا ارشاد کردیا تاکہ یہ امر مضبوط ہو جائے۔ کہ حیات عیسیٰ علیہ پر ایمان رکھ کر یہ محض

marfat.com

اپنے ایک نبی کے انکار نے صرف نہیں بچا، بلکہ وہ
میری اتباع میں میرا امتی بن گیا، تو تمہارا اعتراض کہ اگر حیات عیسوی منوانا منظور
تھا، تو ارشاد ہوتا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی، کیونکہ پہلے ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر خداوندی
بجالاتا ہوں، کہ اس نے تمہاری زبان سے اقرار کروایا، کہ ماقبل ذکر عیسیٰ علیہ السلام
ہے۔ تو جب تم تسلیم کر چکے ہو، تو اس مراد سے تمہیں زیادہ دقت ہو جائیگی،
سنیے۔

آل عمران ۵۰
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ اللہ
سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تو بقانون شما تو چاہیئے تھا۔ کہ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْهُ اللہ سے ہی ڈرو اور اس کی ہی اطاعت
کرو، اس کا کیا مطلب کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو، حالانکہ ایسے نہیں
تو اس کے معنی یونہی صحیح ہونگے، جیسے میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسے ہی میری اطاعت
میں ڈرو، ثابت ہؤا، کہ حکم الٰہی پر عمل کرنے کے واسطے اطاعت رسول علیہ السلام
ضروری ہے، تو متنازعہ فیہا آیت کریمہ میں بھی رب العزۃ نے سبق دیا کہ
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سبق دیجئے۔ کہ جیسے حیات مسیح علیہ السلام
اور منزول من السماء کا میں قائل ہوں، تم بھی یہی عقیدہ رکھو۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حاکم عملاً یا انتظاراً یا اعتقاداً حکم نافذ کرتا
ہے۔ تو نمونے کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ
السلام کو علامت قیامت بیان فرمایا اور اس کے متعلق شک گزرنے سے
منع فرمایا اور اس کا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، اور حکم نافذ فرمایا، کہ
جیسا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاوینگے، تم بھی ان کی اتباع میں ایسا عقیدہ رکھنا، تو
ثابت ہؤا، کہ تمہارا اعتراض لغو اور مطلب خداوندی صحیح، ایسے ہی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ثابت ہے۔ سنیے۔

آل عمران ۵۳ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا

marfat.com

مَعَ الشّٰهِدِیْنَ ۝

اے رب ہمارے جو تو نے ہماری طرف صحیفہ نازل فرمایا، اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ اور ہم نے رسول کی اتباع کی، تو ہمیں گواہوں سے لکھدے، تو ثابت ہؤا، کہ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ پر ایمان لاکر اتباع رسول بھی لازمی ہے اور اسی قانون کے مطابق تو آیت کریمہ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کے بعد وَاتَّبِعُوْنِ کا فرمان الٰہی ضرور چاہیئے۔ کیونکہ بغیر اس کے کلام کا ربط اور عیسٰی علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے پر اتباع مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔

اور چھٹا رازِ الٰہی یہ ہے۔ کہ ثابت ہو جائے، کہ دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عیسٰی علیہ السلام کی تشریف لانے سے مذہب عیسوی رائج نہ ہوگا، بلکہ وَاتَّبِعُوْنِ سے اس شک کو رفع کر دیا،

کیوں جناب! اب تو قرآن کریم کی آیت پاک نے ہی آیت پاک کی ترجمانی فرمادی، اور قرآنی آیت کو لغو کہنے والا خود لغو ثابت ہو گیا،

اگر ایمان ہے، تو حیات مسیح ونزولہٗ من السماء قرب قیامت کے قائل ہو جاؤ، قرآن کریم پکار پکار کر تمہارے سر پر ڈھنڈورا دے رہا ہے۔

اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر شخص کا مسیح بنجانا یہ کس جملے کا مطلب نکالا ہے جناب؟ اگر ہر ایک ہی مسیح بن سکتا ہے۔ تو تو فرمان خداوندی وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اور فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تاکیدکی صاف طور پر تکذیب لازم آئیگی، تو قرآن کریم کے مطابق ایمان تب صحیح ہو سکتا ہے۔ جب قرآن و احادیث مرفوعہ صحیحہ پر ایمان لاکر حیات مسیح علیہ السلام سماوی کے قائل ہو جائیں، اور قرب قیامت ان کے تشریف لانے کو صحیح تسلیم کرلیں،

اور تمہاری اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ صرف مرزا غلام احمد صاحب ہی مسیحیت کے مدعی نہیں، بلکہ تمام امت مرزائیہ مدعی مسیح ہے۔

فَتَدَبَّرْ فَارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ۔

marfat.com

"مرزائی" - یہ متنازعہ فیہا آیت سورۃ زخرف کی ہے - اگر عیسیٰ علیہ السلام کو علم للساعۃ بھی مان لیا جاوے تب بھی امت محمدیہ میں نہیں آسکتا کیونکہ اس سورۃ کے آخیر میں فرمایا وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ کہ وہ عِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ جس کو تم دوبارہ زمین پر اتار رہے ہو، وہ اب اللہ کے پاس بیٹھا ہے - وہ تمہارے پاس ہرگز نہیں آئیگا، ہاں تم ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے - بس اس کا انتظار فضول ہے - ترک کر دو - ۳۴۸ب

"محمد عمر" - معلوم ہوتا ہے - کہ جس آیت کو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش کیا جاتا ہے - تمہارا دل تو تسلیم کر جاتا ہے - جو زبان سے بھی اقرار کر دیتا ہے - لیکن فقط مرزائیت تمہیں مجبور کرتی ہے - آج تم نے حیات مسیح سماوی کی ایک عجیب دلیل ظاہر فرمائی -

پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ اس کو چڑھایا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف - اور پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہیں،

تو اللہ تعالیٰ نے مرزائیوں کو یقین دلایا کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، تو علم للساعۃ پر ایمان لے آؤ، تو مرزائی کا سوال ہوتا تھا، کہ یا اللہ کہ ہم تو علم قیامت پر ایمان لاتے ہیں - بتاؤ تو سہی وہ ہے کہاں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ کہ اللہ کے پاس ہے - یعنی آسمان میں - لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہیں - اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے آسمان پر اپنے ہاں رکھا ہے - کیونکہ پہلے آسمان سے خداوند کریم کی بالذات تجلیات اعلانیہ کا اظہار ہوتا ہے - اور رب العزۃ نے اُن کو قیامت کا علم بنا کر اپنے ہاں محفوظ رکھا ہے - قرب قیامت ان کو آسمان سے بجسدہٖ اتارینگے - مسلمانوں کا تو ان کے قیامت کی نشانی ہونے پر اور قرب قیامت آسمان سے ان کے تشریف لانے پر پہلے ہی ایمان ہے - اور ہر ایک مومن و کافر و منافق وغیرہم کے لئے اس دن نشان کے طور پر تشریف فرما ہونگے - اس وقت تو کئی فرقے ہیں، لیکن اُس وقت صرف دو ہی ہونگے - فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

marfat.com

یا کافر یا مومن، کافر امت شیطانی ہوگی، جو محض منکرین ہونگے ۔ اور تمام مومنین امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار ہوں گے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، اور حقیقۃً بھی یہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام گو نبی ہونگے لیکن امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑے میں ہوں گے ۔ جیسا کہ ایک تھانیدار اپنے علاقے سے اگر باہر چلا جاوے تو باہر دو فرقوں میں جھگڑا ہو جائے ۔ ایک دھڑا گورنمنٹ کا اور دوسرا دھڑا باغیوں کا، تو وہ تھانیدار گورنمنٹ کے دھڑے میں شامل ہوگا اور اسی دھڑے کی امداد کریگا ۔ تو امداد کرنے میں اس تھانیدار کو علاقہ کے تھانیدار کے حکم کے مطابق ہی چل کر اس کی امداد عوام جاگیرداروں یا معاونین سرکار کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی، تو معاون تھانیدار تھانیداری سے معطل نہ سمجھا جائیگا ۔ بلکہ تھانیدار بھی ہے ۔ لیکن کام عوام کی طرح عامی بنکر بحیثیت معاون سرکار علاقہ کے تھانیدار کے ماتحت کر رہا ہے ۔ اگر اس کے خلاف ہے ۔ تو اس کو بھی باغی سمجھا جاویگا ۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس امت محمد رسول اللہ سے نہیں، اگر اس امت سے پیدا ہوتے تو وَاللہِ بِاللہِ وہ بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا اور کچھ نہ ہوتے تو ان کی پیدائش ان کی بنوت آپ کے علاقہ یا سلطنت یعنی زمانہ سے قبل کی ہے ۔ لیکن جب وہ قرب قیامت اس علاقہ یا زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونگے ۔ تو آپ کے ماتحت یعنی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دھڑے میں ساتھ دیکر بغیر اپنی بنوت کے احکام جاری کرنے کے محض معاونین کی حیثیت سے جھولٹوں، بدمعاشوں جعلیوں، ڈاکوؤں اور ٹھیٹریوں، جوئے بازوں، منڈے بازوں، تثلیثیوں، رنڈی بازوں کو تلوار سے درست فرمائینگے، لیکن تمہارا کہنا کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہے، اور وَاِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ کا مصداق تب ہی بنینگے، جب لوگوں کے سامنے آسمان سے اترینگے ۔ تو اس سے ایک موقعہ تثلیثیوں کو ملتا تھا ۔ کہ تمہارے قرآن میں یوں لکھا ہے ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں، اور دوسری جگہ ثابت ہے ۔ وَعِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَۃِ تو خدا کا بیٹا ہے، تو مقام خداوندی

marfat.com

پر فائز ثابت ہونگے ورنہ کیسے فائز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالےٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کا مقام میرے پاس ہے۔ اور میرے پاس ہونے سے اللہ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا عیسٰی علیہ السلام بھی آسمان اوّل پر پہنچنے سے اللہ نہیں بن سکتے۔ بلکہ آگے اسی آیت کریمہ میں ان کا جواب بھی سنا دیا۔ وَاِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ؀ جیساکہ تم نے مرکر خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور سوائے خدا کے اور کسی کا چارہ نہیں۔ تو ایسے ہی حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی زمین پر اتار کر پھر اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ کے عام قانون سے مار کر لوٹانا ہے۔ تو یہ بھی حیاتِ مسیح علیہ السلام کی دلیل ہے۔ کہ عیسٰی علیہ السلام کو جب اللہ کریم اپنی طرف یعنی آسمان سے زمین کی طرف بھیجیں گے تو بعدہٗ ان کو موت آئے گی، پھر وہ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ کے عنوان کے معنون بنینگے۔ میرے دوست ایسے سادہ لوح ہیں، فرماتے ہیں۔ کہ زمین پر ان کو آنے کی کیا ضرورت، ادھر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی علامت ہونگے۔ اگر قیامت کی علامت تسلیم ہے تو قیامت کا قیام لوگوں کے واسطے ہی تو ہونا ہے۔ اگر ان کو علامتِ قیامت دکھائی ہی نہ گئی، تو لوگ کہیں گے۔ کہ کہتے تھے کہ عیسٰی علیہ السلام قیامت کی نشانی ہوں گے، دیکھی تو نہیں جب اسٹیشن ہی نہ آئے تو گاڑی سے کون اترنے دیتا ہے۔ پہلے صبح پھوٹی ہی نہیں، تو سورج کیسے نکلیگا۔ میرے یار کیسی بھولی باتیں بناتے ہو۔ پہلے صبح کا انتظار ہوتا ہے۔ جب صبح ہو جائے تو سورج کی امید شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اب عیسٰی علیہ السلام کا انتظار ہے۔ جب وہ تشریف لے آوینگے تو پھر قیامت کی امید شروع ہو جائے گی، فتدبر و تفکر۔

(یہ ہے تمہارے لطیفے کا جواب)

"مرزائی" - وَاِنۡ مِّنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤۡمِنَنَّ بِہٖ قَبۡلَ مَوۡتِہٖ تم حیاتِ مسیح علیہ السلام کے واسطے ہمیشہ دلیل پیش کرتے۔ اگر تمہاری دلیل واقعی صحیح ہے۔ تو آج کل یہود و نصارٰی ہزارہا مرتے ہیں، اور تثلیث کے قائل ہیں، پس اگر یہی معنی جو تم مراد لیتے ہو، صحیح سمجھے جاویں، تو اللہ تعالیٰ ضرور

ان سب اہل کتاب کو حضرت عیسٰی کی آمد ثانی تک زندہ رکھتا، تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن جب ایسا نہیں، بلکہ تثلیث پر ہی مر رہے ہیں، تو معلوم ہؤا کہ یہ معنی غلط ہیں، اور اگر ان کے نزول کے وقت کا یہ مصداق لیا جاوے تو اس کا ذکر نہیں، اور اِنَّ مِنْ حصر کے لئے آتا ہے۔ دوم حدیث میں صاف لکھا ہے۔ کہ اصفہان کے ستر ہزار یہود دجال کے ساتھ ہونگے۔ جو مارے جائیں گے، اور تیرہ ہزار یہودی عورتیں حضرت مسیح کا اتباع کرینگی، پس یہ معنی بھی غلط ہوئے۔ [۳۴۹]

"محمد عمر"۔ مثال مشہور ہے کہ سچ وہ جو سر پر چڑھ کر بولے، فقیر عرض کرتا ہے کہ سچ وہ جس کی ترجمانی مخالف کر کے اقرار کرے۔ مذہب اس کو آڑ بنے اور نہ تسلیم کرنے دے تو کوئی حرج نہیں، بھلا یہ تو فرمائیے، کہ یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرہ ہزار یہودی عورتیں حضرت مسیح علیہ السلام کا اتباع کرینگی، اور اصفہان کے ستر ہزار یہود دجال کے ساتھ ہونگے، جو مارے جائیں گے۔ اور مارنے والا کون ہو گا، حضرت مسیح علیہ السّلام۔ تو فقیر کی گذارش ہے کہ جب آپکی زبان مرزائیت اس امر کی قائل ہے۔ تو عیسٰی علیہ السّلام کے قرب قیامت تشریف لانے کے یقینی امر ہونے میں کونسی کمی باقی رہ گئی، اور مسیح عیسٰی علیہ السلام کے قرب قیامت کی آمد ثانی کے اقرار میں کونسا انکار باقی رہ گیا، یہ تو تمہارا زبانی اعتراض قرب قیامت حضرت عیسٰی علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے کی دلیل ثابت کر رہا ہے۔ اگر تمہارے مرزا صاحب آڑ بنیں اور تمہارے دل میں یہ عقیدہ نہ اترنے دیں، تو علیحدہ بات ہے۔ ورنہ تمہاری زبان تو صاف حیات مسیح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے اور ان کے کفار کی گنتیوں کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ان کی آمد اور مقابلے کے علامات باہرہ سے ہیں، جو تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن فقیر عرض کرتا ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہارے مرزا صاحب تمہارے مسیح ہیں، اور تم ان کو مسیح بھی وہی سمجھتے ہو، جنکے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العزۃ نے آسمان پر عروج اور قرب قیامت ان کے ہبوط کی اطلاع فرمائی، اب تمہارے

marfat.com

مرزائی ایمان سے تمہارے رب قادیاں کی قسم پیش کرکے تمہیں سے فیصلہ لیتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ کہ مرزا صاحب پر منطبق ہے یا نہیں، یہ تمہاری ہی پیش کردہ حدیث صحیح ہے۔ ۷۰ ہزار یہود کا دجال کے ساتھ ہونا اور مسیح کے ہاتھوں ان کا قتل ہونا اور تیرہ ہزار یہودی عورتوں کا مسیح کے ساتھ ہونا اور ان کی اتباع میں داخل ہونا، کیا یہ حدیث پاک مرزا صاحب پر چسپاں ہے۔ یا دودو شملے والیاں اس لئے تیار کرتے ہو، کہ یہود کی مماثلت بھی ہو جائے اور مرزا صاحب کی اتباع بھی ہو جائے۔ کچھ سوچو، حدیث پاک ہے اور تمہاری بیان کردہ ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو اپنے ایمان کو درست کرو، اگر غلط ہے تو تمہارا استدلال غلط۔ اور ایمان بھی غلط۔ خدا تمہیں ہدایت کی توفیق دے۔ اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری عنایت فرمائے۔

اب تم نے جو غلط اعتراض کیا ہے۔ اس کو حل کردوں، تم نے کہا ہے کہ اللہ تعالےٰ ان یہود ونصاریٰ کو جو مر رہے ہیں، ان کو زندہ کیوں نہیں رکھتا تاکہ تمہارے معنی صحیح ہو جائیں، فقیر عرض کرتا ہے کہ تم نے اِنْ مِّنْ کو حصر کے لئے کہا ہے، ذرا یہ فرمائیے۔

فاطر ۲۴ — وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔ اور کوئی ایسی امت نہیں جس میں نذیر نہ گذرا ہو۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا۔

انعام ۴ — وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو، مگر امتیں ہیں تمہاری مثل۔

تو چاہیئے اس آیت کے مطابق درندوں، پرندوں کی ہر جماعت ہر علاقہ میں ہر زمانے میں چاہیئے، اور کوئی پرندہ درندہ بغیر نذیر نہ مرنا چاہیئے، حالانکہ ان تمام کے لئے دو ہی نذیر ہیں، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی پرندہ نہ مرنا چاہیئے تھا کہ ان کی امت میں شمولیت ہو جاتی اور خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ کے مصداق بنتے اور ان کے بعد کوئی پرندہ درندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا نہ ہونا چاہیئے تھا، تاکہ وہ امت بھی خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ سے خالی نہ ہوتے۔

marfat.com

یا ان کے سوا ان کا نذیر ثابت کرو، حالانکہ وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ تمہاری پیش کردہ آیت وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ سے زیادہ حصر ہے۔ اور کئی پرندے درندے جن کی عمر اپنے گھونسلوں یا بلوں میں اپنی یکتائی سے گذری، اور اگر نفی بمعنی من مراد لیا جاوے۔ تو بھی حصر ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ پرندوں اور درندوں کی جنس کے نذیر کا کوئی ثبوت نہیں،

کیوں جی! اس کو کہتے ہیں جواب، جو آیت کا آیت سے ہو، اگر اس میں حصر وقتی ہے تو وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ متنازع فیہا آیت میں حصر موقت ہے حقیقت یہ ہے کہ تم نے قَبْلَ مَوْتِهٖ کے معنی کو غلط بیان فرمایا ہے، کیونکہ قَبْلَ مَوْتِهٖ سے یہ مراد نہیں جو تم نے سمجھا ہے کہ ولادت عیسٰے علیہ السلام سے لیکر تا ان کی موت تک، تمام اہل کتاب اِنْ مِّنْ کے حصر میں داخل ہیں، اگر تمہارے معنی معبرہ ہی سمجھے جاویں تو معاذ اللہ آیت کریمہ کا مصداق غلط ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے زمانے میں یہی یہود لوگ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اور ان کے جانی دشمن تھے، جو صلیب پر لٹکانے کو تیار تھے، حالانکہ حق یہ تھا، کہ وہ اس حصر میں داخل ہوتے، اور اس وقت بھی کوئی اہل کتاب کفر نہ کرتا، حالانکہ تجھے معلوم ہؤا، کہ تم نے قَبْلَ مَوْتِهٖ کے معنی مطلب کو بدل کر بیان کیا ہے۔ اور اگر قَبْلَ مَوْتِهٖ سے تمہارے ہی معنی لئے جاویں تو دوسری آیات کی معنی میں دشواری لازم آئیگی، مثلاً

طٰہٰ ۱۶/۸	وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا. اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان فرماتے۔ حمد کے ساتھ سورج چڑھنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ سے

مراد نماز فجر ہے اور قبل غروبہا سے مراد نماز عصر ہے۔

ق ۲۶/۳	وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان فرمائیے سورج چڑھنے

سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔

کیوں جناب! اب فرمائیے قبل کی ابتدا کہاں سے ہوگی اور تم اس قبل

marfat.com

سے کس قبل پر عمل کرتے ہو۔
تو تمہارے مقرر کردہ قبل کے معنی کے مطابق تو تمہیں رات ہی میں فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیئے۔ حالانکہ تم ایسا نہیں کرتے اور نہ تم اس کے قائل ہو، اور قبل غروب یعنی عصر کی نماز تو وہ بھی تمہیں بوقت اشراق ہی پڑھ لینی چاہیئے۔ کیونکہ قَبْلَ الْغُرُوْبِ کا مصداق تو ہے۔ حالانکہ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اب ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ جس میں اِنْ مِّنْ سے حصر بھی موجود اور قبل بھی موجود لیکن مصداق کا ظہور موجود فی الخارج نہیں، مثلاً

بنی اسرائیل ۱۵/۶	وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اور کوئی بھی بستی نہیں مگر ہم اُسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے پہلے۔

حصر بھی موجود ہلاکت کا حکم بھی جاری ہو چکا، اور قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ بھی موجود، لیکن تباہی نہیں، حالانکہ آیت متنازعہ فیہا لَيُؤْمِنَنَّ میں زمانۂ استقبال ہے۔ جس زمانے کے بعد کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور اس مذکورہ بالا آیت کریمہ میں مُهْلِكُوْهَا اسم فاعل ہے۔ جس نے مُتَوَفِّيْكَ میں بھی قوۃ فاعلی بیان کی ہے۔ فقیر نے تمہارے سامنے ایسی آیت کریمہ پیش کر دی ہے، کہ جتنا اس اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ میں حصر لیتے ہو۔ اتنا ہی اِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ میں حصر موجود اور جتنا قبل اس آیت کے قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ میں مراد لیتے ہو۔ بے شک اس کے اور ورے قَبْلَ مَوْتِهٖ میں قبل لے لو۔ اور اگر قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ میں نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا کے اجرائے حکم سے قبل کو شمار کرو۔ تو بلاشک ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے قَبْلَ مَوْتِهٖ کو موقت بنا لو۔ جب اس کا اس وقت سے مراد لینا محال اور خلاف مقصد تو قَبْلَ مَوْتِهٖ میں بھی ان کے تمام عمر کے اہل کتاب کو شامل کرنا محال اور خلاف مقصد اور قَبْلَ مَوْتِهٖ کے معنی دیکھنا صحیح کرنے پڑینگے، جیسا کہ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ میں اور قَبْلَ الْغُرُوْبِ میں اور قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ میں اور وہ تب ہی مصداق صحیح ہوگا، جب قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لاوینگے اور وہ قبل قیامت ہوگا، تو اس وقت

marfat.com

ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب تمام ایماندار نظر آئیں گے۔ جو بے ایمان ہوگا، تثلیث کا قائل ہوگا۔ کسی جعلی مسیح کا قائل ہوگا یا وہ اس حقیقی مسیح کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اور یہی معنی مفسرین نے ذکر کئے ہیں، جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں، اور یہی معنی باقی آیات کے دلائل سے ہی ثابت ہوئے اور اگر تمہارے معنی مراد لئے جاویں، تو باقی آیات کے معنی غلط ثابت ہونگے اور لَیُؤْمِنَنَّ بھی زمانہ استقبال تب ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ فافہم وقد برو الا فتفکر وَاحْزَنْ۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب اس آیت کے معنی اس لئے بھی یہ اچھے نہیں بنتے، چونکہ پہلے پیچھے تمام ان کے عیسویات درج ہیں۔ اور جو ان میں سے نیک ہیں، ان کی نیکیوں کا ذکر لٰکِنِ الرّٰسِخُوْنَ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ طریق حکمت کے خلاف ہے۔ کہ ایسی عظیم الشان نیکی کے بعد بھی ان کی بدیاں مذکور ہوں اور معاف نہ کیجائیں۔ پھر جس طرح یہ بات حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے طرز بیان کے بھی برعکس ہے۔ اس لئے ان معنی میں یہ سقم پایا گیا۔ تو درست نہ ہوئے۔ ۳۴۹

"محمد عمر"۔ بھائی قرآن کریم کا لفظی ترجمہ اور تم کہو کہ اچھے نہیں بنتے۔ تو قرآن پر یہ دھبہ تو تم مرزائی ہی لگا سکتے ہو۔ فقیر کی یہ جرأت تو نہیں۔ فقیر کے نزدیک تو جو کچھ رب العزۃ نے جس ترتیب سے فرمایا صحیح ہے۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنا میرے ایمان کے خلاف ہے۔ اور پھر وکیل صاحب کو عیسائیوں پر بڑا رحم آیا ہے۔ مرزا صاحب تو ان کو تمام عمر برے خطابات سے یاد فرماتے رہے۔ لیکن وکیل صاحب کو واللہ اعلم عیسائیوں کی فرنگیت پر کس طمع نے مجبور کیا۔ اور ان کی طرف داری پر اتنے منہمک ہوگئے کہ خداوند پر بھی معترض بنے کہ خداوند کریم نے انکی نیکی بیان کر کے بعد میں ان کی برائیاں کیوں بیان فرمادیں یہ نہ سوچا کہ نہ تمام کو نیکیوں سے یاد فرمایا، بلکہ راسخون فی العلم کو تمام سے مستثنیٰ فرمایا۔ اور تمام عیسائیوں کے عیوبات کو ظاہر فرماتے ہوئے بعض راسخون فی العلم کو ان سے ممتاز فرمایا اور واقعی یہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقہ

۳۴۹ کا حل

marfat.com

کے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ کہ ان کی اکثریت میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جو سمجھدار انسان اور ذی شعور ہوتے ہیں، ایسے ہی اسی اصول کے ماتحت رب العزۃ نے عیسائیوں کے عیوبات کو نشر فرما کر ان سے بعض کو جو ذی شعور اور فہمیدہ تھے، ان کی تعریف فرمائی نہ کہ ان کی حقیقت کو ہی نواز گیا جو عیسائیت کے مذہب حقہ ہونے پر دال ہو، بلکہ مذہبی حیثیت سے اور اصولی طور پر ان کے بخیے ادھیڑ دیئے اور اپنی طرف سے جب کسی قسم کی تبلیغی کسر نہ رکھی، تو ان کے پچھلے پول بھی ظاہر فرمائے کہ جن انبیاء علیہم السلام کے متبع کہلاتے ہو، ان کی زبانی بھی تو تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تم پر لعنت پڑی مگر پھر بھی تم نہ سمجھے۔

مائدہ ۶/۱۱ لُعِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّکَانُوْا یَعْتَدُوْنَ۝ بنی اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ملعون ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ خداند کریم ان کو ملعون کا خطاب فرمائے لیکن مرزائی دوست فرمادیں، کہ ان کو معاف کیوں نہیں فرمایا۔ ان کی عیب جوئی کا ذکر کیوں کیا، تو اللہ تعالےٰ نے ان کے ملعون ہونے کا سبب ظاہر فرمایا۔ رب العزۃ نے جب بعض عیسائیوں کے کفریہ پول کو ظاہر فرمایا، پھر کَانُوْا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ سے ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا، بعد ازاں وَاَکْثَرُهُمُ الْکٰفِرُوْنَ سے یہود و نصاریٰ کے دوزخیوں کی اکثریت کا اظہار فرمایا، پھر تَرٰی کَثِیْرًا مِّنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سے صلح کلیوں کو ڈانٹا، اور اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ فرما کر پھر ان کے اس رویے کی سزا سنا کر وَلَوْ کَانُوْا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِیِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ان تینوں پر صحیح ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور پھر جو ان سے زیادہ شرک پر اڑنے والے تھے اور مومنین کے مخالف تھے ذکر فرمایا۔ اور بعد ازاں انسے اچھے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، یہ ہے خطاب رب کریم کا

marfat.com

یہود سے گفتگو کرنے کا طریقہ کہ منکرین پر سختی بھی کرتے ہیں اور پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، اسی طور پر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کی بار بار عہد شکنی کے مذموم رویے کو بیان فرماکر ان سے بعض اچھوں کو سراہا، چنانچہ پہلے یہود کے قول اَرِنَا اللّٰہَ جَھْرَۃً کا ذکر فرماکر جو ان کو اس سوال پر سخت سزا ملی، اس کا ذکر فَاَخَذَتْھُمُ الصّٰعِقَۃُ سے فرمایا، پھر ان کو توبہ کے بعد معافی ملی،

چنانچہ یہود نے پھر اس وعدہ کا ایفاء کیا، بلکہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سے ان کا وعدہ توڑنے کا ذکر کرکے وَرَفَعْنَا فَوْقَھُمُ الطُّوْرَ سے جو ان کو وعدہ توڑنے کی سزا ملی ذکر فرماکر پھر ان کے توبہ کرنے پر ان کی معافی ہوئی، اور لَاتَعْدُوْا فِی السَّبْتِ کا ساتھ ہی حکم جاری فرمادیا۔

پھر انہوں نے اس وعدہ کو بھی توڑا، تو ان کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے تیسرے جرم کو فَبِمَا نَقْضِھِمْ مِّیْثَاقَھُمْ وَکُفْرِھِمْ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَقَتْلِھِمُ الْاَنْبِیَاءَ کو ان کے خاص جرموں کو ثابت فرماکر کُفْرِھِمْ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ کی تشریح وَقَوْلِھِمْ عَلٰی مَرْیَمَ بُھْتَانًا عَظِیْمًا سے بیان فرمایا، اور وَقَتْلِھِمُ الْاَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ کی تشریح ان کے اقرار اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُوْلَ اللّٰہِ سے فرمائی، اب ان کے قول میں سے تین امور کا انکشاف ہوتا تھا،

(۱)۔ رسل پر ان کا قابو پالینا جس سے رسول اللہ کی کمزوری اور خداوند کا ان کی امداد نہ فرمانا، تو اس حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے بھی رد فرمایا،

(۲)۔ دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام کا فوت شدہ ہونا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کرکے حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت فرمایا۔ اور دونوں امرین کو ہی اپنی قوت لم یزلی کا اظہار فرماتے ہوئے جواب دیا،

پہلے دوسرے نمبر قریب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِّہَ لَھُمْ پھر اس خداوند کے انکار میں بھی کسی کو شک گذرے تو اس کو وَاِنَّ الَّذِیْنَ اخْتَلَفُوْا فِیْہِ لَفِیْ شَکٍّ مِّنْہُ سے منکرین حیات مسیح علیہ السلام کو محض شکی قرار دیا، اور اگر اس ارشاد الٰہی سے بھی کسی کا شک رفع نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو مَا لَھُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ سے منکرین

marfat.com

حیات مسیح علیہ السلام کو جاہل اور بے وقوف ثابت کیا، پھر کوئی جاہل آ کہتے ہوئے اگر اعتراض کر بیٹھے، کہ نہ صلیب پر چڑھائے گئے، یہود کو محض شبہ ہی گذرا، ان کی جگہ دوسرے شخص کو مشابہ بنایا گیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت تو مرے ہی ہوں گے، تو رب العزت نے ایسے معترض جاہل کے اس اعتراض کو بھی رفع فرمایا، کہ نہیں میں نے کئی طرق سے سمجھایا، لیکن تم سمجھتے نہیں، وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. یہود نے اس کو قتل نہیں کیا، یقینی امر ہے۔ کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ اور پھر اپنی اس بے پرواہی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا۔ تم اپنے آپ کو رسل پر غالب سمجھتے ہو، اللہ زبردست غالب ہے۔ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے پنجے سے چھڑا کر آسمان پر اپنی طرف لے گیا۔ تو اس کی یہ قدرت ہے۔ اور اس میں بھی خداوند کی حکمت ہے۔ جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، اگر خداوند کریم نے کوئی تمام دنیا سے نرالا کام عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے پھندے سے چھڑا کر نہ کیا ہوتا، بلکہ دوسروں کی طرح ہی موت دی تھی، تو وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا فرمانے کی کیا ضرورت تھی، معلوم ہوا، کہ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف بِجَسَدِهٖ اٹھا کر بچالینا اور یہ تمام دنیا سے اچرج کام تھا، جس کی بنا پر وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا فرمایا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیات و رفع الی السماء کا مسئلہ زبردست تھا، اور اس کے منکر عنقریب پیدا ہونے والے تھے، اس کو مقدم واضح فرمایا، بعد ازاں دوسرے ان کے خیال باطلہ کو رد فرمایا، جس سے ان کا فخر ثابت ہوتا تھا، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے ہیں، ہماری قوت اتنی زبردست ہے۔ کہ ہم رسول اللہ پر قابو پا چکے ہیں، اس میں چونکہ ہتک عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوتی تھی، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو برقرار ثابت کرنا یہ بھی ضروری امر تھا، اگر نہ جواب دیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی آبرو میں فرق لازم آتا، کہ وہ شاید رسول اللہ نہ ہوں، جن پر کفار نے قابو پالیا، اور مسلط ہو گئے کیونکہ سچے رسولوں کے متعلق خدائے

marfat.com

فیصلہ ہے۔ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ یُسَلِّطُ رُسُلَہٗ عَلٰی مَنْ یَّشَاءُ اور لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ تو اس عزت عیسیٰ علیہ السلام کو برقرار رکھنے کے اور یہود کو آخیر ذلت کا منہ دکھانے کے لئے آگے فرمایا وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ کہ یہ تو کہتے ہیں، کہ ہم نے رسول اللہ پر قابو پالیا۔ ہم قوی اور رسول اللہ کمزور، لیکن یاد رکھو، جب عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ آسمان سے تشریف لائے، تو ان کی موت کے پہلے پہلے تمام یہودی ان کی تلوار سے ایماندار بنجائیں گے، اسوقت ایک یہودی نظر نہ آئے گا۔ یا ایمان لے آئیگا، یا قتل کیا جاوے گا، یہ ہے جناب ربط قرآنی جس کو وکیل صاحب سمجھ نہ سکے۔ اور قرآن کریم کو بے ربط کہدیا، پھر یہ سوچو، کہ اگر ان کے آنے سے پیشتر ہی کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ بلکہ ایماندار ہو جائیں، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔ تو لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ کے معنی کا مصداق کیسے درست ہو گا، جب پہلے ہی تمہارے خیال کے مطابق ایماندار ہو چکتے، تو لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ یعنی ضرور ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ فرمان الٰہی کیسے درست ہو گا، ان کے نزول من السماء کے پہلے کافر ہونگے، تب ہی لَیُؤْمِنَنَّ کے مصداق بنیں گے۔ سمجھ تمہاری مرزائیت کے پردے میں ملبوس، اور کلام خداوندی کو بے ربط کہدینا یہ کیا عقلمندی ہے یاد رکھو، قرآن خداوندی صحیح اور اس کا تمام کلام باربط اور اس کے فرمان کے مطابق حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے ہی ایمان لاؤ، جیسا کہ اللہ تعالےٰ نے فرمایا ہے۔ کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی تشریف آوری کے بعد کوئی یہودی نظر نہ آئیگا، لیکن مرزائی کو یہ مشکل ہے۔ کہ اگر اس آیۃ کریمہ پر ایمان لے آوے، تو مرزا صاحب کا دعوٰی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہود موجود ہیں، اور مرزا صاحب مدعی عیسیٰ مسیح گذر بھی چکے، لیکن یہودیت دنیا سے نہ اٹھی، معلوم ہوا، کہ بفرمان الٰہی وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ۔ سے عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف ہی نہیں لائے۔ مرزائی صاحب نے مرزا صاحب کی جعلی عیسویت کا دامن پکڑ لیا، قرآن کریم کو بے ربط کہ کر پس پشت ڈالدیا، لیکن قرآن کے مقابلہ میں مرزا صاحب کو نہ چھوڑ

marfat.com

سکا، ہائے شومی قسمت مرزائی۔ آجتک آریہ جو قرآن و اسلام کا قدیمی دشمن چلا آرہا ہے۔ ان میں عربی دان بھی اچھے قابل ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کی بے لطفی معلوم نہ کر سکے اور نہ کہہ سکے۔ جس کو قدنی دماغ نے اختراع کیا ہے۔ تُوبُوۡا قَبۡلَ تَمُوتُوا اَنَابِیۡحُوۡا قَبۡلَ اَنۡ تُعَذَّبُوۡا۔

"مرزائی" مولوی صاحب تمہارے اس معنی بیان کرنے میں قرآنی اختلاف نظر آتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اختلاف سے مبرا ہے، دیکھو اس آیت کے ماقبل اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، فَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ اِلَّا قَلِیۡلًا کہ یہ تھوڑا مانیں گے بلکہ مانیں گے ہی نہیں، لیکن یہاں کہدیا کہ سب ایمان لائیں گے۔

"محمد عمر" مرزائی صاحب جب دیکھنے والے کی آنکھ میں بیماری ہو، تو اس کو ایک ایک کے دو دو نظر آتے ہیں، مرزائی کا دماغ، پھر خدا کی سچی کتاب میں اس کو اختلاف نظر نہ آئے تو مرزائی کا ہے کا ہوا (بلکہ مانیں گے ہی نہیں) یہ کونسے جملے کے معنی کئے ہیں، خیر یہ جملہ مرزائیہ ہی سہی، فَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ اِلَّا قَلِیۡلًا۔ یہ اس وقت کا واقعہ بیان فرمادیا، واقعی اس وقت تھوڑے ہی ایمان لائے تھے، اور تھوڑا ہی ایمان لائے تھے، اور یہودیت کا ابتداء سے آخیر قیامت تک اگر سب کا توازن کیا جائے، تو وقت نزول مِنَ السَّمَاءِ عیسیٰ علیہ السلام پر تمام بھی ایمان لے آئینگے، تب بھی جمیع کے لحاظ سے اکثریت حالت کفر پر مرچکے ہوں گے، اسوقت جو موجود ہونگے، وہ بلحاظ جمیع کے قلیل ہی ہونگے، اور اس آیت فَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ اِلَّا قَلِیۡلًا نے لَیُؤۡمِنَنَّ بِہٖ قَبۡلَ مَوۡتِہٖ کے معنی کو صاف کردیا، کہ یہ آیت لَیُؤۡمِنَنَّ بِہٖ عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کی مؤید ہے۔ تب ہی توجیع کے لحاظ سے فَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ اِلَّا قَلِیۡلًا کی تطبیق درست ہوگی، تو لَیُؤۡمِنَنَّ بِہٖ کا مصداق اس وقت یعنی قرب قیامت سب کے ایماندار ہونے کا ہوگا، تو قلت کی قید بلحاظ جمیع ہے۔ تو اِنۡ مِّنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤۡمِنَنَّ بِہٖ کا جو لفظی ترجمہ ماقبل گذر چکا ہے صحیح ہے اور مرزائیہ نے غلط سمجھا ہے۔

"مرزائی" اس معنی کے غلط ہونے میں ایک اور دقت بھی ہے۔ خداوند تعالےٰ

marfat.com

عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔ کہ میں تیرے متبعین کو یہود پر قیامت تک غلبہ دونگا۔ اور پھر فرماتا ہے، وَاَغْرَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَۃَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ کہ ہم نے ان میں قیامت تک بغض وعداوت ڈالدی، اور وَاَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَۃَ وَالْبَغْضَاءَ فرمایا۔ اب ذرا سوچو کہ اگر سب اہل کتاب ایمان لے آئیں، اور سب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہوجائیں، تو پھر ان پر تاقیامت غلبہ کیونکر؟ اور ان میں بغض وعداوت کیسی؟ پس ماننا پڑے گا، کہ یہ معنی غلط ہیں۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب معنی کی غلطی ثابت کر رہے ہو یا قرآن کریم کو متعارض ثابت کرکے مرزائیت کے پودے بنا رہے ہو، کچھ سوچ کر تو بات کرو، سننے والے مومن ہیں ہندو نہیں ہیں، کہ قرآن کریم کا تعارض سنکر بغلیں بجائیں گے، یہ مومن ہیں، یہ تو تعارض ثابت کرنے والے کی سفاہت کو تشت ازبام رکھ دینگے۔ تم بیچارے عربی عبارت کو کیا جانو، پہلی بات تو یہ ہے، کہ پہلی آیت وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا میں جَاعِلٌ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یعنی میں نے ابھی تیرے متبعین کو فوقیت دی نہیں، فوقیت دونگا، کب؟ جب وہ متبع ہونگے۔ ابھی تو وہ متبع ہوئے ہی نہیں، تو فوقیت کیسے؟ فوقیت تو اتباع سے مشروط ہے۔ ابھی تو وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اسی کفر کے باعث ہی تو اَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَۃَ وَالْبَغْضَاءَ محقق ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ کے مطابق آسمان سے تشریف لائیں گے۔ اور ان یہودیوں کو مسلمان ومتبع بنائیں گے، تو پھر اتباع کی وجہ سے فوقیت بھی محقق ہوگی، اور اَلْقَیْنَا صیغہ ماضی ہے، ان کی آپس میں بغض وعداوت کفر کی وجہ سے زمانۂ ماضی سے متحقق ہوچکی ہے۔ معلوم ہوا، کہ بغض وعداوت کا تحقق کفر کو مستلزم ہے، نہ اتباع تو جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہودیوں کا کفر دور ہوجائیگا، تو بغض وعداوت بھی ساتھ ہی ختم ہوجائیگی کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط کا انتفا لازم کے انتفا کو

marfat.com

مستلزم ہے۔
باقی رہا تمہارا کہنا، اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ جو اَغْرَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ میں مذکور ہے، تو یہ بھی محاورہ ہے مثلاً متکلم کہہ رہا ہے جَاءَ نِی الْقَوْمُ اِلَّا زَیْدًا تو کوئی بے سمجھ سوال کردے کہ تم نے پہلے کہا ہے، جَاءَ نِی الْقَوْمُ میرے پاس تمام قوم آئی تو تم نے اِلَّا حرف استثنا استعمال کر کے زید کو قوم سے علیحدہ کیوں کر دیا، لہٰذا تم نے جھوٹ بولا، کیونکہ تمہاری کلام میں تعارض ہے۔ تو کوئی منصف عربی دان کہے گا، ارے بیوقوف، متکلم کی مرضی، اگر اس نے قوم سے ایک زید کو مستثنٰی کر دیا، تو تعارض نہیں کہلا سکتا۔ یہ متکلم کی مرضی پر موقوف ہے، جو نہیں آیا، اس نے اس کو قوم سے خارج کر دیا، تو یہ سچی بات تھی، اس واسطے اس نے سچ کہدیا جھوٹ تب ہوتا جب تمام قوم سے ایک زید نہ آتا اور متکلم صرف جَاءَ نِی الْقَوْمُ کہدیتا، جب اس نے مطابق واقعہ جو شخص قوم سے نہیں آیا اس کو قوم سے اِلَّا زَیْدًا کہکر مستثنٰی کر دیا، تو یہ جھوٹ نہیں، جب جھوٹ نہیں تو تعارض نہیں، اب ایسے ہی اگر اَغْرَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ہی فرمان الٰہی مذکور ہوتا اور لَیُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ مذکور نہ ہوتا اور یہودی قرب قیامت ایمان نہ لاتے تو فرمان الٰہی میں فرق لازم آتا لیکن اگر رب العزت نے قرب قیامت وقت نزول عیسٰی علیہ السلام اس وقت کے یہودیوں نے متبع ہو جانا تھا، تو ان کو کفار کی سزا اَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ سے بسبب ترک کفر اور اتباع عیسٰی علیہ السلام سراہا اور عداوت وبغض کی سزا کو دور کرنے کا وعدہ فرمالیا، اور جو فریق ثانی متبعین سے بغض وعداوت رکھنے والا ہوگا، وہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے متبعین کے مقابلے میں ذلیل ہوگا اور متبعین کو آخر اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فوقیت عطا کرنے کا وعدہ بھی دیا، اور ان کے ہاتھوں ان کے مبغضین اور عدادین کو قتل کرادیگا، جب قیامت تک ان میں بغض وعداوت ہوگی، تب ہی تو اتباع کرنے والوں کو فوقیت عطا ہوگی اور اگر بغض وعداوت ہی نہ ہو تو فوقیت

کن پر ثابت ہوگی، اور جب ان کے متبع ہونیکی وجہ سے ان کو فوقیت حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ متبعین کے مقابلوں میں مبغضین اور عدوین کو ان کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیگا، اور محض عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہی رہ جادینگے علاوہ یا مبغضین مثلثین معدوم ہو جادینگے، تو اس آخری واقعہ کو رب العزۃ نے وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ سے ممتاز فرمادیا، تو بانی سے آخیر قرب قیامت کسی کو بسبب ایمان ممتاز بنالینا یہ اس کی مرضی ہے، نہ جھوٹ ہے نہ تعارض، کیونکہ جیسے ہونا تھا اور کرنا تھا، صاف صاف واضح فرمادیا، اب مرزائیوں کی عقل، اگر کذب یا تعارض معلوم کرے تو یہ نظرِ مرزائیت میں فرق ہے نہ کہ کلام الٰہیہ میں، لہٰذا وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ کے معنی صحیح ثابت ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے قرب قیامت تشریف لادینگے تو اس وقت یہ تمام نام کے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کہلانیوالے تثلیث کو چھوڑ کر توحید کے قائل ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ سمجھنے لگ جائیں گے، یہ ہے قرآنی مطلب کا ربط جس کو تم نے تعارض سمجھ لیا تھا، میں تو یہی کہونگا کہ قرآن کریم کو صحیح سمجھ لو، وقت ابھی باقی ہے، ورنہ قرآن کریم ہی قیامت کو تمہارے برخلاف جھگڑیگا۔

"مرزائی"۔ مَوۡتِهٖ میں ہ کی ضمیر کی بجائے دوسری قرأت میں ھُمۡ کا لفظ آیا ہے۔ جو جمع ہے اور جس سے صرف اہل کتاب ہی مراد لئے جا سکتے ہیں، عن ابن عباس رض وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ قَالَ هِيَ فِيۡ قِرَاءَةِ اُبَيٍّ قَبۡلَ مَوۡتِهِمۡ۔ یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابی بن کعب کی قراۃ میں مَوۡتِهٖ کی جگہ مَوۡتِهِمۡ آیا ہے۔ تو تمہاری دلیل رہ گئی، (۳۵۱)

"محمد عمر" پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قَبۡلَ مَوۡتِهِمۡ فرمایا، یہ ان کی اپنی قرأت نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے فرمایا، کہ یہ اُبَیّ کی قرأت ہے۔ اور جن کے نزدیک قَبۡلَ مَوۡتِهِمۡ قراۃ ہے، وہ اس کا

مطلب بھی یہ بیان کرتے ہیں، کہ عِنْدَ الْمَوْتِ یعنی سر یہودی کی موت کے قریب تب تمہیں قبل کے معنی وہ لینے پڑیں گے، جو تمہارے لئے مضر ہیں اور جو معنی تم مراد لیتے ہو، اس کے سخت خلاف ہیں،

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ یہاں تو تم ابی کی قراۃ ثانی کو مدنظر رکھتے ہو، جس سے وفات مسیح علیہ السلام ثابت نہیں ہوتی، اب فقیر عرض کرتا ہے، کہ کیا جو مروجہ قرآن کریم جس قرأت سے اب لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے تمہارا انکار ہے، یعنی قَبْلَ مَوْتِہٖ جو اس وقت قرآن مجید میں جملہ موجود ہے، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ قرآن کریم کے اس جملہ کو چھوڑ کر دوسری قرأت کی طرف رغبت کرنا اور بہانے تلاش کرنا یہ صاف ظاہر کر رہا ہے۔ کہ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ سے حیات مسیح علیہ السلام واضح ہے۔ جس کی وجہ سے اب تم بہانے تلاش کر رہے ہو دوسری قرأت کی طرف رستہ تلاش کر رہے ہو، اور آیت قرآنی کا انکار کر رہے ہو،

تیسرا جواب۔ جب تم نے سوچا کہ اب اس آیت لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ سے تو حیات مسیح ونزولہ من السماء قرب قیامت پر ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو دوسری قرأت کو تلاش کیا، جب اس کے رواۃ کو ضعیف ثابت کیا گیا، تو تم تلملائے، لیکن فقیر گذارش کرتا ہے، کہ ابی کی قرأت اگر مرفوع ہوتی یا ثقات سے مروی ہوتی، تو اس کو مروجہ قرآن میں درج کیوں نہ کیا جاتا، اگر نہیں کیا گیا، تو اس کا ضعف بیّن ہے۔ اور اگر تم نے پھر بھی دوسری قرأت ہی کی رٹ لگائی ہے۔ تو پھر بھی اس جملہ سے تمہارا مسئلہ وفات مسیح تو ثابت ہو نہیں سکتا، پھر تمہیں اس کے مقابلہ میں ایسی ہی دوسری قرأت وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باسند ثقات سے مروی ہے، جس کو فقیر پہلے باب التفسیر میں عرض کر چکا ہے۔ اس ضعیف کے مقابلہ میں وہ مرفوع قرأت تمہارے لئے طوعاً وکرہاً حجت ہوگی، جو حیات مسیح علیہ السلام سے قرب قیامت تشریف لانے کو بلا تاویل ثابت کر رہی ہے۔

marfat.com

تسلیم کرنی پڑے گی، وہ بھی تو دوسری ہی قرأت ہے، ورنہ ہر بات میں تمہاری ہٹ دھرمی اور ہر ضعیف کو قوی اور ہر قوی کو ضعیف سمجھنا تمہارا مذہبی شعار واضح ہوگا۔

آؤ! اس قرآن کریم کی آیت و قرأت کو تسلیم کرکے ایمان درست کر لو۔ اور دہکتے ہوئے جہنم سے بچ جاؤ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔

چوتھا جواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اُبیؓ کی قرأت کو نقل فرمانا زیادہ مستند ہے یا ان کا اپنا عقیدہ اور خود ان کا قرآن کو سمجھنا، تمہارے نزدیک زیادہ معتبر ہے یا نہ، ہر صورت میں ماننا پڑیگا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن دانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض عالی اور دعا سے ہے، اس واسطے ان کی قرأت ہمارے لئے حجت تامہ ہوگی، اور ان کی جو قرأت ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ

ابن جریر ۶/۱۲

حدثنی محمد بن سعد قال حدثنی ابی قال حدثنی عمی قال حدثنی ابی عن ابیہ عن ابن عباس قولہ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ یعنی انہ سیدرک اناس من اہل الکتاب حین یبعث عیسیٰ علیہ السلام لیؤمنون بہ ویوم القیمۃ یکون علیہم شہیدا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ کے متعلق آپ مراد لیتے تھے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھیجے جاوینگے تو اہل کتاب سے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عنقریب ملاقات کرینگے، تو ان کے ساتھ ایمان لاوینگے، اور قیامت کو وہ ان پر گواہی دینگے،

کیوں جناب! اب فرمایئے قرأت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ معتبر ہے یا جو تم کسی کی ضعیف قراۃ نقل کر رہے تھے،

ثابت ہؤا۔ کہ قَبْلَ مَوْتِهِ کی قراۃ بروات ثقات قَبْلَ مَوْتِهِمْ کے مقابلہ میں مستند ہے، جو اس وقت قرآن کریم میں مکتوب ہے، جو حیات

marfat.com

مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کو ثابت کر رہی ہے، اور یہ بھی ثابت کر رہی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی نشانی یہ ہے، کہ اس وقت تمام یہود و نصاریٰ مومن ہونگے، تثلیث کا قائل ایک بھی نظر نہ آئیگا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہونگے،

اب اے فرقہ قدنی! اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر ہی اعتماد تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر دوبارہ تشریف لانے پر ایمان لے آؤ۔ ورنہ یاد رکھو قیامت کے میدان میں بوقت حساب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ تمہارے گلے میں ہوگا۔

"مرزائی" - اس متنازعہ فیہا آیت میں دو ضمیریں ہیں، ایک بہٖ کی اور دوسری بِھِمْ کی۔ ان دونوں ضمیروں کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے، کسی کا تعین خاص نہیں، لہذا تمہارا صرف بہٖ کی تخصیص کرنا یہ حجت نہیں ہوسکتا۔ (پ ۳۵۱)

"محمد عمر" - میرے خیال میں تمہیں قرآن بھی چھوڑ دینا چاہیئے، کیونکہ اس میں بھی ایک فرقے کو اختلاف ہے، وحدانیت الٰہیہ کو بھی ترک کر دو، کیونکہ ایک فرقہ تثلیث کا قائل ہے، بوجہ اختلاف دونوں کو ترک کر دو، مرزا صاحب کو ہی خدا مان لو، بات ختم ہو جائے، اور اگر اسی قانون پر عمل شروع ہو جائیگا تو تمہیں مرزا صاحب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے بھی مرزا صاحب کے متعلق اختلاف شدید ہے، کوئی نبی مان رہا ہے وہ بھی مرزائی ہے اور کوئی مجدد مانتا ہے وہ بھی مرزائی، اور اسی اختلاف کو تم قرآن پر استعمال کرتے ہو تب ہی بعض مسلمان لوگ یہ تو کہہ ہی دیتے ہیں، کہ میاں مرزائی بھی قرآن کو ہی مانتے ہیں، مسلمان ہی ہیں نہ۔

اور پھر مرزا صاحب کا خود کلام مختلف فیہ ہے، مرزا صاحب کا کوئی ایسا کلام کوئی مرزائی ثابت نہیں کر سکتا، جس میں اختلاف نہ ہو، مرزا صاحب کو تو تم نے تناقضی اختلاف ہونے کی بنا پر بھی نہ چھوڑا، لیکن قرآن کریم کی موجودہ اور مروجہ قرأت وعبارت کو کسی ایک کے معمولی اور ضعیف غیر حقیقی پیش کرنے سے

marfat.com

قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تمہارا قرآن پر ایمان صحیح ہے؟ کیا آجتک کسی امتی نے اس قرأت کو چھوڑ کر دوسری قرأت کی اشاعت کی یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کبار کو جمع کر کے اس قرآن کریم کو جمع فرمایا، جسمیں آجتک نقطہ کا فرق نہ پڑا، اگر آج تم مرزائی قرآن کریم کو مختلف فیہ ثابت کرو تو تم کو بھی ایک آیت سنا دینی کافی سمجھتا ہوں، فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِہٖ فَقَدِ اھْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا ھُمْ فِیْ شِقَاقٍ۔ اگر تم ساڑھے تیرہ سو سال کے مروجہ قرآن پر جیسا کہ دوسرے مسلمان ایمان لائے ہیں، ایمان لاتے ہو تو تم ہمارے ساتھی، ورنہ تمہارا راستہ اور ہمارا تو صرف اسی قرآن والا ہے اور ہمارے لئے یہی قرآن، اسی قرأت، اسی عبارت سے حجت، نہ تمہارا یہ قرآن، نہ تمہارے واسطے یہ حجت، ہم اپنے اس مروجہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تم اپنے مرزا صاحب کے تذکرہ یا حقیقۃ الوحی پر ایمان رکھو، جب تمہیں اس قرآن میں اختلاف نظر آتا ہے تو بھائی تم اس قرآن کو دیکھو ہی نہ، دیکھ کر کیوں اپنی نظر کو اختلاف میں ڈالتے ہو، حقیقۃ الوحی والی نظر ہی رہنے دو، نہ ہمیں اس قرآن میں اختلاف نظر آتا ہے اور نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ لکھا ہے، تو بموجب قاعدہ عربیہ چونکہ ماقبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور آگے بِہٖ کی ضمیر کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کیا اور ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے، ہم تو بھائی قرآن کی عبارت صریحہ کے قائل ہیں، کسی کے ایچ پیچ میں آکر کسی غیر مذکور کی طرف ضمیر کو راجع کرنے کو تیار نہیں، جیسا کہ حضرت عیسےٰ علیہ السلام کے ماقبل نہ کسی اور کا ذکر ہے اور نہ کوئی اور مرجع بن سکتا ہے۔

وَمَا عَلَیْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ہ

"مرزائی"۔ آیت متنازعہ فیہا کے آخر میں وَیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ یَکُوْنُ عَلَیْھِمْ شَھِیْدًا کا جملہ ثابت کر رہا ہے، کہ ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گواہ ہونگے، یعنی گواہی ان کے خلاف دینگے اگر وہ سب مان جائینگے تو گواہی کیسی؟ اس گواہی کی ضرورت کیا، کیونکہ گواہی کی ضرورت تو ہمیشہ انکار کے

marfat.com

بعد ہوتی ہے، قیامت کے ساتھ گواہی کو مخصوص کرنا بتاتا ہے، کہ مسیح دنیا میں نہیں گئے گا، ورنہ کہنا چاہئے تھا، کہ وہ دنیا میں آکر گواہی دیگا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے نون ثقیلہ کے معنی حال کے بھی کئے ہیں،

"محمد عمر"۔ رب العزۃ نے جن وانس کو اپنی نافرمانی کے باعث دنیا وعقبیٰ میں سزا دینے کا حکم سنایا ہے، جیسا کہ عام ارشاد ہے، لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔ جیسا کہ نیکی کرنے والوں کو دنیا وعقبیٰ کی نعمتوں سے سرفراز کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی جب مثلثین کے جرائم کو اور ان کو بار بار معاف کرنے کے انعام کا ذکر فرمالیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے غلبہ پانے کی بڑ کو توڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت پیش فرمایا، پھر ایسے منکرین اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دنیا وعقبیٰ میں ان کے کفر کے سبب سے ان کو سزا کا حکم فرمانا تھا، پہلے چونکہ تمام انبیا علیہم السلام کے مقابلہ میں ان کے مخالفین پر انہیں انبیا علیہم السلام کو ہی مسلط فرماتا رہا ہے۔ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ تمام ہی مخالفین تھے، اسی لئے آپ کی زندگی عموماً جنگلوں میں گذری، تو آخیر جو ان کے ساتھی بنے تھے انہوں نے بھی اُن سے دھوکا کیا، اور ان کا قبضہ کفار کے ہاتھ دینا چاہا، اب اگر اللہ تعالیٰ منکرین کو تباہ کرتے ہیں، تو بھی مناسب نہ تھا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا چکے تھے۔ اور اگر ان کا بدلہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مغلوبیت ہی رہتی، اور لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ کا قانون ٹوٹتا تھا، تو ان دشمنان عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو انہیں کے ہاتھوں ذلیل کرنا مقصود تھا، تو ان کو قیامت کی علامت مقرر فرما کر آسمان پر اُٹھا لیا، اور قرب قیامت آسمان سے اُن کے اتارنے کا وعدہ فرمالیا، تو ان یہود اور نصاریٰ پر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا مسلط فرمائیگا کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت تشریف لاکر جو ان کی مخالفت پر ہی مصر ہوگا، اور دجال کا ساتھ دیگا۔ اس کو آپ تہ تیغ کرینگے، اور آپ کے مخالفین کی دنیا سے اتنی صفائی ہوگی، جس کی وضاحت

marfat.com

رب العزۃ نے وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سے فرمائی، یعنی کوئی اہل کتاب (جو ان کا دشمن ہوگا نہیں رہیگا یا قتل کیا جائیگا اور اگر نظر آئیگا) تو سوا ایمان دار کے اور کوئی نہ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھ لیگا، اور ان کی عزت کریگا، یہ دنیاوی سزا، قتل یہود و نصاریٰ کی بدعملیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دنیا میں ملے گی، چنانچہ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سے دشمنوں کو ان کے باطل مذہب کی بربادی دنیاوی سزا سنائی گئی، اور آگے قیامت کی سزا کا حکم بھی سنانا قانونِ خداوندی تھا، تو قانون کا اجراء يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اخروی سزا سنائی کہ دنیا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں سزا ملیگی، اور ذلیل کیا جاویگا، اور عقبیٰ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تم پر بھگتیں گے۔ وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کی بریت سے کسی صورت نہ ہوگی، یہ جو تمہارا خیال ہے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ یہ غلط ہے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تمہیں دنیاوی اخروی سزا میں گرفتار کیا جائیگا، یہود و نصاریٰ کو چونکہ سزا پہلے عیسیٰ علیہم السلام کی مخالفت پر ملنی ہے۔ اس واسطے آخرت میں جب تک ان پر بھگتیں گے نہیں، تب تک سزا کے مستوجب کیسے ہو سکتے ہیں،

اور تم مرزائی بیچاروں نے اُلٹ بیان کر دیا، کہ جب تمام ایمان لے آئینگے تو سزا کس لئے، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرینگے جو دجال کا ساتھ دینگے جیسا کہ تم پہلے تسلیم کر چکے ہو، ان کو اخروی سزا بھی تو سنائی جانی تھی اور ان کو دنیا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا ان کے اعمال دنیاوی کی سزا اور عقبیٰ میں بھی وہ سزا کے مستوجب ہوئے، اور ان کی اخروی سزا کا دار و مدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت پر موقوف ہے، اسی واسطے یہ معنی قَبْلَ مَوْتِهِ کے صحیح ہونگے تا کہ قبل از سزا اُخروی سنانے کے اُن کو دنیاوی سزا سنائی جائے، کیونکہ اُن کا دنیاوی تسلط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی ذلت ثابت کرتا تھا، تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ہی یہود و نصاریٰ

marfat.com

پر مسلط ہونے کا وعدہ فرمایا، تاکہ صداقتِ عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو جائے۔ اور فرمایا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لاکر سوائے اپنے متبعین کے کسی کو نہ چھوڑینگے، ان یہود و نصارای کو بری طرح مٹائیں گے۔ جو ایمان لاکر اُنکا ساتھ دیگا۔ دنیا میں نجات پائیگا، باقی سب مثلثین کو بزورِ تلوار نابود کرینگے۔ اور قیامت کے میدان میں سرکاری وکالت کر کے اُن پر بگتیں گے، اور وہ تمام قیامت کو بھی عذاب الٰہی جہنم کا ایندھن ہونگے۔ دنیا میں وکیل صاحب فرماتے ہیں، کہ اگر دنیا میں دوبارہ آنا تھا، تو یہ کہنا چاہیئے تھا، کہ دنیا میں اگر گواہی دینگے، بھلا یہود و نصارای کے واسطے دنیا میں گواہی کی کیا ضرورت، دنیا میں وہ تو خود حاکم ہونگے، حاکم خود فیصل ہوتا ہے، جو سزا و جزا دینے کا حق رکھتا ہے، وکیل صاحب حکام گواہی نہیں دیا کرتے، میرے خیال میں آپنے بھی سفارشی وکالت ہی سنبھالی ہوئی ہے، تو یہ کہنا کہ دنیا میں اگر گواہی دیتے یہ تمہارا نتیجہ نکالنا غلط ہے، رُسل قیامت کے دن خداوند تعالٰے کے روبرو گواہ بنکر کھڑے ہونگے، نہ دنیا میں، کیونکہ اس وقت حکومت الٰہی ہوگی، اور رسل سرکاری گواہ ہونگے، اور دنیا میں رسل حاکم واحد کی حیثیت رکھتا ہے، اور مولوی ثناء اللہ صاحب کو تمہارا شہادت میں پیش کرنا ہمارے واسطے حجت نہیں تمہارے واسطے ہونگے، کیونکہ تم نے اُن کے کہے ہی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، کیسی بھولی باتیں بناتے ہو، مولوی ثناء اللہ نے لکھا ہے، مولوی ثناء اللہ تمہارے لئے قرآن کا منزل ہوگا، میں قرآن کی آیات بیّنات پیش کرتا ہوں، وکیل صاحب مولوی ثناء اللہ کا قانون پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرو، جو لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کو حال کے معنی استعمال کرنے کا سبق دے، ورنہ خلاف قرآن حال کے معنی کرنا یہ شیوۂ مرزائیت ہے، نہ اسلام کا،

لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کا تمہیں علم ہے، کہ معنی اَستَقبال کے ساتھ فعل کو خاص کر دیتا ہے۔ اور یہ صیغہ استقبال عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کو قرآن کریم کا جملہ لَیُؤمِنَنَّ ثابت کر رہا ہے۔ اگر تم مرزائی قرب قیامت تک باقی رہے، تو تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاء اللہ درست کر لینگے اور جو نہ درست

marfat.com

ہو گا، اس کا علاج یہود و نصاریٰ والا کریں گے، اور خدا کے دربار میں قیامت کو اس پر گواہی بھی دیں گے، دنیاوی و اُخروی دونوں عذابوں میں بوجہ انکار حیات مسیح بن مریم علیہما السلام مرزائی گرفتار ہو گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کا جواب

"مرزائی"۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لوگ اس آیت کے ماتحت ترجمہ پیش کرتے ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ اصول شاشی میں لکھا ہے۔

وَالْقِسْمُ الثَّانِیْ مِنَ الرُّوَاةِ هُمُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ دُوْنَ الْاِجْتِهَادِ وَالْفَتْوٰی كَاَبِیْ هُرَیْرَةَ وَاَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ۔

پس اہل اصول اور محدثین کے نزدیک حضرت ابوہریرہ رضؓ ثقہ راوی ہیں، اور ان کی روایت درست ہے، مگر ان کا اپنا خیال اور قول ہرگز حجت نہیں۔ چنانچہ اسی بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اجتہاد درج ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَمَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ وَالشَّيْطٰنُ يَمَسُّهٗ حِيْنَ يُوْلَدُ الخ۔ کے متعلق حضرت ابوہریرہ رضؓ فرماتے ہیں، فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ اِنِّیْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو، حالانکہ حضرت ابوہریرہ رضؓ کا یہ اجتہاد قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کی مندرجہ بالا دعا حضرت مریمؑ کی ولادت کے بعد کی ہے، اور حدیث میں جس مس شیطان کی نفی ہے وہ وقت ولادت کی ہے، پس جس طرح ابوہریرہ رضؓ کا اس آیت کے متعلق اجتہاد مندرجہ بخاری غلط ہے، اسی طرح ان کا وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ کے متعلق اجتہاد مندرجہ بخاری بھی غلط ہے اور ناقابل اسناد۔ ﴿پ ۳۵۶﴾

"محمد عمر"۔ پہلے تو اصول شاشی کی عبارت کو لکھ کر وکیل دوست نے دھوکا دیا اور اس کے ماقبل کی عبارت کو ہضم کر گئے۔

اصول شاشی ۷۵	ثُمَّ الرَّاوِیْ فِی الْاَصْلِ قِسْمَانِ مَعْرُوْفٌ بِالْعِلْمِ وَالْاِجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ

marfat.com

عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ۔
وَالْقِسْمُ الثَّانِیْ مِنَ الرُّوَاۃِ ہُمُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَۃِ دُوْنَ الْاِجْتِہَادِ وَالْفَتْوٰی کَاَبِیْ ھُرَیْرَۃَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِکٍؓ۔

پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) سے راوی کی اصل میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم جو اجتہاد اور علم کے ساتھ مشہور ہیں، جیسا کہ خلفاء اربعہ اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسری قسم راویوں سے جو مشہور ہیں، حافظے اور انصاف میں نہ اجتہاد اور فتوای میں مثل ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،

اب اس عبارت سے مرزائی صاحب کی عدالت مصنوعہ پر غور کرنے سے مرزائی صاحب کے اجتہاد کا پول کھل جاتا ہے، کہ تم نے جو کہا ہے کہ اصول شاشی میں لکھا ہے، کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد حجت نہیں، یہ بات کیسی ایمان سے بعید ہے، کجا اصول شاشی کی تحریر کا مطلب کہ خلفاء اربعہ وَمَنْ مَّعَہُمْ اجتہاد وعلم میں مشہور ہیں، اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظے اور انصاف میں مشہور، یہاں تو شہرت کی بات ہو رہی ہے۔

لیکن مرزائی صاحب اپنے مطلب کا کچھ اور اندازہ لگا رہے ہیں۔ کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ زیادہ اس لئے اجتہاد میں مشہور نہیں چونکہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ احادیث صحیحہ کا اتنا ذخیرہ موجود ہے اور علم قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ اتنا حاصل کر چکے ہیں، کہ وہاں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں اور اور باقی خلفاء اربعہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث صحیحہ اخذ کرتے ہیں، اس واسطے ان کو اپنے اجتہاد سے احادیث مرویہ بالواسطہ سمجھنے کی ضرورت تھی، گو جو اشارات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاواسطہ حاصل تھیں۔ وہ بطور تقلید بیان فرما دیتے اجتہاد کی زیادہ ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے اور عدل کے قائل تھے، کیونکہ یہ انعام ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو ذخیرہ احادیث وعلوم قرآنیہ سمجھانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئے کیونکہ اعلیٰ اور مضبوط شے کے لئے اعلیٰ اور مضبوط برتن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

marfat.com

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کا ارشاد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیت قرآنی کا تلاوت فرمانا یہ ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو ایسے سمجھایا ہوگا، تب ہی اپنے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیت قرآنی تلاوت فرمادی، ورنہ بقول تمہارے اگر تسلیم کیا جاوے کہ آپنے اپنے اجتہاد سے آیت پڑھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی ہوگی، تو حتمی طور پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ کے عدل میں فرق لازم آئیگا، اور بقول تمہارے یہ ثابت ہوگا، کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ معاذ اللہ عادل نہ تھے، بلکہ نقل میں اپنی رائے کے دخیل ثابت ہونگے، تو مرزائی صاحب نے نہ صرف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہٗ کے اجتہاد پر ہی اعتراض کیا، بلکہ آپکے عدل کو بھی ٹھکرادیا، جب عدل گیا۔ تو حافظ با کا ولی مفقود، جسکی غلطی مرزائی بھی تیرہ سو سال کے بعد نکال بیٹھا، تو مرزائی صاحب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ کے اس عطیہ کا جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھا، یعنی عدل اور حافظ دونوں کا منکر ہوگیا اعاذنا اللہ منہٗ۔

مرزائی صاحب کا حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کا آیت کی تلاوت کرنا اور اس کو اجتہادی فتوٰی سمجھنا یہ مرزائی صاحب کے جملہ مرزائیہ سے تصور کیا جاویگا، اور اپنی تائید میں مرزائی صاحب ہیر پھیر کرکے پیش کرتے ہیں، اصول شاشی کو تم بیچارے کیا سمجھو، کیا اصول شاشی والے نے کہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی غلطی نکالی ہے؟ جیسا کہ تم نے منہ بھر کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کو کہدیا ہے، کہ انہوں نے یہ غلطی کی وہ غلطی کی۔ غلط ہو دماغ مرزائی کا، جس کا حکیم بھی دماغی مرض میں مبتلا، لیکن غلطیاں نکالے اس عادل و عالم کی، کہ جس کو عقل کل کی طرف سے عدل و علم بلا واسطہ عطا ہوا
نَتَفَكَّرُ دَائِرَجِعُ نَتَدَبَّرُ مُسْتَعِدٌّ لَهٗ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَادِلاً وَّ عَالِمًا لَاشَكَّ فِيْهِ۔

خداوند کریم تمہیں ہدایت دے۔ تم نے قرآن اور حدیث کو استہزا بنایا ہوا ہے۔ محض مسلمانوں کو دھوکا دینے کے واسطے، کہ مرزائی قرآن و حدیث کے قائل

marfat.com

ہیں، حالانکہ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیت آجائے تو تم اس کو ہیر پھیری کر کے بدلاتے ہو۔ اور ایمان لانے کے لئے تم ہرگز توجہ نہیں کرتے، بلکہ محض ٹھکرانے کے لئے ستائیں بائیں کروگے، آج تک تم سب وفات مسیح کی ایک آیت صریحہ پیش نہیں کر سکے، کہ جس سے وفات مسیح ناصری ثابت ہو۔ اس سے وفات مسیح ناصری کو ثابت کرنا بھلا یہ کوئی ماننے کی بات ہے۔ کہ جس آیت کا مسیح علیہ السلام سے تعلق ہی نہیں تم اس پر داؤ پیچ لگا کر مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہو، اور جب حیات مسیح کے متعلق آیات صریحہ پیش کی جاویں، جن میں رب العزۃ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر تشریف لے جانے اور وہاں اُن کو رزق دینے اور پھر ان کے متعلق قرب قیامت زمین پر تشریف لانے کے صریح ارشاد موجود ہیں، لیکن مرزائی اپنے مخالف پاتا ہے تو وہ ان آیات الٰہیہ کو یوں بیدردی سے اور بے اعتنائی اور فاخرانہ طور پر ٹھکراتا ہے کہ آریہ بھی قرآن کریم سے ایسا برتاؤ کبھی نہیں کرسکتا اور احادیث صحیحہ کو جو صحیح اور مرفوعہ ہوں، جس کا ترجمہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہو، تو اس کو بہانہ بنا کر مرزا غلام احمد صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا انکار کرتا ہے، اور تمسخر سے کام لیتا ہے۔ کہ چکڑالوی بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، چکڑالوی بھی حدیثوں کا سرے سے انکار ہی تو کر دیتا ہے، مخالف ہو یا موافق حدیثوں کا تمسخر تو نہیں اڑاتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو معاذ اللہ بے سمجھ اور حدیثوں کے مفہوم کو سمجھنے سے مرزائیوں کی طرح قاصر تو نہیں گردانتا۔ خداوند کریم ان مرزائیوں کے ہتھکنڈوں سے اسلام کو محفوظ رکھے۔

مرزائیو! ذرا کان دھر کر اپنے وکیل کی سنو، کہ وہ صحابی جس کو میرے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست علم لدنی سے تعلیم فرمائی، اس کو کیسے ٹھکراتا ہے، کہ ابو ہریرہ رضی راوی حدیث تو صحیح ہیں، لیکن مجتہد نہیں۔ چونکہ یہ قول ان کا ہے، اس لئے معتبر نہیں، ہائے ہائے، افسوس وہ صحابی جو تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلم اور احفظ ہو، اس کو

marfat.com

یوں ٹھکرایا جائے، جن کے متعلق ارشاد ہے۔

(ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی طاقت)

بخاری شریف ۱ / ۲۲

عن ابی سعید المقبری عن ابی ھریرۃ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداءک فبسطتہ فغرف بیدیہ ثم قال ضمہ فضممتہ فما نسیت شیئا بعد۔ ابی سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیثیں بہت سنتا ہوں، اور بھول جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ تو میں نے چادر بچھائی تو آپ نے اپنے دونوں دستِ پاک سے چلو بھر کر ڈالے پھر فرمایا (سینے سے) ملالو، تو میں نے اس کو ملالیا تو بعد اس کے میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ جس کو میرے آقا نے اپنے دونوں دستِ پاک سے چلو بھر کر علوم نبوی سے سرفراز فرمایا ہو، مرزائی اُس کو کہے، کہ معاذ اللہ حدیث کا ناقل تو ہے، لیکن حدیث کے سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے، خداوند اس اعتقاد سے بچائے۔ اور اس کلام سے مسلمان کے کانوں کو محفوظ رکھے، اور پھر اپنی طرف سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ حدیث کی مطابقت میں آیت تلاوت فرمائی، چونکہ مرزائی صاحب کے سامنے حیات مسیح ناصری علیہ السلام ثابت ہوتا تھا، اس لئے ایسے جلیل القدر اصحابی جس نے اس مسئلہ میں قرآن و حدیث پڑھ دیا، اس کو ٹھکرا دیا، امام بخاری اگر بے سند قول پیش کردیں جیسا کہ ان کو پہنچا ہے، تو مرزائی اس کو جیسے مرضی ہو سنالے، لیکن استاد الحدیث صحابی جس کو تمام اصحاب بھی اعلم اور احفظ تسلیم کریں، لیکن چونکہ انہوں نے مرزا صاحب کی مرضی کے خلاف حیات و نزول مسیح کی حدیث صحیحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی، اور جو آیت کریمہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ان کو اکٹھا بیان فرما کر حدیث کی تائید فرمادی

تو مرزائی نے اپنے عقیدے سے خلاف پاکر آیت وحدیث کو ہی ٹھکرادیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، مرزائی کے لئے حجت نہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفیہ بیان لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ قریب ہی ہے تم میں عیسیٰ بن مریم تشریف لاوینگے۔ یہ قول ابوہریرہ ہے؟ یا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ یہ قول ابوہریرہ ہے؟ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے صرف ایمان بالحدیث رکھنے والوں کے واسطے اور ایمان بالقرآن رکھنے والوں کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفیہ بیان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے تشریف آوری کے متعلق سُنا تھا صحیح بیان فرمادیا، اور بعد ازاں ایمان بالحدیث رکھنے والوں کو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا ثابت ہے۔ بلکہ اگر اس حدیث کی تائید قرآنی چاہتے ہو، تو صرف اتنے جملے سے تطبیق حدیث کی قرآنی آیت سے فرمائی، کہ (وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ) اے حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو! اگر تمہارا حدیث پر جو عیسٰی علیہ السلام کے آسمان سے اُترنے کو ثابت کررہی ہے، ایمان ہے تو اگر چاہو کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت بھی مطابق ہو، تو وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پڑھ لو، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کی تائید قرآنی بھی تمہیں حاصل ہو جائے، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزائی کے عقیدہ کا پاس نہیں کیا، اس لئے حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفیہ بیان کو روایت کرکے ملزم اجتہاد ہو گئے، معاذاللہ، اور اس کی تائید میں آیت فرقانی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ہوئے کو بیان فرمادیا اور اختیار دیدیا۔ فرمادیا فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ۔ اگر تم چاہو، تو اس حدیث کے مطابق پڑھ لو، اشارہ کردیا، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ، کو علم لدنی جو کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا تھا، اور آپ کو علم تھا، کہ ایک فرقہ مرزائیہ پنجاب میں پیدا ہوگا جو وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

marfat.com

کے معنی بگاڑینگے، اس لئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماکر ساتھ ہی ایمانداروں کے لئے فاقرؤا ان شئتم بیان فرماکر حدیث شریف کی تائید قرآنی بھی فرمادی۔ حدیث کو بھی بیان فرمادیا اور آیت کا مطلب بھی سمجھا دیا کیوں نہ ہو، آخر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی حاصل تھی، آپ کے عطا کردہ علم کے عالم تھے مرزائی عقیدہ وفات مسیح کے قدنی ڈھونگ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

اب مرزائی سوا اس کے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطبیق پر تو انگشت نمائی نہ کرسکا کہ مرزائی بدظن ہو جائیں گے کیونکہ ایک طرف آیت قرآنی ہے اور ساتھ ہی حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرے سے ہی ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معاذاللہ بے سمجھ کہہ دیا۔ اعاذنا اللہ منہم۔ یہ ثابت ہوگیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی حدیث کو جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے تطبیق قرآنی فرمائی ہے، وہ صحیح ہے، جس کا جواب مرزائی نہیں دے سکا، سوا اس کے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکرا دے، مرزائی وکیل کے ٹھکرانے سے ان کو نہیں ٹھکرایا گیا بلکہ ان کے بیان کردہ قرآن و حدیث کو ٹھکرایا گیا ہے۔ مسلمان خوب سمجھتا ہے۔

بھلا وکیل صاحب یہ تو فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا، اُن کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ مجتہد نہیں ہیں، کیوں ایسے شخص کو گورنر مقرر کرتا ہوں، جس کا اجتہادی توازن ہی درست نہیں سُنیے،

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی و سیاسی طاقت

اصابہ ۷/۲۰۶ — اِنَّ عُمَرَ اِسْتَعْمَلَ اَبَاھُرَیْرَۃَ عَلَی الْبَحْرَیْنِ نَقَدِمَ بِعَشْرَۃِ آلَافٍ فَقَالَ لَہٗ عُمَرُ اِسْتَأْثَرْتَ بِھٰذِہِ الْاَمْوَالِ فَمِنْ اَیْنَ لَکَ قَالَ خَیْلٌ اَعْطِیَۃٌ دَاَعْطِیَتُہٗ تَتَابَعَتْ وَخَرَاجُ رَقِیْقٍ لِیْ فَنَظَرَ فَوَجَدَ ھَاکَمَا قَالَ ثُمَّ دَعَاہُ یَسْتَعْمِلُہٗ فَاَبٰی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین

marfat.com

پر گورنر مقرر فرمایا، تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے دس ہزار پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے فرمایا کہ یہ مال تو نے کہاں سے لیا ہے تو بھی ان مالوں کے ساتھ لبریز ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے فرمایا کہ گھوڑیوں نے بچے دیئے۔ اور زائد مال بڑھ گیا۔ اور میرا اخراج بہت تھوڑا تھا حضرت عمر نے پڑتال کی تو حضرت ابوہریرہ رضؓ کے مطابق ارشاد ثابت ہوا۔ پھر حضرت عمر رضؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کو ملازمت کے لئے بلایا۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔

کیوں جناب؟ یہ ہے حضرت ابوہریرہؓ کا اجتہاد اور سیاست جس کو حضرت عمرؓ بھی تسلیم کر گئے،

اصابہ ۷ ۲۰۴	أَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِيْنَ. فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسٰى فَقَالَ سَبَقَكُمْ بِهَا الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو بھولے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اُس علم کا سوال کرتے ہیں، جو بھولے نہیں، تو آپ نے فرمایا تم سے غلام دوسی سبقت لے گیا۔

آہ! اے اُمتِ مرزائیہ جس کے متعلق آقائے کونین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سَبَقَكُمْ بِهَا الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ کا فتویٰ دیں کہ تمام صحابہ کرام سے ابوہریرہ رضؓ علمی سبقت لے گیا، جو کسی اور کو عطا نہیں تو تم اُس کی علمی شان کا انکار کرو، تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عطیہ پر مرزائیت کو مقدم سمجھا ہے۔

اے امتِ مرزائیہ! تم مسلمانوں کو دھوکہ میں رکھتے ہو، کہ ہم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرمان کو بالاتر سمجھتے ہیں، اگر تمہارا دعوٰی یہ صحیح ہے تو اس مسئلہ حیات عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام اور ان کا آسمان سے دوبارہ تشریف لانے پر ایمان لے آؤ، اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کے ٹھکرانے والوں کو ٹھکرا دو، اگر حوالہ مکمل دیکھنا ہو، تو مکمل پاکٹ بک احمدیہ نیا ایڈیشن مطبوعہ ۱۹۵۲ء کو دیکھو، ورنہ نفیر تو تمہارے اس دعوٰی کو مرزائیت میں شمار کرے گا۔

تنقلکی ومقل مترا!

marfat.com

(حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت)

اصابہ
۷/۲۰۶

كَانَ يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ تَسْبِيْحَةً

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز بارہ ہزار تسبیح پڑھتے تھے،
کیوں جناب کوئی تو اپنی جماعت کا ایسا دکھاؤ، چلو اپنے گھیت میں کوئی ایسا دکھا دو، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں مروان آیا، تو اس نے کہا شفاك الله تمہیں اللہ شفا دے، تو ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّ لِقَاءَكَ فَاَحْبِبْ لِقَائِيْ فَمَا بَلَغَ مَرْوَانُ يَعْنِيْ وَاَسْطَ السُّوْقِ حَتّٰى مَاتَ۔

اے اللہ! میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، تو میری ملاقات کو محبوب بنالے، مروان ابھی بازار کے درمیان نہیں پہنچا، کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ کا وصال ہوگیا،

کیوں جی! اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، یہ نہیں کہ مرزا صاحب نے تمام عمر میں جو کہا ایک بھی پوری نہ ہوئی اور بعد میں تاویلات سے موعودہ امر کو سچا کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ کوئی مرزائی مرزا صاحب کی تمام عمر کی کسی بات کو سچی ثابت کردے تو ایک سچ کا ایک صد روپیہ انشاء اللہ انعام بطور گیارھویں پیش کیا جاویگا۔ اس کے حلق میں اُترے یا نہ، مرزا صاحب کی صداقت کا نمونہ آئندہ اسی کتاب میں انشاء اللہ مذکور ہوگا،

پھر مرزائی دوست نے اصول محدثین کا نام لیا اور کسی ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآنی آیات صریحہ موجود، احادیث صحیحہ موجود، انشاء اللہ العزیز عنقریب مذکور ہونگی، سینکڑوں اقوال آپ کے مؤید اور پھر حیات مسیح علیہ السلام کی آیات کا ہی صرف انکار نہیں کیا، بلکہ دوسرے مقام کی آیات سے بھی انکار کردیا۔

marfat.com

پھر کہتے ہیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے قرآن مجید میں اور بھی اجتہادی غلطی ہے۔ وَاِنِّیْ وَاِنْ شِئْتُمْ اِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ یہ حدیث بخاری شریف میں دو جگہ مذکور ہے۔

بخاری شریف ۱/۴۸۸ ۲/۶۵۲

عَنْ سَعِیْدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ اِلَّا وَالشَّیْطٰنُ یَمَسُّہٗ حِیْنَ یُوْلَدُ فَیَسْتَھِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّیْطٰنِ اِیَّاہُ اِلَّا مَرْیَمَ وَابْنَھَا ثُمَّ یَقُوْلُ اَبُوْھُرَیْرَۃَ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر اس کو شیطان چھیڑتا ہے، جب پیدا کیا جاتا ہے تو چیخ کر پکارتا ہے، شیطان کے چھیڑنے سے اس کو سوائے مریم علیہا السلام اور عیسٰی علیہ السلام کے، پھر فرماتے تھے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ اور پڑھو تم اگر چاہو وَاِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

اس آیت کریمہ کو بھی ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تطبیق دی ہے، خود وکیل صاحب کی سمجھ میں آیا نہیں، اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کو معاذ اللہ بے سمجھ قرار دے دیا، اب فقیر وکیل مرزائیت کو ثابت کرتا ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے جو تطبیق دی ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ کوئی ایسا بچہ نہیں جو پیدا کیا گیا ہو، تو معلوم ہوا، کہ بچے کو بعد از پیدائش شیطان چھیڑتا ہے تو بچہ چلاتا ہے، ہر صورت بعد از ولادت شیطان کا چھیڑنا اور اس کا چلانا ثابت ہوا، اور بعد از ولادت اسی وقت ہی والدہ مریم علیہا السلام نے مابہ الامتیاز تفریق سے تانیث کو ملاحظہ فرماتے ہی اِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ فرما دیا، جو فرمان الٰہی فَلَمَّا وَضَعَتْھَا سے ثابت ہے، کہ وضع حمل ہوتے ہی پہچان تانیث کرتے ہی وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْاُنْثٰی سے اپنی فراست

marfat.com

بیان فرماتے ہوئے حکمت خداوندی کا اقرار فرماکر دعا فرمادی وَاِنِّیْٓ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ شیطان کو چھیڑنے کا موقعہ ہی کب ملا، مریم علیہا السلام کی ولادت پر ہی تو دعا پڑھ دی، اور دعا کو اتنی وسعت دی، کہ ان کی اولاد حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی مسِ شیطانی سے پناہ رحمانی سے سرفراز فرمایا، یہ ان کی کرم نوازی ہے، کہ ان کی اولاد کو بھی شیطانی مس سے نجات دلائی، ورنہ ہمیشہ دعا بروقت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پڑھنے کے وقت بھی اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھی جاتی ہے، جب قرآن شریف کھول کر جہاں سے شروع کرنا ہو، کھولا جائے، ایسے ہی بیت الخلا میں بایاں پاؤں پہلے داخل کرکے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ پڑھا جاتا ہے۔

ایسے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب پردہ پھاڑ کر بچہ کو نکالا جاتا ہے، تب ہی تو شیطان چھیڑتا ہے اور مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ نے پردہ کو پھاڑتے ہی ——— اِنِّیْٓ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھ دیا، بس آپ کے پڑھنے کی ہی برکت سے حضرت مریم علیہا السلام پناہ خداوندی میں ہوئیں اور شیطان مس نہ کرسکا، بلکہ ہمیشہ کے واسطے مریم علیہا السلام اور ان کے لڑکے عیسٰی علیہ السلام کے نزدیک بھٹکنے سے باز رہا، اور اگر بقول مرزائیہ مریم علیہا السلام کو مسِ شیطانی ہوچکا ہوتا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بعد از مس شیطانی اعوذ پڑھنا کس کام کا، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو ڈاکٹر بعد از مرگ مریض تریاق مرض لاکر میت کے منہ میں ڈالے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، ایسے ہی اگر میت کے ورثا ڈاکٹر یا حکیم کو بعد از مرگ میت کے منہ میں دوا ڈالنے کو کہیں اور کہیں کہ پیسے ہم نے دینے ہیں، تو دوا منہ میں ڈالدے تو حکیم ڈاکٹر ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہوا اُن سے متنفر ہوکر چلا جائیگا، اور باوجود ان کے قیمت دوا ادا کرنے کے وہ کبھی میت کے منہ میں دوا ڈالنے کی کوشش نہ کریگا، چنانچہ بعد از مسِ شیطانی کے مریم علیہا السلام کے لئے مریم علیہا السلام کی والدہ کے اعوذ پڑھنے کو مرزائی کہیں، تو ایسے قائلین کو عقل سے مستثنیٰ سمجھا جائیگا،

marfat.com

مرزائی صاحب یہ ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کے فرمان کی تطبیق جو ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے حدیث شریف مَامِنْ مَوْلُوْدٍ الخ کو پڑھ کر قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اس کی تائید فرمائی، تو تم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ پر غلطی کا فتویٰ جڑ دیا اور اپنے اجتہاد کو تم نے مقدم سمجھا، اور اُولٰئِکَ ھُمُ الرَّاشِدُوْنَ فرمان الٰہی کو پس پشت ڈال دیا، کیا جس کو خداوند کریم ہدایت والے ثابت کرے اور جن کے رُشد کو رب کریم سراہیں تم اُن کو بے رُشد کہو، ارے جو تمام مخلوق کے راشدین اور ارشد کے اپنے دمرت رحیمانہ سے راشدین بنائے گئے ہوئے ہوں اور ان کے راشدین ہونے کی سند ان کو رب العزۃ نے فرمادی ہو تم ان کو معاذ اللہ بے رشد کہو اور تم خود بارشد کہلاؤ، خداوند تمام مسلمانوں کو اُولٰئِکَ ھُمُ الرَّاشِدُوْنَ کے رشد کی ہدایت دے اور مرزائیات وَمَنْ تَبِعَھَا سے محفوظ رکھے، میں کہونگا کہ خداوند مسلمانوں کو مرزائی کی ہوا بھی نصیب نہ فرمائے تاکہ متعدی مرض کا اثر نہ ہوجائے۔ وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنُ ۰ وَاُمُّہٗ کا جواب تحت اسی آیت کے ملاحظہ ہو۔ ص۳۵۹

"مرزائی"۔ کہل کے معنی مجمع البحار میں ۳۰ سے ۴۰ سال کی عمر کے ہیں، بقول تمہارے جب وہ ۳۳ برس کی عمر میں اٹھائے گئے تو تین سال انہوں نے کہل میں بھی کلام کرلیا، واپس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو احادیث صحیحہ کی بنا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ۱۲۰ سال تک زندہ رہے، لہذا اُن کا کہل کی عمر میں بھی کلام کرنا ثابت ہوگیا۔

محمد عمر۔ وکیل صاحب کو سوجھتی اُلٹی ہی ہے، جس کتاب سے استدلال پیش کروگے، فقیر اسی کتاب سے انشاء اللہ العزیز جواب پیش کریگا، کیونکہ جیسا کہ راعی کا کام ہے کہ کسی سایہ دار درخت کو سلامت نہ رہنے دینا، بلکہ تمام شاخیں اور ٹہنیاں کاٹ کر ریوڑ کو سیر کرانا اور صاحب درخت کے نقصان کا اُسے کوئی خیال نہیں ہوتا، سو یہی اصول مرزائیہ کا ہے، آیت ہو یا حدیث یا کوئی قول بزرگ تم نے اس کو کانٹ چھانٹ کرکے اپنے فریق کو راضی کرلینا۔ ایمان رہے یا نہ، تم نے تو محض بات کہدی، فقیر پورا حوالہ پیش کرتا ہے۔

maktabah.org

بیان فرماتے ہوئے حکمت خداوندی کا اقرار فرماکر دعا فرمادی وَاِنِّیٓ اُعِیۡذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ شیطان کو چھیڑنے کا موقعہ ہی کب ملا، مریم علیہا السلام کی ولادت پر ہی تو دعا پڑھ دی، اور دعا کو اتنی وسعت دی، کہ ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مس شیطانی سے پناہ رحمانی سے سرفراز فرمایا، یہ ان کی کرم نوازی ہے، کہ ان کی اولاد کو بھی شیطانی مس سے نجات دلائی، ورنہ ہمیشہ دعا بروقت ہؤا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پڑھنے کے وقت بھی اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ پڑھی جاتی ہے، جب قرآن شریف کھول کر جہاں سے شروع کرنا ہو، کھولا جائے، ایسے ہی بیت الخلا میں بایاں پاؤں پہلے داخل کرکے اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُ بِکَ مِنَ الۡخُبۡثِ وَالۡخَبَائِثِ پڑھا جاتا ہے۔

ایسے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب پردہ پھاڑ کر بچہ کو نکالا جاتا ہے، تب ہی تو شیطان چھیڑتا ہے اور مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ نے پردہ کو پھاڑتے ہی ——— اِنِّیۡ اُعِیۡذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ پڑھ دیا، بس آپ کے پڑھنے کی ہی برکت سے حضرت مریم علیہا السلام پناہ خداوندی میں ہوئیں اور شیطان مس نہ کرسکا، بلکہ ہمیشہ کے واسطے مریم علیہا السلام اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بھٹکنے سے باز رہا۔ اور اگر بقول مرزائیہ مریم علیہا السلام کو مس شیطانی ہوچکا ہوتا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بعد از مس شیطانی اعوذ پڑھنا کس کام کا، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جو ڈاکٹر بعد از مرگ مریض تریاق مرض لاکر میت کے منہ میں ڈالے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ ایسے ہی اگر میت کے ورثا ڈاکٹر یا حکیم کو بعد از مرگ میت کے منہ میں دوا ڈالنے کو کہیں اور کہیں کہ پیسے ہم نے دینے ہیں، تو دوا منہ میں ڈالدے تو حکیم ڈاکٹر ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہؤا اُن سے متنفر ہوکر چلا جائیگا، اور باوجود ان کے قیمت دوا ادا کرنے کے وہ کبھی میت کے منہ میں دوا ڈالنے کی کوشش نہ کریگا، چنانچہ بعد از مس شیطانی کے مریم علیہا السلام کے لئے مریم علیہا السلام کی والدہ کے اعوذ پڑھنے کو مرزائی کہیں، تو ایسے قائلین کو عقل سے مستثنیٰ سمجھا جائیگا،

marfat.com

تیسرا جواب یہ ہے، کہ خداوند کریم کی حکمت کاملہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بجسدہٖ چڑھا چکی اور اس کی تدبیر بے نیازی کا ان کو قرب قیامت آسمان سے اُترنے کا حکم جاری کر چکی تو تم کون خداوند علیم و حکیم سے بڑے مدبّر ظاہر ہوئے ہو، جو اس کی حکمت کاملہ کو فضول کہہ رہے ہو، میرے خیال میں خدائی حکمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت آسمان سے اُترنے کو فضول کہنے والوں کا دماغ ہی ان کے اپنے آقا کی سنت پر محمول سمجھنا چاہیئے، یہ تمہاری مکمل پاکٹ بک احمدیہ کا لفظ بہ لفظ جواب ہے۔ جس پر تمہیں ناز ہے۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ حق پر کون ہے؟ اور باطل پر کون؟ تم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا اور نہ کسی نے کسی کا مجیب ہی بننا ہے۔

اور پھر رقم طراز ہیں، کہ ہم تو جی حدیث پر عامل بنکر عیسیٰ علیہ السلام کی ۱۲۰ سال کی عمر گذار کر فوت ہو چکنے کے قائل ہیں، سُبحان اللہ کیوں نہ کہو، اگر اتنی ملمع سازی نہ کرو، تو سرکاری عدالتوں میں جھوٹی حلفیں اٹھا کر مقدمے کیسے جیتو، چونکہ یہ پیشہ تمہارا ازلی ہے، اس لئے ہم تمہیں ایسی باتوں میں معذور گردانیں گے، بھلا یہ تو فرمائیے کہ یہ حدیث کہ ۱۲۰ سال کی عمر گذار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ہے کہاں؟ ایسی منقطع باتیں فقیر کے سامنے پیش کرتے ہو، اس کی تحقیق عنقریب احادیث کے بیان میں انشاء اللہ مذکور ہوگی، ۳۳ سال کی صحیح اور مرفوع حدیثوں کو پس پُشت ڈالنا یہ مرزائیت کا ہی حوصلہ ہے جو متحمل ہے، مسلمان یہ گوارہ نہیں کرسکتا۔

"مرزائی"۔ اِذْ كَفَفْتُ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ عَنْكَ پڑھ کر تم جو کہتے ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مرہم لگائی گئی یہ غلط ہے، کیونکہ کف عن کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں ہے، یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ یَّبْسُطُوْۤا اِلَیْكُمْ اَیْدِیَهُمْ فَكَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ۔ کیا جنگوں کے موقعہ پر کبھی کوئی مسلمان زخمی یا شہید نہیں ہوتا تھا، پس درحقیقت کف ید سے مراد حقیقی نفع سے کفار کو روکنا مراد ہے، یعنی کہ کافر مسلمانوں پر فتح نہیں پاسکتے۔

مجمع البحار ۳/۲۳۶

اَلْکَھْلُ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ زَادَ عَلٰی ثَلٰثِیْنَ سَنَۃً اِلَی الْاَرْبَعِیْنَ وَقِیْلَ مِنْ ثَلٰثٍ وَثَلَاثِیْنَ اِلَی الْخَمْسِیْنَ، کہل آدمیوں سے وہ شخص ہے جو تیس سال سے زائد ہو چالیس سال تک، اور بعض نے کہا ہے کہ تینتیس سال سے پچاس تک، اور آگے ایک اسی مقام پر عبارت ہے جس میں وکیل صاحب نے طفرہ سے کام لیا۔

اِذَا اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ فِیْ صُوْرَۃِ ابْنِ ثَلَاثٍ وَّثَلٰثِیْنَ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریںگے تینتیس برس کے لڑکے کی عمر میں ہوںگے،

کیوں جناب! یہ ہے تمہارا پیش کردہ مجمع البحار کا حوالہ، جس میں تم نے چھانٹ سے کام لیا، اگر صاحب مجمع البحار محمد طاہر صاحب نے تیس سال سے چالیس سال تک معنی کہولت کے بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی تو بیان فرمایا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریںگے تو جس شکل و عمر میں تشریف لے گئے تھے، آسمان سے اسی تینتیس سال کی عمر و شکل میں زمین پر تشریف لائیں گے۔
باقی رہا تمہارا اعتراض کہ کہولت کا زمانہ ۳۰ سال سے ۴۰ سال تک تو تمہارے نزدیک ہے، تو تین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گذار لئے، لہٰذا کہلاً کا زمانہ بھی عیسیٰ علیہ السلام گذار چکے ہیں، اب اُن کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔
پہلی بات تو تمہاری تحریر سے یہ ثابت ہوئی کہ تم مرزائی آیت قرآنی کہلاً کے منکر ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کئی جواب ہیں،

پہلا جواب یہ ہے۔ کہ کہل کا عطف ہے مہد پر، اگر مہد کے زمانہ میں اِلٰی اٰخِرِہٖ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمائی ہے۔ تو کہل کے زمانہ میں بھی جبتک پورا اِلٰی اٰخِرِہٖ کلام نہ فرمالیں گے عطف درست نہ ہوگا، جو اہل علم وایمان کے واسطے واضح امر ہے، کہ عطف ومعطوف کا حکم یکساں ہوتا ہے،

دوسرا جواب۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہل کا کچھ زمانہ ہی گذارنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نکرہ پر ہی اکتفا نہ کرتے بلکہ مقید کر کے معرفہ بنا دیتے، تاکہ خصوصیت بعض کا استعمال نکرے کے عموم کو توڑ دیتا ہے اور تمہیں مفید رہتا۔ اب محض کہلاً کو مطلق بیان کرنے سے تمہارا مقید کرنا یہ تمہاری کم علمی کا ثبوت ہے۔

marfat.com

تطہیراً فرمایا ہے، اور اہل بیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کیا ان کی بھی تطہیر ہوئی؟ تو ان کو یزیدیوں کے ہاتھوں جسمانی طور پر کوئی گزند نہیں پہنچا۔ قرآن پاک کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو، معلوم ہوا کہ تطہیر کے معنی جسمانی طور پر لینا خلاف اسلوب قرآن ہے۔

"محمد عمر" - واہ سبحان اللہ! خداوند اگر عقل دے تو مرزائی نہ بنائے۔ کیونکہ ما بقیت بھی کافور ہو جاتی ہے، تطہیر سے تطہیر کو تو چسپاں کر دیا، لیکن میرے یار نے یہ نہ سوچا، کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں تطہیر عیسوی کا صلہ کفار ہیں یعنی کفار سے پاک کرنا بالکلیہ مقصود ہے، اور اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں تطہیر کا صلہ رجس ہے، یعنی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے رجس سے پاک کرنے کا بالکلیہ وعدہ فرمایا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اپنے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لوگوں کی زکوٰۃ کو منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پلیدی سے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بالکلیہ پاک رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اب تم بتاؤ کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے کونسی پلیدی کو دور نہیں فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے فرمان کے مطابق بیعت فاسق کی پلیدی کو بھی گوارہ نہیں فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزۃ نے اپنے وعدے کے مطابق اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پلیدی سے بالکلیہ محفوظ رکھ کر آیت تطہیر کی تکذیب نہ ہونے دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار سے تطہیر کا وعدہ فرمایا اور پورا کیا، اور بالکلیہ روح بمعہ جسم کفار سے پاک رکھا، اور ان کے قبضے میں نہ جانے دیا، تو جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو روح بمعہ جسم آسمان پر لیجانیکا قائل نہ ہو، وہ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا منکر ہے اور مکذب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سچا رہا اور اللہ تعالیٰ نے بفرمان خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح بمع جسم آسمان پر اٹھا کر کفار سے پوری تطہیر فرمائی، خداوند سچا، اس کی کلام سچی وہی غالب اور غالب

marfat.com

وکلا کا کام دراصل کتاب تیار کرنا ہوتا ہے، مقصد واقعہ کے مطابق ہو یا نہ؟ مقدمہ جیتے یا نہ؟ موکل کہدے کہ میرا وکیل خوب پٹاخا، پیسے کھرے ہوگئے۔

محمد عمر:- یہاں بھی وکیل صاحب نے کسی موقعہ کی بات کو ملاحظہ نہیں فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں جس وقت کے احسان کو اللہ تعالٰی نے جتایا ہے۔ وہ واقعہ بطن نخلہ کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہاں جماعت کرا رہے تھے، تو بنو ثعلبہ اور بنو محاربہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام کو قتل کا ارادہ کرلیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالٰی اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں، اسوقت کوئی واقعہ قتل یا کوئی زخمی ہوا ہے، تم ہے تمہیں بابائے قادیان کی سچ سچ بتانا، اگر نہیں تو ثابت ہوا، کہ تمہارے معنی محض نسخ کرنا مطلب خداوندی کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالٰی نے جس مقام پر یہ احسان جتایا ہے اس وقت کفار کے ہاتھوں کو الیسا روکا کہ قتل تو بجائے خود کوئی مسلمان زخمی بھی نہ ہونے دیا، جب كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ کے معنی واضح ہوگئے تو ایسے ہی حضرت عیسٰی کو بھی اللہ تعالٰی نے یہودیوں کے ہاتھوں سے ایسا بچایا کہ عیسٰی علیہ السلام پر کسی کو جرأت نہ ہوئی، کہ دست اندازی کر سکے، مار پیٹ تو کجا ان کے قبضہ میں ہی حضرت عیسٰی علیہ السلام کو نہ ہونے دیا، بلکہ زندہ بجسدہٖ آسمان پر اٹھالیا، اگر اس پر صحیح اعتقاد نہ رکھا جائے، بلکہ تمہاری طرح عیسٰی علیہ السلام پر زخموں اور ضرب شدیدہ کے قائل ہو جائیں، تو اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ آیت کریمہ کی تکذیب لازم آئیگی، اگر خدا کی سچی کتاب پر ایمان ہے، تو آؤ اور حیات عیسٰی بن مریم علیہما السلام کے قائل ہو جاؤ، تاکہ اس آیت پر بھی تمہارا ایمان ثابت ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کا انکار کر کے مرتد ہو کے قائل نہ ہو جاؤ۔

"**مرزائی**"۔ تم نے جو وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے یہ سمجھا ہے۔ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام سے خداوند نے اس آیت میں کفار سے پاک کرنے کا وعدہ کیا اور کامل طور پر یہودیوں کے ہاتھوں سے بچاؤ لگا، کا وعدہ کیا، تو اس سے حیات مسیح اور عیسٰی علیہ السلام کا آسمان پر بجسدہٖ جانا ثابت ہوتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالٰی نے اہل بیت کی شان میں وَيُطَهِّرَكُمْ

marfat.com

کے بعد بھی ان کے بندہ ہونے سے کریگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبّر کریگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن) سب کو اپنی طرف اکٹھا کریگا یعنی حساب لیگا جو آیت کے دوسرے جُملے وَمَنْ یَّسْتَنْکِفْ عَنْ عِبَادَتِہٖ وَیَسْتَکْبِرْ فَسَیَحْشُرُہُمْ اِلَیْہِ جَمِیْعًا سے واضح ہے، کہ اے فرقہ یہود، جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے اترینگے اور اپنی عبودیت کا اقرار کرینگے تو تم ان کی عبودیت کا انکار نہ کرنا ورنہ دنیا میں تو وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سے عیسیٰ علیہ السلام ان کو درست کر لینگے اور منکرین عبودیت کو تہ تیغ کرینگے اور آگے فَسَیَحْشُرُہُمْ اِلَیْہِ جَمِیْعًا فرمایا، کہ قیامت کو میں تمام مثلثین کو جمع کر کے بدلہ لونگا، تو دوسرے جملے وَمَنْ یَّسْتَنْکِفْ عَنْ عِبَادَتِہٖ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مُسْتَنْکِفِیْن عبودیت مُسْتَقْبِلِیْن کو ان کی آمد ثانی دنیاوی کے موقعہ سے دنیا میں ہی قبل از وقت ڈانٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے استنکاف اول کو بھی دنیاوی ثابت کر دیا، تاکہ استنکاف قرب قیامت بوقت نزول من السماء کوئی مریض استنکاف اخروی نہ سمجھ بیٹھے، جس کی تکذیب مرزائی کر رہا ہے اور نفی تاکید بلن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ استقبال میں زندگی بسر کرنا صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت سے زمانہ مستقبل میں نہ انکار کرنے کا ثبوت دے رہا ہے، چونکہ اس جملہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لانے کے بعد کے عمل زندگی کو بیان کر دیا ہے، اب مرزائی کو ترجمہ قرآنی بدلنے کی جب کوئی گنجائش نہ ملی تو دوسرے مقام کی آیت جس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو قیامت کے متعلق چسپاں کر دی، کہا چونکہ وہ بیان قیامت کے روز کا ہے، لہذا یہ بھی قیامت کے روز کا ہی ہے، لیکن یہ نہ سوچا، کہ اہل علم جب آیت کے آخری جملے فَسَیَحْشُرُہُمْ اِلَیْہِ جَمِیْعًا جزا کو دنیا کے متعلق دیکھ لیگا تو شرط اور متعلقہ شرط کی عبارت ضرور زمانہ استقبال دنیا کا ہی سمجھے گا، تو مرزائی کی علمیت پر مضحکہ اُڑائیگا اور اس آیت کا ماقبل بھی لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ نے دنیا کی ملکیت یکتائی ثابت کر کے یہود کو توحید کا سبق سکھایا ہے اور جو دنیا میں ہی لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَۃٌ کا حکم جاری فرما کر اِنْتَہُوْا سے تثلیثی عقیدہ سے یہود کو منع فرمایا اور پھر لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَۃٌ سے دلیل پیش کی، کہ تم تثلیث

marfat.com

رہینگے، مفتری سب مرٹ جائیں گے۔

"مرزائی"۔ آیت قرآنی لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ میں بے شک حضرت مسیح نے خدا تعالیٰ کا عبد ہونے سے نہ کبھی پہلے انکار کیا اور نہ کبھی خدا کی عبادت کرنے اور کرانے سے قیامت کے دن منکر ہونگے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ تو مسیح اس کے جواب میں کہینگے مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِيْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ غرضیکہ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ والی آیت میں جس عدم انکار از عبادت کا ذکر ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، جیساکہ قرآن مجید نے دوسری جگہ خود اس کا ذکر بالتفصیل کردیا۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب نے استدلال خوب بنایا ہے، مطابق ہو یا نہ ہو، اس سے کیا غرض، آیت کا انکار غرض وکالت ہے۔ آیت قرآنیہ سے جو صحیح سمجھا اس پر ایمان لانا مرزائیہ کی غرض نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ کا معنون قیامت کو ہوگا نہ کہ قرب و قبل قیامت، جیساکہ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ میں یوم قیامت مراد ہے۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ آیت کریمہ کے دو جملے ہیں، سنیئے۔

نساء ۶/۲۲ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ اور دوسرا جملہ ہے وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو بوقت انزال آیت علم تھا کہ مرزائیہ نے اس کو قیامت پر محمول سمجھنا ہے۔ اس واسطے اس نے ساتھ ہی دوسرا جملہ دنیا کا سنا دیا۔ تاکہ پہلے جملے میں کوئی صرف قیامت پر ہی محمول نہ کرلے فرمایا لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ، ہرگز نہ انکار کرینگے مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے سے اور نہ مقرب فرشتے۔ یعنی قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترینگے تو تثلیثیوں کے مقابلہ میں اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرینگے انکار نہ کرینگے اور ساتھ ہی خلاف کرنے والے یعنی تینوں کے مجموعے کو خدا ماننے والوں کو ڈانٹ دیا کہ جو شخص اس کے آسمان سے اترنے

marfat.com

محمد عمر۔ حدیث شریف اذا نزل فیکم ابن مریم میں نزل مجرد از باب ضرب یضرب ہے، جس کے معنی اترنے کے ہیں۔ تم نے ایک مثال بھی اس باب سے پیش نہیں کی، اس لئے تمہارا یہ نقض وارد نہیں ہو سکتا، اس متنازعہ باب کے علاوہ تمہاری پیش کردہ چار آیتوں میں انزال باب افعال ہے اور پانچویں آیت میں تنزیل باب تفعیل ہے، لہذا تمہاری پیش کردہ آیات حجت نہ ہو سکیں، اور تم خود بھی اقرار کر چکے ہو کہ تمہیں نزل میں مغالطہ لگا اور نزل کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے، لہذا تمہیں نزل میں مغالطہ نہیں لگا تم مرزائیت کے کنوئیں میں گر کر اس نزل والی حدیث صحیح کو چھوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن گئے ہو،

اب تمہارے پیش کردہ مصدر پر سوالات کا نمبروار جواب عرض کر دوں۔

جواب (۱) ۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلوا علیکم انزال کا ذکر مفعول اول یعنی قرآن کریم ہے، جس کا انزال آسمان سے ہوا جس کا انکار مرزائی نہیں کر سکتا۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انزال از سماوات معراج جسمانی سے مرزائی کو جواب دے رہا ہے، اور آپ کا روح بھی حتیٰ اعلیٰ علیین میں تھا، جو مرکز مخلوق میں تشریف لا کر جلوہ افروز ہوئے، رسل کے ارواح چونکہ اعلیٰ علیین سے حما تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لئے ان پر لفظ انزال مستعمل ہوتا ہے۔

جواب (۲) وانزل لکم من الانعام ثمنیۃ ازواج ۔ اور اتارے اس نے تمہارے لئے چار پایوں سے آٹھ قسمیں۔

مرزائیہ کا اصول ہے۔ خداوند کے کلام کو الٹ پلٹ کرنا۔ فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ کیا تمہارا مرزائیہ کا خداوند کے کلام پر یقین ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم مرزائیوں پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تمہارا یہ مذہبی شعار ہے، اور اگر ہے تو خداوند پر یقین کر لو کہ واقعی اس نے آٹھ ازواج ضرور نازل فرمائے ہیں، تب ہی تو آیت نازل ہوئی ورنہ معاذ اللہ کذب باری لازم آئیگا اب متقدمین سے مشورہ لیں۔ کہ کیا ان کو بھی یہی سمجھ آئی اور ان کا بھی خداوند کریم پر ایسے ہی ایمان تھا یا نہ؟

marfat.com

کے قائل نہ رہو، کیونکہ جب عیسٰی علیہ السلام آسمان سے اتریںگے تو وہ بھی اپنی عبودیت سے انکار نہ کرینگے، تو اس آیت کریمہ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ کو رب العزۃ نے بیان فرما کر تثلیثیوں کو شرمندہ فرمایا ہے کہ تم ان کو خدا سمجھتے ہو، لیکن جب وہ قرب قیامت تشریف لا دینگے تو وہ بھی اپنی عبودیت کا اقرار کرینگے، تو تمہارے پلے کیا رہے گا، لہٰذا تم ابھی ابھی درست ہو جاؤ، فرمایا فَانْتَهُوْا باز آجاؤ، وکیل صاحب میں بھی تمہیں یہی مشورہ دونگا کہ یہ حکم تمہیں بھی ڈرا رہا ہے کہ فَانْتَهُوْا تم بھی آیاتِ قرآنی کی غلط بیانی سے رُک جاؤ، نہیں حضرت عیسٰی علیہ السلام کی زد میں تم بھی نہ آجاؤ، میں تمہیں دوستانہ مشورہ پیش کر رہا ہوں،

حل سوالات مرزائیہ براحادیث صحیحہ

"مرزائی" - حدیث كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ میں مِنَ السَّمَاءِ کا لفظ تو آیا نہیں. ہاں دو لفظ ہیں، جن سے ہمارے دوستوں کو مغالطہ لگا ہے، ایک نَزَلَ اور ایک ابن مریم نزول کے معنی آسمان سے اُترنا نہیں، دیکھو قرآن میں

(۱) - قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ (طلاق ع ۲)- کیا آپ آسمان سے آئے تھے۔

(۲) - وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

(۳) - وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ - اور ہم نے لوہا نازل فرمایا،

(۴) - وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

(۵) - قَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ لِبَاسًا - (اعراف ع ۳)۔ ہم نے لباس نازل فرمایا۔

marfat.com

خزانے موجود ہیں، کیونکہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہر شے ہے، اِنَّمَآ اَمۡرُہٗۤ اِذَآ اَرَادَ شَیۡئًا اَنۡ یَّقُوۡلَ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ ہ جب کسی چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو فرما دیتے ہیں کُنۡ یعنی ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور دوسرا جواب وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ۔ دنیا کی ہر شئی کی حیات پانی پر موقوف ہے، اور وَ اَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً کے فرمان سے پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو ہر شے کا اصل سماء ثابت ہوا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان خداوند کی کلام پر بلا دلیل ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور ہر چیز کا اصل آسمانوں میں ہے،

"مرزائی"۔ تم نے یہ کتنی بری بات کہدی، کہ ہر چیز کا اصل آسمان میں ہے کیا کفر کا اصل بھی آسمانوں میں ہے۔

"محمد عمر"۔ ہاں واقعی کفر کا معنون اصل ابلیس ہی ہے اور وہ آسمانوں کا باشندہ تھا، بعد میں آسمان سے اُتارا گیا، ایمان کا اصل بھی آسمان ہے جو بعد از سوال انشاء اللہ عرض کرونگا۔

جب پکا ہوا کھانا آسمان سے اُتر سکتا ہے تو اس سے اور زیادہ اشکال آسمان سے اترنے میں کونسا ہوگا، اگر یہ اشکال نہیں رہا تو کیا ہر شئی کا آسمان سے اترنا ممکن ہے۔

جواب (۵)۔ واقعی لباس بھی آسمان سے نازل ہوا، جب جنت میں شیطان نے حضرت آدم کو دھوکا دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

طٰہٰ - ۱۶/۷ | فَوَسۡوَسَ اِلَیۡہِ الشَّیۡطٰنُ قَالَ یٰۤاٰدَمُ ہَلۡ اَدُلُّکَ عَلٰی شَجَرَۃِ الۡخُلۡدِ وَ مُلۡکٍ لَّا یَبۡلٰی فَاَکَلَا مِنۡہَا فَبَدَتۡ لَہُمَا سَوۡاٰتُہُمَا وَطَفِقَا یَخۡصِفٰنِ عَلَیۡہِمَا مِنۡ وَّرَقِ الۡجَنَّۃِ ۔

تو آدم علیہ السلام جنت سے اس حالت میں اتارے گئے کہ محض انجیر کے پتے آپ کے ستر کو ڈھانپتے تھے، اور ساتھ ہی جنت سے کچھ میوہ جات وغیرہم کے بیج اور جنت کے پتے بھی رب العزۃ نے دے دیئے، جو آدم علیہ السلام نے ہند میں آ کر بو دیئے، جس کا حوالہ اصل موجود ہے۔

marfat.com

تفسیر خازن ۶/۵۶

إِنَّ أُصُولَ هٰذِهِ الأَصْنَافِ خُلِقَتْ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ أُنْزِلَتْ إِلَى الأَرْضِ۔

بے شک ان اقسام کی نسلیں جنت میں پیدا کی گئیں، پھر زمین کی طرف اتاری گئیں،

تفسیر کبیر ۷/۲۳۲

إِنَّهُ تَعَالَىٰ خَلَقَهَا فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ أَنْزَلَهَا إِلَى الأَرْضِ وَقَوْلُهُ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالزَّوْجُ اسْمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَعَهُ آخَرُ۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ اقسام کو جنت میں پیدا فرمایا، پھر ان کو زمین کی طرف نازل فرمایا، اور اللہ کا فرمان ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ خواہ مذکر ہو یا مؤنث اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری سے اور زوج ہر ایک پر استعمال ہوتا ہے جس کا ساتھی جوڑا ہو،

جواب (۳) ۔ تمہارا استدلال وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو اتارا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آسمان سے نازل فرمایا۔

طبقات الکبریٰ لابن سعد ۱/۱۲ تاریخ طبری ۱/۸۵

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بَعْدُ الْعَلَاةُ وَالْمِطْرَقَةُ وَالْكَلْبَتَانِ

پھر آدم علیہ السلام پر آسمان سے لوہے کے تین اوزار آتارے گئے، آہرن اور ہتھوڑا اور سنی، حق تو یہ تھا، کہ تم خداوندی کلام پر بلا عذر ایمان لے آتے، تمہارا دماغ تسلیم کرتا یا نہ، لیکن تمہارا دماغ مرزائی ہونکہ قرآن سے منحرف ہے، اس لئے تمہیں، قرآن پر ایمان لانے سے مانع ہے، اب تو حدیث شریف سے جو جو ہتھیار آسمان سے نازل ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہو گئے، اب قرآن اور حدیث سے لوہے کا آسمان سے اترنا ثابت ہو گیا، اب بھی تم اگر انزال من السماء تسلیم نہ کرو تو تمہیں مرزائیت کی مار ہو، اس سے زیادہ یہ کہونگا کہ خداوند تمہیں ہدایت دے۔

جواب (۴) ۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔

مسلمانوں کا تو واقعی اس آیت کریمہ پر ایمان صحیح ہے کہ اللہ کے پاس ہر شے کے

marfat.com

درخت اور دیواروں کو خوشبودار بنا دیا۔

تاریخ طبری ۱/۸۶ اِنَّ مِنَ الثِّمَارِ الَّتِیْ زَوَّدَ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ اٰدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامَ حِیْنَ اُھْبِطَ اِلَی الْاَرْضِ ثَلَاثِیْنَ نَوْعًا عَشَرَۃٌ مِنْھَا فِی الْقُشُوْرِ وَعَشَرَۃٌ لَھَا نَوٰی وَعَشَرَۃٌ لَا قُشُوْرَ لَھَا وَلَا نَوٰی۔

بے شک بعض پھلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اُتارنے کے وقت زادِ راہ عطا فرمائے وہ تیس قسمیں ہیں۔ دس اُن میں سے چھلکوں والے اور دس اُن میں گٹھلیوں والے اور دس ایسے کہ جن میں نہ گٹھلی نہ چھلکا، تو کپاس بھی ان پھلوں سے ہے۔ جنکے باہر چھلکا ہے، لہٰذا لباس کا بھی اُتارا جانا آسمان سے ثابت ہوا، تو یہ ہے۔ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا کا مفصل جواب، اور اگر جواب کو بھی تسلیم نہ کرو، تو جو لباس پتوں کا حضرت آدم علیہ السلام جنّت سے لائے تھے، اُن کے نزول کا تو تم کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے، ہاں البتہ مرزائیت مانع ہو تو ممکن ہے۔

یہ تو ہے تمہاری پیش کردہ پانچ استدلات کا جواب۔ اب نَزَلَ میں جو تم نے مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم سے تو قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، البتہ فقیر پیش کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہر باب کی مثال قرآن کریم سے سنیئے:۔

(نَزَلَ از قرآن شریف)

(۱) بنی اسرائیل	۱۵/۱۱	وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
(۲) شعراء	۱۹/۱۱	نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ
(۳) عنکبوت	۲۱/۴	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
(۴) حدید	۲۷/۲	وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

marfat.com

البدایہ والنہایۃ ۱/۸۰
تاریخ طبری ۱/۸۵

نَزَلَ اٰدَمُ بِالْهِنْدِ وَنَزَلَ مَعَهٗ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ وَبِقَبْضَةٍ مِّنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَبَثَّهٗ فِی الْهِنْدِ فَنَبَتَتْ شَجَرُ الطِّيْبِ هُنَاكَ۔

آدم علیہ السلام ہند میں اُترے اور آپ کے ساتھ حجرِ اسود بھی اُتارا گیا اور ایک مشت جنت کے پتوں کی، تو آدم علیہ السلام نے اُس کو ہند میں بکھیر دیا تو اس جگہ خوشبودار درخت اُگے۔

البدایہ والنہایہ ۱/۸۰
مستدرک ۲/۵۴۴

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حِیْنَ اَهْبَطَ اٰدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَى الْاَرْضِ عَلَّمَهٗ صَنْعَةَ كُلِّ شَیْءٍ وَزَوَّدَهٗ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اُتارا تو آپ کو ہر شے کی صنعت سکھائی، اور جنت کے فروٹ کا زادِ راہ عطا فرمایا۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا، کہ ہر شے کی صنعت بھی سکھائی، چونکہ کپاس وغیرہ کا نزول بھی آسمان سے ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے نمونے پر اس کو کپڑے کی شکل میں تیار کر کے پہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتایا کہ تمہارے لئے میں نے لباس آسمان سے اُتارا۔ اگر کپاس وغیرہ کا بیج آسمان سے نازل نہ ہوتا، تو ہم آج لباس سے محروم رہتے۔ چونکہ لباس کا اصل جنت سے ہے، اس واسطے قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا فرمایا۔

طبقات ابن سعد ۱/۱۰

فَاُهْبِطَ اٰدَمُ عَلٰی جَبَلٍ بِالْهِنْدِ يُقَالُ لَهٗ نَوْذٌ وَاُهْبِطَتْ حَوَّاءُ بِجُدَّةَ فَنَزَلَ اٰدَمُ مَعَهٗ رِيْحُ الْجَنَّةِ فَعَلِقَ بِشَجَرِهَا وَاَوْدِيَتِهَا

آدم علیہ السلام ہند کے جبل نود پر اُتارے گئے اور حوا علیہا السلام جدہ میں اُتاری گئیں۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کی خوشبو اتری تو اس نے ہند کے

marfat.com

(نُزِّلَ)

(۱۸)۔ انعام	۷/۴	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
(۱۹)۔ حجر	۱۴/۱	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ
(۲۰)۔ فرقان	۱۹/۳	وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
(۲۱)۔ زخرف	۲۵/۳	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔
(۲۲)۔ محمد	۲۶/۱	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم)

(نُزِّلَتْ)

(۲۳) محمد	۲۶/۳	لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ

(نَزَّلَهٗ)

(۲۴)۔ بقرہ	۱/۱۲	فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(۲۵)۔ نحل	۱۴/۱۴	قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

(يُنَزِّلُ)

(۲۶)۔ بقرہ	۱/۱۱	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔
(۲۷)۔ آل عمران	۴/۱۶	بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔

marfat.com

(یُنَزِّلُ)

(۵)	سباء	۲۲/۱	وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
(۶)	حدید	۲۷/۲	وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

(نَزَّلَ)

(۷)	بقرہ	۲/۲۱	ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
(۸)	آل عمران	۳/۱	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
(۹)	نساء	۵/۲۰	وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِهٖ
(۱۰)	اعراف	۹/۸	مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ
(۱۱)	اعراف	۹/۱۴	إِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ
(۱۲)	فرقان	۱۸/۱	تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ
(۱۳)	عنکبوت	۲۱/۶	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
(۱۴)	زمر	۲۳/۳	اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
(۱۵)	زخرف	۲۵/۱	وَاللّٰهُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
(۱۶)	محمد	۲۶/۳	ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
(۱۷)	ملک	۲۹/۱	قَالُوا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

marfat.com

(۴۳) روم	۲۱/۵	وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ

(نَزَّلْنَا)

(۴۴) بقرہ	۱/۳	وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا۔
(۴۵) نساء	۵/۷	اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ۔
(۴۶) انعام	۷/۱	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ۔
(۴۷) انعام	۸/۱	وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ
(۴۸) حجر	۱۴/۱	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
(۴۹) نحل	۱۴/۱۲	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
(۵۰) بنی اسرائیل	۱۵/۱۱	لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا
(۵۱) بنی اسرائیل	۱۵/۱۲	وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا۔
(۵۲) طٰہٰ	۱۶/۴	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى۔
(۵۳) شعراء	۱۹/۱۱	وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ۔
(۵۴) ق	۲۶/۱	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا۔
(۵۵) دھر	۲۹/۲	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا

(۵۶) بقرہ	۱/۱۱	اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

marfat.com

(۲۸)۔ مائدہ	۷/۱۵	هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
(۲۹)۔ انعام	۷/۱۴	قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً
(۳۰)۔ انعام	۷/۹	أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔
(۳۱)۔ اعراف	۸/۴	وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔
(۳۲)۔ انفال	۹/۲	وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
(۳۳)۔ نحل	۱۴/۱	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔
(۳۴)۔ نحل	۱۴/۱۴	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
(۳۵)۔ حج	۱۷/۹	وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
(۳۶)۔ نور	۱۸/۶	وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
(۳۸)۔ لقمان	۲۱/۴	وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
(۳۹)۔ مومن	۲۴/۲	وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔
(۴۰)۔ شوریٰ	۲۵/۳	وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔

(يُنَزِّلُ)

(۴۱)۔ بقرہ	۱/۱۳	مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔
(۴۲)۔ مائدہ	۷/۴	وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔

marfat.com

(۷۴) انعام	۷/۱۴	وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
(۷۵) انعام	۷/۱۷	اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ۔
(۷۶) "	۷/۱۸	وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔
(۷۷) "	۸/۱۴	وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا۔
(۷۸) توبہ	۱۰/۴	ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهٗ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَعَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا۔
(۷۹) توبہ	۱۰/۶	فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهٗ عَلَیْهِ۔
(۸۰) توبہ	۱۱/۱۲	وَاَجْدَرُ اَلَّا یَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ۔
(۸۱) یونس	۱۱/۶	قُلْ اَرَءَیْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ۔
(۸۲) یوسف	۱۲/۵	مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ۔
(۸۳) رعد	۱۳/۲	اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔
(۸۴) ابراہیم	۱۳/۵	وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔
(۸۵) نحل	۱۴/۲	وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔
(۸۶) نحل	۱۴/۳	وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ مَّا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ۔
(۸۷) نحل	۱۴/۴	وَقِیْلَ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا مَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ۔

(۵۸) بقرہ	۲/۲۰	وما اَنزلَ اللہُ من السَّماءِ من مَّاءٍ
(۵۹) بقرہ	۲/۵	واذا قیل لہم اتَّبِعوا ما اَنزلَ اللہُ
(۶۰) بقرہ	۲/۲۶	واَنزلَ معہم الکتاب بالحق۔
(۶۱) بقرہ	۲/۲۹	وما اَنزلَ علیکم من الکتاب والحکمۃ۔
(۶۲) آل عمران	۳/۱	واَنزلَ التوراۃ والانجیل من قبل ھدًی للنّاس واَنزلَ الفرقان۔
(۶۳) آل عمران	۳/۱	ھو الذی اَنزلَ علیک الکتاب۔
(۶۴) آل عمران	۴/۱۴	ثمّ اَنزلَ علیکم من بعد الغمّ امنۃً۔
(۶۵) نساء	۵/۹	واذا قیل لہم تعالوا الٰی ما اَنزلَ اللہُ۔
(۶۶) نساء	۵/۱۷	واَنزلَ اللہُ علیک الکتاب۔
(۶۷) نساء	۵/۲۰	والکتاب الذی اُنزِلَ من قبل۔
(۶۸) نساء	۶/۲۳	لٰکن اللہُ یشھد بما اُنزِلَ الیک اَنزلہ بعلمہ
(۶۹) مائدہ	۶/۷	ومن لم یحکم بما اَنزلَ اللہُ فاولٰئک ھم الکافرون
(۷۰)	" "	ومن لم یحکم بما اَنزلَ اللہُ فاولٰئک ھم الظّالمون
(۷۱)	" "	ومن لم یحکم بما اَنزلَ اللہُ فاولٰئک ھم الفاسقون
(۷۲)	" "	فاحکم بینھم بما اَنزلَ اللہُ۔
(۷۳)	" "	واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما اَنزلَ اللہُ الیک

(۱۰۳) فتح	۲۶/۳	فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۔
(۱۰۴) نجم	۲۷/۱	مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۔
(۱۰۵) طلاق	۲۸/۲	قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۔

اُنْزِلَتْ

(۱۰۶) آل عمران	۳/۷	وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ مِنْ بَعْدِهٖ ۔
(۱۰۷) توبہ	۱۰/۱۱	وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ ۔
(۱۰۸)	۱۱/۱۴	وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۔
(۱۰۹) قصص	۲۰/۹	وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ ۔

اَنْزَلْتُمُوْهُ

(۱۱۰) واقعہ	۲۷/۲	ءَاَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۔

اَنْزَلَهٗ

(۱۱۱) نساء	۶/۳	اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۔
(۱۱۲) فرقان	۱۸/۱	قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
(۱۱۳) طلاق	۲۸/۲	ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۔

(۸۸) نحل	۱۴/۸	وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۸۹) بنی اسرائیل	۱۵/۱۲	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔
(۹۰) کہف	۱۵/۱	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۔
(۹۱) طٰہٰ	۱۶/۲	وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۹۲) حج	۱۷/۸	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۹۳) مومنون	۱۸/۲	وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۔
(۹۴) نحل	۲۰/۱	وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۹۵) لقمان	۲۱/۳	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۔
(۹۶) فاطر	۲۲/۴	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۹۷) زمر	۲۳/۲	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۔
(۹۸) سجدہ	۲۴/۶	قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۔
(۹۹) شوریٰ	۲۵/۲	وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۔
(۱۰۰) شوریٰ	۲۵/۲	اَللّٰهُ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۔
(۱۰۱) جاثیہ	۲۵/۲	وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ ۔
(۱۰۲) فتح	۲۶/۱	هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

marfat.com

(۱۲۹) حجر	۱۴/۲	فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً۔
(۱۳۰) حجر	۱۴/۶	كَمَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَى الۡمُقۡتَسِمِيۡنَ۔
(۱۳۱) نحل	۱۴/۶	وَاَنۡزَلۡنَآ اِلَيۡكَ الذِّكۡرَ۔
(۱۳۲) نحل	۱۴/۸	وَمَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخۡتَلَفُوۡا فِيۡهِ۔
(۱۳۳) بنی اسرائیل	۱۵/۱۲	وَبِالۡحَقِّ اَنۡزَلۡنٰهُ
(۱۳۴) کہف	۱۵/۶	وَاضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا كَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
(۱۳۵) طٰہٰ	۱۶/۱	وَمَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى۔
(۱۳۶) طٰہٰ	۱۶/۶	وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا۔
(۱۳۷) انبیاء	۱۷/۱	لَقَدۡ اَنۡزَلۡنَآ اِلَيۡكُمۡ كِتٰبًا فِيۡهِ ذِكۡرُكُمۡ۔
(۱۳۸) انبیاء	۱۷/۴	وَهٰذَا ذِكۡرٌ مُّبٰرَكٌ اَنۡزَلۡنٰهُ۔
(۱۳۹) حج	۱۷/۱	فَاِذَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡهَا الۡمَآءَ اهۡتَزَّتۡ
(۱۴۰) حج	۱۷/۲	وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ۔
(۱۴۱) مومنون	۱۸/۱	وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ۔
(۱۴۲) نور	۱۸/۱	سُوۡرَةٌ اَنۡزَلۡنٰهَا وَفَرَضۡنٰهَا
(۱۴۳) نور	۱۸/۱	وَاَنۡزَلۡنَا فِيۡهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ

marfat.com

اَنْزَلْنَا

(۱۱۴)	بقرہ	۱/۶	فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ ۔
(۱۱۵)	بقرہ	۱/۱۲	وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۔
(۱۱۶)	بقرہ	۲/۱۹	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ ۔
(۱۱۷)	نساء	۵/۱۶	اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۔
(۱۱۸)	نساء	۶/۲۴	وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۔
(۱۱۹)	مائدہ	۶/۶	اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ ۔
(۱۲۰)	مائدہ	۶/۶	وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۔
(۱۲۱)	انعام	۷/۱	وَ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ۔
(۱۲۲)	اعراف	۸/۷	فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ
(۱۲۳)	اعراف	۹/۲۰	وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۔
(۱۲۴)	انفال	۱۰/۵	وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ
(۱۲۵)	یونس	۱۱/۱۰	فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۔
(۱۲۶)	یوسف	۱۲/۱	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا ۔
(۱۲۷)	رعد	۱۳/۶	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۔
(۱۲۸)	ابراہیم	۱۳/۱	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

marfat.com

(۱۵۹) قدر ۳۰/۱ | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔

أُنْزِلَ

(۱۶۰) بقرہ ۱/۱ | وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔

(۱۶۱) بقرہ ۱/۱۲ | وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

(۱۶۲) بقرہ ۱/۱۵ | قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

(۱۶۳) بقرہ ۳/۴۰ | آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔

(۱۶۴) آل عمران ۳/۸ | وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

(۱۶۵) آل عمران ۳/۷ | يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ۔

(۱۶۶) آل عمران ۳/۹ | قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔

(۱۶۷) آل عمران ۴/۲۰ | وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ۔

marfat.com

(۱۴۴) نور	۱۸/۴	وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ۔
(۱۴۵) نور	۱۸/۶	لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ۔
(۱۴۶) فرقان	۱۹/۵	وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً طَهُوْرًا۔
(۱۴۷) عنکبوت	۲۱/۱	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ۔
(۱۴۸) رُوم	۲۱/۴	اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ۔
(۱۴۹) لقمان	۲۱/۱	وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً۔
(۱۵۰) یٰسین	۲۳/۲	وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰي قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ۔
(۱۵۱) ص	۲۳/۳	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ۔
(۱۵۲) زمر	۲۳/۱	اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ۔
(۱۵۳) زمر	۲۴/۴	اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ۔
(۱۵۴) دُخان	۲۵/۱	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ۔
(۱۵۵) مجادلہ	۲۸/۱	وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ۔
(۱۵۶) حشر	۲۸/۳	لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ۔
(۱۵۷) تغابن	۲۸/۱	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا۔
(۱۵۸) نبأ	۳۰/۱	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاۗءً ثَجَّاجًا۔

marfat.com

(۱۸۱) یونس	۱۱/۲	وَیَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۔
(۱۸۲) ہُود	۱۲/۲	لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْهِ كَنْزٌ ۔
(۱۸۳) ہُود	۲/۱۲	فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ ۔
(۱۸۴) رعد	۱۳/۱	وَیَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۔
(۱۸۵) رعد	۱۳/۳	اَفَمَنْ یَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۔
(۱۸۶) رعد	۱۳/۱۰	وَیَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۔
(۱۸۷) رعد	۱۳/۵	وَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ ۔
(۱۸۸) فرقان	۱۹/۳	وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ ۔
(۱۸۹) عنکبوت	۲۱/۵	وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ ۔
(۱۹۰) سبا	۲۲/۱۱	وَیَرَى الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۔
(۱۹۱) ص	۲۳/۱	ءَاُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَیْنِنَا ۔

(۱۶۸) نساء	۵/۹	اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۔
(۱۶۹) نساء	۶/۲۳	لٰكِنِ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ ۔
(۱۷۰) مائده	۶/۹	وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۔
(۱۷۱) مائده	۶/۱۰	وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَیَزِیْدَنَّ كَثِیْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْیَانًا وَّكُفْرًا ۔
(۱۷۲) مائده	۶/۱۷	وَلَوْ كَانُوْا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِیِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِیَآءَ ۔
(۱۷۳) مائده	۷/۱۱	وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰٓی اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ ۔
(۱۷۴) انعام	۷/۱	وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ ۔
(۱۷۵) انعام	۷/۲۰	قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰی ۔
(۱۷۶) انعام	۷/۲۰	وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۔
(۱۷۷) انعام	۸/۸	اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰی طَآئِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۔
(۱۷۸) انعام	۸/۸	لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰی مِنْهُمْ ۔
(۱۷۹) اعراف	۸/۹	كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَیْكَ ۔
(۱۸۰) اعراف	۹/۱۹	وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗ ۔

marfat.com

بریں عقل و دانش بباید گریست

نوٹ:- بیہقی اور ان عیسٰی لمیمت کا جواب ذکر احادیث سے ملاحظہ ہو۔

"مرزائی" ۔ یہ جو تم یُدْفَنُ مَعِیَ فِی قَبْرِیْ حدیث بیان کرتے ہو، اگر اس کو صحیح مانا جاوے تو کون سیدُ الفطرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اُکھاڑے گا اور عیسٰی علیہ السلام کو آپ کے ساتھ دفن کریگا۔

"محمد عمر" ۔ معلوم ہؤا، کہ فرمان مُصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم یُدْفَنُ مَعِیَ فِی قَبْرِیْ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کئے جائیں گے، صحیح ہے، اس پر وکیل صاحب کو کوئی جرح قدح کی گنجائش نہیں رہی معلوم ہؤا کہ، حدیث شریف تو صحیح ہے، البتہ فرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کیا گیا ہے، کہ کیا آپ کی قبر کو اُکھاڑ کر ساتھ دفن کیا جائیگا، مرزائی صاحب کے اس کلام سے ظاہر ہؤا، کہ جو کلام مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم مرزائی صاحب کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو استہزاء سے اُڑاتے ہیں، اور غلط ہونے کا فتوٰی صادر فرماتے ہیں، میرے خیال میں تمہیں مومن و مسلمان کہلانے سے عار ہونی چاہیئے، بلکہ آریہ یا عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہیئے، کیونکہ کلام مُصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا وطیرہ ان کا کام ہے۔ اب تم سوچو، کہ تم کون ہو، جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے کلام باطلہ کو ہیر پھیر کرکے قرآن اور حدیث سے زیادہ معتبر سمجھتے ہو اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور قرآنی آیات کو کتنی مخالفانہ روش سے ٹھکرا رہے ہو، اس انصاف کو تمہاری مرزائیت پر ہی چھوڑتا ہوں، میرے دوست وکیل صاحب کی نظر دُور کی کمزور ہے، اس واسطے حدیث شریف کے پہلے الفاظ آپ کو نظر آجاتے ہیں، لیکن آخری جملہ دیکھنے سے بیچارے عاری ہیں، وکیل صاحب کو کمزوری نظر سے معذور سمجھونگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث یوں ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَنْزِلُ عِیْسٰی ابن مریم اِلَی الْاَرْضِ فَیَتَزَوَّجُ وَیُوْلَدُ لَہٗ وَیَمْکُثُ خَمْسًا

(۱۹۲) زمر ۲۴/۶ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔
ان تمام ۱۹۲ آیات میں نزول کے معنی اترنے کے ہیں۔

"مرزائی" - کنز العمال کی حدیث (جلد ۷، صفحہ ۱۸۰) لَتَنْزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ۔
میری امت کا ایک گروہ ایک ایسی زمین میں اتریگا، جس کو بصرہ کہا جاتا ہے،

امتِ محمدیہ کے نزول کا جواب

سُبْحَانَ اللهِ! وکیل صاحب کی شاید دور کی نظر کمزور ہے، اس لئے نزدیک نزدیک ملاحظہ فرلیتے ہیں، دور نظر نہیں آتا، کیونکہ اس حدیث کے آخیر میں لکھا ہے، (وَسَنَدُهُ لَيِّنٌ) اور اس حدیث کی سند نرم ہے۔
لہذا یہ حجت نہ ہوئی، کوئی مرفوع اور صحیح حدیث تو حجت میں پیش کرتے،
"مرزائی" - دجال کے لئے بھی نزول کا لفظ آیا ہے، لہذا لفظ نزول سے دھوکہ نہ کھانا چاہیئے، کہ حضور حضرت مسیح آسمان سے آدیں،
یاتی المسیح من قبل المشرق وھمته المدینة حتی ینزل دبر احد -
اور بخاری میں ہے، ینزل بعض السباخ دجال مدینہ کی زمین شور میں اتریگا، موجود ہے۔
"محمد عمر" - وکیل صاحب نے ایک لفظ اترنے کو لے لیا، یہ نہ دیکھا کہ نزول کا تعلق کس سے ہے؟ اور کہاں سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، کہ بعد میں مرزائی اس عبارت کو بگاڑنے کی کوشش کرینگے، اس لئے آپ نے پہلے يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے آدیگا، شاید اصطلاح مرزائیت میں لفظ مِنْ قِبَلِ مَشْرِق سماء پر بھی مستعمل ہو،
دوسری ایک اور عرض ہے، وکیل صاحب ماشاء اللہ ایسے ذکی الطبع ہیں، کہ گھوڑے سے اترنے، آسمان سے اترنے اور پہاڑ سے اترنے کو یکساں شمار کرتے ہیں۔

marfat.com

حضرت عیسٰی علیہ السلام تشریف لائے ہی نہیں، اب مدعی کا دعوٰی باطل ہے اور جب تشریف لائیں گے تو انشاء اللہ العزیز مطابق فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفنین عیسوی روضۂ اطہر میں آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔

اب قابل غور امر یہ ہے، کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں یا ایک طرف: تو بین امر ہے۔ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں اور صاحبین رضی اللہ تعالٰی عنہما ایک طرف، تو ثابت ہوا، کہ مابین ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما اور مابین قبر مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام خالی ہے وہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے لئے خالی ہے، جس مقام کو اتصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اتصال صاحبینؓ بھی حاصل ہے، اور تاویل مرزائیہ غلط ثابت ہوئی۔

(و)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں اور عیسٰی علیہ السلام اکٹھے اُٹھائے جاوینگے، یہ بھی حیات عیسٰی علیہ السلام کو ثابت کر رہا ہے۔ جو ذی شعور سے مخفی نہیں، پاس دفن ہونا اور قیامت کو اکٹھا اُٹھایا جانا یہ مرزائی شکن دلیلیں ہیں، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔

"مرزائی"۔ اس حدیث کے ظاہری معنٰی لینے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کا خواب رد کرتا ہے، کہ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا، کہ تین چاند میرے حجرے میں گرے ہیں، تو میں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضؓ سے بیان کیا، پس جب آنحضرتؐ فوت ہوئے اور حضرت عائشہؓ کے حجرے میں مدفون ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے کہا، کہ یہ تیرے تین چاندوں میں سے ایک ہے، جو سب سے بہتر ہے، آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ فوت ہوئے اور اسی حجرہ میں مدفون ہوئے گویا حضرت عائشہ کے خواب کے مطابق تین چاند حجرہ میں گر چکے، اب اگر حضرت عیسٰی بھی مدفون ہوں، تو حضرت عائشہ کا خواب غلط ہوتا ہے۔

"محمد عمر"۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔

marfat.com

اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً ثُمَّ یَمُوْتُ فَیُدْفَنُ فِیْ قَبْرِیْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ فِیْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ بَیْنَ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ۔

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُتریں گے عیسیٰ بن مریم زمین کی طرف، پھر نکاح کرینگے، اور آپ کی اولاد ہوگی۔ اور زمین میں ۴۵ سال قیام فرمادینگے، پھر فوت ہوئیں گے، پھر میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہونگے، میں اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام دونوں ایک مقبرے سے کھڑے ہونگے، اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان ہونگے۔

اس حدیث پاک سے پانچ امور کو مختصراً خاص طور پر عرض کرتا ہوں۔

(۱)۔ فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول الی الارض کو بیان فرمانا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السّماء کو صراحتہً ثابت کرتا ہے، کیونکہ زمین کے مقابلہ میں آسمان ہی ہے، قرآن کریم میں زمین کے مقابلہ میں تقابل سماوی ہی مذکور ہے، اگر کوئی شخص ارضی وسماوی تقابل کو تسلیم نہ کرے تو منکر قرآن ہے، تو اس جملہ اِلی الارض نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السّماء الی الارض کو ثابت کردیا۔

(۲)۔ آپ کا فرمان کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لاکر نکاح کرینگے اور ان کی اولاد ہوگی، اور پینتالیس (۴۵) سال زمین پر قیام فرما دینگے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السّماء جسمانی کو ثابت کر رہا ہے، نزول عیسوی کو محض روحانی خیال کرنا قرآن اور حدیث کو پس پُشت ڈالنا ہے۔

(۳)۔ فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ یَمُوْتُ پھر مرینگے (یعنی بعد از نزول من السماء الی الارض) یہ حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی بیّن دلیل ہے۔

(۴)۔ نُیدْفَنُ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کو قبل از وقت بیان کر کے جعلی اور اصلی عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی تفریق کو واضح کر دیا، کیونکہ معیت نبوی باطل کو نہیں ہو سکتی، اور بفرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آج تک ایسے نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ ابھی

marfat.com

"مرزائی" ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَنَا اَوَّلُ مَنْ یَنْشَقُّ عَنْہُ ۔ میری خصوصیت یہ ہے، کہ میں پہلا انسان ہونگا، جس کی قبر قیامت کے دن پھاڑی جاویگی، اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی قبر میں ساتھ ہی مدفون ہوں، تو جس وقت آنحضرتؐ کی قبر پھاڑی جاوے گی، تو وہ بھی اس خصوصیت میں شامل ہو جاوینگے،

"محمد عمر" ۔ اس پیش کردہ حدیث شریف نے تمہارے سابقہ اعتراض یُدْفَنُ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ کے استدلال کا بھی صاف رد کر دیا، کہ اس کے معنی بھی مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ کے فِیْ مَقْبَرَتِیْ ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مقبرے میں آپ کے پاس ہونگے، کیونکہ اس حدیث سے واضح ہے کہ پہلے میری قبر پھاڑی جائے گی اور میں قبر سے اٹھونگا اور جیسا کہ خود مشاہدہ شاہد ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جگہ خالی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ استدلال بھی غلط ثابت ہو گیا، اور یہ تمہارے دماغ کا مغالطہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھئے، کہ اگر ایک گھر سے ایک آدمی فوت ہو جائے۔ اور اس کو دفن کیا جائے، تو کوئی مرزائی کہدے کہ اور کوئی گھر میں ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو وہ ساتھ کیوں نہیں فوت ہوا، اور قبر میں ساتھ کیوں نہیں گیا تو عقلمند لوگ کہینگے، کہ یہ عجیب بیوقوف ہے، کہ جس کو موت کا حکم ہوا، اُس نے ہی مرنا تھا، اس کے ساتھ تمام کو مدفون ہونے کا حکم لگانا یہ عقل انسانی سے بعید ہے ایسے ہی بروز محشر جس کو پہلے ارشاد الٰہی ہوگا، وہ ہی اُٹھ سکتا ہے، دوسرا پاس ہی پڑا، ہے تو بغیر حکم کیسے اُٹھ سکے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ سب سے پہلے میری قبر پھاڑی جائے گی، اور پہلے میں ہی قبر سے اُٹھونگا، تو دوسرا بغیر حکم الٰہی کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور اُٹھ سکتا ہے، مرزائی صاحب تو ہر جگہ اپنے مطابق ہی حکم لگاتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب کی نبوت جب بغیر حکم ہے تو شاید قبور سے بھی کوئی بغیر حکم اُٹھ سکیگا، بھائی ہمارا تو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہی ہے، چونکہ آپ کو ہی پہلے حکم ہوگا، اسواسطے آپ ہی سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اُٹھائے جائیں گے، نہ کوئی دوسرا اور دوسرے کے نہ اُٹھائے جانے

marfat.com

(۱)۔ پہلا یہ کہ اس خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالےٰ عنہا نے کوئی کلمہ حصر نہیں فرمایا، اگر تم حصر مُراد لو، تو یہ تمہاری زیادتی سمجھی جائے گی۔

(۲)۔ دوسرا جواب یہ ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رَاَیْتُ ثَلَاثَۃَ اَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِیْ حُجْرَتِیْ میں نے دیکھا کہ تین چاند میرے حجرے میں گرے ہیں، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہے، کہ آپ کی رویت میں آپ کے سامنے چونکہ تینوں کا وصال ہو کر آپ کے حجرہ شریفہ میں داخل ہونا تھا، اس لئے آپ نے اپنی رویت کا واقعہ خواب بیان فرمایا، نہ کہ اپنے حجرہ کا کل حصر جو تم نے سمجھا ہے، آپ کا اپنی رویت کو مقدم کرنا آپ کی رویت کے لوازمات کا ہی مبین ہے، اگر اپنے کلام میں آپ حجرے کو مقدم فرماتیں، تو بھی تمہارے مطلب کو گنجائش ہوتی، اب تو تمہارے ہی اس پیش کردہ خواب سے حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام ثابت ہو گئی، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالےٰ عنہا کے زمانۂ رویت میں اِن تینوں کا ہی وصال ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے زمانۂ رویت میں وصال ہونا ہی نہ تھا، بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق قرب قیامت ہونا تھا، تو آپ کو اُن کی رویت نہ حاصل نہ اُن کی موت، تو ان کو اپنی رویت میں گرے ہوئے کیسے دیکھتیں، جنہوں نے آپ کے سامنے گرنا تھا، اُن کی خواب آئی، اور یہ خواب حیاتِ مسیح علیہ السلام کو ثابت کر رہی ہے۔ اور سچی ہے، اور حدیث متنازعہ فیہ کے خلاف بھی نہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں رویت کا انحصار ہے نہ حجرے کا،

اور سنیئے! یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اِنِّیْ رَاَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَیْتُھُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ ہ حالانکہ آپ کی حکومت تمام اہلِ مصر و متعلقیہم پر بھی تھی، تو یوسف علیہ السلام کا اُن کو خواب میں نہ دیکھنا یا نہ بیان کرنا یہ باقی کی نفی نہیں کرتا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ذکر نہ کرنا اُن کے وہاں مدفون ہونے کے منافی نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔

marfat.com

کرتا رہا ہے، ایسے ہی شاید سچے انبیاء کرام کا حال بھی ہو، وکیل صاحب نے نہ کسی سچے نبی کی اطاعت کی، اور نہ اُن کو کلام صادقین کا علم، وکیل صاحب بیچارے کیا جانیں کہ کلام انبیاء علیہم السلام کی قدر خداوند کریم کے نزدیک کیا ہے، حالانکہ فقیر چیلنج کرتا ہے، کہ اگر کسی مرزائی کو ہمت ہے تو انعام حاصل کرے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سے ایک کا ہی واقعہ دکھا دے، کہ کسی نبی علیہ السلام نے کسی موت ہا و یہ کا چیلنج دیا ہو اور پورا نہ ہؤا ہو، آیئے فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔

ابوداؤد ۲/۸ قال انس قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ھذا مَصۡرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَ وَضَعَ یَدَہٗ عَلَی الۡاَرۡضِ وَ ھٰذَا مَصۡرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَ وَضَعَ یَدَہٗ عَلَی الۡاَرۡضِ وَ ھٰذَا مَصۡرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَ وَضَعَ یَدَہٗ عَلَی الۡاَرۡضِ فَقَالَ وَ الَّذِیۡ نَفۡسِیۡ بِیَدِہٖ مَاجَاوَزَ اَحَدٌ مِنۡهُمۡ عَنۡ مَوۡضِعِ یَدِ رَسُوۡلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِهِمۡ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ فَاُخِذَ بِاَرۡجُلِهِمۡ فَسُحِبُوۡا فَاُلۡقُوۡا فِیۡ قَلِیۡبِ بَدۡرٍ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے، اور اپنا دست پاک زمین پر رکھا، اور کل یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنا دست پاک زمین پر رکھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کی مقررہ جگہ سے کسی ایک نے بھی تجاوز نہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو شروع کیا۔ تو انکے پاؤں سے گھسیٹ کر قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔

کیوں جناب! یہ ہے ہمارے آقائے دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کے کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن بخوف طوالت نمونہ ایک ہی عرض کرتا ہوں، جب پہلے جیسا آپنے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہؤا، تو آئندہ بھی انشاء اللہ مطابق فرمان ہو کر ہی رہے گا، آپنے فرمایا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام

marfat.com

سے دوسرے کہ عدم مدفون کا فتوای دینا یہ قدنیات سے ہے نہ ایمانیات سے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپؐ کے بعد روضۂ اطہر سے اٹھائے جائیں گے۔

"مرزائی"۔ ترمذی میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں پہلا انسان ہوں کہ جس کی قبر پھاڑی جائے گی، پھر میرے بعد ابوبکرا ور اس کے بعد عمر اس کے بعد جنت البقیع کے باقی مومن۔ اگر بقول شما حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے مقبرے میں ہوتے تو کم از کم تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہی ان کا ذکر آجاتا، جب نہیں، تو ثابت ہؤا، کہ وہاں حضرت مسیح کے دفن ہونے کی کوئی صورت نہیں،

"محمد عمر"۔ ترمذی شریف میں خود ترمذی نے اسی حدیث کے اختتام پر لکھا ہے وعاصم بن عمرؒ العمری لیس عندی بالحافظ عند اھل الحدیث۔ یعنی تمہاری پیش کردہ اس حدیث مذکورہ بالا میں عاصم بن عمر العمری ہے جو تمام محدثین کے نزدیک حافظ الحدیث نہیں، جس سے وکیل صاحب نے چشم پوشی سے کام لیا، لہٰذا وکیل صاحب کا آخری جملے سے اغماض، اور اس حدیث موضوع کو صحیح حدیث کے مقابلہ میں پیش کرنا وکیل صاحب کی کمزور نظری کے باعث وکیل صاحب کو معذور سمجھو ںگا، ملاحظہ ہو ترمذی شریف مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

"مرزائی"۔ ایک حدیث میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیسرے دن قبر میں نہ ہونگا، تو مسیح کا مصداق صحیح نہ ہؤا،

"محمد عمر"۔ یہ مرزائیات سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں،

"مرزائی"۔ تم لوگ ایک حدیث کو پیش کرتے ہو: مَا تُوُفِّیَ اللّٰہُ نَبِیًّا اِلَّا دُفِنَ حَیْثُ یُقْبَضُ۔ نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو آب اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آجائیں، تو کیا وہ آنحضرتؐ کی قبر مبارک کے اندر جا کر فوت ہونگے،

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب اپنے مرزا صاحب پر ہر ایک کو قیاس کر لیتے ہیں، کہ جیسا کہ مرزا صاحب کسی کو موت ہا دیہ کا چیلنج دیں تو خدا مدد ضرور ان کے خلاف

marfat.com

اس بات کو تم بہت جلد بھول گئے، اور اب خود ہی اقرار کر لیا کہ حدیث شریف صحیح میں یُدفَنُ مَعِیَ فِی قَبرِی کے آگے اُن کے اُٹھنے کا ذکر بھی آیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر سے اُٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان سے، تو ثابت ہؤا، کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھائے جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور پھر وکیل صاحب نے عبارت کے مطلب بیان کرنے میں بڑا ہیرا پھیری سے کام لیا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی جگہ ہی نہیں، وکیل صاحب جناب کی سمجھ میں فرق آگیا، اگر عبارت سمجھ میں نہ آئے تو بیان ہی نہیں کرنی چاہیئے، تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں،

بھلا یہ تو فرمائیے، کہ اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جگہ خالی چاہتے ہو، تو یُدفَنُ مَعِیَ کے کیا معنی کرو گے، مَعِیَ کا مصداق تب ہی ہوگا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جانب ہوں، چنانچہ جگہ بھی ایسے ہی خالی ہے، جس کی زیارت تمہیں نصیب نہیں، تو بمطابق سیاق وسباق و مشاہدہ فَیُدفَنُ مَعِیَ فِی قَبرِی کے معنی ہونگے، کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ دفن کئے جائیں گے، میری قبر کے متصل، اگر فی کے معنی قرب کے نہ لئے جاوینگے، تو مَعِیَ کا لفظ غلط ثابت ہوگا، مَعِیَ کے لفظ سے صاف واضح ہو رہا ہے، کہ معیت کی شرح فِی قَبرِی سے اِتِّصَال قَبرِی ثابت ہے، اور قرآن کریم سے اس کی مثال پیش کرتا ہوں، سنیئے۔

(۱) نحل ۱۹/۲ | وَ اَدخِلنِی بِرَحمَتِكَ فِی عِبَادِكَ الصّٰلِحِینَ۝ اور داخل فرما تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں،

اب وکیل صاحب سے گذارش کرتا ہوں، کہ ذرا یہ تو فرمائیے کہ فی عِبَادِكَ

marfat.com

باب لُدّ میں قتل کرینگے تو انشاء اللہ العزیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بفرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت آسمان سے تشریف لائینگے تو دجال کو ضرور بابِ لُدّ میں ہی قتل کرینگے۔ اور اسلام کا شاہی اصول ہے۔ کہ جو بادشاہ اسلامی مدینہ طیبہ پر فتحیاب ہوتا ہے، تو وہ مجاورین سے روضۂ اطہر کی کنجیاں لیکر اندر جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مُلک کو فتح کرتے ہوئے دجال کو باب لُدّ میں قتل کر کے مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو شاہانہ اصول کے مطابق روضۂ اطہر کی حاضری کے لئے اندر تشریف لے جائیں گے، تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ویقین کامل ہے، کہ آپ کے فرمان کو سچا کرنے کے لئے خداوند کریم ان کو اندر ہی فوت کرینگے اور جو آپ کے روضۂ اطہر میں آپکے اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جگہ خالی موجود ہے، جو زائرین جالی پاک کے نشانات سے دیکھ کر آتے ہیں، اور سلف وخلف نے بھی آپ کے مزارات کے نقشہ کو بیر کرتے ہوئے مابین جگہ خالی دکھائی ہے وہیں اس میں مدفون ہو نگے۔ یعنی ہر صورت فرمانِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انشاء اللہ پورا ہو کر ہی رہے گا، اور اب تمہیں مرزا صاحب کو اس ترازو پر رکھنا چاہیئے، کہ برابر اُترے ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو پھر کیوں فافہم۔

"مرزائی"۔ اسی حدیث یُدۡفَنُ مَعِیَ فِیۡ قَبۡرِیۡ میں آگے فَاَقُوۡمُ اَنَا وَعِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ فِیۡ قَبۡرٍ وَّاحِدٍ بَیۡنَ اَبِیۡ بَکۡرٍ وَّعُمَرَ موجود ہے جس کے معنی یہ ہیں، کہ پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر میں جو ابوبکرؓ اور عمرؓ کی قبروں کے درمیان ہونی چاہیئے اور ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ کی قبروں کے درمیان کوئی جگہ موجود نہیں،

"محمد عمر"۔ کیوں جناب وکیل صاحب لوگوں کا کہنا سچا ہے یا نہ؟ کہ دروغ گو را حافظ نباشد، تم نے ع۳ میں ایک موضوع حدیث پیش کی تھی، کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی جائیگی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر ساتھ ہی تم نے اعتراض کیا تھا، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے تو کسی نمبر میں ان کا بھی ذکر اُٹھانے میں نہ آتا؟ جب نہیں آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساتھ مدفون ہی نہ ہونگے،

marfat.com

قصص ۲۰/۸ — فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهٖ فِیْ زِیْنَتِهٖ، پس نکلا اپنی قوم کے سامنے مع اپنی زینت کے،

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ ان آیات میں فی کے معنی ظرفیت کے کروگے؟ اگر نہیں تو فقیر عرض کرتا ہے، ہمارا کام کہدینا ہے یارو، تم آگے چاہے مانو یا نہ مانو، اب تو حدیث متنازعہ فیہ کے معانی بھی واضح ہوگئے کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی متصل مدفون ہونگے، اور ساتھ ہی اُٹھینگے،

"مرزائی"۔ مولوی صاحب قبر سے مراد روحانی حالت ہے، اور یہی یُدْفَنُ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ کے معنی ہیں، سُنو، قرآن مجید میں ہے، قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَکْفَرَهٗ ۝ مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ، ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝ اس آیت سے معلوم ہوا، کہ ہر انسان خواہ اس کو درندے کھاجائیں یا سمندر کی مچھلیاں کھاجائیں، قبر میں ضرور جاتا ہے، تو ثابت ہوا، کہ قبر ایک حالتِ روحانی کا نام ہے، اور یہی معنی یُدْفَنُ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ کے ہیں،

"محمد عمر"۔ میرے دوست وکیل صاحب بیچارے علم عربی سے تو بالکل کورے ہیں، البتہ عربی اکوے واقفیت ہو، تو کوئی بعید نہیں، وکیل صاحب ایک ہوتا ہے مشتقات کا استعمال باصطلاح شرعی تو قبر بایں معنی وجود فی الخارج نہیں رکھتی اور دوسرا مستعمل ہوتا ہے اسم علم، اب دونوں کے استعمال کے ساتھ قرینے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اب حدیث ملاحظہ ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یُدْفَنُ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ میں قرینہ دفن کس کو چاہتا ہے، اور اگر رُوح کے لئے دفن ہے، تو قبر سے بھی حالتِ روحانی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ فِیْ قَبْرِیْ مفعول مَعَهٗ ہے یُدْفَنُ کا اور جب رُوح کے لئے دفن نہیں تو مفعول کے معنی بھی آپ وہی لے سکتے ہیں، جو فعل سے متعلق ہوں، دفن کا تعلق ہے جسم سے اور جسم کا تعلق ہے اس قبر سے، جس معنوں کا عنوان بحیثیت علم استعمال ہوتا ہے، جسکی جمع قبور آتی ہے ملاحظہ ہو،

قبر از لغت

(۱) المصباح المنیر ۲/۱۲۸ | اَلْقَبْرُ مَعْرُوْفٌ وَالْجَمْعُ قُبُوْرٌ۔

marfat.com

الصَّالِحِیۡنَ میں فی موجود ہے، اس کا کیا مطلب کروگے، کہ صالحین کے وجود میں داخل کردے، نہیں، بلکہ قرب وصلی مراد ہے، اور اس سے زیادہ واضح ہے یُدۡفَنُ مَعِیَ فِیۡ قَبۡرِیۡ اس میں معی نے فی کے معنی کو بھی اظہر من الشمس کردیا، کہ قبر کے اندر نہیں، بلکہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کا قبر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اتصالی ہے، توجیسا کہ فِیۡ عِبَادِکَ میں فِیۡ موجود ہے اور معنی دخول فی الذات نہیں، ایسے ہی فِیۡ قَبۡرِیۡ میں فِیۡ موجود، لیکن دخول فی الذات مراد نہیں تو اس کے معنی ہونگے، کہ دفن کئے جاوینگے عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میری قبر کے متصل، یعنی فی بمعنی اتصال۔

(۲) عنکبوت پ۲۱ ع۱ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِی الصّٰلِحِیۡنَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے توضرور داخل کرینگے ہم انکو صالحین میں،

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا، کہ فی قرب کے لئے، یعنی تصاحب کے لئے بھی آتا ہے، اور قرآن افصح کلام ہے، جب قرآن کریم اور حدیث شریف میں فی قرب کے معنی میں یعنی مصاحبت کے لئے مستعمل ہو رہا ہے، دوسرا کون ہے، جو فی کو صرف ظرفیت کے لئے ہی محدود سمجھے، اور تصاحب اور ظرفیت کی تفریق نہ کرے۔ اور قرینہ سے بے بہر رہے

وکیل صاحب آپنے کم از کم نحومیر ہی پڑھی ہوتی، تو اس میں شرح مأۃ عامل مولوی غلام رسول صاحب کے اشعار وں پر توجہ مبذول فرماتے، تو ایسی غلطی میں کبھی نہ آتے، سنیئے۔ ع

بہر تعلیل و تصاحب ہم بود بہر قیاس

کیوں جناب! فی تصاحب کے لئے آیا یا نہ؟ یہ علم نحو کا قاعدہ ہے، لیکن تم بے چارے کیا سمجھو،

اب ایک مثال قرآنی جس میں فی تصاحب کے لئے یعنی معیت کے لئے استعمال ہوتا ہے، عرض کردوں اور محض بوجہ طوالت تین مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں،

marfat.com

تحقیق قبر از قرآن کریم

توبہ ۱۱ | وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهٖ ۔ آپ اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوویں، کیوں جناب مرزائی صاحب؟ روحانی قبر ہے یا ظاہری قبر، کوہان جیسی،

حج ۱ | وَاَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ
اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھاویگا قبروں والوں کو،
یہاں قبور کے معنی رُوحانی قبور لو گے،

"مرزائی" ۔ یہاں فی القبور میں کیا معنی مصاحبت کے کرو گے،

"محمد عمر" ۔ مرزائی بیچارے علم سے عاری ہوتے ہیں، تمہارے اختیار نہیں، تمہاری یہ عادت ہے، کسی حرف کی جو خاصیت ایک جگہ ثابت ہو، بس اسی کو ہی ہر جگہ مقرر سمجھتے ہو، حالانکہ حروف کے کئی کئی خواص ہوتے ہیں، فی کے کئی خواص ہیں، ظرفیت کے لئے بھی آتا ہے، جیسا کہ اس مقام پر فقیر نے یہ تو عرض نہیں کیا، کہ فی ظرفیت کے لئے آتا ہی نہیں اور نہ ہی یہ کہتا ہوں، کہ تصاحب کے لئے مختص ہے، بلکہ ظرفیتہ کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے، اور تصاحب کے لئے بھی، جیسا کہ دَخَلَ مَعِیَ فِیْ قَبْرِیْ میں، باقی ان حروف کے خواص کا پتہ قرینہ خود ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ فقیر نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے، کہ دَخَلَ مَنْ مَعَلٍ سے فِیْ قَبْرِیْ میں فی کا خاصہ مصاحبت اور معیت دو قرائن کا موجود ہونا اور مرزائی کا انکار کرنا اور مرزائیت مرض کیوجہ سے حدیث شریف مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنا مقصود ہے۔ خداوند ہر مسلمان کو ہدایت نصیب فرماوے اور ان کے طفیل مرزائیوں کو بھی ہدایت دے، اب قبر کے معنی کا جھگڑا اڑا دیا، جس کو بچے بھی جانتے ہیں، اس سے کیوں گریز ہے، اب اِنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ میں قبور کے معنی روحانی کرو گے، کچھ خدا کا خوف کرو۔

(۳) الانفطار ۱ | وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۔
اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی،

marfat.com

قبر مشہور ہے اور جمع قبور ہے۔

(۲) المنجد (۶۳۶) اَلْقَبْرُ مَدْفَنُ الْاِنْسَانِ جمع قُبُوْر۔ قبر انسان کے دفن ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جمع اس کی قبور ہے۔

(۳) القاموس المحیط ۲/۱۱۲ (القبر) مَدْفَنُ الْاِنْسَانِ جمع قُبُوْر۔ قبر انسان کے دفن ہونے کی جگہ جمع قبور،

(۴) مفردات راغب ۳۹۸ اَلْقَبْرُ مَقَرُّ الْمَیِّتِ۔ قبر میت کے ٹھیرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

تحقیق قبر از احادیث

(۱)۔ لَا تَجْعَلُوْا بُیُوْتَکُمْ قُبُوْرًا۔

اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ،

کیوں جی؟ یہاں رُوحانی قبریں مراد ہیں یا اونٹ کے کوہان جیسی ایک بالشت زمین سے بلند مجسمے کا نام قبر ہے، جو مسلمان کے مدفن کے باہر زمین کے اوپر ہوتی ہے،

(۲)۔ لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ وَثَنًا۔

میری قبر کو بُت نہ بنانا۔

(۳)۔ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، (کیونکہ تم ان کے آداب سے ناواقف تھے، لیکن اب تمہیں واقفیت ہو گئی) تو (اب) تم ان کی زیارت کیا کرو۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہاں رُوحانی قبریں مراد ہیں، دیکھو تو سمجھو کہ عبارت کے سیاق وسباق سے قبر کا مجسمہ مراد ہے یا حالتِ قبر مراد ہے۔

فَاعْتَبِرُوْا یٰۤاُولِی الْاَبْصَارِ

marfat.com

بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لہٰذا اس کے حامل و عالم بھی ہم ہی ہو سکتے ہیں تمہارے لئے تو مرزا غلام احمد صاحب کا کلام ہی کافی ہے، جس کو اُلٹ پلٹ کر کے تم نے گیند بنایا ہوا ہے، ایک طرف سے کسی نے پکڑا تو دوسری طرف لڑھک گئے، اور اگر اس طرف سے کسی نے پکڑا تو تیسری طرف کروٹ پلٹ گئے۔ اور ایسے ہی تم قرآن وحدیث کو بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو، جب تک مسلمان دنیا میں موجود ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی کو مرزائی ہو یا غیر قرآن وحدیث کو تغیر و تبدل نہ کرنے دیگا، اور جب دنیا میں مسلمان نہ رہیگا تو خداوند تعالیٰ قرآن کریم کو بھی دنیا سے اُٹھا لیگا، حرف نااہل کے ہاتھ میں نہ رہ سکیگا۔

"مرزائی"۔ اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آجائیں، تو کیا تم اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے، جب تک کہ وہ مرکر آنحضرت کی قبر میں مدفون نہ ہوجائیں

"محمد عمر"۔ کیوں نہ ہو، مرزائی ہوکر پھر بھی اگر وہ ایسی بات نہ کرے۔ تو مرزائی کا ہے کا، خواہ وکیل ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو یہ کہونگا کہ خداوند اگر کسی کو انسان پیدا کرے، تو مرزائی نہ بنائے۔ وکیل صاحب رقم طراز ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تم ایمان نہ لاسکو گے۔ بلکہ روضۂ اطہر میں دفن ہونے کے بعد تمہیں ان کی حقانیت کا علم ہوگا، تب ایمان لاؤ گے۔ نہیں وکیل صاحب انشاء اللہ ایسا نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پر ہم مسلمانوں نے ایمان لانا ہے، اس لئے اُن پر ایمان لانے کی فکر ہمیں ہے، نہ مرزائیوں کو۔ جب ہمارے خداوند نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے تمام علامات وصفات ابتداءً فرما دئے ہیں، تو ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ جب آپ آسمان سے تشریف لائینگے، تو دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہونگے، اس فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم مسلمان بلا تاویل فوراً سمجھ لینگے، کہ واقعی عیسیٰ بن مریم تشریف لائے ہیں، اور بفرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام نزول بلا تاویل و تحریف دمشق کا شرقی سفید مینار ہوگا، جواب بھی تیار ہے۔ اور انشاء اللہ العزیز قبل از نزول من السماء مکمل تیار ہی ہوگا، جب وہ آسمان سے اُترینگے۔ نہ یہ کہ بعد از فوت مرزائی چندہ سے

marfat.com

"مرزائی" - اور جو لوگ جانوروں کی غذا ہو جاتے ہیں، یا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، وہ قبور سے کیسے اُٹھائے جائیں گے۔

"محمد عمر" - اس دن تمام دریا خشک ہو جائیں گے، پہاڑ برابر ہو جائیں گے، باقی صرف زمین ہی زمین ہو گی، جس کو پھایا جائیگا، جتنے خاکستر زمین میں مل چکے ہونگے، ظاہر ہونگے۔ جانور جنکو گوبر بنا کر پھینکینگے وہ بھی تو زمین میں ہی ہونگے، ان کے متعلق ارشاد الٰہی ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا۔ جب زمین ہلائی جائیگی اپنی جنبش سے اور زمین اپنے بوجھ نکال دیگی، اور انسان (کافر) کہیگا زمین کو کیا ہوا؟

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ خواہ کوئی انسان جانوروں کی غذا ہو چکا ہو، ہندو جلا کر راکھ بنا کر دریا میں بہا دیا گیا ہو، میدان حشر میں اس کو اللہ تعالیٰ زمین سے ہی بلا کر نکالیں گے، اس ماجرے کو دیکھ کر کافر متعجب ہو گا، کہ جنکو جانور کھا چکے تھے، خاکستر بن کر پانی میں بہہ چکے تھے، آج اُن کو بھی زمین نکال رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا، دریا تو وہاں خشک ہونگے، سمندر معدوم ہو گا۔ محض زمین ہی زمین موجود ہو گی، جو ہر شے کو نکال لیگی، اور یہی مطلب ہے، ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ کہ پھر مارا اُس نے اس کافر کو تو صاحب قبر جو بنا دیا، اس نے اُس کو، یعنی کافر کو جانور کھا چکے ہیں، لیکن وہ صاحب قبر ہو چکا، مٹی میں مل چکا، اور میدان حشر میں وہ بھی اپنی قبر سے اُٹھایا جائیگا۔

کیوں جی مرزائی صاحب؟ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ کے معنی درست ہوئے یا نہ؟ اور قبور کا وجود بھی موجود فی الخارج ثابت ہو گیا۔ اب ایمان لانا یا نہ لانا تمہارا کام ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے تمہارے سوال کا جواب قرآن کریم سے مکمل طور پر حل کر دیا گیا، اور متنازعہ فیہ حدیث میں یُدْفَنُ کا لفظ قبر کے سمتی کو واضح کر رہا ہے جو ہر ذی شعور سے مخفی نہیں، اور یہی قبر مومن کے لئے جنت بھی ہو گی، اور کافر کے لئے جہنم، تو ثابت ہوا، کہ یہاں قبر زمانی مراد نہیں بلکہ قبر مکانی مراد ہے، تم مرزائی بیچارے کیا سمجھو قرآن و حدیث کو، یہ قرآن کریم ہمارے آقا پر نازل ہوا ہے، اس لئے اس کو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، ایسے ہی حدیث پاک

marfat.com

بھی جھوٹے ثابت ہوں، کہ جس شخص میں کوئی صفت عیسوی موجود نہ ہو محض دعوای نزول من السماء ہو اور ولادت قدنی ہو، صرف دعوای عیسٰی بن مریم کہلانے کا ہے حقیقۃً غلام احمد بن غلام مرتضی ہو، مینارہ دمشقی نہ ہو، پہلے تعمیر نہ ہو، بعد میں چندے سے تعمیر کیا جائے، مقام دفن روضۂ مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، قادیان ہو، اس کا ساتھ کوئی مسلمان قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والا تو نہیں دیسکتا، البتہ مغربی تہذیب اجازت دے تو کوئی مضائقہ نہیں،

اگر حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نشان صداقت صرف مدفن روضۂ اطہر ہی ہو، تو تمہارا کہنا درست ہو سکتا ہے، کہ ان کو روضۂ اطہر میں دفن ہونے کے بعد اُن پر ایمان لاؤ گے، جب اُن کی آسمان سے تشریف آوری سے تا وصال روضۂ اطہر اُن کے سینکڑوں اوصاف وعلامات واعمال صحیحہ مذکور ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے متنبہ کر دیا ہے، تو ہم مسلمان حضرت عیسٰی علیہ السلام کو اُن کے آسمان سے اُترتے ہی انشاء اللہ تعالیٰ اُن کا ساتھ دینگے اور روضۂ اطہر میں اُن کے مدفون ہونے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ یہ روضۂ اطہر میں عیسٰی علیہ السلام کی قبر شریف ہے، اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معنون تمام دنیا دیکھے گی، اور کشمیر کی قبر کا مدعی منہ چھپاتا پھریگا، یا اپنے ایمان کو درست کر لیگا، تم نے جو ایک ہی علامت مدفن فی الروضۃ ہونیکی بیان کرکے عوام کو دھوکا دینے کی کوشش کی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ مسلمان تمہارے پھندے میں نہ آئیں گے، میں کہتا ہوں، کہ تمہیں تو اس کی بھی سمجھ نہ آئی، اگر اس کی ہی سمجھ آجاتی تو قدنی جال میں کبھی نہ پھنسے رہتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مدفن قادیان کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے، لیکن تمہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علامات عیسوی دنیا وی کی سمجھ نہ آئی، تو صحیح مدفن کے فرمانے سے کب ہدایت ہوگی، اَللّٰہُ یَجۡتَبِیۡۤ اِلَیۡہِ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یَہۡدِیۡۤ اِلَیۡہِ مَنۡ یُّنِیۡبُ ۔

"مرزائی" ۔ اگر حدیث میں عیسٰی بن مریم سے مسیح ناصری مراد لیتے ہو، تو پھر اس حدیث سے ثابت ہؤا، کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ آنحضرت نے فرمایا، یُدۡفَنُ مَعِیَ کہ وہ آنحضرت کے ساتھ ہی دفن کر دیئے گئے گویا آنحضرت نے فرمایا کہ

marfat.com

تیار ہو گا۔ پھر تیسری پہچان یہ ہو گی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس دو زرد چادریں ہونگی، کوٹ، پاجامہ، پگڑی، بوٹ وغیرہ سے بری ہونگے مراق اور ذیابیطس کی قدرتی مصنوعات سے نہ ہونگی، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا ہم تمام سے خوبرو ہونگے، بھینگے، کانے، لولے، لنگڑے نہ ہونگے، مفلوجیت، سلسل البول، مراق، خارش وغیرہ سے بری ہونگے، مختصراً علامات عیسوی کو بیان کیا ہے، جن سے وہ فوراً پہچانے جائینگے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں، میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے ملائکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دو زرد چادریں پہن کر تشریف لائینگے، تو کوئی ایسا مسلمان نہ ہو گا، جو اُن کا ساتھ نہ دیگا، دو زرد چادریں ہماری پہچان کے لئے ہی تو پہنے ہونگے۔ یہ تو علامات ہیں اُن کی آمد کے، ان کی زندگی کے مکمل علامات انشاء اللہ تعالےٰ عنقریب مذکور ہونگے اور جو خداوند تعالیٰ نے ان کی زندگی کا کارنامہ بیان فرما دیا، اسی ایک کو بیان کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جعلی مدعی بھی پیدا ہونے تھے، اس لئے اس عالم الغیب نے ان کی پیدائش کا مفصل بیان، اُن کی زندگی کے کارنامے اُن کے رفع سماوی اور نزول من السماء کا پورا واقعہ اور بعد از نزول من السماء کے پورے عمل اور شکل و اطوار کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تفصیلی علامات ان کے مقام نزول، اُن کی ہیئت کذائیہ اور تفصیلات زندگی و مقام وصال اور بعثت اُخروی تک تفصیلاً بیان فرمایا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاویں، تو دعوٰی بادلیل ہوں، ان کو مسیح عیسیٰ بن مریم ماننے ہیں میری امت کو کوئی دقت نہ ہو۔ جیسا کہ کسی مسافر کو کوئی بھیجنے والا راستے کا مکمل نقشہ دیدے، تو اس کو راستہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی علم غیبی آپ کو خداوند کریم کی طرف سے حاصل تھا، کہ میری امت میں جعلی عیسویت کا دعوٰی شائع ہو گا۔ تو آپ نے ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ اُن کے نزول سے تا حین مکمل نقشہ عطا فرما دیا، اور ان کے مقام وصال کو بھی بیان فرما دیا، تاکہ جعلی عیسیٰ کے متبعین اُن کے مرنے کے بعد اپنے جعلی عیسیٰ کی صداقت کو پیش کریں تو

marfat.com

اَلَّذِیْ اَنْقَضَ ظَھْرَکَ جو آپ کی پشت مبارک پر تبلیغ کا بوجھ تھا، جلدی دُور فرمادیا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیا علیہما السلام کی طرح تبلیغ کا زیادہ بوجھ نہ اُٹھانا پڑے، لیکن مرزائی کہتا ہے، کہ اس بوجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہونا چاہیئے تھا، جب اس کو گوارہ نہیں۔ تو تم کون ہو۔ اور اگر اُس نے اس بوجھ کو حضرت عیسٰی علیہ السلام پر ڈال دیا، تو مرزائی نالاں ہے، کہ یہ بوجھ اللہ تعالٰی نے حضرت عیسٰی علیہ السلام پر کیوں ڈالا، ہمارے غلام احمد پر کیوں نہیں ڈالدیا، اُس کی مرضی، جو چاہے، جسے چاہے عطا کردے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس واسطے آپ کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا محال تھا، لہذا رب العزت نے بوجھ تبلیغ کو آپ کی ذات سے ہلکا فرمادیا، ایک سابقہ نبی حضرت عیسٰی علیہ السلام کو زندہ آسمان پر رکھ کر قرب قیامت نازل فرمائیں گے۔ تاکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی بوجھ کو غلامی میں بجا لائیں۔ اسی لئے خَلَتْ کا لفظ رب العزت نے استعمال فرمایا، کہ پہلے تمام انبیا علیہم السلام گذر چکے ہیں، کوئی وصال سے کوئی رفع سماوی سے، ایسا مشترک لفظ استعمال فرمایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ثابت فرمادیا۔ اور حیاتِ عیسٰی بن مریم علیہما السلام کو بھی شامل کرلیا، اب کوئی اعتراض کرے تو خداوند پر کرے، اگر کوئی کج طبع معیت کے معنی معیت زمانی مُراد لے تو یہ ایمانداری پر مبنی نہیں، کیونکہ اگر آپ کی معیت زمانی ہوتی۔ تو پہلے حضرت عیسٰی علیہ السلام کا آپ کے زمانہ میں مَوْجُوْد عَلَی الْاَرْض ہونا مرزائیوں کو تسلیم کرنا پڑیگا۔ اور یہ کسی طرح ثابت نہیں، اور نہ کوئی مرزائی دعوٰی کرسکتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسٰی موجود عَلَی الْاَرْض تھے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہی حضرت عیسٰی علیہ السلام کو زمین پر دیکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کے آسمان پر موجود ہونے کی اطلاع دی، اور اگر مرزائیوں کی اس ہرزہ سرائی کو سُن بھی لیا جائے۔ تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ اور مرزائی مذہب اور مرزا صاحب کے تمام ڈھونگ کا پول ثابت ہوجائیگا کہ جب تمہارا اندھا دُھند

دنیا میں اگر کسی انسان کو اتنا لمبا زمانہ زندہ رکھتا، تو یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، آپ سے زیادہ خدا کو اور کون پیارا ہے؟ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ کہ خدا تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی، کہ آنحضرت تو فوت ہو جائیں اور آپ سے پہلے انبیا اتنا عرصہ زندہ رہیں، پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہ یاد رکھو، کہ جب تم مجھ کو دفن کر رہے ہو گے تو اسی وقت یہ ثابت ہو جائیگا، کہ پہلا کوئی نبی زندہ نہیں رہا، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کم از کم اس وقت تو مانو گے کہ عیسیٰ بھی زندہ نہیں، گویا عیسے میرے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے (فافہم ایہا العاقلون)۔

"محمد عمر"۔ يُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ سے ثابت ہؤا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام جب آسمان سے قرب قیامت اتر ینگے، تو ان کا مدفن روضہ اطہر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گا، کسی اور جگہ دفن نہیں کئے جائیں گے، اگر ایسا نہ ہؤا تو وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہو نگے، جعلی مال ہو گا، اور جس شخص کو ترجمہ کرنے میں مضارع اور ماضی کی تفریق کا علم نہیں وہ اگر گمراہ نہ ہو، تو پھر کون ہو اور خداوند تعالےٰ حاسد کی شر سے بچاوے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ عطا فرماوے تو حسد نہ کرنا چاہیئے، اگر اولاد زیادہ دے تو حسد نہ کرے، اگر عمر لمبی دے تو بھی حسد نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزۃ نے قُوَّةً عَظِيْمَةً بخشی، کہ تھوڑے عرصے میں اپنے اسلام کا ایسا پرچم لہرایا، جو بڑی بڑی عمر تبلیغ کرنے والے بھی آپ سے پیچھے رہ گئے، چنانچہ نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد الٰہی ہے، وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا۔ اور ضرور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے، معلوم ہؤا، کہ عمر کا لمبا ہونا اولیت نہیں، اور ہمیشہ اصول ہے، کہ جتنی شے اعلیٰ ہو گی، تھوڑی ہو گی، مثلاً یکتا موتی، یاقوت یا سونا اور ہیرا وغیرہ وغیرہ اور جو شے دیر تک نظر میں رہے تو نظر اس سے اکتا جاتی ہے اور اگر تھوڑی دیر رہ کر نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اس کی محبت اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ اور دوست و دشمن کی تفریق نظروں سے اوجھل ہونے سے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی رب العزت نے آپ کو تبلیغ کا تھوڑا وقت دیکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

marfat.com

رسالت کا ذکر ہی نہ چھیڑینگے تو رَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ میں کیا خلاف ہوسکتا ہے، اگر علاقہ کے مجسٹریٹ کو گورنر مہاجرین کے لئے عارضی طور پر اپنا سیکرٹری مقرر کرلے تو سول کوئی اعتراض کا حق نہیں رکھتے، تو تم کون ہو اعتراض کرنیوالے اور نہ ہی علاقہ مجسٹریٹ کو اپنے عہدہ سے برطرف سمجھا جائیگا، اند معترض کو لوگ سفاہت کی طرف منسوب کرینگے اور ضرور کہیں گے کہ گورنر اپنی پاور سے جسکو چاہے عارضی طور پر کام لے سکتا ہے، کسی کو حق اعتراض کا نہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لئے ہی مقرر ہو کر آئے اور اپنی ڈیوٹی رسالت کو پوری کر چکے اور رسول جس کو خداوند کریم کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے وہ چھینی نہیں جاتی، اور جب وہ اپنی مقررشدہ ڈیوٹی رسالت کو بھگتا لیتے ہیں تو ڈیوٹی سے فارغ ہوجاتے ہیں نہ کہ عہدۂ رسالت سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گورنر کا وزیر دفاع قرب قیامت مقرر فرما دیا۔ تو آپ معترض ہونیوالے کون ہیں؟ جیسا کہ کسی فوجی کیپٹن کو ڈیوٹی سے فارغ کیا جاتا ہے، تو اس کی پنشن مقرر کی جاتی ہے کہ جب کسی موقعہ پر ضرورت پڑے تو گورنمنٹ بُلا کر عارضی طور پر لگا سکتی ہے، اسکو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا اور لوگ اس کو کیپٹن صاحب کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر کے فارغ ہوتا ہے، کیپٹن کے بلّے اور پاس بھی اس کے پاس ہوتا ہے اور جس عہدہ پر اُسکو عارضی تعینات کیا جاتا ہے اس عہدہ کا ذمّہ دار بھی کہلاتا ہے، بعینہٖ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ کے قانون سے بنی اسرائیل کی رسالت کی ڈیوٹی سے بھی فارغ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گورنر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر جنرل کے آخری وزیر دفاع ہیں، محمدی رسول یا محمدی نبی نہیں، یعنی آپ کے کسی علاقہ کے گورنر نہیں۔

"مرزائی"۔ امت محمدیہ کو کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ کا ارشاد ہوا ہے، اب اگر ایک عیسیٰ بن مریم بھی نہ بن سکے۔ تو فرمان بے معنی بنتا ہے، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو بھی ناقص ٹھہرانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی قدوسیت ایک مسیح بھی نہ بنا سکی۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب خداوند کریم نے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ فرمایا، کہ تم سب اُمت سے بہتر ہو، اسکے اوّل مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو سب امت سے بہتر ہونے کا خطاب مل گیا، اگر اُن سے کوئی درجہ نبوت کو نہ پہنچ سکا، اور نہ ظلی نبی بن سکا، تو اب کون ہوسکتا ہے۔ یعنی جب خیر امت نبی نہیں، تو شر امت نبی کیسے کہلا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

marfat.com

پر ایمان ہے، تو مرزا صاحب کیسے پیدا ہو گئے، جب خلٰت میں رب العزت نے حیات عیسٰی علیہ السلام کو شامل رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے تشریف لاوینگے اور نکاح کرینگے اور انکی اولاد بھی ہوگی، پھر میرے روضۂ (اطہر) پر تشریف لاوینگے۔ مجھے سلام کہیں گے میں اس کا جواب دونگا، پھر وہیں فوت ہونگے اور میرے روضۂ (اطہر) میں ہی دفن ہونگے، اسیواسطے صیغہ مضارع مجہول یُدْفَنُ فرمایا کہ عیسٰی علیہ السلام زمانۂ آئندہ میں دفن کئے جاوینگے، لیکن مرزائی بیچارہ کمزوری نظر سے معذور رہ کر اعتراض کرتا ہے۔

"مرزائی"۔ (حضرت مسیح ناصری امت محمدیہ کا موعود نہیں ہو سکتے) کیونکہ جس پر ایک مرتبہ وارد ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهِ الْمَوْتُ لہٰذا حضرت عیسٰی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا محال۔

"محمد عمر"۔ قرآن کریم کے معانی اُلٹ کر بیان کرنا یہ بھی مرزائیت کا ہی حصہ ہے، اس آیت کریمہ کا ماقبل چونکہ مرزائی کے خلاف تھا چھوڑ دیا اور جملے کے ایک حصہ کو لیکر جیسے چاہا بدل دیا اب ماقبل سے سنیئے، اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو مرنے کے وقت اور اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو اُن کی نیند میں جنکو موت نہیں آئی، پھر جانوں کو روک بھی لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اور بھیج دیتا ہے اوروں کو وقت مقررہ تک۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے پوری آیت جس سے حیات عیسٰی علیہ السلام ثابت ہو رہی ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کو یہ قدرت ہے کہ جسکی موت کا وقت پورا بھی ہو چکا ہو اس سے بھی زندہ اللہ کریم موت کو روک لیتا ہے یہ اس کا قانون ہے جو ذات میعاد زندگی جسکی ختم ہو چکی ہو اس سے موت کو روک لیتا ہے کیا وہ عیسٰی علیہ السلام کو جن کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ان کو مرزائی مارنا چاہتا ہے تو وہ اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اس آیت سے تو حیات مسیح علیہ السلام ثابت ہوئی جسکو وکیل صاحب نے اُلٹ بیان کیا ہے۔

"مرزائی"۔ اگر مسیح ناصریؑ امت محمدیہ یا ساری دنیا کے لئے رسول ہو کر آئیں تو پھر قرآن کے الفاظ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ کاٹ دینا چاہیئے۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب اگر ہمارا دعویٰ ہو کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام امت محمدیہ کے لئے اپنی رسالت کی اشاعت کیلئے تشریف لائینگے پھر تو تمہارا اعتراض ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کا رسول امت محمدیہ کے خلاف قرآن ہے، جب امت محمدیہ میں وہ اشاعت قرآن و حدیث مصطفویؐ کے لئے تشریف لاوینگے اور اپنی

marfat.com

پھر طبیعت میں اگر خون کی زیادتی ہو، تو انسانی رنگ خواہ کوئی بھی ہو، سفید یا گندمی یا سیاہ اس میں سے سُرخی ضرور نمودار ہوگی، اور اگر صفرا کا غلبہ ہے، تو رنگ انسانی زردی مائل ہوگا، خواہ آدمی کوئی رنگ رکھتا ہو، سفید یا گندمی یا سیاہی مائل، لیکن بوجہ صفرا زردی ضرور چھائی ہوگی، علیٰ ہذا القیاس اگر سودا کا غلبہ ہو، تو خواہ کسی رنگ کا انسان ہو: اس کے بدن پر سیاہی چھائی ہوگی، اور ایسے ہی اگر بلغم کا غلبہ ہو، تو رنگ سفیدی مائل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب ایک حدیث شریف میں مذکور ہے، کہ اُن کا رنگ گندم گون ہوگا اور دوسری حدیث میں اَحْمَر یعنی بہت سُرخ تو دونوں کو یکجا کرنے سے متحد ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندم گون سُرخ ثابت ہوا، جو ہر انسان پر واضح ہے، کہ ایسے رنگ کا انسان ہو سکتا ہے، وکیل صاحب آپنے اُن میں کونسا تبایُن معلوم کیا، یا تضاد، اگر فی الواقع ثابت ہوتا تھا، تو ذرا تفصیل کر کے تو ثابت کرتے جیسا کہ فقیر نے دونوں کا اتحاد ثابت کیا ہے اختلاف تب ہوتا کہ جب ایک حدیث میں مذکور ہوتا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سیاہ ہوگا، دوسری حدیث میں ہوتا، کہ اُن کا رنگ سفید ہوگا، پھر تو البتہ بات کہنے کی تھی، جب گندم گوں سُرخ رنگ فرمایا، تو ہماری اصطلاح میں ایسے مرکب رنگ کو تو نرلوزی رنگ کہا جاتا ہے، اور اس ملک کی اصطلاح بھی عام فہم ہے، آپ شاید ولایتی ہونے کی وجہ سے کوئی اور اصطلاح وضع فرمائیں لیکن ہر صورت دونوں حدیثوں میں رنگ کا اتحاد ہے، باقی رہا بالوں کے متعلق، تو پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بال گھنگریالے ہونگے اور دوسری حدیث میں ذکر آیا ہے، کہ لمبے، کندھوں کے مابین تک ہونگے، وکیل صاحب اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ گھنگریالے بال کندھوں کے درمیان تک پہنچ سکتے ہیں، یا نہیں، وکیل صاحب یہ بات کسی جاہل سے ہی دریافت کر لیتے، کہ بھائی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھنگریالے بالوں کا ذکر آتا ہے، اور دوسری حدیث میں ان کی لمبائی کندھوں کے درمیان تک لکھی ہے، تو جاہل کیا، اجہل بھی آپ کو سمجھا دیتا، کہ گھنگریالے بال پُشت تک لمبے بھی

marfat.com

رُوحانیت میں فرق نہیں آسکتا۔ کیونکہ خدا کا کام ہے نبوت عطا کرنا۔ کسی نبی کو یہ قوت نہیں، کہ کسی غیر نبی کو نبی بنا سکے، یہ خدا کا کام ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بھی لغو ثابت ہوا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو خداوند پر اعتراض کرو، کہ تو نے نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کر سکتے۔ اور نہ تمہیں آپکی ہمت ہے۔

دوسری عرض یہ ہے، کہ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ نے ثابت کر دیا، کہ ہم تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہی اُمت ہیں، اس میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو امتی ہونے کے ساتھ ہی علیٰحدہ نبوت کا خطاب بھی شامل ہوتا، اگر نہیں، تو ثابت ہوا کہ ہم تمام قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں، امت ہی کہلا سکتے ہیں، نبی نہیں۔ جو نبی کہلائے وہ آپ کی امت سے خارج اور جو آپ کی امت سے خارج وہ اسلام سے خارج۔ اور جو اسلام سے خارج وہ جہنم کا ایندھن بن گیا،

"مرزائی"۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح ناصری کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے، وہ بالکل متضاد اور متبائن ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والے مسیح اور ہیں، اور مسیح ناصری اور ہے، چنانچہ آنحضرت فرماتے ہیں، فَاَمَّا عِیْسٰی فَاَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِیْضُ الصَّدْرِ، پھر آنے والے موعود کے متعلق فرمایا فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ کَاَحْسَنِ مَا یُرٰی مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ عَنْہُ بَیْنَ مَنْکِبَیْہِ رَجُلٌ ا نتہیٰ۔ معلوم ہوا کہ مسیح دو ہیں،

"محمد عمر"۔ تعصب بری بلا ہے، عقل بھی چھین لیتا ہے، بھلا یہ تو فرمایئے۔ کہ پہلی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ کی صفت بیان فرمائی۔ اَحْمَرُ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے قرب قیامت تشریف لادینگے، توان کا رنگ سُرخ ہوگا، اور دوسری حدیث میں آدَمُ کا لفظ آیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی ہوگا۔ لیکن صاحب بیچارے انسانی صفات سے بھی بے بہرہ ہیں، اتنا پتہ نہیں، کہ تباین تضاد، تناقض کیا ہوتا ہے۔ صرف نام ہی سُنا ہؤا ہے، حمرۃ آدمی کے بدن کی صفت نہیں؟ بلکہ رنگ کی صفت ہے یعنی صفت الصفت ہے، کیونکہ آدمی کا رنگ یا سفید ہوگا، یا گندمی یا سیاہ،

marfat.com

ہیں، پہلے بیچارے عیسائی اس گورکھ دھندے کا شکار تھے، اب مرزائی بھی اس مصیبت کا شکار ہو گئے، نہ یہ خود سمجھ سکیں اور نہ سمجھا سکیں، جو ہر ذی شعور سے مخفی نہیں، تمہارا کہنا کہ دونوں ایک وجود ہیں، غلط ہے عقلاً بھی اور نقلاً بھی، جیسا کہ انشاء اللہ عنقریب مذکور ہوگا، وکیل صاحب آپ نے ایک ایسی حدیث سے استدلال پیش فرمایا، جس میں خود ہی پھنس گئے، امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا خود ہی اقرار کر لیا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں، تو آخر امت میں تشریف لانا کیسے درست ہوگا، (عیسیٰ ابن مریم آخرھا) کیسے ثابت ہوگا،

معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کے دلائل سے تو تمہیں یقین ہے، لیکن حجاب مرزائیت تمہارے لئے مانع ہے، اور پھر وکیل صاحب استدلال میں ایسی حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں عیسیٰ بن مریم؈ کا صاف ذکر ہے، جس کا مرزائی خود منکر ہے، مسیح کا لفظ اس میں ہے ہی نہیں، لہذا وکیل صاحب میرے سے ہی اپنے دعوای کا استدلال ہی مخالف پیش کر رہے ہیں، میں تو وکیل صاحب کو معذور ہی سمجھو نگا، اور تمہارا کہنا کہ اگر امام مہدی عیسیٰ بن مریم سے علیحدہ ہوتے تو ان کا ذکر علیحدہ ہوتا، آئیے اسی حدیث کی پوری عبارت آپ کو دکھا دوں، جس میں امام مہدی کا ذکر بھی ہے، سنیئے۔

کنز العمال ۷/۱۸۷ — لَنْ تُهْلِكَ اُمَّةٌ اَنَا فِیْ اَوَّلِهَا وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِی اٰخِرِهَا وَالْمَهْدِیُّ فِیْ اَوْسَطِهَا۔

ہرگز نہ ہلاک ہوگی ایسی امت جس کے ابتداء میں میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم اور مہدی اس کے مابین ہو۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ مہدی کا ذکر آیا یا نہ؟ اگر انصاف کی ایک رتی یا ایک چاول بھی رکھتے ہو، تو تمہیں ضرور ایمان لانا چاہیئے، کیونکہ تمہاری منہ مانگی مراد تمہیں مل گئی ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا ذکر علیحدہ اور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر علیحدہ اور صاف ہے، اور جس کتاب کا تم نے ذکر کیا، اسی سے ہی تمہارا جواب دیا گیا،

marfat.com

ہو سکتے ہیں، اگر ان کو نہ کٹایا جائے، تو اُن کو کوئی مانع نہیں، ممکن ہے، بھلا ان دونوں حدیثوں میں کوئی بھی اختلاف ہے؟ جس نے وکیل صاحب کو اشکال میں ڈالدیا، اور آپ کو اختلاف معلوم ہونے لگ گیا، بجائے اصل بات تو یہ ہے، کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا قرب قیامت آسمان سے تشریف لانا مرزائی یقینی سمجھتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے، کہ اس کے متعلق حدیثیں بھی صحیح موجود ہیں، اختلاف کا عذر محض نہ ماننے کا بہانہ ہے، ورنہ ان احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا اتحاد ہے، کسی شخص کی نظر میں تضاد نہیں، اگر کسی مرزائی کو نظر آتا ہے تو بالتفصیل واضح کرے،

مسیحؑ اور مہدیؓ ایک نہیں، دو ہیں

"مرزائی" مسیح اور مہدی ایک ہیں، اس لئے کہ آنحضرت نے جہاں آخری زمانے کے مصلح کا ذکر فرمایا، وہاں پر صرف مسیح کا ذکر آتا ہے اور مہدی کا ذکر تک نہیں، فرماتے ہیں، کَیْفَ تَہْلِکُ اُمَّۃٌ اَنَا اَوَّلُہَا وَعِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ اٰخِرُہَا۔ اگر حضرت امام مہدی کوئی علیحدہ وجود ہوتے تو ان کا بھی ذکر فرماتے، پس معلوم ہوا، کہ دونوں ایک وجود ہیں،

"محمد عمر" توحید کے قائل یعنی صرف ایک خدا کو ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں، جنکو مسلمان کہا جاتا ہے، اور تثلیث کے قائل بھی موجود ہیں، وہ عیسائی نام سے موسوم ہیں، جو اقانیم ثلاثہ سے مرکب ایک خدا سمجھتے ہیں، آج مرزائیوں کو دیکھا اور سُنا، کہ تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی دونوں کا ایک وجود ہے، پہلے ہم مسلمان صلیبیوں کو مذاق کیا کرتے تھے، کہ تین کا ایک تین بھی ہو اور ایک بھی، یہ ایک ایسا معمہ ہے، جس کو آج تک نہ عیسائی خود سمجھ سکے اور نہ کسی دوسرے کو سمجھا سکے، کیونکہ اعداد تین اور عدد ایک میں تباین ذاتی ہے، مجموعہ اعداد ثلاثہ من حیث ھی واحد نہیں کہلا سکتا، اور واحد بالذات ثلثۃ کا مصداق نہیں، چونکہ مرزائیت عیسائیت سے ماخوذ ہے، اس واسطے ایک درجہ ان سے کم رہے، کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک

marfat.com

بیان کی ہیں۔ مستقل ان کا نام امام مہدی نہیں، جنکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اس کا نام محمد اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور سید ہوگا، مغل نہیں ہوگا، اور اگر یہاں مہدی کا لفظی ترجمہ نہ سمجھو گے تو تمہیں کئی مہدی تسلیم کرنے پڑینگے۔ سنیئے۔

ابن ماجہ ۵ ترمذی شریف ۲/۹۲

سَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِیْ اِخْتِلَافًا شَدِیْدًا فَعَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَسُنَّۃِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنَ۔
میرے بعد تم جلدی سخت اختلاف دیکھو گے، تو تم پر میری سنت اور خلفاء الراشدین المہدین کی سنت لازمی ہے۔

کیا یہاں ہر ایک خلیفہ امام مہدی کا عین کہا جائے گا، یا علیحدہ علیحدہ وجود سمجھو گے۔ کچھ سوچ کر تو بات کرتے۔

معلوم ہؤا، کہ مہدی کا لفظ لغت میں کئی جگہ مستعمل ہؤا ہے، تو لغت کی اور جگہ لفظ مہدی کا صفاتی استعمال ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مقرر کردہ اسم سید محمد بن سید عبداللہ شاہ صاحب امام مہدی کے مسمّیٰ کو معدوم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لغوی مہدی کے استعمال سے کوئی امام مہدی علیہ السلام کے مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ امام مہدی سید محمد بن سید عبداللہ شاہ صاحب بفرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیدا ہونگے اور ایسے ہی عمل کرینگے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق فرمایا، مرزائی صاحبان کا چونکہ ہر بات کو اُلٹ سمجھنا اور بیان کرنا اُن کا بنیادی عقیدہ ہے، لہذا ان کو اس میں بھی معذور سمجھنا چاہیئے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ترمذی شریف ۲/۱۰۷

اَنَا مُحَمَّدٌ اَنَا اَحْمَدُ (صلی اللہ علیہ وسلم)
میرا نام ہی محمد ہے اور میرا نام ہی احمد ہے، یعنی میرے ایک وجود کا نام ہی محمد اور احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحدہ کے اسمین شریفین اللہ تعالیٰ نے

marfat.com

"مرزائی"۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو مہدی بھی قرار دیا ہے، جیسے فرمایا، یُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يلقى عيسى ابنَ مريم اماماً مهدياً وحكماً عدلاً۔ عیسیٰ بن مریم جو امت کے موعود ہیں، وہ امام مہدی ہی ہونگے۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب آپ تو عیسیٰ بن مریم کے قرب قیامت تشریف لانے کو اچھی طرح جانتے ہو، صرف تغزنہ بازی میں اپنی ہرٹ پر اڑے ہوئے ہو، جو تم نے پہلے حدیث پیش کی، اس میں بھی صاف عیسیٰ ابن مریم آخرھا کہ اس امت کے آخیر عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، اور اس مذکورہ بالا حدیث میں بھی حیات عیسیٰ بن مریم کے صاف الفاظ موجود ہیں، اور ہر عربی دان سمجھ سکتا ہے، یلقیٰ صیغہ مضارع کا ہے، جو زمانہ استقبال کی ملاقات کو ثابت کر رہا ہے، پورا ترجمہ تم نے کیا ہی نہیں، کہ ایسا نہ ہو، کہ امام مہدی کے انکار سے کہیں حیات عیسیٰ بن مریم اور ان کا قرب قیامت امت کے آخیر میں آسمان سے تشریف لانا ثابت ہو جائے، لیکن کوئی عقل کا اندھا اور ایمان سے خالی ان حدیثوں کو دیکھ پڑھ کر انکار کردے تو کرے، لیکن تھوڑے سے شعور و ایمان رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ حدیث صاف حیات عیسیٰ علیہ السلام اور آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کر رہی ہے، حدیث تم نے پڑھی ہے، لیکن ترجمہ تمام عبارت کا نہیں کیا، لہٰذا فقیر ترجمہ کرتا ہے،

قریب ہے تم زندہ مسلمانوں سے کوئی ملاقات کریگا، عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا امام ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، حاکم ہوگا، منصف ہوگا،

کیوں جناب ؟ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی زبردست حدیث تمہارے ہی وکیل صاحب نے پیش کردی، اتنو ایمان لے آئیے، باقی رہا وکیل صاحب کا فرمانا کہ عیسیٰ بن مریم امام مہدی ہی ہونگے، صراحتہً دھوکا دہی ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی چار صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں،

(۱) امام (۲) مہدی (۳) حاکم (۴) عادل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات

marfat.com

عَلٰی مَمَرِّ الْاَعْصَارِ اَنَّہٗ لَابُدَّ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ مِنْ ظُھُوْرِ رَجُلٍ مِّنْ اَھْلِ الْبَیْتِ یُؤَیِّدُ الدِّیْنَ وَیُظْھِرُ الْعَدْلَ وَیَتْبَعُہُ الْمُسْلِمُوْنَ وَیَسْتَوْلِیْ عَلَی الْمَمَالِكِ الْاِسْلَامِیَّۃِ وَیُسَمّٰی بِالْمَھْدِیِّ وَیَکُوْنُ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَمَا بَعْدَہٗ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَۃِ الثَّابِتَۃِ فِی الصَّحِیْحِ عَلٰی اَثَرِہٖ وَاَنَّ عِیْسٰی یَنْزِلُ مِنْ بَعْدِہٖ یَقْتُلُ الدَّجَّالَ۔

تمام اہل اسلام میں یہ مشہور ہے کہ آخیر زمانہ میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک سیّد کا ظہور ہوگا جو دین کی تائید کریگا، اور عدل کو ظاہر کریگا اور تمام مسلمان اس کے متبع ہوں گے اور وہ تمام ممالک اسلامیہ پر غالب ہوگا اور مہدی کے نام سے موسوم ہوگا اور اس کے بعد دجّال کا خروج ہوگا، جو ساعۃ ثانیہ کی علامات سے ہوگا اور بے شک اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاوینگے۔

اس عبارت ابن خلدون سے تین امور واضح ہوئے۔

(۱)۔ آخیر زمانہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور،

(۲)۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ علیحدہ وجود، امام مہدی علیہ السلام کا قبل از دجّال تشریف لانا اور دجّال کو قتل کرنا۔

(۳)۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا، یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ یہ ہے ابن خلدون جس کے کہے آپ نے تمام احادیث صحیحہ کو ٹھکرا دیا تھا، یہ اس کی تحقیق ہے، اور فیصلہ کی صورت میں اب بھی اگر تم امام مہدی کے وجود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ نہ سمجھو گے تو تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مار اور اگر پھر بھی نہ سمجھو تو بہ تحریر ابن خلدون جمیع اہل اسلام کی جماعت سے خارج ہو جاؤ گے، اب تم سوچو کہ اسلام میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ اگر امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق جو صحاح میں وارد ہیں۔ جو ابھی تشریف لائے نہیں تشریف لانے والے ہیں قبل از حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام میں داخل ہو جائے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار تمہیں خود درست کریگی؛

marfat.com

نے بھی مقرر فرمائے، تو مرزائی نے ان دو اسماء مقررہ لذات واحدہ کو ایک وجود کے لئے نہ سمجھا، بلکہ ایک مقرر شدہ وجود کے ساتھ ایک دوسرا وجود گھڑ کر مقرر کرلیا، کہ نام دو ہیں، تو وجودین کا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے، تو احمد سے مراد غلام احمد قادیانی کہدیا اگر مرزا غلام احمد قادیانی تمام انبیاء علیہما السلام کے نام اپنے لئے جھوٹے مقرر کرلے تو یہاں کئی وجودوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مرزا صاحب کے لئے ہی یہ نام پیٹنٹ کرلئے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لفظ کئی وجودوں پر استعمال فرمایا، لیکن سید محمد بن سید عبداللہ علیہما السلام کے لئے امام مہدی کا لفظ پیٹنٹ فرمادیا، تو مرزائی نے اس علیحدہ اور مستقل وجود کے پیٹنٹ علم کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل کر کے امام مہدی سید محمد علیہ السلام جن کی خوشخبری مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ بیان فرمائی، کو معدوم کرنے کی کوشش کی، بھلا جن مستقل وجود کی اطلاع مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اسم مقرر فرمایا تو وہ کب خطا ہونے والا ہے انشاء اللہ تعالےٰ ایسا ہو کر ہی رہے گا، امام مہدی علیہما السلام کی حدیثیں اور بیان مستقل علیحدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان علیحدہ فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھیئے، کہ کسی کا نام اگر کریم ہو، تو کیا اس کو معاذ اللہ خدا سمجھ لیا جاوے گا، کلاّ وحاشا تمہارا استدلال ہی غلط ثابت ہؤا۔

"مرزائی"۔ یہ جو تم مستقل حدیثیں امام مہدی کے متعلق بیان کرتے ہو، ان کو ابن خلدون نے مجروح کہا ہے، اور صحیح حدیث میں لا مھدی الا عیسیٰ موجود ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہے، تم پھر بھی امام مہدی کی علیحدہ ہی رٹ لگاتے ہو۔

"محمد عمر"۔ آہ آ، آہ آ، وکیل صاحب ابن خلدون کی طرف پلٹے یا غَیٰبَتِ الْجُبِّ میں گر گئے، کیونکہ ابن خلدون نے ایک ایسی بات بیان کی ہے کہ جس نے مرزائیت کی جڑ کاٹ کر رکھدی۔

ابن خلدون ۱/۲۶۰	اَنَّ الْمَشْهُوْرَ بَیْنَ الْکَافَّةِ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ

marfat.com

مسیح کا کام:- تُفِیْضُ الْمَالَ وَلَیَدْعُوَنَّ اِلَی الْمَالِ
مہدی کا کام:- یَقْسِمُ الْمَالَ - وَیَعْمَلُ فِی النَّاسِ بِسُنَّۃِ نَبِیِّہِمْ. پس معلوم ہؤا، کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود ہے۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب نرالا مذہب دیکھا تو بس تمہارا، ایک کو چاہو، تو دو بنا دو، اور چاہو تو دو کو ایک بنالو، تمہارے مذہب مرزائیت میں اتنا سوچنے والا کوئی نہیں، کہ یہ کیا ہتھکنڈا کھیلا جا رہا ہے، تم نے تو وکیل صاحب اپنے سابقہ دعویٰ کے برخلاف نزول مسیح کی حدیثیں لکھنی پڑھنی شروع کر دیں سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں یَنْزِلُ بَیْنَ مَھْرُوْذَتَیْنِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں آسمان سے اُتریں گے۔

کیوں جی مرزائیو؟ اب تو تمہارے وکیل صاحب نے کئی حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کی خود ہی لکھ پڑھ دیں، جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے، اب تو نزول مسیح من السماء پر ایمان لا کر مسلمان بن جائیے. کیونکہ وکیل صاحب رقم طراز ہیں، کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وجود ہے، لیکن تفریق وجودین خود ہی کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس حدیث کا جملہ پڑھ دیا، جو نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کر رہا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے نزول کا ایک جملہ بھی بیان نہیں فرمایا، رہے اور نہ ثابت کر سکتے ہیں، تو دونوں میں مطابقت نہیں ہو سکی چہ جائیکہ وجود ایک ثابت ہو سکتا. کجا نزول سماوی، کجا خروج ارضی اور کجا لباس عیسیٰ علیہ السلام مُھْرُوْذَتَیْنِ زرد چادروں میں ملبوس اور کجا نطوفی عبائیں یعنی نطوفی جُبے۔ ملاحظہ ہو۔

المنجد ۵۰۲ | اَلْعَبَاءَۃُ کِسَاءٌ مَفْتُوْحٌ مِنْ قُدَّامٍ یُلْبَسُ فَوْقَ الثِّیَابِ

وکیل صاحب کو آج تک اس مذہب نے جُبے اور چادر کی تمیز نہیں سکھائی. تو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تفریق کیسے معلوم کر سکیں، جن کے اسماء سے ہی ثبوت بیّن ہے. اور لباس سے تو اظہر من الشمس ہے جیلے نفر آپ

maktabah.org

لَامَھْدِیَ اِلَّاعِیْسٰی کی روایت کے متعلق ابن خلدون رقم طراز ہیں:-

ابن خلدون
۱/۲۶۹

وَقَالَ الْبَیْھَقِیُّ تَفَرَّدَ بِہٖ مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ وَقَالَ الْحَاکِمُ فِیْہِ اَنَّہٗ رَجُلٌ مَجْھُوْلٌ وَاخْتُلِفَ فِیْ اَسْنَادِہٖ .... قَالَ الْبَیْھَقِیُّ فَرَجَعَ اِلٰی رِوَایَۃِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَھُوَ مَجْھُوْلٌ عَنْ اَبَانِ بْنِ عَیَّاشٍ وَھُوَ مَتْرُوْکٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَھُوَ مُنْقَطِعٌ وَبِالْجُمْلَۃِ فَالْحَدِیْثُ ضَعِیْفٌ مُضْطَرِبٌ وَقَدْ قِیْلَ فِیْ اَنْ لَّا مَھْدِیَ اِلَّا عِیْسٰی اَیْ لَا یَتَکَلَّمُ فِی الْمَھْدِ اِلَّا عِیْسٰی ۔

اور بیہقی نے کہا ہے، کہ اس حدیث لَامَھْدِیَ اِلَّا عِیْسٰی میں محمد بن خالد اکیلا آدمی ہے اور حاکم نے محمد بن خالد کو مجہول کہا ہے اور اس کی اسناد میں اختلاف ہے، بیہقی نے کہا ہے کہ محمد بن خالد کی روایت اور وہ بھی مجہول ہے، ابان بن عیاش سے اور وہ متروک ہے روایت حسن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ منقطع ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، مضطرب ہے، اور بعض نے لَامَھْدِیَ اِلَّا عِیْسٰی کے معنی بیان کئے ہیں، کہ مہد میں نہیں کلام کرینگے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔

کیوں جناب! یہ ہے فیصلہ ابن خلدون کا، تم ایمان لاؤ یا نہ، لطف یہ ہے کہ تم جس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہو، وہی تمہارے خلاف لکھتی ہے، فقیر کے ذمے صرف بیان کرنا ہے، ابن خلدون سے بھی ثابت ہوگیا، کہ تمام اہل اسلام کا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اجماع امتِ محمدیہ ہے، کہ وہ قبل از دجال تشریف لاوینگے، اور بعد از ظہور دجال حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام آسمان سے اُترینگے۔

"مرزائی"۔ دونوں کے ایک حلیہ ہونے سے ظاہر ہے، کہ وجود بھی ایک ہی، مثلاً مسیح علیہ السلام کا حلیہ یَادَ ارَجُلٌ اٰدَمُ کَاَحْسَنِ مَا یُرٰی مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ اور مہدی کا حلیہ اٰدَمُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ۔

مسیح کی حالت نزول:- یَنْزِلُ بَیْنَ مَھْرُوْذَتَیْنِ۔

مہدی کی حالت نزول:- عَلَیْہِ عَبَاءَتَانِ قُطْوَانِیَّتَانِ کَاَنَّہٗ مِنْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ

marfat.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ لَاتَذْھَبُ الدُّنْیَا حَتّٰی یَمْلِکَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ اَھْلِ بَیْتِیْ یُوَاطِئُ اِسْمُہٗ اِسْمِیْ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہ فنا ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک آدمی میرے اہلبیت سے میرا ہمنام ہوگا۔

آیت نمبر ۲ سے ثابت ہو رہا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اسی لئے ابن مریم سے نسب بیان کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر مس رجل محض والدہ کے بطن سے۔ آیت نمبر (۱) بھی ثابت کر رہی ہے، اور ان کی والدہ کا تمام عمر مس رجلی سے مبرا ہونا بھی اظہر من الشمس واضح ہو رہا ہے۔ تو ثابت ہوا، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیحدہ ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی نسب ان سے علیحدہ ہے، جو حدیث نمبر (۲) سے واضح ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ امام مہدی بنی فاطمہ رضی سے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو چکی، جو ابھی فوت نہیں ہوئے، اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی قبل قیامت انشاء اللہ ہو گی، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، کہ میرے بعد امام مہدی علیہ السلام کو وجود عیسوی میں مدغم سمجھنے والے اور مدعی مہدی بھی پیدا ہونگے، اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا نام بھی محمد اور ان کے باپ کا نام بھی عبد اللہ ارشاد فرما دیا تاکہ کوئی شک و شبہ ہی نہ رہ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث کئی مقامات پر مذکور ہے، مثلاً مسند امام احمد حنبل ۱/۳۷۶، ترمذی شریف ۲/۴۶، کنز العمال ۷/۱۸۶،

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اسم محمد بن عبد اللہ ہونے میں یہ متفق حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم و احادیث صحیحہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام عیسیٰ بن مریم ثابت ہے، اب اسمی اور نسبی امتیاز سے بھی اگر کسی کو دونوں کے وجودین سمجھنے میں مرزائیت حائل ہو جائے، تو یہ تلبیس قرآن و حدیث میں موجود نہیں، بلکہ مرزائی کو اپنے آقا کی تقلید مجبور کر رہی ہے۔ میں اب دنیائے مرزائیت کو چیلنج دیتا ہوں کہ:۔

marfat.com

کو دونوں وجودوں کے علیحدہ علیحدہ رُخ دکھا دیتا ہے۔ سُن لو، ایمان لانا یا نہ لانا یہ تمہارے اختیار ہے یا خداوند کریم کے اختیار ہے۔

مسیح اور مہدی اسلام میں

حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی نسب

(۱)۔ تحریم ۲۸/۲	وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِیْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

اور عمران کی بیٹی مریم وہ جس نے اپنے رحم کو (زجولیت) اسے پاک رکھا۔

(۲) نساء ۶/۲۳	اِنَّمَا الْمَسِیْحُ عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلُ اللّٰہِ۔

اور کوئی بات نہیں مسیح عیسیٰ بیٹا مریم اللہ کا رسول ہے۔

امام محمد مہدی علیہ السلام کی نسب

(ا) ابوداود ۲/۲۴۰، کنز العمال ۷/۱۸۶	عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ الْمَھْدِیُّ مِنْ عِتْرَتِیْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ۔

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا، فرماتے تھے امام مہدی میری عترۃ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالےٰ عنہا سے ہوگا۔

(۲)۔ ابوداؤد ۲/۲۳۹	اِسْمُ اَبِیْہِ اِسْمُ اَبِیْ۔ اس کے باپ کا

نام میرے باپ کا نام ہوگا۔

ترمذی شریف ۲/۴۶	(وَمَا جَاءَ فِی الْمَھْدِیِّ) عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ قَالَ

marfat.com

نا بجلۃ -

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ سچ ہے اور امام مہدی بنی فاطمہ سے ہونگے، سید صاحب کو عوامی بناتے ہو، کچھ شرم کرو۔

کیوں جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام مہدی علیہ السلام کو بنی فاطمہ سے پیدا ہونا حق اور سچ فرمادیں، اور تم مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی قرار دے دو، تو تمہارے عقیدہ کے مطابق تو امام مہدی علیہ السلام بھی گذر چکے، جیسا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تصور کرتے ہو، تو حضرت امام سید محمد مہدی علیہ السلام کا بنی فاطمہؓ سے پیدا ہونیکا کیا مطلب بگاڑ دو گے، کچھ سوچ کر تو بات کیا کرو۔

اِنعَام

ایک روپیہ نقد انعام اس مرزائی کو دیا جائیگا، جو قبل از ولادت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام محمد ثابت کردے، جب نہیں تو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا آپ کی امت سے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مستقل تسلیم کرلو، جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے۔

حُلیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام

ابوداؤد ۲/۲۴۴	اَلْمَهْدِیُّ اَجْلَی الْجَبْهَةِ اَقْنَی الْاَنْفِ۔ امام مہدی فراخ ماتھے والے ہونگے اور اونچے ناک والے۔
کنز العمال ۷/۱۸۶	اَلْمَهْدِیُّ رَجُلٌ مِّنْ وَّلَدِیْ وَجْهُهٗ کَالْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ۔ مہدی میری اولاد کے آدمی سے پیدا ہو گا۔ اس کا چہرہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہو گا۔
کنز العمال ۷/۱۸۷	قِیْلَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اِمَامُ النَّاسِ یَوْمَئِذٍ قَالَ مِنْ وَّلَدِیْ اِبْنُ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً کَاَنَّ وَجْهَهٗ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ فِیْ خَدِّهِ الْاَیْمَنِ

marfat.com

مبلغ پچاس ۵۰ ہزار روپیہ نقد انعام

اُس شخص کو دیا جائیگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام محمد بن عبد اللہ قرآن اور حدیث سے دکھا دے، ورنہ خدا سے ڈرے، جس نے ہر ایک سے اپنے ذرہ ذرہ فرمان کا حساب لینا ہے۔

"مرزائی"۔ بعض حدیثوں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے امام مہدی کا ہونا ثابت ہے۔ لہذا تعارض حدیثین سے حکم ساقط ہوگیا۔

"محمد عمر" سبحان اللہ! مرزائی صاحب تعارض تب ہوتا، جب ایک حدیث سے وجودِ مہدی کا ثبوت ملتا اور دوسری حدیث سے اس کا عدم ثابت ہوتا، تم بیچارے تعارض کو کیا جانو، باقی رہا آپ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا فرمانا، تو یہ صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبائن، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت جانبین سے ہوگی، جیسا کہ عوام الناس انسانوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ برخلاف پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے جب تک زوجین جمع نہ ہونگے، ولادت مہدی علیہ السلام نہ ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی دونوں نسبوں کا ذکر فرمایا، کہ امام مہدی علیہ السلام بنی فاطمہ اور بنی عباس کے وصل سے پیدا ہوں گے، تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی نسب جہتین سے صحیح ثابت ہو جائے، اور عربی گھوڑی پر گدھا ڈالکر خچر کا پیدا ہونے والی نسب کی نفی کا ثبوت دیدیا۔ فافھم۔

امام مہدی علیہ السلام کا علیحدہ وجود حق ہے

مستدرک جلد ۴ ۵۵۷	اُمِّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ يَذْكُرُ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ

marfat.com

(۸) ۔ مشرکوں کے کئی شہروں کو فتح بھی کریں گے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکین سماوی و ارضی، روئے زمین کے کافر بادشاہ کو باب لُد کے درمیان قتل کرکے قابض ہوں گے ،

(۹) ۔ حضرت سلطان الاولیا کے سر کے بالوں کا ذکر نہیں اور (حضرت مسیح علیہ السلام کے سر کے بال لمبے کندھوں کے درمیان لٹکے ہوں گے ۔

(۱۰) ۔ حضرت شاہ صاحب قوماً سادات سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ السلام بنی اسرائیل سے ہیں ،

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

ان عشرہ امور کے مجموعہ احادیث شریف سے سید امام محمد مہدی شاہ صاحب بن عبداللہ شاہ صاحب کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ وجود ثابت ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اُن کے بعد قرب قیامت علیحدہ اُن سے علیحدہ ثابت ہے ، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کا حُلیہ

بخاری شریف ۱ / ۴۸۹

فَقَالَ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ ۔

تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی) میانہ قد ، بہت سُرخ رنگ والے ، گویا کہ حمام سے نکلے ہیں ۔

(ایضاً) وَاَرَانِي اللَّيْلَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَاِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَاَحْسَنِ مَا تَرٰى مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهٗ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهٗ مَاءً ۔

خداوند نے خواب میں مجھے رات کعبے کے پاس دکھایا ، تو اچانک ایک آدمی گندم گون رنگ والا تمام گندم گون آدمیوں سے بڑا خوبصورت دکھائی دیتا تھا ، لمبے بالوں والا ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے ۔ آپ کے سر سے

marfat.com

خَالٌ اَسْوَدُ عَلَيْهِ عَبَايَتَانِ قُطْوَانِيَّتَانِ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ يَمْلِكُ عَشْرَ سِنِيْنَ يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوْزَ وَيَفْتَحُ مُدُنَ الشِّرْكِ۔

عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جب مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہوگی) تو اس دن لوگوں کا امام کون ہوگا، آپ نے فرمایا میری اولاد سے چالیس سالہ جوان ہوگا، جس کا چہرہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوگا اور اس کے دائیں رخسارہ پر سیاہ تل ہوگا، اور اس کے اوپر دو قطوانی جبے بنی اسرائیل کے آدمیوں جیسے ہونگے، دس سال حکومت کریگا، خزانے نکالے گا، اور مشرکین کے شہروں کو فتح کریگا۔

اس حدیث شریف سے دس مسائل ثابت ہوئے۔

(۱)۔ سید امام محمد مہدی علیہ السلام اُمت محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشوا ہونگے، یعنی پیران عظام کی جماعت سے ہونگے۔ لیکن (حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشتر رسول ہونگے)،

(۲)۔ چالیس سالہ جوان ہونگے، لیکن (حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول تینتیس برس کے ہونگے)۔

(۳)۔ پیر محمد مہدی شاہ علیہ السلام بن عبداللہ کا رُخ انور ستارے کی طرح چمکے گا، (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک گندم گون ہوگا۔

(۴)۔ حضرت قدوۃ السالکین سید امام محمد مہدی شاہ علیہ السلام کا امتیازی نشان دائیں رُخسارہ مبارک پر سیاہ تل ہوگا، لیکن (وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روئے مبارک صاف تازہ دُھلا ہؤا ہوگا)۔

(۵)۔ زبدۃ العارفین امام محمد مہدی علیہ السلام کی لباسی خصوصیت (دو قطوانی جبے بنی اسرائیل کی طرح اوڑھے ہونگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدیمی لباس دو زرد چادریں ہونگی)۔

(۶)۔ حضرت امام طریقت سید محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت دس سال تک ہوگی، (حضرت ابن مریم علیہما السلام کی حکومت چالیس سال ہوگی،

(۷)۔ حضرت خلیفۃ اللہ المہدی علیہ السلام زمین سے خزانے نکالیں گے، اور لوگوں میں تقسیم کرینگے، (حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں رزق عام ہوگا، صدقہ لینے والا کوئی نظر نہ آئیگا)۔

marfat.com

بے شک میری اُمّت میں محمد مہدی پیدا ہو گا۔

(۲)۔ کنز العمال ۷/۱۸۶	اَلْمَهْدِیُّ مِنْ عِتْرَتِیْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد مہدی فاطمہ کی اولاد میری عترۃ سے ہو گا۔
(۳)۔ کنز العمال ۷/۱۸۹ مستدرک ۴/۵۵۸ ابن ماجہ ۳۰۹ مسند امام احمد حنبل ۳/۲۱	یَکُوْنُ فِیْ اُمَّتِی الْمَهْدِیُّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت میں محمد مہدی پیدا ہو گا
(۴)۔ کنز العمال ۷/۱۸۸	یَخْرُجُ الْمَهْدِیُّ فِیْ اُمَّتِیْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد مہدی میری اُمت میں ظاہر ہو گا۔
(۵)۔ ترمذی شریف ۲/۴۶	اِنَّ فِیْ اُمَّتِی الْمَهْدِیَّ یَخْرُجُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک محمد مہدی میری اُمت میں سے نکلے گا۔
(۶)۔ ابوداؤد ۲/۲۳۹	یَبْعَثُ اللّٰهُ رَجُلًا مِّنِّیْ اَوْ مِنْ اَهْلِ بَیْتِیْ مبعوث فرماوے گا اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو۔
(۷)۔ ابوداؤد ۲/۲۴۱	قَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَنَظَرَ اِلٰی ابْنِهٖ الْحَسَنِ یَقُوْلُ اِنَّ ابْنِیْ هٰذَا سَیِّدٌ کَمَا سَمَّاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ... خ مِنْ صُلْبِهٖ رَجُلٌ یُسَمّٰی بِاسْمِ نَبِیِّکُمْ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہٗ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف

marfat.com

یانی کے نطفے سے گردہ سے تھے۔

کیوں جی وکیل صاحب۔ تم دونوں کی رنگت ایک کہہ رہے تھے، حالانکہ حدیثوں میں دونوں کے حُلیے علیحدہ علیحدہ موجود ہیں، جو ثابت کئے گئے۔ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْن ضرور سنیئے:۔

امام المحدثین حاکم صاحب مستدرک ۴/۵۴۳ پر نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء کا باب علیحدہ مقرر فرمایا ہے۔ ایسے ہی کنز العمال ۷/۱۸۹ پر خروج المہدی کا باب لکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خروج کی حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور کنز العمال ۷/۲۰۲ پر نزول عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصَّلوٰۃ والسلام کا باب مقرر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کی حدیثیں علیحدہ درج فرمائی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ترمذی شریف میں ۲/۴۶ پر مَاجَاءَ فِی الْمَھْدِی علیحدہ لکھا ہے اور اسی صفحہ پر باب مَاجَاءَ فِی نُزُوْلِ عِیْسَی بْنِ مَرْیَمَ علیحدہ تحریر کر کے حدیثیں علیحدہ علیحدہ بیان فرمائیں، اور ابن ماجہ صفحہ ۳۰۹ پر خروج المہدی کا باب خصوصاً علیحدہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر دجالی فتنہ میں قاتل دجال ہونے کی حیثیت سے باب علیحدہ مقرر فرما دیا۔

جب تمام متقدمین محدثین لسنتہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید امام محمد مہدی شاہ صاحب علیہ السلام کے اوصاف علیحدہ بیان کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف علیحدہ بیان فرما دیں اُن کا نسب علیحدہ ان کا نسب علیحدہ لیکن تم مرزائی دو کو ایک ہی تصور کرتے ہو اگر دونوں میں علیحدگی نہ ہوتی، ایک ہی وجود ہوتے، تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج تک کوئی تم سے پہلے بھی ایک آدمی کہتا، اور اگر ایک ہی وجود ہوتے تو محدثین کو علیحدگی ابواب کی کیا ضرورت تھی؟ ہیں تو مرزائیوں کو اس میں مغالطہ سمجھو لگا، کیونکہ غیر نبی کو نبی قرار دینا ان کی دیرینہ عادت میں داخل ہے۔

حضرت امام سید محمد مہدی شاہ علیہ السلام سادات امتِ محمدیہ میں پیدا ہو کر ظاہر ہونگے

(۱)۔ کنز العمال ۷/۱۸۶ اِنَّ فِیْ اُمَّتِیَ الْمَھْدِیُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

marfat.com

رابن مریم۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم ضرور بالضرور عیسیٰ بن مریم اتریں گے۔

(۲)۔ بخاری شریف ۱/۴۹۰

اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا اَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ۔

بے شک ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا ایمان ہوگا، جب عیسیٰ بن مریم تم میں اُتریں گے۔

(۳)۔ مسلم شریف ۱/۸۷

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ضرور قریب ہی تم میں عیسیٰ بن مریم اُتریگا۔

(۴)۔ کنز العمال ۷/۲۰۲

لَيَهْبِطَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور اتریں گے۔

(۵)۔ ایضًا

يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيْ دِمَشْقَ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم دمشق کے سفید شرقی مینار کے پاس اُتریں گے

(۶)۔ مستدرک ۲/۵۹۵

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهْبِطَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا، ضرور اُتریگا، عیسیٰ بیٹا مریم کا۔

marfat.com

نگاہ اُٹھا کر فرمایا، کہ میرے اس بیٹے کو سید کے خطاب سے بولایا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، اور عنقریب اس کی پشت سے ایک آدمی پیدا ہو گا، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہو گا۔

اس حدیث سے ثابت ہؤا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے پیدا ہونے پر ایمان تھا۔

(۸)۔ کنز العمال ۷/۱۸۶ — وَاِذَا رَاَیْتُمُوا الرَّایَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَاْتُوْھَا فَاِنَّ فِیْھَا خَلِیْفَۃَ اللّٰہِ الْمَھْدِیْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سیاہ جھنڈیوں کو خراسان کی طرف سے دیکھو، کہ آرہی ہیں، تو تم ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ المہدی ہو گا۔

(۹)۔ کنز العمال ۷/۱۸۹ — فَیَبْعَثُ اللّٰہُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِیْ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ مبعوث کریگا ایک آدمی میری اولاد سے۔

(۱۰)۔ ابو داؤد ۲/۲۴۰ — عَنْ اُمِّ سَلْمَۃَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ الْمَھْدِیُّ مِنْ عِتْرَتِیْ مِنْ وُّلْدِ فَاطِمَۃَ۔

حضرت ام سلمہ رضؓ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا آپ نے فرمایا کہ مہدی میری عترت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہو گا۔

تِلْكَ عَشَرَۃٌ کَامِلَۃٌ

(حضرت عیسیٰ علیہ السّلام آسمان سے نازل ہونگے)

(۱)۔ بخاری شریف ۱/۴۹۰
(۲)۔ ترمذی شریف ۲/۴۶

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ اَنَّہٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاللّٰہِ لَیَنْزِلَنَّ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی سُن لیا، اب بھی اگر تمہاری تسلی نہ ہو، تو تمہیں خدا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ سے تسلی دے۔

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بوقت

نزول من السماء

مسلم شریف ۲/۴۰۱
ترمذی شریف ۲/۴۸

اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب بھیجے گا اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہما السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام اتریںگے دمشق کے سفید شرقی مینار کے پاس دو زرد چادروں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر۔

کیوں جناب وکیل صاحب! اب فرمائیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتوں کے سہارے کیوں اُتاریںگے، تاکہ آپ کا نزول من السماء ثابت ہو جائے۔ اور ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھنے کی قید بھی اسی واسطے لگائی، تاکہ ملائکہ کی اِس سماوی پرواز سے بھی ثابت ہو جائے، کہ ملائکہ اپنے پروں کے پرواز کی بل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم لدنی حاصل ہے، کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہونگے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ارضی تصور کریںگے اور ذی شعور بھی کہلائیںگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی ہیئت کذائیہ کو بیان فرماتے ہوئے آپ کے پرواز کا کوئی آلۂ ارضی کا ذکر نہیں فرمایا، یا آلۂ ہوائی کا ذکر نہیں کیا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ارضی کی طرف ذہن منتقل نہ ہو، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے، کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے الوداع کر کے کسی ہوائی طاقت کے سپرد کر دیں۔

marfat.com

(۷)۔ مسند امام احمد حنبل ۲/۴۳۷، مستدرک ۲/۵۹۵

اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ رُوْحَ اللّٰہِ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ نَازِلٌ

بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ روح اللہ عیسیٰ بن مریم تم میں اُترنےوالے ہیں،

اِس حدیث سے مطلب واضح ہوگیا عیسیٰ بن مریم جو روح اللہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہی پھر اُمت محمدیہ میں بفرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم اُترنے والے ہیں، اور سنیئے۔

(۸)۔ ابوداؤد ۲/۲۴۵

یَنْزِلُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ عِنْدَ الْمَنَارَۃِ الْبَیْضَاءِ شَرْقِیَّ دِمَشْقَ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ عیسیٰ بن مریم دمشق کے سفید شرقی مینار پر اُتریںگے،

(۹)۔ ابن ماجہ ۳۰۸

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَۃُ حَتّٰی یَنْزِلَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک حضرت عیسیٰ بن مریم نہ اُتریںگے۔

(۱۰)۔ مشکوٰۃ شریف ۴۸۰

عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَنْزِلُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ اِلَی الْاَرْضِ۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ بن مریم زمین کی طرف اتریںگے۔

(۱۱)۔ کنز العمال ۷/۲۶۸

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَعْنِدَ ذَالِکَ یَنْزِلُ اَخِیْ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ مِنَ السَّمَاءِ۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس اس وقت (قرب قیامت) میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اُتریںگے۔

کیوں جی مرزائی صاحب! اب تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی زبان سے۔

marfat.com

(حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بعد از قیام سلطنت)

کنز العمال ۷/۱۸۶ مستدرک ۴/۴۶۵ ترمذی شریف ۲/۴۶ ابن ماجہ ۳۰۹	اَلْمَهْدِيُّ يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ تِسْعًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی نکلے گا، زندگی گذارے گا پانچ سال یا سات سال یا نو سال۔
کنز العمال ۷/۱۸۹ وھکذا فی المستدرک ۴/۵۵۸	يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ الْمَهْدِيُّ اِنْ قَصُرَ عُمْرُهٗ فَسَبْعَ سِنِيْنَ وَاِلَّا فَثَمَانٍ وَاِلَّا فَتِسْعَ سِنِيْنَ۔

ان دونوں حدیثوں کی پہلی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متفقہ فیصلہ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی سلطنت یعنی بعد نزول من السماء چالیس سال ہوگی۔ اور دوسری دونوں حدیثوں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی میعاد سلطنت پانچ سے نو سال ہے، جبکہ یعنی ابتداء دسویں سال تک مہدی کی سلطنت کا اختتام ہوگا، ثابت ہوا پھر فوت ہو جائیں گے۔

کیوں جناب وکیل صاحب! احادیث صحیحہ سے باتفاق رائے سید امام مہدی اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کی میعاد سلطنت کے قیام میں بھی بون بعید ہے، لیکن تم مرزائیوں کا دماغ کس قدر ضلالت میں مستغرق ہے، جو حضرت عیسٰی علیہ السلام اور امام

marfat.com

جو زمین تک پہنچا دے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ کے ذریعے طے فرماتے، تو بھی بدلیل بذا ذہن میں نزول ارضی ہی سماتا، بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے پرواز سماوی کے آلہ خصوصی فرشتے کو زمین تک متعین فرمایا، تاکہ نزول من السماء الی الارض حق الیقین کے درجہ سے کم نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سماوی کو مدلل کر کے وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فرمایا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سننے کے بعد بھی کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء الی الارض کے متعلق شک ہو، تو اس کا ایمان بلاشک فی الشک ہے، اور وہ قرآن وحدیث سے منحرف ہے۔

آیئے! حضرات مرزائیہ حیات مسیح اور نزول من السماء الی الارض کے قائل ہو جاؤ، تمہاری ہی تسلی کے لئے رب العزۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ کو جو معین سماء ہیں، ارسال فرما دینگے، لیکن پھر بھی اگر تمہاری تسلی نہ ہو، تو تمہیں خداوند ہدایت نصیب فرمائے۔ اور حجاب مرزائیت تمہیں ذرا سی بھی فرصت دے۔ تاکہ حق وباطل کی تمیز کر سکو۔ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔

بعد از نزول مِنَ السَّمَاء قیامِ ارضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام

كنز العمال ۷/۱۹۷، ۷/۲۰۲، ۷/۲۰۳ — ابو داؤد ۲/۲۴۶ — البدایہ والنہایہ ۲/۹۹

فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفّٰى فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام (بعد از نزول من السماء) پھر زمین میں چالیس سال قیام فرمائینگے، پھر فوت ہونگے تو انپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نماز جنازہ پڑھینگے۔

marfat.com

امام مہدی علیہ السّلام کے زمانے کی مالی حالت

کنز العمال ۷/۱۸۸، کنز العمال ۷/۱۸۹، وفی المستدرک ھکذا ۴/۵۵۸

تَنْعَمُ اُمَّتِیْ فِیْ زَمَانِہٖ نَعِیْماً لَمْ یَنْعَمُوْا مِثْلَہٗ قَطُّ اَلْبَرُّ مِنْھُمْ وَالْفَاجِرُ یُرْسَلُ السَّمَاءُ عَلَیْھِمْ مِدْرَاراً وَلَا تَدَّخِرُ الْاَرْضُ شَیْئاً مِّنْ نَبَاتِھَا وَیَکُوْنُ الْمَالُ کُدُوْساً یَقُوْمُ الرَّجُلُ فَیَقُوْلُ یَا مَھْدِیُّ اَعْطِنِیْ فَیَقُوْلُ خُذْ ۔

امام مہدیؑ کے زمانہ میں میری امت مالدار ہوگی، اتنی مالدار کہ ایسے کبھی مالدار نہ ہوگی، بر و فاسق کی حالت یکساں ہوگی، ان پر آسمان ایسی موسلادھار بارش برسائیگا، اور زمین اپنے تمام نباتات کو ذخیرہ نہ رکھے گی، (بلکہ ہر قسم کے پھل نکالے گی اور مال ڈھیروں لگا ہوگا) سائل امام مہدی علیہ السلام کو کھڑا ہو کر سوال کریگا تو کہے گا، اے مہدی مجھے دے، تو امام مہدی علیہ السلام فرمائینگے لیلے ۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہؤا، کہ امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی نسبت مالدار ہوگی، اور بعد کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سے بھی فراخ آنیوالا ہے اور مال ڈھیروں لگا ہوگا، جیسا کہ آج کل منڈیوں میں غلہ کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو سوالی بھی ڈھیر دیکھ کر آ کھڑا ہوگا۔ تو امام محمد مہدی شاہ صاحب فرمائینگے لیلے ۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہؤا، کہ حضرت امام محمد مہدی شاہ علیہ السلام کے زمانہ میں کشائش رزق ہوگی، جو پہلے ایسی کشائش کبھی نہ ہوئی ہوگی، لیکن سوالی بھی موجود ہونگے، معلوم ہؤا، کہ یکساں کشائش رزق نہ ہوگی یعنی اتنا غنی نہ ہوگا کہ غریب نایاب ہو، امارت بھی ہوگی، اور غرباء بھی ہونگے، لیکن للاکثر حکم الکل کے لحاظ سے غریب رزق ہوگی، کیونکہ آپ کے زمانہ میں مانگت بھی موجود ہوں گے جیسا کہ مذکور ہو چکا، اور بھی سُن لیجئے:۔

ترمذی شریف ۲/۴۶، کنز العمال ۷/۱۸۶ و ۷/۱۸۸

فَیَجِیْءُ الرَّجُلُ فَیَقُوْلُ یَا مَھْدِیُّ اَعْطِنِیْ اَعْطِنِیْ قَالَ فَیَحْثِیْ لَہٗ فِیْ ثَوْبِہٖ مَا اسْتَطَاعَ اَنْ یَّحْمِلَہٗ ۔

marfat.com

مہدی علیہ السلام کے فرق کو نہیں پہچاننے نہیں دیتا اور فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانا سکھاتا ہے، اور سنیئے:۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تسلّط بغیر تلوار ہوگا

کنز العمال ۲۶۱/۷

وَتَدْخُلُ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ وَاَهْلُ الْحَرْبِ وَالرُّوْمُ وَغَيْرُهُمْ فِيْ طَاعَتِهٖ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ۔

اور داخل ہونگے عربی اور عجمی اور حربی اور رومی اور ان کے سوا مہدی کی اطاعت میں بغیر جنگ کے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہؤا کہ تمام روئے زمین کے انسان حضرت سید امام محمد مہدی شاہ علیہ السلام کی اطاعت میں بلاجنگ ہی داخل ہونگے، ان کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی نہ یہ کہ وہ جہاد کو ہی معاذاللہ حرام کہدینگے، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا تسلّط تلوار سے ہوگا

ترمذی شریف ۴۸/۲

يَقُوْلُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام دجال کو باب لُد میں قتل کرینگے۔

تو اس حدیث پاک سے ثابت ہؤا، کہ آپ قاتلِ دجال ہونگے،

ابو داؤد ۲۴۶/۲

يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ ...... وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ۔ پس جنگ کرینگے لوگوں کو اسلام پر...... اور اللہ تعالےٰ آپکے زمانہ میں سوائے اسلام کے تمام دینوں کو مٹادے گا، اس حدیث سے ثابت ہؤا کہ آپ

marfat.com

عیسٰی علیہ السلام) اتنا مال بہائینگے، کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا،

اِس حدیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہؤا، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ سید امام محمد مہدی شاہ علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ مالدار ہوں گے، کہ اُن کے زمانے میں مانگنے موجود ہونگے، لیکن زمانۂ عیسٰی علیہ السلام میں دینے والے ہی ہونگے لینے والا کوئی نظر نہ آئیگا،

کیوں جی وکیل صاحب! اگر تمہیں کلام مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانۂ مہدیت میں لوگوں کے اِعْطِنِیْ اِعْطِنِیْ پکار کر اپنی ناداری کا ثبوت دینا اور زمانۂ عیسوی کے لَا یَقْبَلُہٗ اَحَدٌ کا بین امتیاز نظر نہ آئے، تو تمہاری نظر و ایمان کا قصور ہے، نہ کہ حقیقت پوشیدہ ہے، وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنَ ۞

حضرت عیسٰی علیہ السّلام کا سیّد امام محمد مہدی شاہ علیہ السّلام سے اِمتیازی عمل

(۱)۔ مسلم شریف ۲/۴۰۱، ترمذی شریف ۲/۴۷، ابن ماجہ ۳۰۶، مشکوٰۃ شریف ۴۷۳

نَیَطْلُبُہٗ حَتّٰی یُدْرِکَہٗ بِبَابِ لُدٍّ فَیَقْتُلُہٗ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام دجال کو تلاش کرینگے حتٰی کہ بابِ لُدّ میں اس کو پالیں گے تو قتل کرینگے اُس کو،

(۲)۔ اَبُوْ دَاؤُد ۲/۲۴۵

فَیُدْرِکُہٗ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَیَقْتُلُہٗ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسٰی علیہ السلام دجال کو بابِ لُدّ کے پاس پائینگے تو اُس کو قتل کرینگے۔

(۳)۔ کنز العمال ۷/۲۰۲

لَیَقْتُلَنَّ ابْنُ مَرْیَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ۔

ضرور قتل کرینگے عیسٰی بن مریم دجال کو باب لُدّ میں

کیوں جناب وکیل صاحب! یہ ہے بڑا امتیازی عمل حضرت عیسٰی علیہ السلام کا جو قاتل دجال ہونگے۔ اور حضرت عیسٰی بن مریم علیہ السلام آسمان سے زمین پر قرب قیامت

marfat.com

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ پھر آئیگا سوالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس تو کہے گا اے مہدی مجھے دے، اے مہدی مجھے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام اس کو اتنا عطا کرینگے، کہ جتنا وہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑے کی گٹھڑی بنا کر اُٹھا سکتا ہو،

اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا، کہ محمد مہدی شاہ صاحب لوگوں کو مال گٹھڑیاں باندھ باندھ کر لٹائیں گے، لیکن پھر بھی مانگت آپ کے زمانے میں اعطنی اعطنی سے سوال کرینگے۔ اور ان کے بعد زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا،

"مرزائی" حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر ہوگا؟

"محمد عمر" جی ہاں! حدیث پاک میں موجود ہے۔ سنیئے:۔

کنز العمال ۷/۱۸۸ یَا عَمِّ النَّبِیِّ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی اِبْتَدَاءَ الْاِسْلَامَ بِیْ وَسَیَخْتِمُہٗ بِغُلَامٍ مِنْ وَلَدِکَ وَھُوَ الَّذِیْ یَتَقَدَّمُ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اے نبی کے چچے (عباس) اسلام میرے ساتھ شروع ہوا، اور عنقریب اس کو ختم کریگا تیری اولاد سے ایک لڑکا! اور وہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیگا۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، حضرت امام محمد مہدی شاہ صاحب علیہ السلام بفرمانِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں ظاہر ہونگے،

زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مالی حالت

بخاری شریف ۱/۴۰۹، ترمذی شریف ۲/۴۶، ابن ماجہ ۳۰۸، مشکوٰۃ شریف ۴۷۹، کنز العمال ۷/۲۰۲

وَیُفِیْضُ الْمَالُ حَتّٰی لَا یَقْبَلَہٗ اَحَدٌ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت

وکیل صاحب کیسے سادہ لوح ہیں، کہ کسی کو حاتم کہنے سے وہ تشبیہ الفاظی ہوتی ہے، یا دونوں کا وجود بھی ایک ہی ہو جاتا ہے، کبھی تو وکالت کو بالائے طاق رکھ کر ایمان کی بات سوچ لیا کرو۔

لہذا سیدا امام محمد مہدی شاہ صاحب بھی بنی فاطمہ وبنی العباس رضی اللہ تعالے عنہما کے خاندان سے بمطابق فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق پیدا ہونگے، اور وہی پہلے حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم علیہما السلام ضرور آسمان سے بمطابق فرمان الہی وارشاد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قرب قیامت تشریف لاوینگے، اور باب لُدّ کے قریب دجال کو ضرور قتل کرینگے، یہ حقیقت ہے، مجاز نہیں، اصل ہے نقل نہیں، دونوں حقیقۃً موجود فی الخارج ہونگے، ظل نہیں، ان دونوں کا منکر یا جعلی یا مکذب قرآن وحدیث ہے، قرآن وحدیث سچے ہیں پونے ۱۴ سو سال سے جو امت محمدیہ نے سمجھا ہے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ سب ایجاد بطل ہے۔

ابن مریم خواھد آمد قسم حق
بر زمیں نازل شود او از طبق
ابن مریم زندہ ہے حق کی قسم
آسماں سے نازل ہوگا لاجرم

وکیل صاحب حضرت قبلہ دعا السالکین اور فخر الاولیاء حضرت نعمت اللہ صاحب کی کلام پر اگر ایمان ہے تو سوانحمری مصنفہ معراجدین میں یہ شعر ملاحظہ فرمالیجیے ؎

مہدی وقت عیسیٰ دوران ہر دو را شہسوار مے بینم

اور سنیے! نعمت اللہ صاحب نے تو تمہارے مرزا صاحب کا نقشہ کھینچ دیا، فرمایا ؎

دو کس بنام احمد گمراہ کنند بے حد سازند از دل خود تفسیر فی القرآنہ

احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام مِنَ السَّمآء اور اُنکے اعمال

حدیث (۱)۔ بخاری شریف

(باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام)
حدثنا اسحٰق ان یعقوب بن ابراھیم ثنا ابی عن صالح عن ابن شھاب ان سعید

۱/۴۹۰

marfat.com

تشریف لاکر یہ تمام کام کرینگے. اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صیغے استقبال کے استعمال فرمائے، اور ان سے قبل حضرت سید امام محمد مہدی شاہ صاحب علیہ السلام خلیفۃ اللہ بھی اپنی اس مذکورہ ڈیوٹی کو بھگتا ئیں گے جس کی تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاکر فرمائینگے، یہ ہے امتیاز بین اور فرق وجود ین، جس میں تم نے غلط بیانی کرکے دونوں کو آسانی سے ہی ایک کہہ کر مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کی، جو فقیر نے اس کو مسلمانوں کے سامنے اظہر من الشمس بیان کردیا، اب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .

پھر تم نے آگے لکھا ہے. تشابہ صفات کی وجہ سے ایک شخص کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے سبحان اللہ وکیل صاحب! مثل مشہور ہے ؎

دروغ گو را حافظہ نباشد

ایک ہی صفحہ میں دو متضاد باتیں، پہلے فرماتے ہیں، کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے. پھر کہدیا کہ ایک کا نام تشابہ صفات کی وجہ سے دوسرے کو دیا جاتا ہے. کچھ سوچ کر تو بات کرتے اور پھر تم قانون بھی ایسا گھڑ لیتے ہو، جو عقلاً نقلاً محال ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے رؤف و رحیم فرمایا، اور اپنی صفات بھی رؤف رحیم بیان فرمائیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذاللہ اللہ کہ سکو گے. کیسی بھوں باتیں گھڑتے ہو، جو کلیہ ایجاد کرتے ہو، میرے یار الٹا ہی پڑتا ہے اور تمہارا دلیل پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لانتن صواحبات یوسف تو بہ طور توبیخ ہے، نہ برائے تمثیل، تمہارا برائے تمثیل بیان کرنا اسلام کے خلاف ہوگا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذاللہ دھبہ آئیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیو تم جہان کی بیبیوں جیسی نہیں ہو کچھ سوچ کر تو بات کیا کرو. اور پھر وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ سے ان کے بدلنے سے بھی منع فرمادیا. ثابت ہوا، کہ آپ کا لانتن صواحبات یوسف، یہ توبیخاً ہے تشبیھاً نہیں، خیر اس کو بھی مرزائیات میں شمار کرلونگا، تم ایمان درست کرلو، پھر تم نے تمثیلاً پیش کردیا، کہ کسی کو خطاب کیا جارہا ہے. کہ تو حاتم ہے. یا ابو حنیفہ ہے وغیرہا وغیرہا، تو ایک کو دوسرے کا نام دیا جاسکتا ہے.

marfat.com

صاحبان قرآنی آیت وحدیث بخاری شریف مرفوع کو محض مرزا صاحب کی اتباع میں ٹھکرا دو تو یہ اسلامی اصول کے برعکس ہے۔

حدیث (۲) بخاری شریف ۱/۴۹۰ حدثنا ابن بکیر ثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع مولی ابی قتادۃ الانصاری ان ابا ھریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا انزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم تابعہ عقیل۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تم ہوگے (ایمان لاؤگے یا نہ؟) جب تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام بھی ہونگے۔

حدیث (۳) مسلم شریف ۲/۴۰۱ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاَ رَاْسَهٗ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهٗ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهٖ اِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهٗ يَنْتَهِيْ طَرْفُهٗ فَيَطْلُبُهٗ حَتّٰى يُدْرِكَهٗ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهٗ ثُمَّ يَاْتِيْ عِيْسٰى قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ۔

حدیث (۴) مسلم شریف ۲/۴۰۳ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهٗ عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ۔

پس بھیجے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو عروہ بن مسعود کی مانند ہونگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کی حدیثوں کو کتاب الایمان میں مذکور فرماتے ہیں، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا مسئلہ مسلمان کے ایمان کی جزو خاص ثابت ہوجائے۔

حدیث (۵) مسلم شریف ۱/۸۷ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا

marfat.com

بن المسیب سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (قسم کھائی کہ امر واقعی ہے مجازی کنایہ نہیں) ضرور بہت جلد اتریگا تم میں ابن مریم بحیثیت حاکم (نہ پیغام رسالت لیکر اور نہ محکوم ہوکر) بحیثیت منصف ہونگے، (نہ تاویل بناکر، نہ ظلی، نہ بروزی، نہ سفارشی) صلیب کو توڑ دیگا (کیونکہ ان کی تشریف آوری سے معاملہ صلیب غلط ثابت ہوگا، حقیقت آجائیگی، بناوٹ چھپ جاوے گی، یعنی بجائے صلیبی عزت کے عام لکڑی شمار ہوگی) خنزیر کا نام ونشان مٹ جائے گا (کیونکہ ان کے کھانے والے اور پرورش کرنے والے بواسطۂ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونگے) اور جنگ بند کردینگے (کیونکہ دشمن اسلام کوئی نظر نہ آویگا سب مؤمن بھائی بھائی ہونگے) مال کو عام کردینگے حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کریگا (یعنی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا کوئی نظر نہ آئیگا، سب مالدار ہونگے) حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا (کیونکہ مالوں میں اتنی کثرت ہوگی) پھر ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اس حدیث کو وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝ پڑھ کر تطبیق دے لو۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو پہلے ہی مشہور ہیں جنکو ہر مومن جانتا ہے اُن کے اترنے اور اُترکر ان کے اعمال واقوال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیدی، اور اس حدیث شریف کو ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات مسیح علیہ السلام کی آیت قرآنی کے ساتھ تطبیق بھی دیدی، اب تم مرزائی

marfat.com

حدیث (۹) مسلم شریف ۱/۸۷

محمد بن حاتم بن میمون ثنا یعقوب بن ابراھیم ثنا ابن اخی ابن شھاب عن عمہ اخبرنی نافع مولیٰ ابی قتادۃ الانصاری انہ سمع ابا ھریرۃ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْکُمْ فَاَمَّکُمْ۔

حدیث (۱۰) مسلم شریف ۱/۸۷

حدثنی زھیر بن حرب قال حدثنی الولید بن مسلم قال نا ابن ابی ذئب عن ابن شھاب عن نافع مولی ابی قتادۃ عن ابی ھریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ فِیْکُمْ ابْنُ مَرْیَمَ فَاَمَّکُمْ مِنْکُمْ فقلت لابن ابی ذئب انّ الاوزاعی حدثنا عن الزھری عن نافع عن ابی ھریرۃ واما مکم منکم قال ابن ابی ذئب تدری ما اَمَّکُمْ مِنْکُمْ قلت تخبرنی قال فامکم بکتاب ربکم عزوجل وسنۃ نبیکم۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب تم میں عیسیٰ بن مریم اتریں گے۔

حدیث (۱۱) مسلم شریف ۱/۸۷

حدثنا الولید بن شجاع وھارون بن عبد اللہ وحجاج بن الشاعر قالوا نا حجاج وھو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر انہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَا تَزَالُ طَائِفَۃٌ مِنْ اُمَّتِیْ یُقَاتِلُوْنَ عَلَی الْحَقِّ ظَاھِرِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ قال فَیَنْزِلُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ فَیَقُوْلُ اَمِیْرُھُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَیَقُوْلُ لَا اِنَّ بَعْضَکُمْ عَلٰی بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَکْرِمَۃَ اللہِ عَلٰی ھٰذِہِ الْاُمَّۃِ۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے تھے، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری امت سے ایک گروہ ہمیشہ

ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَ يَفِيضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہی ضرور اتریں گے تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم بن کر، باقی ترجمہ گزر چکا ہے،

حدیث (۶) مسلم شریف $\frac{1}{87}$

وحدثناه عبد الاعلى بن حماد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا نا سفيان بن عيينة خ وحدثنيه حرملة بن يحيى قال انا ابن وهب قال حدثني يونس ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال انا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وفي رواية ابن عيينة اماما مقسطا وحكما عدلا۔

حدیث (۷) مسلم شریف $\frac{1}{87}$

حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ اِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ۔

حدیث (۸) مسلم شریف $\frac{1}{87}$

حدثني حرملة بن يحيى قال انا ابن وهب قال اخبرني نافع مولى ابي قتادة الانصاري ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

marfat.com

قطرات پانی یا ل گرتے ہونگے، تو جنگ کریگا لوگوں کو اسلام پر، پھر صلیب کو توڑ دیگا، اور خنزیر کو قتل کر ڈالے گا، اور جزیہ کو چھوڑ دیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں اسلام کے سوا تمام دینوں کو مٹا دیگا۔ اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریگا، تو زمین میں چالیس سال رہائش کریگا، پھر فوت ہو گا، تو اس پر مسلمان نماز پڑھینگے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اس حدیث شریف نے تو مرزائیت کا نام و نشان مٹا دیا، کہ آپ نے فرما دیا، کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی سچا نبی ہے ہی نہیں، اب تمہارے مرزا صاحب کہاں سے آ گئے۔

"مرزائی"۔ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهٗ سے ماقبل مراد ہے؟

"محمد عمر"۔ تمہارا کہنا غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بَيْنِيْ کو مقدم فرمایا، اور بَيْنَهٗ کا مؤخر ذکر فرمایا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مؤخر ہونا ثابت ہو جائے اگر بعد مقدم کو بیان کرنا مقصود ہوتا جیسا کہ تم نے سمجھا ہے، تو آپ بَيْنَهٗ وَ بَيْنِيْ فرماتے، لیکن جب آپ نے بَيْنِيْ وَ بَيْنَهٗ فرمایا، تو تاخیر عیسوی کو ثابت فرما دیا، پھر آگے نَازِل فرما کر مطلب صاف کر دیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اترنے والے ہیں، ان کے نزول کا فعل ابھی وقوع میں نہیں، وقوع ہونیوالا ہے، پھر ان کی علامات کو بیان فرما کر ان کے پہچاننے کی تاکید فرمائی، پھر ان کے اترنے کے بعد ان کے تمام زندگی کے مختصر کمالات کا ذکر فرمایا، پھر زمین میں ان کے صحیح قیام کی میعاد بیان فرمائی پھر ان کے فوت ہونیکا ذکر کر کے ان پر مسلمانوں کے جنازہ پڑھنے تک ذکر فرما دیا، اب بھی اگر مرزائی کو یقین نہ آئے، تو میں تمہیں اس شعر کا معنون سمجھوں گا ؎

کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو
جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو

ایسی واضح حدیث اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء سے رو گردانی کرنا یہ دنیائے اسلام کے خلاف ہے۔

حدیث (۱۴۲) ترمذی شریف ۲/۴۶ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ

حق پر لڑائی کرتے رہیں گے، قیامت تک غالب رہیں گے، آپ نے فرمایا تو اترینگے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، تو اس حقہ فرقہ کا امیر کہیگا، تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائینگے کہ نہ، کیونکہ اس امت کی عزت ہے کہ بعض تمہارا البعض پر امیر ہے۔

حدیث (۱۲) ابوداؤد ۲/۲۴۵ حدثنا صفوان بن صالح الدمشقی المؤذن نا الولید نا ابن جابر حدثنی یحییٰ بن جابر الطائی عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن النواس بن سمعان الکلابی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم الدَّجَّالَ ...... وَمَا لُبْثُهُ فِی الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ یَوْمًا ...... ثُمَّ یَنْزِلُ عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ علیہ السلام عِنْدَ الْمَنَارَۃِ الْبَیْضَاءِ شَرْقِیَّ دِمَشْقَ فَیُدْرِکُهٗ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَیَقْتُلُهٗ۔

حدیث (۱۳) ابوداؤد ۲/۲۴۶ حدثنا ھدبۃ بن خالد نا ھمام بن یحییٰ عن قتادۃ عن عبد الرحمن بن آدم عن ابی ھریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنَهٗ یَعْنِیْ عِیْسٰی نَبِیٌّ وَاِنَّهٗ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَیْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَی الْحُمْرَۃِ وَالْبَیَاضِ بَیْنَ مُمَصَّرَتَیْنِ کَاَنَّ رَاْسَهٗ یَقْطُرُ وَاِنْ لَّمْ یُصِبْهُ بَلَلٌ فَیُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَی الْاِسْلَامِ فَیَدُقُّ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ وَیَضَعُ الْجِزْیَۃَ وَیُهْلِکُ اللّٰهُ فِیْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ کُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَیُهْلِکُ الْمَسِیْحَ الدَّجَّالَ فَیَمْکُثُ فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً ثُمَّ یُتَوَفّٰی فَیُصَلِّیْ عَلَیْهِ الْمُسْلِمُوْنَ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، میرے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی (سچا) نہیں ہوگا، اور ضرور اترنے والے ہیں، پھر جب تم اس کو دیکھو تو اس کو پہچان لینا، آدمی ہے (موٹے نہیں)، میانہ قد کا، سرخی اور سفیدی کی ملاوٹ اس کے رنگ میں ہوگی، دو زرد چادروں میں ملبوس ہونگے، آپ کے سر مبارک سے بغیر پانی ڈالنے کے بھی

marfat.com

فرمایا، کہ وہ آسمان کو حکم کریگا کہ بارش برسے، تو برسنی شروع ہو جائیگی، اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو مبعوث فرما دیگا، تو آپ اتریں گے دمشق کے سفید شرقی مینار کے پاس دو زرد چادروں میں ملبوس ہونگے، اور دو فرشتوں کے پروں پر اپنی دونوں تلیاں رکھ کر۔

حدیث (۱۸) ابن ماجہ ۳۰۸ حدثنا علی بن محمد ثنا عبد الرحمٰن المحاربی عن اسماعیل بن رافع ابی رافع عن ابی زرعة الشیبانی یحییٰ بن ابی عمرو عن ابی امامة الباهلی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ...... اِذْ نَزَلَ عَلَیْهِمْ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَالِكَ الْاِمَامُ یَنْكُصُ یَمْشِی الْقَهْقَرٰی لِیَتَقَدَّمَ عِیْسٰی یُصَلِّیْ فَیَضَعُ عِیْسٰی یَدَهٗ بَیْنَ كَتِفَیْهِ ثُمَّ یَقُوْلُ لَهٗ تَقَدَّمْ ...... فَیَكُوْنُ عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیْ اُمَّتِیْ حَكَمًا۔

حدیث (۱۹) ابن ماجہ ۳۰۸ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبة بن عیینة عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابی هریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی یَنْزِلَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَاِمَامًا عَدْلًا فَیَكْسِرَ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلَ الْخِنْزِیْرَ وَیَضَعَ الْجِزْیَةَ وَیُفِیْضَ الْمَالَ حَتّٰی لَا یَقْبَلَهٗ اَحَدٌ۔

حدیث (۲۰) ابن جریر ۱۰۱/۳ حدثنی المثنی قال ثنا اسحٰق قال ثنا ابن ابی جعفر عن ابیه عن الربیع فی قوله الٓمّٓ اللہ لا الٰه الا هو الحی القیوم قال اِنَّ نَصَارٰی اَتَوْا رَسُوْلَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَخَاصَمُوْهُ فِیْ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ...... قَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَبَّنَا حَیٌّ لَا یَمُوْتُ وَاَنَّ عِیْسٰی یَاْتِیْ عَلَیْهِ الْفَنَاءُ قَالُوْا بَلٰی۔

بلاشک نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق مخاصمہ کیا، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں

marfat.com

لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَ يَضَعَ الْجِزْيَةَ وَ يَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهٗ اَحَدٌ
هٰذا حديث حسن صحيح۔

حدیث (۱۵) ترمذی شریف ۲/۴۷

حدثنا علی بن حجر نا الولید بن مسلم وعبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن یزید بن جابر دخل حدیث احدہما فی حدیث الاٰخر عن عبد الرحمٰن بن یزید بن جابر عن یحیٰی بن جابر الطائی عن عبد الرحمٰن بن جبیر عن ابیہ جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان الکلابی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ...... اِذْ هَبَطَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ الخ۔ بعد از دجال اسوقت اتریں گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس الخ۔

حدیث (۱۶) ترمذی شریف ۲/۴۸

حدثنا قتیبۃ نا اللیث عن ابن شہاب انہ سمع عبید اللہ بن عبد اللہ بن ثعلبۃ الانصاری یحدث عن عبد الرحمٰن بن یزید الانصاری من بنی عمرو بن عوف قال سمعت عمی مُجَمِّعُ بن جاریۃ الانصاری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُوْلُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ۔

حدیث (۱۷) ابن ماجہ ۳۰۶

حدثنا ہشام ابن عمار ثنا یحیٰی بن حمزہ ثنا عبد الرحمٰن بن یزید بن جابر حدثنی عبد الرحمٰن بن جبیر بن نفیر حدثنی ابی انہ سمع النواس ابن سمعان الکلابی یقول ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدَّجَّالَ ...... فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ ...... اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعٌ كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرماتے ہوئے

marfat.com

حدیث (۲۳) مستدرک ۲/۵۹۵ اخبرنی ابو الطیب محمد بن احمد الحیری ثنا محمد بن عبد الوھاب ثنا یعلی بن عبید ثنا محمد بن اسحٰق عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن عطاء مولی اُم حبیبة قال سمعت ابی ھریرة یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَیَھْبَطَنَّ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدَلًا وَّ اِمَامًا مُقْسِطًا وَلَیَسْلُکَنَّ نَجًّا حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ بِنِیَّتِھِمَا وَلَیَأْتِیَنَّ قَبْرِیْ حَتّٰی یُسَلِّمَ عَلَیَّ وَلَاَرُدَّنَّ عَلَیْہِ یَقُوْلُ اَبُوْھُرَیْرَةَ اَیْ بَنِیْ اَخِیْ اِنْ رَأَیْتُمُوْہُ فَقُوْلُوْا اَبُوْھُرَیْرَةَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ ھٰذَا حَدِیْثٌ صَحِیْحٌ الاسناد ولم یخرجاہ بھذہ السیاقة۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسٰی بن مریم ضرور اتریںگے بحیثیت حاکم عادل امام منصف اور ضرور مکے کی سڑکوں پر چلیں گے، حج یا عمرہ کی نیت سے یا دونوں کی اکٹھی نیت کریںگے اور میرے روضۂ اطہر پر بھی ضرور تشریف لاوینگے حتیٰ کہ مجھے السلام علیکم کہیں گے۔ اور میں ضرور ان کو وعلیکم السلام کہونگا۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے جب تم حضرت عیسٰی علیہ السلام کو دیکھو تو کہنا تمہیں ابوہریرہ سلام کہتا تھا، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن اس سند سے بخاری و مسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اس کو کہتے ہیں ایمان، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کلام مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مضبوط ایمان تھا، کہ بھتیجے کو پیغام دے رہے ہیں، کہ اگر تمہارے زمانہ میں حضرت عیسٰی علیہ السلام تشریف لاویں تو میرا سلام کہدینا اور تم ایسے بھی مسلمان کہلانے والے موجود ہو، جو کلام مصطفٰے صلی اللہ علیہ کو ٹھکرا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع میں قرآن وحدیث اور تمام صحابہ کرام و اجماع امت کو پشت دے رہے ہو۔

حدیث (۲۴) مستدرک ۲/۵۹۵ اخبرنا ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن دینار العدل ثنا السری بن خزیمہ والحسن بن الفضل قالا: ثنا عفان بن مسلم ثنا ھمام ثنا قتادة عن

marfat.com

کہ ہمارا رب زندہ ہے جس کو موت نہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئیگی۔ انہوں نے عرض کیا، کہ ہاں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئیگی۔ تم کہو آ چکی، اب تمہارا یقین کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

حدیث (۲۱) ابن جریر ۳/۱۸۳ حدثنی المثنیٰ قال ثنا اسحٰق قال ثنا عبد اللہ بن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع فی قولہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ قال معنی وفاۃ المنام رفعہ اللہ فی منامہ قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیھود انّ عیسٰی لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامۃ۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور بے شک وہ تمہاری طرف رجوع کرنے والے ہیں، قیامت کے پہلے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ اِنَّ عِیْسٰی لَمْ یَمُتْ۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں، لیکن تم کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مر چکے ہیں، تو تمہاری اس بناوٹ کو کون کلمہ گو مسلمان کلامِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تسلیم کر سکتا ہے۔

حدیث (۲۲) ابن جریر ۳/۱۸۴ حدثنا ابن حمید قال ثنا سلمۃ عن ابن اسحٰق عن محمد بن مسلم الزھری عن حنظلۃ بن علی الاسلمی عن ابی ھریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیھبطنّ اللہ عیسی ابن مریم حکمًا عدلًا واماما مقسطًا۔

ابن جریر کی جن جن احادیث پر وکیل صاحب نے جرح کی ہے اُن احادیث ابن جریر کے رواۃ پر فقیر پہلے بحث کر چکا ہے، اور ان کو ثقات سے ثابت کر چکا ہے۔ ص ما قبل ملاحظہ ہو۔

marfat.com

بھی تمام انبیاء اللہ کی مسلمہ بات کے منکر ہو بیٹھے، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نہیں ہے، بلکہ فرمانِ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حدیث (۲۶) مستدرک ۴/۴۷۸

اخبرنی الحسن بن حکیم المروزی ثنا احمد بن ابراھیم الشنوری ثنا سعید بن ھبیرۃ ثنا حماد بن یزید عن ایوب السختیانی وعلی بن زید بن جدعان عن ابی نضرۃ قال اتینا عثمان بن ابی العاص یوم الجمعۃ ...... فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ...... فَیَنْزِلُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ والسلام عند صَلٰوۃِ الْفَجْرِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت اُتریںگے۔

حدیث (۲۷) مسند امام احمد حنبل ۲/۴۳۷

حدثنا عبداللہ حدثنی ابی ثنا یحییٰ عن ابن ابی عروبہ قال ثنا قتادۃ عن عبدالرحمٰن بن آدم عن ابی ھریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اَلْاَنْبِیَاءُ اِخْوَۃٌ لِعَلَّاتٍ دِیْنُھُمْ وَاحِدٌ وَ اُمَّھَاتُھُمْ شَتّٰی وَاَنَا اَوْلَی النَّاسِ بِعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ لِاَنَّہٗ لَمْ یَکُنْ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ نَازِلٌ الخ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپنے فرمایا، تمام انبیا علیہم السلام علاتی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، ان کی مائیں مختلف ہیں، اور میں تمام لوگوں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ (ابھی) اترنے والے ہیں۔

حدیث (۲۸) مسند امام احمد حنبل ۲/۵۱۳

قال عبداللہ حدثنی ابی ثنا روح ثنا محمد بن ابی حفصۃ عن ابن شھاب عن حنظلۃ بن علی الاسلمی عن

marfat.com

عبد الرحمٰن بن آدم عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: انّ روحَ اللهِ عیسٰی بنُ مریمَ نازلٌ فیکم ...... هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ عیسیٰ بن مریم تم میں اُترنے والے ہیں، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

حدیث (۲۶) مستدرک ۲/۳۸۴
ابن ماجہ ۳۰۹
مسند امام حنبل ۱/۳۷۵

حدثنا ابوبکر احمد بن سلیمان الفقیه ببغداد ثنا الحسن بن مکرم ثنا یزید بن هارون انبأنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحیم عن مؤثر بن غفار عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه قال لما اسری لیلة اسری با النبی صلی الله علیه وسلم لقی ابراهیم وموسٰی وعیسٰی ...... فتراجعوا الحدیث الی عیسٰی ...... قالَ وَذَکَرَ مِن خُرُوجِ الدَّجّال فأَهبُطُ فأَقتُلُهُ۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سیر کرائے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے آپ ملاقی ہوئے تو تمام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بات ڈالدی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے نکلنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ پھر میں اترونگا اور دجال کو قتل کرونگا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! شب معراج میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیا علیہما السلام کی مجلس میں فرمایا، کہ میں اُتر کر دجال کو قتل کرونگا۔ تمام انبیا علیہما السلام نے جو انبیاء اللہ تھے، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اترنے کا انکار نہ کیا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، کہ مرزا غلام صاحب قادیانی چونکہ جماعت انبیاء اللہ میں داخل نہ تھے، اور کون داخل ہونے دیتا، اسی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اُترنے کا انکار کر بیٹھے۔ کہ مجھے جماعت انبیاء اللہ میں شامل کیوں نہ کیا گیا، اور مرزا صاحب کی اقتداء میں مرزائی بیچارے

marfat.com

ضعیف ثابت ہوئی، دوسری بات یہ ہے، کہ یہ بے سند قول ہے۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب ہم اگر حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کردیں، تو وہ بے سند ہے، لیکن بخاری کے قول ابن عباس اِنِّیْ مُمِیْتُکَ جس پر تمام ملت مرزائیہ کا زور ہے، اس کی سند کا نام نشان ہی نہیں، اُس قول بے سند کو با اسناد معتبرہ حدیثوں سے بالاتر سمجھو اور جو بااسناد حدیثیں پیش کی جاویں ان کو بے سند کہدو، فقیر نے جتنی پہلے حدیثیں پیش کیں ہیں تمام کے اسناد ساتھ ساتھ بیان کئے ہیں، اور پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالےٰ عنہما کے اقوال بھی جتنے درج کئے ہیں: وہ تمام با اسناد ہیں۔ بھلا وکیل صاحب تمہیں اپنے پا یا ئے تا دیا لی کی قسم ذرا فقیر کی پیش کردہ بااسناد حدیثوں کو بھی ملاحظہ فرماؤ اور جو آپ نے اپنی پاکٹ بک احمدیہ میں "وفات مسیح از احادیث" سُرخی لکھ کر از صد ۳۱۹ تا صد ۳۲۲ میں حدیثیں درج فرمائی ہیں، تو ازن تو فرماؤ، حدیثوں کی سندیں تو کجا تمہارے تمام باب میں نہ کہیں بخاری شریف کا نام ونشان نہ مسلم شریف کا نہ ترمذی شریف کا نہ ابوداؤد کا نہ ابن ماجہ کا، یعنی مسلمانوں کی کتب احادیث متداولہ سے تمام باب ہی محروم ہے، یعنی "وفات مسیح از احادیث" وکیل صاحب کا سُرخی لکھنا ہی رو رہا ہے۔ کہ وکیل صاحب اس باب میں ایک تو حدیث لکھ دیجئے لیکن ان تمام کتب احادیث میں کہیں وفات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث ہو تو بیچارے لکھیں جب ہے ہی نہیں تو لکھیں کہاں سے؟ کہیں لکھ دیا کہ فلاں محشی نے لکھا ہے۔ کہیں لکھ دیا ہے کہ فلاں محشی نے یوں لکھ دیا ہے، لہذا حدیثوں سے وفات مسیح ثابت ہوگیا، وکیل صاحب کیسے بھولے میاں ہیں، اور ان کے جال میں پھنسنے والے بھی بیچارے ایسے سادہ لوح ہیں کہ نہیں کہتے، کہ تم نے کس بیدردی سے حیات مسیح علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو اپنی پاکٹ بک میں صد ۳۴۱ تا صد ۳۸۶ ٹھکرا دیا ہے۔ تو کم از کم اُن کے مقابلے میں کسی کتب متداولہ سے جس سے مسلمان حدیثیں سُن کر اور پڑھ کر مسلمان کہلاتے ہیں، وفات مسیح علیہ السلام پر ایک حدیث صحیح تو پیش کردو کوئی اپنے مذہبی وطیرہ کے مطابق ہی ہیرا پھیری کرکے ہی لکھ دیتے، لیکن ان میں تو وفات مسیح علیہ السلام پر کسی مرزائی کو گنجائش ہی نہیں، سب سے حیات مسیح علیہ السلام اور نزولہ

marfat.com

اِبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیُهِلَّنَّ عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوْ لَیُثَنِّیَنَّهُمَا جَمِیْعًا

حدیث (۲۹) کنز العمال ۷/۱۸۷　لَنْ تَهْلِکَ اُمَّةٌ اَنَا فِیْ اَوَّلِهَا عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ فِیْ اٰخِرِهَا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہ ہلاک ہوگی ایسی امت جس کے اول میں میں ہوں اور اس کے آخیر میں عیسیٰ بن مریم۔ اس حدیث کو خادم صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں۔

اب اگر آخیر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے پر ایمان نہ لایا جائے، تو فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَعِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ فِیْ اٰخِرِهَا کی تکذیب لازم آتی ہے۔

حدیث (۳۰)　عن ابن عباس......قال ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَعِنْدَ ذٰلِکَ یَنْزِلُ اَخِیْ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ مِنَ السَّمَاءِ عَلٰی جَبَلِ اَفِیْقٍ اِمَامًا هَادِیًا وَحَکَمًا عَدْلًا......یَقْتُلُ الدَّجَّالَ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس اسوقت اُترے گا میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے جبل افیق پر امام بنکر، ہدایت دینے والا انصاف کرنے والا۔ آگے چل کر فرمایا، کہ دجال کو قتل کریگا، یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ دجال جب لوگوں کو کافر بنائیگا تو اس کے سدباب کے لئے میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کر ڈالینگے۔

اے امت مرزائیہ! اس حدیث پاک نے تو تمام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہم کی حدیثوں کی تائید کی، کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء ہوگا نہ کہ پیدائیشی جیسا کہ تم نے اُلٹ پلٹ کر رکھا ہے جس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے۔

"مرزائی" صاحب کنز العمال نے اس حدیث کو ابن عساکر کی طرف منسوب کیا ہے، اور ابن عساکر کو شاہ عبد العزیز صاحب نے عجالہ نافعہ میں ضعفاء میں لکھا ہے، لہذا

marfat.com

کہنا کہ اختلاف مکانی ہے، تو یہ بھی اختلاف نہیں، جیسا کہ کہا جاوے کہ فرشتہ لاہور میں اُترا، اور پھر کہا جاوے کہ شاہی مسجد کے مینار پر اُترا، تو اس میں لاہور کا واقف کبھی اختلاف نہ کہیگا، البتہ ناواقف کہہ سکتا ہے، ایسے ہی پہلی حدیثوں میں آیا کہ نزول عیسٰی علیہ السلام دمشق کے سفید شرقی مینار کے پاس ہوگا، اور دوسری حدیث میں آگیا کہ جبل افیق پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا، لہٰذا ان تمام احادیث صحیحہ سے حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نزول من السماء الی الارض قرب قیامت ثابت ہؤا، اور ان کا امتیازی عمل دجّال کو باب لُد میں قتل کرنا بھی، اور اس پر تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کہلانے والوں کے واسطے با حادیث صحیحہ جزو ایمان ثابت ہؤا۔

ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو
تم آگے چاہے مانو یا نہ مانو

اب آگے حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی نزول من السماء الی الارض ملاحظہ ہو۔

مرزائیوں کے وفاتِ مسیح کی حدیثوں کے جوابات

"مرزائی" - مولوی صاحب تم نے بھی حدیثیں کافی لکھی ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی بھی حدیثیں سُن لیجئے، جو ہماری مکمل احمدیہ پاکٹ بک کے صفحہ ۳۱۹ میں درج ہیں، اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دیجئے۔

لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا اِلَّا اتِّبَاعِيْ۔ حاشیہ ابن کثیر جلد ۲۔ الیواقیت والجواہر، جلد ۲، صـ ۲۲۔

طبرانی کبیر۔ اگر موسٰی و عیسٰی زندہ ہوتے تو اُن کو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ

marfat.com

من السماء ہی ثابت ہوتا ہے، اور ثابت ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ تشریف لائیگا باقی رہا ان حدیث مذکورہ بالا کی سند تو علامہ علاؤ الدین کا یہ اصول ہے، کہ جس حدیث کی سند میں ضعف ہو، اس کو آخیر میں واضح فرما دیتے ہیں، جیسا کہ کنز العمال کے کئی مقامات پر درج ہے، تو ان کا اس حدیث کو ضعیف نہ لکھنا یہ اس کے قوی ہونے کی دلیل ہے، یا تم مرزائی کسی کتاب ماسبق سے اس کا ضعف ثابت کردو، ورنہ تمہارے انکار سے روایت ضعیف نہیں کہلا سکتی، باقی رہا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھنا تو افسوس ہے وکیل صاحب بعض عبارت کو چھوڑ کر ایک جگہ عبارت کا لیکر مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہو۔ حالانکہ شاہ صاحب نے پہلے ہی ارشاد فرمایا ہے جو تم نے بھی لکھا ہے، طبقہ رابعہ ہیں،" احادیثے کہ نام ونشان آنہا در قرون سابقہ معلوم نبود، ومتاخران آنرا روایت کردہ اند" یعنی طبقہ رابعہ میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابن جریر اور ابن عساکر اور ابن حبان نے ایسی حدیثیں بیان کریں کہ جن کا نام ونشان قرون سابقہ میں معلوم نہ ہو، اور متاخرین سے یہ لوگ اس کو بیان کریں۔ تو وہ ضعیف سمجھی جاوینگی، حالانکہ حدیث متنازعہ فیہا تمام کی تمام حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بخاری شریف وتمام باقی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجّال کو باب لُد میں قتل کرنا تمام احادیث صحیحہ کے مطابق ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، البتہ اس حدیث شریف میں نزول کی شرح مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من السماء سے فرمائی ہے جس کو مرزائی پھیر نہ سکا، سرے سے حدیث کا ہی انکار کر بیٹھا، بھلا مرزائی صاحب تمہارے مرزا صاحب کی کلام کو تو شرم پت اور ملا وامل اور جھنڈا سنگھ وغیرہم بیان کردیں، تو سبحان اللہ کہہ کر بوسے دو اور حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ کو جسے آجتک متقدمین نہ متاخرین سے کسی نے ضعیف تک نہ کہا ہو، اس کو پس پُشت ڈالدو، اور بہانہ بناؤ، شاہ صاحب سے یہ بہانہ تمہارا درست نہیں، اور نہ اس بہانہ سے معاذاللہ حدیث منسوخ ہوسکتی ہے۔

باقی رہا تمہارا کہنا کہ یہاں جبل افیق کا لفظ تمام حدیثوں کے خلاف ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نزول من السماء اس حدیث شریف سے ثابت ہوگیا اور تمہارا

marfat.com

ہے۔ اور الیواقیت والجواہر کے ورق کو بھی اگر خادم صاحب نہ پلٹتے تو بہتر تھا، اگر پلٹا ہے تو نصف پلٹا اور باقی چھپالیا، ملاحظہ ہو، اسی صفحہ پر آگے چل کر عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمادیا۔ سنو۔

الیواقیت والجواہر ۲/۲ کونُ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا نزل الی الارض لا یحکم بشرع نفسہ الذی کان علیہ قبل رفعہ۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب زمین کی طرف اتریںگے تو اپنی اُس شریعت کے ساتھ جو اُن کے چڑھنے کے پہلے تھی فیصلہ نہ کریںگے، آگے فرمایا، وانما یحکم بشرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ الی امتہ۔ اور کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فیصلہ کریںگے وہ جو آپ کی امت کی اسی شریعت کے ساتھ بھیجے جاوینگے اور یہ تو بتاؤ کہ اِس حدیث موضوعہ کا راوی کون ہے۔ کس صحابی نے اِس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور کس محدث نے اس کو روایت کیا ہے، کیونکہ یہ بیان کنندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو موجود نہ تھے، آخر کس حدیث کی کتاب سے انہوں نے نقل کیا، اس کا کوئی اصل نہیں، اگر ہے تو بیان کرو، جس میں نہ کوئی روایت کنندہ کا نام ہو، نہ منقول عنہٗ کا حوالہ ہو، وہ معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟

"مرزائی" ۔ اس کا راوی تو کوئی کسی کتاب میں نہیں دیکھا گیا۔

"محمد عمر" ۔ تو معلوم ہؤا، کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ قول موضوعہ ہے۔ اور ایسے موضوعہ اقوال کو احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں صحیح سمجھنا یہ تمہارے دین کا اصول ہے، ہمارے اسلام میں تو یہ اصول حدیث کے خلاف ہے جس کی وضاحت گذر چکی ہے۔

باقی رہا تمہارا اعتراض کہ شرح فقہ اکبر میں علی قاری نے لو کان عیسیٰ حیا لکھا ہے۔ لیکن تمہارے مسلمانوں نے اس کی بجائے لو کان موسیٰ حیا بنا دیا حالانکہ یہ اصولاً عبارتاً غلط ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا تب صحیح ہو سکتا تھا کہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وفات مسیح کا بیان کرتے اور اس میں اس کو دلیل ٹھہراتے، جب یہاں

marfat.com

ہوتا، ایسے ہی نقہ اکبر مصری میں ملا علی قاری رحمہ نے بھی لکھا ہے، لو کان عیسیٰ حیا ما وسعہ الاتباع۔ لیکن تمہارے مسلمانوں نے غداری سے کام لیتے ہوئے لو کان موسیٰ حیا لکھا ہوا ہے، جو تمہاری دیانتداری کا ثبوت دے رہا ہے، حالانکہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں، بلکہ یوں تحریر ہے، یجتمع علیہ السلام بالمہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد اقیمت الصلوٰۃ فیشیر المہدی بعیسیٰ بالتقدم فیمتنع معلا بان ھذہ الصلوٰۃ اقیمت لک فانت اولیٰ بان تکون الامام فی ھذا المقام ویقتدی بہ لیظھر متابعتہ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ لو کان عیسیٰ حیا ما وسعہ الاتباع۔ اب دیکھ لیں کہ متابعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی اور کس کا بیان ہے۔ اور دلیل کیا ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ کے لفظ میں غلطی کس نے لکھی ہے۔ لہٰذا اس ہندوستانی ایڈیشن میں عیسیٰ کی بجائے موسیٰ لکھنا یہ تمہاری خیانت ہے۔

"**محمد عمر**"۔ خادم صاحب! اس عنوان "وفات مسیح از احادیث" لکھ کر اور الیواقیت والجواہر کے حوالہ جات اور علی قاری کی کلام کے ہیرا پھیری سے کلام کو مزین کرنے سے مرزائیت کا پول کھل گیا ہے، کہ تمام اکابرین مرزائیہ کی زوردار حدیثیں اِنہی ہیرا پھیری پر ہی موقوف ہیں، مرزائیت کی امداد بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی، دارمی وغیرہم کتب متداولہ سے کسی نے نہ کی، تمہاری اس تحریر سے ہی الحمد للہ ثابت ہوگیا کہ کتب احادیث مشہورہ میں حیات مسیح ونزولہ من السماء ہی ثابت ہے۔ ان کتب میں وفات مسیح علیہ السلام نہ صراحتً نہ کنایتً نہ اشارۃً نہ حقیقتً کسی طرح بھی ثابت نہیں، اور تمہارا ان سے حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو ٹھکرانا محض مرزائیات سے ہے، ان میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق بغیر حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی صورت نہیں، اور ان احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا، کہ اپنے ذہن کو مرزائیت کی اتباع میں محض تعصبانہ طور پر الیواقیت والجواہر یا فتح البیان وغیرہ کی طرف منتقل کرے اور نہ اصول حدیث ہی اس امر کا متقاضی ہے، بلکہ خادم صاحب بھی اس کا اقرار پہلے کر چکے ہیں۔ ابن کثیر کے متعلق تو فقیر پہلے مفسرین کے باب میں وضاحت سے بیان کر چکا

marfat.com

عیسیٰ علیہ السلام اُترینگے اور دجال کے جنگ کے لئے چڑھائی کرینگے تو ایک ہی ضرب سے دجال کو قتل کر ڈالیں گے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اُترنے کے وقت گھسکیگا، جیسا کہ نمک پانی میں پگلتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جمع ہونگے، (تو آگے جو تم نے لکھا ہے وہ تمام واقعہ ہے) آخیر میں لکھا ہے جو تم پھر ہضم کر گئے وَقَدْ وَرَدَ اَنَّہٗ یَبْقٰی فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً ثُمَّ یَمُوْتُ وَیُصَلِّیْ عَلَیْہِ الْمُسْلِمُوْنَ وَیَدْفِنُوْنَہٗ عَلٰی مَا رَوَاہُ الطَّیَالِسِیُّ فِیْ مُسْنَدِہٖ۔ اور حدیث ابوداؤد طیالسی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال زندہ رہیں گے، پھر مرینگے اور اُن پر مسلمان نماز پڑھیں گے اور اُن کو دفن کرینگے۔

کیوں جناب: علی قاری حیاتِ مسیح کو ثابت کر رہے ہیں یا وفاتِ مسیح کو، اگر وفاتِ مسیح کو ثابت کرتے تو تمہارا لو کان عیسیٰ صحیح ہوتا اور جب حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اعمال نزولی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اُن کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی کی اتباع ثابت کی جا رہی ہے، تو لو کان موسیٰ ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائینگے تو اتباع کرینگے ہی لَوْ کَانَ مُوْسٰی حَیًّا مَا وَسِعَہٗ اِلَّا اتِّبَاعِیْ یہ تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اُن کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، ادھر تہمت لگاتے ہو، کہ ہم نے لفظ کو بدلا دیا ہے۔

اور حقیقت کو واضح نہیں کرتے کہ ہم نے مصری مطبع میں بھی خود سازش سے کام لیا ہے، حدیثوں میں تو سفارش چل نہ سکتی تھی، بزرگوں کے رسالوں میں داؤ لگایا کچھ خدا کا خوف کرو اور آیاتِ قرآنیہ و احادیث صحیحہ جو حیات مسیح علیہ السلام ونزولہ من السماء کو صراحتہً ثابت کر رہی ہے رُوگردانی نہ کرو، اور بزرگان دین کی بھی جس کتاب کو دیکھو گے سوائے حیاتِ مسیح علیہ السلام کے اور کچھ ثابت نہ ہوگا خواہ کتنا ہی داؤ کیوں نہ چلاؤ، کیونکہ انہوں نے اِس مسئلہ پر علی الاعلان صاف صاف زبانی ہوئی ہے،

marfat.com

کر رہے ہیں حیات مسیح علیہ السلام کا اور دلیل دے رہے ہوں، وفات مسیح کی، تو یہ مرزائیہ کا وطیرہ ہے، ان سے یہ بعید امر ہے، سنیئے تم نے خود لکھا ہے، اور ترجمہ بھی کیا ہے کہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یَجْتَمِعُ عِیْسٰی علیہ السلام بِالْمَھْدِیِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا ہی ترجمہ ہے۔ پاکٹ بک کے صؔ ۳۲ پر کہ حضرت عیسٰی مہدی کے ساتھ مل گے، علی قاری رحمت اللہ نے تو مرزائیت کے تمام اصولوں کو ہی کاٹ کے رکھ دیا، کیونکہ تم مہدی اور عیسٰی علیہ السلام کو ایک ہی تصور کرتے ہو، انہوں نے دو وجود ثابت کر دئے، اور دونوں کی ملاقات ثابت کر دی، اور اس کے پہلے خادم صاحب علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کھا کر ڈکار گئے، جو آپ نے فرمایا ہے۔ وَنُزُوْلُ عِیْسٰی علیہ السلام مِنَ السَّمَاءِ (حَقٌّ کَائِنٌ) کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَاِنَّہٗ اَیْ عِیْسٰی علیہ السلام لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَۃِ اَیْ عَلَامَۃُ الْقِیَامَۃِ وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ اَیْ قَبْلَ مَوْتِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ بَعْدَ نُزُوْلِہٖ عِنْدَ قِیَامِ السَّاعَۃِ فَیَصِیْرُ الْمِلَلُ وَاحِدَۃً وَھِیَ مِلَّۃُ الْاِسْلَامِ الْحَنِیْفِیَّۃِ ...... فَتَرْتِیْبُ الْقَضِیَّۃِ اَنَّ الْمَھْدِیَّ یَظْھَرُ اَوَّلًا فِی الْحَرَمَیْنِ الشَّرِیْفَیْنِ ثُمَّ یَاْتِیْ بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَیَاْتِی الدَّجَّالُ وَیَحْصُرُہٗ فِیْ ذٰلِکَ الْحَالِ فَیَنْزِلُ عِیْسٰی مِنَ الْمَنَارَۃِ الشَّرْقِیَّۃِ فِیْ دِمَشْقِ شَامٍ وَیَجِیْءُ اِلٰی قِتَالِ الدَّجَّالِ وَیَقْتُلُہٗ بِضَرْبَۃٍ فِی الْحَالِ فَاِنَّہٗ یَذُوْبُ کَالْمِلْحِ فِی الْمَاءِ عِنْدَ نُزُوْلِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ فَیَجْتَمِعُ عِیْسٰی بِالْمَھْدِیِّ وَقَدْ اُقِیْمَتِ الصَّلٰوۃُ الخ۔

اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک عیسٰی علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے کوئی بھی نہ رہے گا، مگر ان کی موت کے پہلے یعنی عیسٰی علیہ السلام کی موت کے پہلے عیسٰی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کے آسمان سے اُترنے کے بعد قریب قرب قیامت، تو دین ایک ہی رہجائیگا اور وہ اسلام حنیفیہ ہے ...... پس قضیہ کی ترتیب یوں ہے، کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ظاہر ہونگے حرمین شریفین میں، پھر بیت المقدس کو آئیں گے، پھر دجال آئیگا وہ اس کو محاصرہ کریگا تو شام دمشق کے شرقی مینار کے پاس حضرت

marfat.com

کہ علامہ زرقانی نے اس کو ذکر کرنے کے لئے بیان کیا ہے یا تائید کے لئے، سنیئے۔

زرقانی ۱/۳۵ اس حدیث مذکورہ کو بیان فرماکر علامہ زرقانی نے آخیر بیان فرمایا،

کہ وَوَرَدَ مَكْثُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فِيْ عِدَّةِ اَحَادِيْثَ مِنْ طُرُقٍ مُّخْتَلِفَةٍ مِنْهَا هٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِيْ اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَمِنْهَا مَا اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ...... وَمِنْهَا مَا اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهٖ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا فِيْ حَدِيْثِ الدَّجَّالِ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ عِيْسٰى فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِمَامًا عَادِلًا وَّحَكَمًا مُّقْسِطًا وَوَرَدَ اَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيْ نَحْوَهٗ الْاَحَادِيْثُ الصَّرِيْحَةُ اَوْلٰى مِنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ الْمُحْتَمَلِ۔

اور کئی حدیثوں میں مختلف طرق سے وارد ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کا زمین پر قیام چالیس سال ہوگا جن سے یہ حدیث ابو داؤد کی بھی ہے، اور یہ صحیح ہے اور بعض ان صحیح حدیثوں سے جس کو طبرانی نے بیان کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام اتر ینگے اور زمین پر چالیس برس رہیں گے اور بعض ان سے جو امام احمد حنبل نے اپنی مسند میں مرفوعاً بیان کیا ہے، دجال کی حدیث میں کہ اتر ینگے حضرت عیسٰی علیہ السلام تو دجال کو قتل کرینگے، پھر عیسٰی علیہ السلام زمین میں چالیس سال زندگی بسر کرینگے امام عادل اور حاکم منصف ہوکر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث بھی طبرانی میں موجود ہے۔ تو یہ تمام احادیث صریحہ (چالیس میں) اس احتمالی حدیث سے بہتر ہیں،

کیوں جناب خادم صاحب! یہ ہے علامہ زرقانی جس نے حضرت عیسٰی علیہ السلام کے بعد نزول چالیس سالہ قیام والی حدیثوں کو صحیح اور مرفوعات اور اتفاقی ثابت کیا ہے اور طبرانی سے بھی بعد نزول چالیس سال زندگی بسر کرنے کی حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ایک سو بیس سال والی حدیث کو ان تمام کے مقابلہ میں خبر احتمالی قرار دیا ہے۔ یہ ہے تمہاری پیش کردہ کتاب علامہ زرقانی کی تحقیق اسی حدیث کے متعلق جس کو تم

marfat.com

مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد انعام

اس مرزائی کو دیا جاوے گا، جو مُلا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے وفاتِ عیسیٰ علیہ السلام کی عبارت دکھا دے، ورنہ بہتان لگا کر مسلمانوں کو دھوکا نہ دو، خدا کے روبرو تمہارا دامن ہو گا اور علی قاری تمہیں مجرمانہ حیثیت سے پکڑے ہونگے، اس وقت تمہارے پلے کیا جواب ہوگا؟ توبہ، توبہ، توبہ۔

تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۳۵-۱۳۶ سے بھی صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قربِ قیامت آسمان سے اُترنا ثابت ہؤا، اور اُن کا زمین پر بعد از نزول چالیس سالہ قیام اور پھر فوت ہونا ثابت ہوگیا اور تمہارا اپنی دلیل وفاتِ مسیح شرح فقہ اکبر کی عبارت کو پیش کرنا غلط ثابت ہؤا۔

"مرزائی"۔ حج الکرامۃ میں لکھا ہے، کہ طبرانی کی حدیث حاکم نے نقل کی ہے، کہ عیسیٰ بن مریم ایک سو بیس سال زندہ رہے اور کنز العمال میں بھی موجود ہے، اور مواہب اللدنیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے، کہ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے۔

"**محمد عمر**"۔ خادم صاحب آپ نے حج الکرامۃ ایک وہابی کی کتاب کا حوالہ دے کر اپنی بات کو گھٹایا ہے، کہاں مستدرک اور کہاں طبرانی؟ کیا آپ کے پاس مستدرک نہ تھی، اس کا اصل حوالہ ہی دید یتے، لیکن معلوم تھا کہ حاکم پر یہ بہتان ہے۔ حاکم مستدرک ج ۲ میں نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء کا باب تحریر کرکے ینزل عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام عند صلوٰۃ الفجر کی مکمل حدیث لائے ہیں، جو پہلے گذر چکی ہے، مستدرک سے بدکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مرزائیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اب حج الکرامہ وہابی کی اوٹ میں جھانکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیئے، تمہاری بات کچی ہے، کیونکہ تمہارے اس حوالہ کو پیش کرنے سے بھی پول ہی انشاء اللہ تعالیٰ نکال کر دکھاؤنگا، آپ لکھتے ہیں، کہ مواہب اللدنیہ میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس بات کو آپ واضح نہیں فرماتے،

marfat.com

حوالہ بیان کنندہ ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اور ہماری تائید لکھ دیتا ہے، کیوں نہ ہو؟ سچ چھپا نہیں رہتا، جس جگہ چھپاؤ سچ تمہیں وہیں نشر کر دیتا ہے،

باقی رہا تمہارا کہنا کہ کنزالعمال میں بھی حضرت عیسٰی علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال لکھی ہے، تو یہ بھی خادم صاحب کی سادگی ہے۔ ملاحظہ ہو، اسی حدیث کے آخیر میں لکھا ہے۔

کنزالعمال ۶/۱۲۰ ...... وَفِیْہِ اِنْقِطَاعٌ دیکھا جناب یہ ہے صاحب کنزالعمال کا سچ۔ تم حضرت ابن عباس والی حدیث کو جو من السماء کا لفظ ہے، بے سند اور ضعیف کہتے تھے، اگر وہ بھی تمہاری پیش کردہ منقطعہ حدیث کی طرح ہوتی، تو منقطع کہدیتے، اس من السماء والی حدیث میں کسی قسم کا سُقم نہیں، اس واسطے بیان نہیں فرمایا، تمہاری اس پیش کردہ حدیث ایک سو بیس والی میں انقطاع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی تھی، اس واسطے صاحب کنزالعمال نے خود ہی اس کو منقطعہ کہدیا، اب میرے کیا اختیار ہے، تم ہاتھ ہی ایسی بات کو ڈالتے ہو، جو تمہیں جھاڑ ڈالتی ہے، مجھ پر ناراض نہ ہونا بھائی یہ تحقیق صحیح ہے۔ اور تحریر شدہ ہے، میری اپنی وضع کی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، تم ایسی بات کو لکھو ہی نہ جو کچی ہو، کیوں نہیں ایمان کو درست کر لیتے، جیسا کہ تمام احادیث صحیحہ میں اور آیاتِ کریمہ سے واضح ہو چکا ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام تینتیس برس کی عمر میں آسمان پر چڑھائے گئے، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور چالیس سال عمر پھر یہاں دنیا میں گذاریں گے اور پھر فوت ہوں گے، اور روضۂ اطہر میں مدفون ہوں گے۔

باقی رہا تمہارا کہنا، کہ جلالین میں لکھا ہے، خادم صاحب آنکھیں بند کر کے اپنے مافی الضمیر کے مطابق پڑھ دیتے ہیں۔ کتاب میں ہو یا نہ، دیکھئے۔

جلالین ۴۲ وَلَہٗ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ سَنَۃً، جب آسمان پر حضرت عیسٰی علیہ السلام اٹھائے گئے تو ان کی عمر تینتیس برس تھی، آگے فرمایا وَرَوَی الشَّیْخَانِ حَدِیْثَ اَنَّہٗ یَنْزِلُ قُرْبُ السَّاعَۃِ اور بخاری و مسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام قرب قیامت

marfat.com

نے مرزا صاحب کی اتباع میں حجت سمجھا ہوا ہے، حالانکہ محدثین نے جن کا تم نام لیتے ہو، وہ اسی کو باقی کے مقابلہ میں احتمالی کہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ قُبِلَ رُفِعَہٗ اِلَی السَّمَاءِ وَکَانَ عُمْرُہٗ حِیْنَئِذٍ ثَلَاثًا وَّ ثَلَاثِیْنَ سَنَۃً عَلَی الْمَشْهُوْرِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آسمان کی طرف چڑھنے کے پہلے تینتیس سالہ تھی، یہی مشہور حدیثوں میں مذکور ہے، یہ تو ہے تمہاری پیش کردہ دلیل جس نے تم کو ہی طمانچہ لگایا، سیدھے ہو جاؤ یا نہ۔ اب کسی اور محدث سے اس حدیث کے متعلق مشورہ کر لو، سنیئے:۔

تفسیر ابن کثیر ۱/۵۸۳ فَاِنَّہٗ رُفِعَ ثَلَاثٌ وَّ ثَلَاثُوْنَ سَنَۃً فِی الصَّحِیْحِ وَقَدْ وَرَدَ ذَالِکَ فِیْ حَدِیْثٍ فِیْ صِفَتِ اَهْلِ الْجَنَّۃِ اَنَّہٗ عَلٰی صُوْرَۃِ اٰدَمَ وَمِیْلَادِ عِیْسٰی ثَلَاثٌ وَّ ثَلَاثُوْنَ سَنَۃً وَّ اَمَّا مَا حَکَاہُ ابْنُ عَسَاکِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ اَنَّہٗ رُفِعَ وَلَہٗ مِائَۃٌ وَّ خَمْسُوْنَ سَنَۃً فَشَاذٌ غَرِیْبٌ بَعِیْدٌ وَّ ذَکَرَ الْحَافِظُ اَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاکِرَ فِیْ تَرْجَمَۃِ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ مِنْ تَارِیْخِهٖ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ اَنَّہٗ یُدْفَنُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ حُجْرَتِهٖ۔ تو بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح روایت کے مطابق تینتیس سال کی عمر میں اُٹھائے گئے اور اہل جنت کے بیان کی حدیث میں یہ مذکور ہے، کہ جنتی آدم علیہ السلام کی صورت پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر تینتیس برس کی عمر میں ہونگے اور جس کو ابن عساکر نے بعض سے روائیت کیا ہے، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے تو اُن کی عمر ایک سو پچاس برس کی تھی، تو شاذ ہے، غریب ہے۔ بعید ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں عیسیٰ بن مریم کے مضمون میں بعض سلف سے نقل کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں آپ کے پاس دفن کئے جاوینگے۔

اور یہ ہے جناب کا حوالہ ابن کثیر کا جنکو ابن کثیر نے خود ہی حل فرما دیا، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اُٹھائے گئے، تو آپ کی عمر تینتیس برس کی تھی، اور یہی صحیح مذہب ہے، اور یہ حدیث متنازعہ فیہا شاذ ہے، غریب ہے، تعجب کی بات ہے، کہ صحاح کے مقابلہ میں ایسی حدیث کو پیش کرتے ہو، جو خود تمہارا

marfat.com

(۲) - یہ کہ زمین پر کوئی سو سال سے زائد نہیں، آسمان کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیونکہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ موجود تھے، جو اس قانون سے باہر ہیں، یہ جو آپنے دلیل بیان فرمائی ہے، سہواً دلیل بنا بیٹھے، ورنہ یہ تو حیات مسیح علیہ السلام کی دلیل واضح ہے۔

"مرزائی"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ اللہ کے واسطے ہوا ہے، جس کو اللہ تعالٰے ہر سو سال کے بعد بھیجتا ہے، جو ہر مومن کے روح کو قبض کر لیتی ہے، مستدرک کی یہ حدیث ہے۔

پس معلوم ہؤا، کہ ہر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجتا ہے۔ جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لیتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اس ہوا سے بچ سکیں گے۔ اس میں زمین آسمان کی قید بھی نہیں،

"محمد عمر"۔ بھلا خادم صاحب یہ فرمائیے، ہر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ہر مومن کی رُوح کو قبض کر لیتا ہے، تو تمہارے اس عقیدہ سے تو ہر سو سال کے بعد تمام زمین و آسمان کے مومنین فناہ ہو جانے چاہئیں، مومنین تو ملائکہ بھی ہیں، ان کو بھی ہر سو سال کے بعد فنا ہو جانا چاہیئے، حالانکہ آجتک کبھی ایسا نہیں ہؤا کہ ہر سو سال کے بعد پہلے مومنین کا کبھی خاتمہ ہؤا ہو تا، کہ ان کی فونیدگی کے بعد پھر مومنین کی پیدائش کی کوئی نئی صورت اختیار کرنی پڑتی، خادم صاحب یہ اصول سُن لو، کہ جب کوئی مسلمان کسی مسئلہ کی تحقیق کرتا ہے، تو پہلے قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم کا سمجھ میں نہ آئے، تو حدیث پاک سے سمجھنا ہے، اور اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو، تو متروک العمل ہوتی ہے۔ سنیئے قرآن کریم میں مذکور ہے۔

عنکبوت ۲۰/۲ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا۔

اور ضرور ٹھیک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو وہ ان میں ساڑھے نو سو سال زندہ رہے۔

اصحاب کہف ہزار ہا سالوں سے غار میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ آپ اُن کو جاگتے ہوئے معلوم کرینگے، حالانکہ وہ

marfat.com

اُتر ینگے،

کیوں جناب! یہ ہے عبارت جلالین کی جو تمہارے برخلاف بیان دے رہی ہے، خداوند کریم آپ کو ہدایت دے، وَمَا علینا الا البلاغ المبین۔

"مرزائی" - کنز العمال کی حدیث ہے، مامن منفوسة فی الیوم یأتی علیہا مائة سنة وھی یومئذ حیّة۔ آج کوئی جاندار ایسا نہیں، کہ اس پر سو سال آوے، اور وہ فوت نہ ہو، بلکہ زندہ ہو، یعنی سو سال کے اندر ہر جاندار مرجاوینگے، پس حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو چکے۔

"محمد عمر" - خادم صاحب کیسے سادہ لوح ہیں، بھلا کوئی ایسی حدیث پیش کرو کہ جس میں لکھا ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم فوت ہو چکے ہیں، کیسی ادھر ادھر کی باتیں گھڑ گھڑ کر بناتے ہو، اب ایک ایسی حدیث بیان کردی کہ جس کا تعلق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اور نہ تمام حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ونشان ہی نہیں، لیکن خادم صاحب دلیلاً پیش فرما رہے ہیں اور جس کو پیش کر رہے ہیں، وہ تمام حدیث نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اس کے ساتھ ہی دو مکمل حدیثیں موجود ہیں، سنیئے۔

کنز العمال ۷/۱۶۹	اُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مَنْفُوْسَةٌ اَلْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ۔

میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی آج زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں، جس پر سو سال گذرا ہو۔

کنز العمال ۷/۱۷۰	مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ۔

زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں، جس پر سو سال گزر چکا ہو۔

تو یہ ہیں حدیثیں مکمل، جنکو آپ سہواً چھوڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں، جس پر سو سال گذرا ہو، اس حدیث شریف سے امرین کا ثبوت ملا۔

(۱) - کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منفوسات کا علم ہے۔

marfat.com

عنصری میں فرق لازم نہیں آسکتا۔

دوسرا جواب:۔ یہ ہے کہ خادم صاحب نے خبر نہیں کہاں سے منطق سیکھی ہے کہ ارواح انسانی اور جسم انسانی کا اجتماع محال ہے، حالانکہ ان میں اتحاد ذاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے ایمان چھین لیتا ہے، تو اس کی عقل بھی ساتھ ہی چھین لیتا ہے، مرزائی صاحب فرماتے ہیں، کہ انبیا علیہم السلام کے ارواح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم عنصری کی معیت محال ہے، پہلے تو تمہیں یہ ثابت کرنا چاہیئے تھا، کہ جسم عنصری انسانی کے ساتھ ارواح کا تعلق محال ہے، جب اجتماع محال نہیں، تو معیت کیسے محال ہوسکتی ہے۔

وکیل صاحب ذرا سمجھ کر بات کیا کرو، ایسے وفات مسیح ثابت نہیں ہوسکتی، جس کو خالقِ کُل زندہ رکھیں اس کو بندہ کون مارے۔ وہ قادر و قیوم ہے، عالم ارواح میں جسم عنصری کو چاہے تو ٹھہرا لے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ارواح کو چاہے، تو تو مکانِ دنیا کا محتاج بنا دے، جیسا کہ تنزل الملائکۃ والروح میں رُوح زمین پر بھی آتے ہیں، اور پھرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کا انکار کردے اُس کا کیا علاج ہے، سوا اس کے کہ خداوند کریم اس کو ہدایت دے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نرالا پیدا کیا، نرالا رکھا، نرالا آسمان پر چڑھایا، اس نے نرالا بنا کر ہی ارواح انبیا علیہم السلام میں رکھا، تم انکار کیسے کرسکتے ہو، اور اگر کرو گے بھی تو تمہارے کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہ ہونگے، بلکہ قربِ قیامت ضرور تشریف لادینگے۔

"مرزائی"۔ پہلے مسیح علیہ السلام کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاَحْمَرُ جُعْدٌ یعنی سُرخ رنگ والے گھنگریالے بال اور مسیح قاتلِ دجّال کا حُلیہ فاذا رجل اُدَمٌ کاحسن ما یری من ادم الرجال تضرب لمتہ بین منکبیہ رجل الشعر۔ یعنی ایسا آدمی ہوگا، گندم گون رنگ، بال اس کے کندھوں پر پڑتے ہیں اور وہ سیدھے بالوں والا ہے، ایک آدمی کے دو حُلیے نہیں ہوسکتے۔ ثابت ہوا، کہ دو آدمی الگ ہیں مسیح ناصری اور مسیح موعود۔ پس پہلا مسیح فوت ہوچکا اور آنے والا مسیح اس امت میں ہے جیسا کہ اما مسکم منکم سے ثابت ہے۔

marfat.com

سوئے ہوئے ہیں، ان کو بایں قانون ابتک موت کیوں نہ آئی، اب بھی کئی ایسے مومنین موجود ہیں، جنکو سو سال سے اوپر دس یا بیس یا پچیس سال گذر چکے ہیں، ان کو موت ابتک نہیں آئی، حالانکہ تمہارے قانون کے مطابق ان کو سو سال کے اوپر زندہ نہ رہنا چاہیئے، اور وہ زندہ ہیں، جب باقی مومنین پر مشاہدہ سے تم سو سال سے زائد عمر رکھنے والے مومن پر یہ قانون جاری نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیسے جاری کر سکتے ہو۔

تیسرا جواب فقیر پہلے یہ بات ثابت کر آیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینتیس برس کی عمر میں تشریف لے گئے ہیں، اور اسی عمر میں اسی حالت میں جیسے غسل کر کے پانی کے قطرات آپ کے سر مبارک سے ٹپکتے تھے، آسمان سے اتریںگے، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ پہلے گذر چکا ہے۔ کہ سو سال کے بعد اٹھائے گئے، لیکن اُن کے کھانے نے ابھی تک بُو نہ دی تھی، جس کے متعلق قرآن کریم لم یتسنہ سے شاہد ہے، تو نبی علاقہ زمین سے جاکر جاکر بوڑھا کیسے کہلا سکتا ہے، نہ وہ اس کی عمر میں شمار ہوتا ہے۔

"مرزائی" ۔ کنز العمال کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ آدم علیہ السلام آسمان دنیا میں ہیں اور یوسف علیہ السلام اور یحیٰی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان میں اور ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسدِ عنصری زندہ آسمان پر ہیں، تو کیا باقی انبیاء کو بھی اسی جسم سے زندہ ماننے کے لئے تیار رہو؟ جب نہیں اور ہرگز نہیں تو اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، کہ آپ سب سے نرالے زندہ ہیں۔

"محمد عمر" ۔ خادم صاحب وفات مسیح کا مسئلہ مروڑ تروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلا ایسے کیسے ثابت ہو سکتا ہے، منطق لڑاتے ہیں، لیکن آپ کی منطق اُلٹی ہے،

پہلا جواب :- خادم صاحب نے یہ نہ سوچا، کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، پہلے تو مرزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے منکر ہیں، تمہارے لئے یہ حدیث حجت ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم تسلیم کر لو تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیا علیہم السلام کے پاس صحبت نشین ہوئے ہیں، تو آپ کی جسمانیت دنیاوی میں فرق لازم نہیں آیا ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انبیا علیہم السلام کے ساتھ بیٹھنے میں اُن کی جسمیت

marfat.com

اگر سبط الشعر ہوتا تب تمہارا مطلب نکلتا، رجل فرمایا تو گیلے بال پانی ٹپکتا ہو، تو جعد رجل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی سبط اور جعد کے بین بین ہو جاتے ہیں، اور ملاحظہ ہو،

مصباح المنیر ۳۳۹ رجل ای لیس شدید الجعودۃ ولا شدید السبوطۃ۔

رجل یعنی نہ سخت گھنگریالے اور نہ سخت لمبے ہیں

اور مرزائی دوسرا امتیاز فرماتے ہیں، کہ ایک حدیث میں سرخ رنگ کا ذکر ہے اور ایک میں گندم گون، سبحان اللہ مرزائی صاحب کو ابھی تک اتنا علم بھی نہیں، کہ گندم گون رنگ میں رنگ کی سرخی ظاہر ہو سکتی ہے یا نہیں، حالانکہ کئی ایسے آدمی آپ کو نظر آئیں گے، جو گندم گون بھی ہیں اور سرخ رنگ بھی، ثابت ہؤا، کہ جو خداوند کریم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو خطاب کیا وہی ایک ہی وجود جو آسمان پر خداوند تعالےٰ نے اس کو چڑھایا اور قرب قیامت وہی مسیح بن مریم آسمان سے اُتر ینگے، اور وہی مسیح بن مریم قاتل دجّال ہونگے۔

قرآن کریم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کے دو وجود فرمائے نہیں، بلکہ ایک فرمایا، اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے رہے، اور اسی ایک وجود کے ہی تمام امت محمدیہ قائل ہے، اور وہ ہی ایک وجود مسیح عیسیٰ بن مریم کہلا سکتا ہے، جس کا نام ماں نے رکھا، خدا نے رکھا، لوگوں نے پکارا، نہ کوئی جعلی مسیح عیسیٰ بن مریم ہؤا، اور نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور جو خود بخود بننے کا دعوی کرے اور بنادے وہ مفتری ہیں، منکر قرآن وحدیث ہیں، جماعت مسلمہ سے علیحدہ ہیں۔

"مرزائی"۔ کنز العمال کی حدیث ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالےٰ نے وحی کی، کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تو پہچانا جائے اور تجھ کو تکلیف دی جائے۔

اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ثابت ہؤا۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا کیا اس سے بھی موت مراد ہو سکتی ہے۔ اس سے تو حیات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ

marfat.com

"محمد عمر"۔ خادم صاحب تم نے اپنے اختیار میں سب کچھ سمجھ رکھا ہے، خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تم کو کوئی پروا نہیں، مخلوقِ خدا کو تم نے دیوانے سمجھ لیا ہے، مداری والا چھل کیا، چاہا تو دو کا ایک بنا کر دکھا دیا اور چاہا تو ایک کے دو بنا دئے، اور تماشائیوں نے واہ واہ کہہ دیا، نہ کوئی ذی شعور اس مجلس میں جائے اور نہ ایک کو ایک ثابت کرے اور دو کو دو، لیکن پھر بھی کوئی چلتا پھرتا ادھر آ ہی نکلتا ہے، اور ضرور کہتا ہے، کہ جیسا کہ تم نے پیر سید محمد مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مدغم کرنا چاہا تو فقیر نے حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں وجودوں کو علیحدہ علیحدہ صفات و اعمال سے دو وجود ثابت کر دئے۔ اور اب تم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فرما کر واؤ عاطفہ کا بھی مسیح اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان ذکر نہیں فرمایا، تاکہ کوئی دشمن قرآن دو وجود نہ سمجھے، خداوند تعالیٰ تو مسیح عیسیٰ بن مریم فرماوے، لیکن مرزائی کو دو وجود ہی نظر آتے ہیں، بھائی یہ تمہارا مرزائیول کا قصور نہیں، مرزائیوں کی نظروں کا قصور ہے۔ جس کی نظر میں فرق ہو، اُس کو ایک کے دو دو ہی نظر آتے ہیں، یہ بھی ان کی مرض پر دال ہے، اگر دو کا ایک ہی نظر آئے تو وہ بھی نظر کے بھینگے ہونے کی علامت ہے، مرزائی کو اور تو کوئی رستہ نہ ملا، کہہ دیا، کہ ایک حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریالے ثابت ہوتے ہیں، اور دوسری حدیث سے لمبے اور سیدھے، لہٰذا دو وجود ثابت ہوئے حالانکہ خادم صاحب اور ان کے معاونین بیچارے عربی سے اتنے کورے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ جُعد گھنگریالے بالوں کی صفت اور اگر اُن کو تر کر کے گیلول گیلوں کو کنگھی کی جاوے تو کچھ لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن بالکل سیدھے نہیں ہوتے، اور نہ ہی بالکل گھنگریالے ہی رہ جاتے ہیں، صورةً رجل بن جاتے ہیں، جب خشک ہو جاتے ہیں، تو پھر شکل جُعد اختیار کر لیتے ہیں، دیکھئے۔

المنجد ۲۵۲	رجلا ای بین السبط والجعد۔ شعر رجل بین الجودة والاسترسال

رجل بالکل سیدھے اور گھنگریالے کے بین بین کو کہا جاتا ہے۔

marfat.com

انصاف پر چھوڑتا ہوں کہ تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے، فیصلہ خود کر لو۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ بھی حیاتِ مسیح علیہ السلام پر تھا

وصیت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

مستدرک ۲/۵۹۵	یقول ابو ھریرۃ ای بنی اخی ان رأیتموہ فقولوا ابوھریرۃ یقرئک السلام۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ اے میرے بھتیجے اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو تم اُن کو کہنا کہ ابوہریرہ آپ کو السلام علیکم کہتا تھا،
کیوں جناب ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام صحابۂ کرام سے چوٹی کے راوی حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ و سلم سے بالمشافہ حدیثیں سننے والے ہیں، جب وہ منتظر مسیح عیسیٰ بن مریم ہیں، تو ہم مسلمان اُن کے خلاف قرآن وحدیث اور اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد صاحب کے جال میں کیسے پھنسیں، اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرآن اور حدیث دان کسے سمجھیں۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ

ابن جریر ۶/۱۲	حدثنی یعقوب قال ثنا ابن علیہ عن ابی رجاء عن الحسن فی قولہ وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن بہ

marfat.com

السلام کا انتقال مکانی یعنی زمین سے آسمان کی طرف مکان تبدیل کرنے کو رب العزۃ نے حکم دیدیا، یہ حدیث تو تمہارے برخلاف بھگتی ہے، مرزائی صاحب کہاں دوڑ رو گے، لیکن ہم دیانتداری سے کام لیتے ہیں، تمہاری طرح آنکھیں بند کر کے مطلب برآری نہیں کرتے، سرے سے یہ حدیث تمہارے لئے حجت نہیں ہو سکتی یہ تو حیات مسیح کی دلیل ہے،

کنز العمال ۲/۳۴ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے، وفیہ ھانی بن المتوکل الاسکندرانی قال فی المغنی مجھول۔

پنجابی مثال ہے دکالروانے پرالی توں پچھانے جاندے نے، ایسی مجہول نہ پیش کریں تو مرزائی کیوں کہلائیں۔

"مرزائی" ۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم سیاحی کرتے تھے، جنگل کی سبزیاں کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے تھے، پھر بھلا موت کیوں نہ آوے۔

"**محمد عمر**" ۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہونے کی دلیل ہے، کہ اُن کو مسیح کیوں کہا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت سیاحی کرتے اور جنگل کی سبزیاں کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے پھر بھلا موت کیوں نہ آوے کس عبارت کا ترجمہ کیا اور بل اللہ شریکی کو کیوں پس پشت ڈال دیا، یہ ہیں مرزائیوں کی حدیثیں جن سے یہ مذہب مرزائیہ وفات عیسیٰ بن مریم کے قائل ہیں، اور ہر ذی فہم سمجھ سکتا ہے کہ یہ وفات مسیح ثابت کر رہی ہیں یا محض ادھر اُدھر کی باتیں بنا کر اپنی جماعت کو خوش کیا ہوا ہے، فقیر نے خادم صاحب کی پاکٹ بُک کے تمام دلائل مرزائیہ کا جواب حرف بحرف دیا ہے۔ اگر کوئی جواب کے لئے قدم بڑھائے تو ذرا اسی طرح لفظ بلفظ جواب دے، اور اگر جواب نہ ہو، تو امت مرزائیہ کو لازم ہے کہ تائب ہو جائیں،

اب اے امت مرزائیہ ذرا انصاف کی نظر سے غور فرماؤ، کہ حیات مسیح کی حدیثیں جو فقیر نے پیش کی ہیں، وہ حیات مسیح علیہ السلام کو کیسے واضح طور پر بیان کر رہی ہیں، احادیث معتبرہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء قرب قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے، اور جو خادم صاحب نے ادھر اُدھر کی باتیں گھڑی ہیں وہ بھی ہم سے مخفی نہیں، اب تمہارے

marfat.com

وسلم سے حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو ثابت کر دیا۔ اب بھی اگر کسی مرزائی کو شک گذرے تو اس کو اللہ ہی ہدایت دے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیدہ بھی حیات مسیح علیہ السلام پر ہی تھا جیسا کہ ماقبل صہ۱۵۷ پر مفصل گذر چکا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ بھی موجودہ مسلمانوں کے مطابق حیات مسیح ناصری علیہ السلام پر ہی تھا، جو ساڑھے تیرہ سو سال سے چلا آرہا ہے۔

تمام متقدمین ومتاخرین محدثین کا عقیدہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ہی تھا

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی یہی تھا

(۱)۔ بخاری شریف ۱/۴۹۰

باب نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُترنے کا باب مقرر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی اور قرب قیامت اور انکی سلطنت کے اعمال کی صحیح حدیثیں پیش کیں، اگر حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہوتے تو نزول مسیح علیہ السلام کا باب مقرر کر کے اپنے عقیدہ حیات مسیح کی وضاحت نہ فرماتے، بلکہ وفات مسیح کا باب لکھتے۔ ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ہی تھا۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ہی تھا

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے

marfat.com

قَبْلَ مَوْتِہٖ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِیْسٰی علیہ السلام وَاللّٰہِ اِنَّہٗ لَحَیٌّ عِنْدَ اللّٰہِ وَلٰکِنْ اِذَا نَزَلَ اٰمَنُوْا بِہٖ اَجْمَعُوْنَ ۰

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے فرمان کے متعلق کہ کوئی اہل کتاب سے نہیں۔ مگر عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ ان کی موت کے پہلے ضرور سب ایمان لے آوینگے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے اللہ کی قسم بے شک وہ حضرت علیہ السلام اب زندہ ہیں اللہ کے پاس اور لیکن جب اُترینگے اُن کے ساتھ سب ایمان لاوینگے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خدا کی کھا کر فرماویں کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام اب زندہ ہیں، اور تم کہو کہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، کیا بانیانِ اسلام کے عقائد غلط اور تمہارے صحیح، ذرا گریبان میں مُنہ ڈال کر تو دیکھو کہ دکیل صاحب تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیکر کس گڑھے میں لیجا رہے ہیں، انسے کہو ایسی ایک واضح عبارت تو دکھائیں اور سنیئے۔

ابن جریر $\frac{6}{12}$ حدثنا ابن وکیع قال ثنا ابو اسامۃ عن عوف عن الحسن اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ قَالَ عِیْسٰی وَلَمْ یَمُتْ بَعْدُ

حضرت حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے الا لیومنن قبل موتہ کے متعلق فرمایا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام ابھی مرے نہیں۔

اے امت مرزائیہ! حضرت حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک چومنے والے کندھوں پاک پر سواری کرنے والے تمہیں قرآن کلام خداوندی پڑھ کر قرآنی دلائل سے دعوای فرما کر بتلا دیں کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام مرے نہیں تو آج تمہاری اس ایجاد کو ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد کون تسلیم کرے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزر چکی ہے۔ کہ اِنَّ عِیْسٰی لَمْ یَمُتْ کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام مرے نہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے قرآن کریم سے اور حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ

marfat.com

ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامات قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرمایا ہے

ابن ماجہ ۳۰۵ — باب فتنۃ الدجال وخروج عیسیٰ بن مریم وخروج یاجوج وماجوج۔

محمد بن عبد اللہ حاکم کا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے پر تھا

(۶) مستدرک ۴/۴۷۸ — نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا۔

ان تمام مذکورہ بالا عبارات سے متقدمین محدثین کا عقیدہ تم کو حیات مسیح ناصری اور ان کے آسمان سے تشریف لانے کو ثابت کرتا ہے۔

متاخرین محدثین کا عقیدہ بھی یہی تھا

شیخ علاؤ الدین علی صاحب کنز العمال کا عقیدہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تھا

(۷) کنز العمال ۷/۲۰۳ — نزول عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

یہ باب تحریر کرکے تمام حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کی بیان فرمائی ہیں۔

marfat.com

کی حدیثیں کتاب الایمان میں باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام تحریر فرما کر ثابت کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا اور اس امت محمدیہ میں ان کی حکومت کا قائم ہونا اور قرب قیامت کفر کو سرے سے مٹا دینا مومن کا جزو ایمان ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے پر ایمان نہیں رکھتا اُس میں ایمان کا ایک حصہ نہیں ہے اور اس امت کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیگا۔ ملاحظہ ہو کتاب الایمان۔

(۲) مسلم شریف $\frac{۱}{۸۷}$ | باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حاکماً بشریعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وَاکرَامِ اللّٰہِ ھٰذِہِ الْاُمَّۃَ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا۔

تو اس عبارت سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اُمت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اُترنے کو جزو ایمان ثابت کر کے اپنے عقیدہ حقہ اسلامیہ حیات مسیح ناصری بیان فرما دیا۔

حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ حیاتِ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام پر ہی تھا

(۳) ابو داؤد $\frac{۲}{۲۴۵}$ | حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کے آسمان سے تشریف لانے کے بعد احادیث صحیحہ سے اُن کو قاتل دجال ثابت کیا، ثابت ہوا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء الی الارض اور ان کے اعمال حکمیہ کے بھی قائل تھے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی حیات مسیح ناصری علیہ السلام اور نزول من السّماء کا ملاحظہ ہو،

(۴)۔ ترمذی شریف $\frac{۲}{۴۶}$ | باب ماجاء فی نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

marfat.com

اور علاماتِ قیامت سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اطلاع فرمائی ہے۔ دجّال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا اور سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا پس یہ تمام علامتیں حق ہیں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے اصل اسلام کے عقائد کی کتاب جس میں صاف صاف قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حق سچ لکھا ہوا ہے۔ تم بھی کسی کتاب عقائد سے موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھاؤ تو سہی اگر تمہارے پاس بھی سچ ہے تو ورنہ خداوند کریم سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی نہ اختیار کرو۔

(۲)۔ بدء الامالی شرح لعلی قاری

یَنْزِلُ عیسیٰ علیہ السلام مِنَ السَّمَاءِ عَلَی الْمُنَارَۃِ الشَّرْقِیَّۃِ فِیْ مَسْجِدِ الشَّامِ .... وَنُزُوْلِ عیسیٰ علیہ السلام وَقَتْلُہٗ لَہٗ وَالْاِیْمَانُ لِکُلِّ ذَالِکَ وَاجِبٌ۔

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے شام کی مسجد کے شرقی مینار پر اُتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُترنا اور آپ کا دجّال کو قتل کرنا ان تمام پر مسلمانوں کو ایمان لانا واجب ہے۔

(۳) مجمع بحار الانوار نمبر ۳ / ۲۳۶

اِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِیْ صُوْرَۃِ ابْنِ ثَلٰثٍ وَّثَلٰثِیْنَ۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اُتریں گے تینتیس سال کی عمر کی صورت میں ہوں گے۔

(۴)۔ تکملہ مجمع البحار الانوار ۸۵

وَکَانَ لَمْ یَتَزَوَّجْ قَبْلَ رَفْعِہٖ اِلَی السَّمَاءِ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے چڑھنے کے پہلے نکاح نہیں کیا تھا،

کتاب الیواقیت والجواہر ۲ / ۲۲

کَوْنُ عِیْسٰی عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اِذَا نَزَلَ اِلَی الْاَرْضِ لَایَحْکُمُ بِشَرْعِ

marfat.com

اے امتِ مرزائیہ! ذرا سی جھاتِ انصاف تو ڈالیئے، کہ جب کسی محدث نے وفات مسیح علیہ السلام کا باب نہیں مقرر فرمایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا باب مقرر فرماکر حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے اور حکومت کرنے اور کفر مٹانے کی حدیثیں جمع فرمائیں، کیا ان تمام محدثین کے صحیح مذہب کو چھوڑ کر ایک مرزا غلام احمد صاحب کی اتباع میں اپنے ایمان کو رائیگان کرو، تو یہ تمہاری مرزائیت کا حصہ ہے اور کوئی مسلمان گوارہ نہیں کرسکتا۔

"مرزائی"۔ مُردوں کا اس دنیا میں دوبارہ نہ آنا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا محال ثابت ہوا اور دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کے کفار ہی خواہشمند ہوں گے۔

"محمد عمر"۔ تمہارے اس استدلال کا حیات مسیح میں پیش کرنا باطل ہے۔ کیونکہ ہم حیات مسیح کے قائل ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی از روئے ادلہ صریحہ قرآن کریم واحادیث صریحہ مرفوعہ سے اور اجماع امت متقدمین سے زندگی بجسد عنصری ثابت ہے تو سرے سے آپ کو مردہ کہنے ہی سے اسلام اور قرآن کریم اور فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے اور ان سے خارج ہونا ہے۔

حیات عیسیٰؑ از اقوال بزرگان اسلام

مسلمانوں کے عقائد کی معتبر کتاب شرح عقائد نسفی ہے۔ عمر نسفی تحریر فرماتے ہیں

(۱) شرح عقائد نسفی ۲۴

وَمَا اَخْبَرَ بِهِ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَیْ مِنْ عَلَامَاتِهَا مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْاَرْضِ وَیَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَنُزُوْلِ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَهُوَ حَقٌّ۔

marfat.com

علامہ نووی شارح مسلم شریف کا مسلک

مسلم شریف ۲/۴۰۳ فیبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ماتحت امام نووی رقم طراز ہیں۔

ای ینزل من السماء۔ یعنی اتارے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے۔

کیوں جی مرزائی صاحب! قدمائے شارحین رحمہم اللہ تعالیٰ کو حیات مسیح علیہ السلام کی حدیثیں زیادہ سمجھ میں آئیں یا تمہیں آج چودھویں صدی میں زیادہ سمجھ میں آئیں۔

مسلم شریف ۱/۸۷ (ثم یقول ابوھریرہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت علامہ نووی فرماتے ہیں۔

ثم یقول ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرء وا ان شئتم وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ فیہ دلالۃ ظاھرۃ لہ ان مذھب ابی ھریرۃ فی الایۃ ان الضمیر فی موتہ یعود علی عیسیٰ علیہ السلام ومعناھا ومامن اھل الکتاب احد یکون فی زمن نزول عیسیٰ علیہ السلام الا امن بعیسیٰ۔

پھر یقول ابوھریرہ اقرء وا ان شئتم الخ میں دلالت ظاہرہ ہے، اس بات پر کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب آیت مذکورہ بالا میں یہ ہے کہ ضمیر موتہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر لوٹتی ہے۔ اس کے معنی (یوں ہونگے کہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں کوئی اہل کتاب سے نہ رہیگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائیگا آگے فرمایا۔

فان عیسیٰ علیہ السلام علم من اعلام الساعۃ۔

پھر بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات سے علامت ہیں۔

marfat.com

لِنَفْسِهِ الَّذِیْ کَانَ عَلَیْهِ قَبْلَ رَفْعِهِ وَاِنَّمَا یَحْکُمُ بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونگے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرینگے، جس شریعت پر وہ رفع سے پہلے تھے اور سوائے شریعت محمدی کے اور کسی سے فیصلہ نہ کرینگے۔

کتاب الیواقیت والجواہر ۲/۳۴

فَلَمَّا دَخَلَ اِذَا بِعِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ بِجَسَدِهٖ عَیْنِهٖ فَاِنَّهٗ لَمْ یَمُتْ اِلَی الْاٰنَ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلٰی هٰذِهِ السَّمَاءِ وَاَسْکَنَهٗ فِیْهَا وَحَکَّمَهٗ فِیْهَا۔

تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عینی کے ساتھ ہیں، پھر بے شک وہ اب تک فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اسی آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور اسی میں اس کو حکم دیا۔

(۷)۔ فتوحات مکیہ لمحی الدین ابن عربی ۲/۱۲۵

اِنَّهٗ لَابُدَّ اَنْ یَّنْزِلَ فِیْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَیَحْکُمُ بِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور اتریں گے اس اُمت میں آخیر زمانہ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرینگے۔

یہ ہے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور فرمان جن کے ارشادات ردّ وبدل کر کے تم مرزائی ہمیشہ ٹریکٹوں، اشتہاروں کی صورتوں میں شائع کرتے رہتے ہو، اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے قائل ہو جاؤ۔

(۱۱) ابن کثیر ۲/۹۲

وَرُفِعَ عِیْسٰی مِنْ رَوْزَنَۃٍ فِی الْبَیْتِ اِلَی السَّمَآءِ۔
اور حضرت عیسٰی علیہ السلام مکان کے روشندان سے آسمان کی طرف چڑھائے گئے۔

مفسّرِ قرآن علامہ علاؤ الدین علی بن محمد المعروف بالخازن کا عقیدہ

(۱۲) تفسیر خازن ۱/۲۹۳

وَاِنَّہٗ رَفَعَہٗ اِلَی السَّمَآءِ
اور بے شک حضرت عیسٰی علیہ السلام کو اللہ تعالےٰ نے آسمان کی طرف اُٹھالیا۔

نمکث فی رسالتہ ثلاثین شھراً ثم رفعہ اللہ تعالٰی
حضرت عیسٰی علیہ السلام نے اپنی رسالت میں تیس مہینے گذارے، پھر ان کو اللہ تعالےٰ نے اُٹھالیا۔

وَیُکَلِّمُ النَّاسَ کَھْلًا بَعْدَ نُزُوْلِہٖ مِنَ السَّمَآءِ وَفِیْ ھٰذِہٖ نَصٌّ عَلٰی اَنَّہٗ سَیَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ وَیَقْتُلُ الدَّجَّالَ۔

اور لوگوں کو ادھیڑ عمر میں کلام کرینگے آسمان سے اُترنے کے بعد اور اس مسئلہ میں نص (قرآنی) موجود ہے، کہ عنقریب حضرت عیسٰی علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتر ینگے اور دجّال کو قتل کرینگے۔

ان قرآن دانوں کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے کی سمجھ قرآن کریم سے آئی، لیکن تمہاری عقل مبیذی ان انگلینڈ نے اُلٹ سمجھ لیا۔

(۱۳) تفسیر خازن ۱/۲۸

فاخبر اللہ تعالٰی انہ رفع بتمامہ الی السماء بروحہ وجسدہ جمیعاً

پس اللہ تعالےٰ نے اس بات کی خبر دی کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام آسمان کی طرف مع اپنے روح اور جسم کے تمام کے تمام چڑھائے گئے ہیں

اے فرقہ مرزائیہ! یہ ہے عقیدہ متقدمین اصل اسلام کا جو قرآن کی تفسیر لکھنے

marfat.com

تحقیق حیات مسیح علیہ السلام از مفسرین و مؤرخین

علامہ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن و مؤرخ اسلام کا عقیدہ

(۸) تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۷

ثُمَّ اِنَّهٗ رَفَعَهُ اِلَيْهِ وَاِنَّهٗ بَاقٍ حَیٌّ وَاِنَّهٗ سَيَنْزِلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْاَحَادِيْثُ الْمُتَوَاتِرَةُ۔

پھر اللہ تعالےٰ نے اپنی طرف اٹھایا اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی ہیں زندہ ہیں، اور بے شک وہ عنقریب قیامت کے پہلے اتریںگے جیسا کہ اس پر متواترہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں، اور پھر متواترہ حدیثیں لکھی ہیں، جن کے لئے ایسا باب لکھا ہے۔

(۹) تفسیر ابن کثیر ۱/۵۷۸

(ذِكْرُ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيْ نُزُوْلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهٗ يَدْعُوْا اِلٰى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ)

آگے تمام احادیث صحیحہ بیان فرمائی ہیں۔ اور

تاریخ ابن کثیر میں یوں باب مقرر فرمایا ہے

(۱۰) البدایہ والنہایہ تاریخ لابن کثیر ۲/۹۱

(ذِكْرُ رَفْعِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى السَّمَاءِ)

marfat.com

حضرت ضحاک مفسر قرآن کا عقیدہ

ابن جریر ۲۵/۴۹

حدثت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول اخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وانه لعلم الساعة يعني خروج عيسى ابن مريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة

حضرت ضحاک فرماتے ہیں وانہ لعلم للساعۃ کے متعلق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہما السلام کا نکلنا اور ان کا آسمان سے اُترنا قیامت کے پہلے (یہ نشان قیامت ہے)

مؤرخین اسلام کا عقیدہ بھی حیات مسیح علیہ السلام کا ہے

(۱۶) تاریخ کامل لابن اثیر ۱/۱۱۰

فرفعه الى السماء من تلك الروزنة ...... ورفع ولم يمت

چڑھائے گئے اور مرے نہیں

(۱۷) تاریخ طبری ۱/۴۳۲

(۱۸) تاریخ کامل لابن اثیر ۱/۱۱۰

يتصفقون عليه ويأتون عليه الشوك حتى اتوا به الخشبة التي ارادوا ان يصلبوه عليها فرفعه الله اليه وصلبوا ما شبه لهم فمكث سبعا ثم ان امه والمرأة التي كان عيسى يداويها فابرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان عند المصلوب فجاءهما عيسى صلى الله عليه وسلم فقال على من تبكيان فقالتا عليك فقال اني قد رفعني الله اليه ولم يصبني الا خير وان هذا شيء شبه لهم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ تھوکتے اور ان پر کانٹے ڈالتے، حتیٰ کہ ایک

marfat.com

میں اور تاریخ اسلام لکھنے میں پیش پیش ہیں۔ اگر تم اُس عقیدہ کو اپنے مرزائے قادیانی کی انا کی بنا پر ٹھکراؤ، تو خداوند تعالے تمہیں ہدایت دے، ورنہ انشاء اللہ تعالے تم اس کے احکام کو ٹھکرانے والے قیامت کو ٹھکرائے جاؤگے، یہ کیسے قرآن کریم سمجھنے والے۔ تم بجائے مرزائی تعزیرات برطانیہ سمجھنے والے اُن کے مقابلے میں کیا وقعت رکھتے ہو۔ کیا یہ تمام متقدمین ومتاخرین معاذاللہ گمراہ رہے ہیں، اگر اسلام کا خیال رکھتے ہو کچھ تو سوچو۔

"مرزائی"۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ڈیڑھ سو سال تھی۔ وہ اپنی عمر نبٹا چکے ہیں۔

"محمد عمر"۔ فقیر پہلے بھی عرض کر چکا ہے۔ لیکن پھر عرض کر دیتا ہوں، اس کا جواب علامہ ابن کثیر دے چکے ہیں۔

(۱۴) ابن کثیر ۱/۵۸۳ وَاَمَّا مَاحَکَاہُ ابْنُ عَسَاکِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ اَنَّهٗ رُفِعَ وَلَهٗ مِائَةٌ وَّخَمْسُوْنَ سَنَةً فَشَاذٌّ غَرِیْبٌ بَعِیْدٌ۔

اور لیکن جس کو ابن عسکر نے ان کے بعض سے بیان کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سو پچاس سال کی عمر میں اُٹھائے گئے پس شاذ ہے غریب ہے۔ اصول محدثین سے بعید ہے۔

ابن عساکر کی یہ بات تو تمہیں بڑی کھٹکی لیکن آگے اس کے لکھا ہے اَنَّهٗ یُدْفَنُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ حُجْرَتِهٖ۔

اور بے شک وہ عیسیٰ (علیہ السلام) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حجرہ میں دفن کئے جائینگے

کیوں جناب وکیل صاحب! جس کتاب کو اٹھاتے ہو وہی تمہارے مخالف ہوتی ہے کیونکہ تم جہاز محمدی کو چھوڑ کر ایسے تنکے کا سہارا لیتے ہو، جو تمہیں سوا ڈوبونے کے اور کچھ نفع نہیں دیتا اور نہ انشاءاللہ دیگا۔ اور نہ دے سکتا ہے۔

marfat.com

کو اللہ تعالیٰ نے اُٹھا لیا ہے، اور کفار سے پاک کر لیا ہے۔ اور لیکن یہ جوان اس کا مثیل ہے اور صلیب دیا گیا اور اس کی جگہ قتل کیا گیا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پس تو فلاں جنگل میں آ تو، تُو ضرور مسیح سے ملاقات کر لیگی تو حضرت مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں پا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہا السلام کو دیکھا تو آپ کی طرف لپکے اور والدہ پر مُنہ کے بل گرے اور سر کو بوسہ دیا اور ہمیشہ کی عادت کے مطابق دعا دی اور فرمایا، اے ماں حقیقتہً مجھے قوم قتل نہ کر سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اُٹھا لیا ہے، اور میری ملاقات کے لئے مجھے اُس نے اجازت دی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے (آسمان کو)

(۲۰) تاریخ ابن خلدون ۱/۲۷۳

فينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى قال وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل بين مهرودتين يعني حلتين مزعفرتين واضعا كفين على أجنحة الملكين له لمة كأنما خرج من ديماس إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ كثير خيلان الوجه وحديث آخر مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة وفي آخر أنه يتزوج في الغرب والغرب دلو البادية يريد أن يتزوج منها وتلد زوجته وذكر وفاته بعد أربعين عاما وجاء أن عيسى يموت بالمدينة.

مسیح علیہ السلام اُتریں گے تو زمین میں حکومت کریں گے جو اللہ چاہے گا کہا اُس نے اور حدیث شریف میں ضرور مذکور ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید شرقی منارہ کے پاس اُتریں گے۔ وہ دو چادریں پہنے ہوئے اُتریں گے اور فرشتوں کے دونوں پروں پر اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھے ہوں گے۔ اُن کے لمبے بال ہوں گے گویا کہ وہ حمام سے (غسل کر کے) نکلے ہیں اس وقت اُن کے سر سے پانی کے قطرے

marfat.com

ایسی لکڑی رہ گئے جس پر انہوں نے صلیب دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور ان کے مثیل کو انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی سات دن ہی قیام فرمایا، پھر اُن کی والدہ معیت اس عورت کے جس کا آپ نے دور کیا تھا تو اللہ نے اس کو دیوانگی سے تندرست کیا مصلوب کے پاس روتی ہوئی آئیں تو ان دونوں کے پاس حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو فرمایا کس پر روتی ہو، تو اُن دونوں نے کہا تجھ پر تو آپ نے فرمایا ٹھیک، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ اور سوائے بہتری کے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور ضرور یہ (مصلوب) وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا مثیل بنایا تھا۔

اس سے ثابت ہوا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے جاچکے ہیں۔ یہودی صلیب پر اُن کو نہیں لٹکا سکے۔ اور ان کا مثیل بھی دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ آئیے اب ابن عساکر سے ہی آپ کی تسلی کرا دیں۔ وحکی الحافظ ابن عساکر...

(۱۹) تاریخ ابن کثیر ۲/۹۴

ذهبت نحو القبر فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته يا مريم اين تريدين فقالت ازور قبر المسيح ... فقال يا مريم ان هذا ليس المسيح ان الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هذا الفتى الذي شبه عليه وصلب وقتل مكانه ... فأت غيضة كذا وكذا تلقين المسيح ... فوجدت عيسى في الغيضة فلما رآها اسرع اليها واكب عليها فقبل راسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل وقال يا امه ان القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني اليه واذن لي في لقائك ... ثم صعد عيسى.

حضرت مریم علیہا السلام قبر کی طرف تشریف لے گئیں۔ تو جب قبر کے پاس پہنچیں آپ کو جبریل علیہ السلام نے کہا اور آپ اُس کو پہچانتی تھیں، اے مریم کہاں کا ارادہ رکھتی ہو، تو حضرت مریم علیہا السلام نے فرمایا، مسیح کی قبر کی زیارت کو جارہی ہوں)...... تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا حقیقۃً یہ مسیح نہیں ہے، مسیح

قَالَ لَیْسَ فِی الْبَیْتِ مَوْضِعٌ فَتَرَی لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ لِتُرَابٍ نَفَقَتَ یُدْفَنُ فِیْهِ عِیْسَی عَلَیْهِ السَّلَام۔

اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ سعد ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپنے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضراء میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کئے جائیں گے۔

پاکٹ بک ص۳۲۵ کے جوابات

مرزائیوں کا وفات مسیح علیہ السلام پر غلط استنباط

(۱) "مرزائی" ۔ ہم نے جو پہلے دلائل پیش کئے ہیں اُنکا تو تم نے بالترتیب جواب دے دیا اور ہماری ہر بات کو تم نے بناوٹ ہی ثابت کر دیا، خیر اب ائمہ سلف سے کچھ اپنے شبہات کو دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے خادم صاحب نے اپنی مکمل پاکٹ بک کے ص۲۲۵ سے ص۲۲۸ تک ائمہ سلف کے اقوال پیش کئے ہیں، جس سے وفات مسیح ثابت ہوتا ہے، اگر ان کا بھی جواب مفصل دیدو گے تو میں انشاء اللہ ضرور مسلمان ہو جاؤنگا، دیگر امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالےٰ عنہ کا قول" فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ" والی مفصل حدیث اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ درج کر کے اپنا عقیدہ وفات مسیح کا ثابت کر دیا۔

"محمد عمر" ۔ یہ استنباط مرزائیوں کا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، اگر ان کا عقیدہ وفات مسیح ہوتا، تو جیسا کہ اُن کا طریقہ ہے، وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا باب مقرر کر کے اور اس کے ماتحت حدیثیں وفات مسیح کی تحریر فرماتے ہیں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے وفات مسیح کے باب لکھنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُترنے کا باب مقرر فرمایا، اور اس کے ماتحت حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے کارنامے کی حدیثیں

marfat.com

گرے ہونگے اور جب اُن کو اللہ تعالےٰ نے اُن کو اُٹھایا۔ بہت موتیوں سے ملوں والے جھرے کی طرح جس سے چاندی کی باریک ریزے گر رہے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں میانہ قد اور گندم گوں رنگ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عنقریب میں نکاح کرینگے، ارادہ کرینگے کہ اس سے نکاح کریں۔ اس سے اکناح کرینگے اور ان کی اولاد بھی اُن سے ہوگی، اور ان کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چالیسؑ سال کے بعد (فوت ہونگے) اور مرا بائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینے میں فوت ہونگے۔

حضرت مجدّد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدہ

مکتوبات شریف دفتر اوّل حصّہ پنجم ۳۷

حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام بعد از نزول بمذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ عمل خواهد کرد۔

حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اُترنے کے بعد امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ کے مذہب کے مطابق عمل کرینگے

اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا اور صداقت حنفی مذہب کہ یہ ایک مذہب ہے جو دنیا میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ جس کا توازن صحیح مطابق قرآن وحدیث ہے۔

حضرت عبدالحق محدّث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام

ماثبت بالسنۃ ۵۸

دلنقل اهل التبوعن سعید بن المسیب

"مرزائی" ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مجمع بحار الانوار میں صاف لکھا ہے ۔ کہ وہ وفات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے ،

"محمد عمر" ۔ خادم صاحب پرانے حوالہ چور مشہور ہیں ، نہ کوئی کتاب دیکھے اور نہ کوئی چوری ظاہر کرے ۔ لیکن خادم صاحب کوئی چوری نکالنے والا ابھی پہنچ ہی جاتا ہے ، سنو ۔

مجمع البحار الانوار ۱/۲۸۶ وَالْاَکْثَرُ اَنَّ عِیْسٰی لَمْ یَمُتْ وَقَالَ مَالِکٌ مَاتَ وَھُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّثَلٰثُوْنَ سَنَۃً وَلَعَلَّہٗ اَرَادَ رَفْعَہٗ اِلَی السَّمَاءِ

اور اکثر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور کہا مالک نے تینتیس برس کی عمر میں مرگئے ہیں ، اور شاید مالک کا ارادہ اوپر چڑھنے کا ہو ۔

یہ ہے اصل حوالہ مجمع البحار کا ، اب خادم صاحب سے دریافت طلب یہ امر ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ صاحب مجمع البحار پر ہے تو انہوں نے تو فرمادیا کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ، اِلَّا مَنْ شَذَّ شُذَّ فِی النَّارِ ، اور مالک نے کہا ہے کہ تینتیس سال کی عمر میں مرگئے اور شاید اُن کا ارادہ بھی اس سے آسمان پر چڑھنا ہی ہو ، تو اِنَّ عِیْسٰی لَمْ یَمُتْ پر ایمان لے آؤ ، باقی رہا صاحب مجمع البحار کا کہنا قَالَ مَالِکٌ مَاتَ تو یہ امام مالک کا قول نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اگر ان کا قول ہوتا تو آپ اپنی کتاب موطا میں درج فرماتے ، بلکہ بجائے اس کے

موطا امام مالک ۳۶۸ پر صفۃ عیسیٰ بن مریم والدجال کا باب مقرر کرکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے صفات اکٹھے بیان فرمائے ہیں ، تاکہ ثابت ہوجائے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے دجال کے زمانہ میں ان کے مقابلہ میں اُتریں گے ، ورنہ دجال کے ساتھ ان کی صفات کو ایک باب میں بیان نہ فرماتے ۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا ، کہ تمام محدثین کے مطابق ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی حیات مسیح علیہ السلام پر تھا ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعۂ حدیث کو بھی بیان فرمایا جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے خانہ کعبہ میں ملاحظ فرمایا ۔ اس دلیل حیات مسیح علیہ السلام کو بھی پیش کرنا آپ کے عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام پر دال ہے ۔ اور وفات مسیح

marfat.com

صحیحہ پیش فرمائیں، تو انہوں نے اپنا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا ظاہر کر دیا، اور اگر کوئی اُن کی کتاب سے غلط استنباط کرے تو یہ اُن کا عقیدہ نہیں بن سکتا، اُن کا عقیدہ وہی ہے جس پر انہوں نے باب مقرر کر کے حدیثیں پیش کیں، اگر ایک افواہ بلا سند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی تو وہ خبر کا درجہ نہیں رکھتی، بھلا یہ تو بتاؤ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تھے کہ انہوں نے ایک دیسی ہی افواہ لکھ دی تو تم نے فوراً حجت بنالی، اور جو انہوں نے بخاری شریف میں احادیث صحیحہ لکھ کر حیات عیسٰی بن مریم علیہ السلام کے کارنامے اور اُنکا قرب قیامت اُترنا ثابت کر دیا، تو تم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مسیح علیہ السلام کی ان تمام روایات صحیحہ کو ٹھکرا کر کہہ دیا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی وفات مسیح پر تھا، کیا کوئی مسلمان یہ تسلیم کر سکتا ہے، کہ مرزائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ سلف سے شمار کرتے ہیں ؟۔ یہ تمہارا کہنا محض مسلمانوں کو دھوکا دہی ہے کہ ہم امام بخاری کو تسلیم کرتے ہیں، اگر یہ واقعی سچ ہے تو

مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد انعام حاصل کیجئے۔

اور

بخاری شریف سے دکھائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وفات مسیح کہیں لکھا ہو، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِیْنَ ۝ اور نعرۂ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تم قیامت تک نہیں دکھا سکتے اگر کہیں باب مقرر ہوتا یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث وفات مسیح علیہ السلام کی بیان فرماتے تو تمہاری پاکٹ بک میں حدیثوں کے بیان میں درج ہوتی، تم تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیکر لوگوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو، تمہارا تو ائمہ حدیث سے کسی نے ساتھ دیا ہی نہیں، جیسا کہ پاکٹ بک صفحہ ۳۱۹ تا صفحہ ۳۲۴ سے اظہر من الشمس ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کی اور فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کی تحقیق پہلے مفصل گذر چکی ہے، ملاحظہ فرمالیں۔

marfat.com

"محمد عمر" فقیر نے پہلے ثابت کر دیا ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھا۔ جیسا کہ موطا امام مالکؒ سے پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد کی کسی کتاب میں مات عیسیٰ ثابت نہیں، لہٰذا ایسے غیر معتبر قول کو جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کسی نے سنا نہیں، اور نہ اس کی اشاعت ہوئی، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ قول پہنچا تو آپ رد نہ فرماتے تو تمہارا کہنا صحیح ہو سکتا تھا۔

آؤ تو ذرا مردِ میدان بنو۔ فقیر

یکصد روپیہ انعام

اُس مرزائی کو پیش کرتا ہے، جو یہ بات ثابت کر دے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ قول پیش کیا گیا، یا اس وقت یہ قول شائع تھا، لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد نہیں کیا، ورنہ سنئیے فقیر تمہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف کردہ مشہور کتاب فقہ اکبر سے حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ثابت کرتا ہے، جیسا کہ موطا امام مالکؒ سے جو امام مالکؒ کی اپنی مرتبہ کتاب ہے، حیات مسیح ثابت کر چکا ہے۔

عقیدہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر تھا۔

فقہ اکبر مصنفہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳

وَنُزُوْلُ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرِ عَلَامَاتِ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ عَلٰی مَا وَرَدَتْ بِہِ الْاَخْبَارُ الصَّحِیْحَۃُ حَقٌّ کَائِنٌ وَاللّٰہُ تَعَالٰی یَھْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حق ہے، ہونیوالا ہے۔ (ابھی اُترے نہیں اُترنے والے ہیں) جیسا کہ قیامت کی تمام علامات احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حق و سچ ہے، ابھی اُترے نہیں اُترنے والے ہیں، اب تم حنفی مسلمانوں کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم شریف لے کر دھوکا دو، تو

marfat.com

کا مسئلہ تمام موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو ثابت ہوا، کہ یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، اب تم سے فقیر دریافت کرتا ہے، کہ مالک بیالیس مشہور ہیں، تم کیسے ایک امام مالک کی تخصیص کر سکتے ہو۔ دیکھو کتب اسماء رجال۔ لہٰذا ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تخصیص غلط اور پھر ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

دوسرا جواب۔ اگر تم ہر صورت ہی تمام باتوں کا انکار کر کے یہی رٹ لگائے رہو کہ نہیں یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ہے، تو یہ بھی حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات اپنی طرف سے کبھی نہ فرمائی تھی چنانچہ فرمایا۔

المیزان الکبریٰ للشعرانی ۱/۵۹	وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُ اَنَّهٗ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَقَدْ وَدِدْتُ الْاٰنَ اَنِّیْ اُضْرَبُ عَلٰی كُلِّ مَسْئَلَةٍ

قُلْتُهَا بِرَائِیْ سَوْطًا۔

اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الموت میں فرمایا کہ جو مسئلہ میں نے اپنی رائے سے لکھا ہو (یعنی جو مسئلہ میں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو، مثلاً قال مالک کہا ہو) تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں کوڑے سے سزا دیا جاؤں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنا ہی غلط ثابت ہوا، آپ نے قال مالک کبھی کہا ہی نہیں، کیونکہ ان کو علم تھا، کہ تمام عمر میں اور اگر تمام عمر میں کوئی ہے بھی تو آپ نے آخری وقت میں اپنے فرمودہ اقوال پر قلم پھیر دی، کہ ان اقوال کا کوئی اعتبار نہ کیا جاوے۔

لہٰذا یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بقول تمہارے مسلمانوں کے لئے حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اقوال کو غیر معتبر ثابت کر دیا، تمہارا یہ استدلال قطعاً بے بنیاد ثابت ہوا۔

(۳) "مرزائی"۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک پر انکار ثابت نہیں، لہٰذا ثابت ہوا، کہ امام ابوحنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔

marfat.com

مِنَ الْاَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ الَّذِیْ ثَبَتَ ...... وَدَلَالَۃٌ عَلٰی اَنَّ حَدِیْثَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَثْبُتُ بِنَفْسِہٖ لَا بِعَمَلِ غَیْرِہٖ بَعْدَہٗ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث (مذکورہ بالا) میں دو دلالتیں ہیں، ایک حدیث کو قبول کرنا اور دوسری بات یہ کہ جب حدیث سے ثابت ہو جائے، اس وقت قبول کی جاوے، خواہ تمام اماموں سے کسی امام کا عمل اس پر نہ گذرا ہو، اس حدیث کو جس کو انہوں نے قبول کیا ہے ...... اور اس بات پر بھی دلالت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنفسہٖ حجت ہے، ثابت ہے نہ اس کے بعد غیر کے عمل کرنے سے حجت ہو سکتی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمادیا کہ جو مسئلہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو کوئی امام اس کو کہے یا نہ کہے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے اس حدیث پر فوراً ایمان لانا چاہیئے، کیونکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ہی حجت ہے یہ نہیں کہ امام شافعی اس کو کہیں تو حدیث حجت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں، اب مرزائیہ کا کہنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کو نہیں فرمایا لہذا ثابت ہوا، کہ حیات مسیح کا مسئلہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہیں، تمہارا یہ قانون امام شافعی رحمۃ اللہ کی کلام نے مسترد فرما دیا، اور احادیث صحیحہ سے حیات مسیح علیہ السلام و نزولہ من السماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، ان کا سکوت ثابت کر رہا ہے، ورنہ ضرور بحث فرماتے، پانچواں جواب، جتنے شوافعین ہیں، تمام پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے سوائے امام بیہقی کے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے شافعی مذہب کی اتنی صحیح اور زیادہ اشاعت فرمائی ہے، کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ ملاحظہ ہو۔

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ
مصنفہ تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ
۴

وَقَالَ اِمَامُ الْحَرَمَیْنِ مَا مِنْ شَافِعِیٍّ اِلَّا وَلِلشَّافِعِیِّ فِیْ عُنُقِہٖ مِنَّۃٌ اِلَّا الْبَیْہَقِیَّ فَاِنَّ لَہٗ عَلَی الشَّافِعِیِّ مِنَّۃً لِتَصَانِیْفِہٖ فِیْ نُصْرَۃِ مَذْہَبِہٖ وَاَقَاوِیْلِہٖ۔

اور امام الحرمین الشریفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شافعی نہیں، مگر اس کی گردن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے سوائے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، اس کے مذہب اور اس کے اقوال کی امداد

marfat.com

یہ محال ہے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات احناف کو حیاتِ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور قربِ قیامت اُن کے آسمان سے اُترنے کا سبق دے رہی ہے۔ اس کو بھی وکیل صاحب کے تجاہلِ عارفانہ سے سمجھتا ہوں۔

(۴۷) "مرزائی"۔ اچھا مولوی صاحب! امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا عقیدہ تو ثابت ہو گیا کہ حیاتِ مسیح پر تھا، لیکن صاحبین اور حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی وفاتِ مسیح علیہ السلام پر تھا۔

"محمد عمر"۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو گیا، کیا تم مرزائی صاحبین رحمہما اللہ تعالےٰ کو اُن کا مقلد نہیں سمجھتے؟ اگر ہیں اور ضرور ہیں، تو جوان کا مقلد ہے اس کا عقیدہ بھی حیاتِ مسیح کا ہونا لازمی ہے ورنہ حنفی کہلانے کا حقدار نہیں لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی حیاتِ مسیح علیہ السلام لازمی ہوا۔

باقی رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تو اس کے کئی جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کی تصنیفات ہی اس طرف رائج نہیں، کیونکہ اس طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نہیں، جب تک تمام کی تحقیق نہ ہو، جھوٹ کہنا کہ وہ اس مسئلہ میں ساکت ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے، دوسرا جواب۔ اگر بالفرض ساکت بھی ہوں، تو یہ ثبوت کا اقرار ہے نہ کہ انکار کا، کم از کم اگر تم عوام کی اصطلاح کو بھی پس پُشت نہ ڈالتے اور انصاف سے کام لیتے تو خاموشی رضا پر دال ہے کو نظر انداز نہ کرتے، اور نہ اُس وقت کوئی وفاتِ مسیح علیہ السلام کا قائل ہی تھا، کہ آپ کو اس کے رد کی ضرورت پڑتی، ورنہ ثابت کرو، کہ اس وقت وفاتِ مسیح والے موجود تھے، تیسرا جواب، آپ نے ختم نبوت کے مسئلہ کو خوب واضح لکھا ہے، مرزائی اس کے کب عامل ہیں، چوتھا جواب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

مقدمہ کتاب الام ص ۸

(قال الشافعی) رحمۃ اللہ علیہ فی هٰذا الحدیث ولا لنا ان احدهما قبول الخبر والاخری ان یقبل الخبر فی الوقت الذی یثبت فیه وان لم یمض عمل من احب

marfat.com

ہیں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں، کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے۔

لہٰذا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب حیاتِ مسیح علیہ السلام کا مسئلہ واضح ہوگیا، تو اب دوسرے ائمہ کرام کی طرف رغبت کرنا مرزائیوں کو بقول مرزا صاحب مرزائیت سے خارج کرتا ہے۔

کیوں جناب تم مرزائی تو قرآن کریم کو چھوڑ گئے، احادیث صحیحہ اجماعیہ کو بھی ترک کر دیا، اب ائمہ کرام پر بہتان لگا کر لوگوں کو دھوکا دینا شروع کر دیا، تاکہ جب اماموں کا نام لیا جائیگا، بات صحیح ہو یا نہ، کون پوچھتا ہے، اماموں کے ماننے والے خود بخود ہمارے متبع بن جائینگے، جناب وکیل صاحب! وہ سادگی کا زمانہ گزر چکا، اب ہر شخص تحقیق کا خواہاں ہے، جب ان کو ائمہ کرام سے محدثین ہوں یا مفسرین قرآن کریم کے مطابق حیات مسیح علیہ السلام اور ان کے قرب قیامت تشریف لانے کے دلائل مل رہے ہیں تو وہ لوگ ایسی واضحات آیاتِ فرقانیہ کو چھوڑ کر اور احادیث صحیحہ کو ترک کر کے اور اجماع ائمہ کرام کی معیت کو رد کر کے تمہاری مرزائیت کے گورکھ دھندے میں کیسے پھنس سکتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں حیات مسیح علیہ السلام کی حدیثوں کو پیش کرنا حنبلی مذہب کے عقیدہ حیات مسیح کو واضح کر رہی ہے، اس میں بھی تمہارا داؤ پیچ نہیں چل سکتا، کسی ایسے امام کا نام لیتے جس کی کوئی ذاتی تصنیف نہ ہوتی، اور نہ ہی اُن کے متبعین کی تصانیف شائع ہوتیں، تو ایسے گمنام کی بات شاید تصوّر میں ہی منظور ہو سکتی، لیکن ائمہ اربعہ کی خود تصانیف موجود، اُن کے متبعین ائمہ محدثین و مفسرین و فقہا کے دفاتر موجود، تمام نے باتفاق حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ کو اس زمانے کے لوگوں تک بدلائل پہنچا دیا، اور آج تم مرزائی لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دو کہ ائمہ اربعہ بھی حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ میں خاموش ہیں، تو کون ذی ہوش اس بات کو تسلیم کرنے کے واسطے تیار ہے جو ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین کی تصانیف کے انبار پڑھ کر یا دیکھ کر یا سُن کر حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر ایمان رکھتے ہیں، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔

(۵) **مرزائی**: جلالین معہ کمالین کے حاشیہ بین السطور پر ہے کہ ابن حزم نے ظاہر آیت پر محمول کر کے اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی بِمَوْتِہٖ کیا ہے اور ابن حزم وفات مسیح کے قائل تھے،

marfat.com

جواس کی تصانیف میں ثابت ہے۔

تو ثابت ہؤا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و مذہب کے اتنے حقیقی ترجمان ثابت ہوئے تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی احادیث صحیحہ کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب حیات مسیح و نزوله من السماء الی الارض کو ثابت کر دیا۔ جیسا کہ

بیہقی شریف ۹/۱۸۰ پر اور باقی کئی مقامات پر حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پر زور حدیثیں آسمان سے اترنے کی درج فرمائیں ہیں جس پر تمہیں بھی انکار نہیں،

لہذا ثابت ہؤا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی اسی بنا پر حیات مسیح اور قرب قیامت اُن کا آسمان سے زمین پر تشریف لانیکا ہی تھا،

چھٹا جواب یہ ہے کہ جتنے مفسرین شوافعین ہیں جن کا ذکر پہلے گذر چکا ہے، اور جتنے محدثین شوافعین ہیں تمام کا عقیدہ حیاتِ مسیح و نزوله من السماء پر ہی ہے۔ اُن کا حیاتِ مسیح علیہ السلام کو پر زور بیان کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کا اظہار

کتاب الاسماء والصفات للبیہقی صـ ۳۰۱

وَ اَخْرَجَهٗ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ مِنْ یُوْنُسَ وَ اِنَّمَا اَرَادَ نُزُوْلَهٗ مِنَ السَّمَاءِ بَعْدَ الرَّفْعِ

ساتواں جواب۔ مرزائیوں کے لئے اور ائمہ کرام کہیں یا نہ جب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صاف صاف عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا فقہ اکبر میں اظہر من الشمس واضح ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فرمان کے مقابلہ میں باقی اماموں کی طرف توجہ پھیرنا یا پھرانا مرزائیت سے خارج ہونا ہے، سنیئے۔ مرزائی کس کس کا استدلال لے سکتے ہیں۔

ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی صفحہ ۱۰۔ مؤلفہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی

ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیئے، کہ اگر حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو، تو خواہ کیسے ہی ادنیٰ درجہ کی حدیث ہو، اس پر وہ عمل کریں، اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح نہ دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن

marfat.com

من گھڑت باتیں کسی کے بڑے کی طرف منسوب کرنا یہ اخلاقی شیوہ محض مرزائیوں کا ہی ہے ورنہ ثبوت محال ہے۔

(۸) "مرزائی"۔ حافظ لکھو کے والے لکھتے ہیں۔ یعنی جیوبیں پیغمبر گذرے زندہ رہیا نہ کوئی، ثابت ہوا کہ حافظ محمد بھی وفاتِ مسیح کے قائل ہیں۔

"محمد عمر"۔ اچھا مرزائی صاحب! ہم حافظ محمد صاحب سے ہی دریافت کر لیتے ہیں۔ کہ تمہارا عقیدہ حیاتِ مسیح ہے یا وفاتِ مسیح۔

تفسیر محمدی منزل اوّل ۳۹۲

تیراں برس عمر مریمؑ دی عیسٰی شکم جاں آیا
تے ہینیٹھ سن سکندری اندر مریمؑ عیسٰی جایا
پھر تریہہ برساندی عمر نبوت آیا وحی الٰہی
فر تیتر یہ ۳۳ برساں عمر آسمانی رات فرلدی آہی
بیت مقدس تھیں تس اللہ طرف آسمان چڑھایا
ترائے سال نبوت دھرتی ایپر فیر بدھایا

توفی معنی قبض کرن تے صحیح سلامت پوری — عیسٰی نوں صحیح سلامت لے گیا آپ حضوری

فر پیش قیامت آئے زمین پر چالیس سال گذارے — فر مریسی مومن پڑھن جنازہ آکھیا نبی پیارے

کیوں جناب! حافظ محمد صاحب نے تو مرزائی عقیدہ کی جڑ کاٹ دی، تم کہتے ہو، وہ وفاتِ مسیح علیہ السلام کے قائل تھے، اب تو اُن کی زبان ہی سے تم جھوٹے ہو گئے۔

(۹) "مرزائی"۔ حضرت محی الدین ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ آخیر زمانہ میں حضرت عیسٰی علیہ السلام اتر ینگے۔ ان کا تعلق کسی اور بدن کے ساتھ ہوگا۔

"محمد عمر"۔ یہ حوالہ کس کتاب کا ہے؟

"مرزائی"۔ تفسیر عرائس البیان کا۔

"محمد عمر"۔ تم بھی بس مٹھے میاں ہی ہو، جیسا کسی نے پڑھا دیا، ویسے ہی کہدیا۔ سچ ہو یا جھوٹ۔ بھلا اتنی خبر بھی نہیں، کہ عرائس البیان حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بھی ہے یا نہیں، اگر اُن کا یہ عقیدہ ہوتا، تو وہ اپنی کتابوں میں کیوں نہ لکھتے، حالانکہ

marfat.com

"محمد عمر" - یہ کسی مرزائی نے بین السطور لکھا ہوگا، ابن حزم کا اصل حوالہ پیش کرو، انشاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیا جائیگا۔

(۶) **"مرزائی"** - عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اپنے رسالہ ما ثبت بالسنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ۱۲۵ برس کا لکھا ہے،

"محمد عمر" - شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام عمر لکھی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے، کہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اپنے دوسرے مقام پر اسی کتاب ما ثبت بالسنۃ صفحہ ۵۸ پر لکھا ہے۔ يَبْقَىٰ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ فِي السَّهْوَةِ الشَّرِيفَةِ يُدْفَنُ فِيهِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، کہ روضۂ اطہر میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جگہ باقی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کئے جاوینگے۔

کیوں جناب؟ یہ ہے عقیدہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی روضۂ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا ہے، نوت ہوئے نہیں، تم نے تعداد عمر کے جھگڑے میں اپنی طرف سے وفات کا مسئلہ بنا لیا، بھائی یہ تو مرزائی کے بائیں ہاتھ کا کام ہے،

(۷) **"مرزائی"** - نواب صدیق حسن خان نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال، حج الکرامۃ وغیرہ میں لکھی ہے۔

"محمد عمر" - بڑا افسوس ہے، عمر کے حساب میں اُلجھاتے ہو، دکھاؤ تو کہیں انہوں نے لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے حیات مسیح علیہ السلام کو پر زور لکھا ہے۔ گو وہابی ہیں، ہمارے عقیدہ کے برخلاف ہیں، لیکن وفات مسیح کے وہابی بھی قائل نہیں، بلکہ اہل اسلام کے تمام فرقے ابتداء سے آج تک حیاتِ مسیح کے قائل ہیں، کوئی کمزور سے کمزور فرقہ جو اسلام کا دعویدار ہے وہ بھی آجتک وفات مسیح کا قائل نہیں سوائے اس نوزائیدہ فرقہ مرزائیہ کے، لہذا نواب صدیق حسن خان کا نام لیکر وہابیوں کو دھوکا دینے کا داؤ بھی وکیل صاحب کا نہ چل سکا، وکیل صاحب ائمہ اربعہ کے نام کو محض بدنام کر کے باقی وہابیہ یا شیعہ وغیرہما کے بڑوں کا واسطہ دیکر اپنی مرزائیت کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا کے فضل و کرم سے کوئی مرزائی آجتک کسی فرقے کے کسی بانی یا متبع کا عقیدہ وفات مسیح ثابت نہیں کر سکتا اور اِدھر اُدھر کی

marfat.com

کے زمانہ نبوت کا حکم جاری ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ نبوۃ مطلقہ کے ساتھ حالت ولایت میں اُتریں گے، جس شان و لایت میں آپ کے ساتھ کئی محمدی اولیاء بھی شامل ہوں گے تو وہ ہم سے (یعنی امت محمدیہ) سے ہونگے، اور وہ ہمارے سردار ہونگے، تو اس بوجھ کے اٹھانے والے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخر اس امت کا بوجھ اٹھانیوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونگے، یعنی نبوۃ کا اختصاص تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قیامت کو دو حشر ہونگے، ایک امتِ محمدیہ کے ساتھ اور دوسرا انبیا و رسل کے ساتھ،

تو اس تمام مذکورہ بالا عبارت حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ضرور اُتریں گے۔

دوسری بات یہ کہ آپ سابقہ ڈیوٹی نبوت سے ریٹائر ہونگے، لیکن باوجود اس کے ہم ان کو سابقہ نبوۃ سے خارج بھی نہیں سمجھتے، اُن میں عہدۂ نبوت موجود ہوگا، اور ان کا اس امت میں تشریف لانا آخیر میں محض اِس اُمت کے ولیوں سے ایک ولی کی حیثیت سے ہوگا، اپنی ولایت کے مظہر ہونگے، جس میں دوسرے اولیائے امتِ محمدیہ بھی ان میں شریک ہیں، اپنی نبوۃ کے معلن نہ ہونگے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اِس امتِ محمدیہ کے ولیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، آپ کے بعد امتِ محمدیہ میں کوئی ولی نہ ہوگا، جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوسکتا سوائے ایک سابقہ نبی کے جو اپنی ولایت کو لیکر امتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرینگے،

کیوں جناب! اگر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیاتِ مسیح علیہ السلام پر نہ ہوتا تو ان کو خاتم الولایت امت محمدیہ کیوں ثابت کرتے،

آؤ! ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین ہونیکا دم بھرنے والو ان کی اتباع میں حیاتِ مسیح علیہ السلام کے قائل بنجاؤ، ورنہ اُن کے کسی قول کو آج سے استدلال میں پیش نہ کرنا،

ثابت ہؤا کہ تمہارا کہنا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کا عقیدہ وفاتِ مسیح ہے، غلط ہے، ورنہ اُن کی تصنیفات سے دکھاؤ، تمہاری ایسی مناوٹی باتوں سے ان کا فرمان ثابت نہیں ہوسکتا، اور عرائس البیان والے کا بھی یہ عقیدہ نہیں، سنیئے۔

عرائس البیان ۸۴ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا وعنہ نزولہ من السَّماء کَهْلًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کرتے تھے بچپن

اس کے خلاف ان کی کتابوں میں عبارتیں حیات مسیح علیہ السلام کی موجود ہیں، معلوم ہوا، یہ اُن کی عبارت نہیں ہے، سنیئے یہ تمہاری من گھڑت بات ہے۔ فقیر انکی اصل عبارت پیش کرتا ہے۔ اگرچہ پہلے بھی اس کو عرض کرچکا ہے۔

فتوحاتِ مکیہ ۲/۴۹

فَاِنْ قُلْتَ وَمَنِ الَّذِیْ یَسْتَحِقُّ خَاتِمَ الْاَوْلِیَاءِ کَمَا یَسْتَحِقُّ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ خَاتِمَ النُّبُوَّۃِ قُلْنَا نَقُوْلُ فِی الْجَوَابِ الْخَتْمُ خَتْمَانِ خَتْمٌ یَخْتِمُ اللّٰہُ بِہِ الْوِلَایَۃَ الْمُحَمَّدِیَّۃَ عَلَی الْاِطْلَاقِ فَھُوَ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ فَھُوَ الْوَلِیُّ بِالنُّبُوَّۃِ الْمُطْلَقَۃِ فِیْ زَمَانِ ھٰذِہِ الْاُمَّۃِ وَ قَدْ حِیْلَ بَیْنَہٗ وَبَیْنَ نُبُوَّۃِ التَّشْرِیْعِ وَالرِّسَالَۃِ فَیَنْزِلُ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَارِثًا خَاتِمًا لَا وَلِیَّ بَعْدَہٗ بِنُبُوَّۃٍ مُطْلَقَۃٍ کَمَا اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ النُّبُوَّۃِ لَا نُبُوَّۃَ تَشْرِیْعٍ بَعْدَہٗ وَاِنْ کَانَ بَعْدَہٗ مِثْلُ عِیْسٰی مِنْ اُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَخَوَاصِّ الْاَنْبِیَاءِ وَلٰکِنْ زَالَ حُکْمُہٗ مِنْ ھٰذَا الْمَقَامِ لِحُکْمِ الزَّمَانِ عَلَیْہِ الَّذِیْ ھُوَ لِغَیْرِہٖ فَیَنْزِلُ وَلِیًّا ذَا نُبُوَّۃٍ مُطْلَقَۃٍ یُشْرِکُہٗ فِیْھَا الْاَوْلِیَاءُ الْمُحَمَّدِیُّوْنَ فَھُوَ مِنَّا وَھُوَ سَیِّدُنَا فَکَانَ اَوَّلُ ھٰذَا الْاَمْرِ نَبِیٌّ وَھُوَ اٰدَمُ وَاٰخِرُہٗ نَبِیٌّ وَھُوَ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَعْنِیْ نُبُوَّۃَ الْاِخْتِصَاصِ فَیَکُوْنُ لَہٗ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ حَشْرَانِ حَشْرٌ مَعَنَا وَحَشْرٌ مَعَ الرُّسُلِ وَحَشْرٌ مَعَ الْاَنْبِیَاءِ۔

تو اگر سوال کرے کہ خاتم الاولیاء کا کون مستحق ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوۃ کے حقدار ہیں، تو ہم ضرور جواب دینگے ختم دو ہیں (ایک یہ کہ) اللہ تعالیٰ ولایت محمدیہ کو علی الاطلاق ختم فرمائیگا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ نبوۃ مطلقہ کے ساتھ اس امت کے زمانہ میں ولی ہیں، حالانکہ تحقیق ان کے درمیان نبوۃ تشریعی اور رسالت حائل ہے، تو آخیر زمانہ میں اتریںگے ولایت کے وارث ہونگے، خاتم الولایۃ ہونگے، اُن کے بعد سابقہ نبوۃ مطلقہ کے رکھنے والا کوئی ولی نہ ہوگا، جیسا کہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوۃ ہیں، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تمام رسولوں سے اولوالعزم رسول اور خواص انبیاء سے خاص ایک نبی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، لیکن اس کی نبوۃ کا حکم اس مقام (نبوۃ) سے زائل ہوچکا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

فِی حَدِیثِ الدَّجَّالِ فَیَنْزِلُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ فَیَقْتُلُہٗ ثُمَّ یَمْکُثُ عِیْسٰی فِی الْاَرْضِ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً اِمَامًا عَادِلًا وَّحَکَمًا مُّقْسِطًا وَرَدَ اَیْضًا مِنْ حَدِیْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِیْ فَھٰذِہِ الْاَحَادِیْثُ الصَّحِیْحَۃُ اَوْلٰی مِنْ ذٰلِکَ الْحَدِیْثِ الْوَاحِدِ الْمُحْتَمِلِ (زرقانی ۱/۳۵)۔

حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے مرفوعاً روایت کی ہے، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں چالیس سال قیام فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چالیس سال ٹھہرنا مختلف طریقوں کی کئی حدیثوں میں مذکور ہے، بعض اُن سے یہ وہی حدیث ہے جسکو ابو داؤد نے بیان فرمایا ہے، اور وہ صحیح ہے، اور بعض اُن سے جسکو طبرانی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اتر ینگے تو لوگوں میں چالیس سال قیام فرماوینگے اور بعض اس کے جس کو احمد نے روایت کیا زہد میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے، فرمایا آپنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال زندگی بسر کرینگے، اور اگر بطحا کو فرماوینگے کہ شہد بہا وے تو وہ شہد بہاویگی۔ اور بعض اُن سے جس کو امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے اپنی مسند میں دجال کی حدیث کو بیان فرماتے ہوئے مرفوعاً ذکر فرمایا، کہ اتر ینگے عیسیٰ بن مریم تو دجال کو قتل کرینگے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال قیام فرماوینگے امام عادل اور حاکم منصف کی ڈیوٹی ادا فرماوینگے، اور طبرانی کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے روایت مذکور ہے ـــ تو یہ تمام احادیث صریحہ اس ایک احتمالی حدیث سے اولیٰ ہیں، یہ ہیں استدلات سو انہوں نے حیاتِ مسیح علیہ السلام اور ان کی عمر کے متعلق احادیث صحیحہ سے فیصلہ فر۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! ایک سو بیس سال والی اور مسلم کی حدیث کو مرجوح اور چالیس سالہ حدیث کو راجح ثابت کرنے کے واسطے علامہ زرقانی نے بیان فرمایا ہے یا جیسا کہ تم نے سمجھا؟ تو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد چالیس سالہ قیام ارضی کی حدیثوں کو اولیٰ اور اجماعی ثابت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس عمر کے حصہ میں تنازعہ ہے، یعنی بعد از نزول سماوی، اُسپر تو بات نہیں کرتے اور پہلی احادیث تینتیس سالہ مرفوعہ اجماعیہ کو چھوڑ کر ایک خبر احاد نادرہ میں اُلجھتے ہو جس کو نفیر پہلے بھی عرض کر چکا ہے، کہ ابن

marfat.com

میں اور آسمان سے اُترنے کے بعد کچھ مدت کا زمانہ گزاریں گے۔

(۱۰) **"مرزائی"**۔ بعض صوفیائے کرام کا مذہب ہے، کہ مسیح موعود کا بروز کے طور پر نزول ہو گا۔

"محمد عمر"۔ یہ مرزائیات سے ہے، اس کے آگے لکھا ہے "ایں مقدمہ نہایت ضعیف است"۔ بروز کا ثبوت سابقہ مسلمانوں کی کسی تصنیف میں نہیں ہے، اگر کوئی مرزائی انعام کا خواہاں ہو، تو

مبلغ یک صد روپیہ

اس مرزائی کو دیا جائیگا، جو قرآن و حدیث یا اقوال ائمہ مسلمہ سے بروزی نبوت کو ثابت کر دے، ورنہ مرزائیت سے تائب ہو جاؤ، اور خدا سے ڈرو۔

(۱۱) **"مرزائی"**۔ زرقانی کی حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے فرمایا ہے۔ کہ حضرت مسیح کی عمر ۱۲۰ سال تھی،

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب تم لوگوں کو حضرت عیسٰی علیہ السلام کی عمر کی اُلجھن میں ڈالتے ہو لیکن وہ بھی تمہارا کام چلتا نہیں، آئیے عمر کے متعلق ہی اس مقام پر تمہاری اُلجھن نکال دیں، حالانکہ پہلے بھی فقیر واضح طور پر بیان کر چکا ہے، جناب مرزائی صاحب کی سرشت جبلی ہے، کہ کچھ بات نقل فرماتے ہیں اور باقی چھپا لیتے ہیں۔ محدثین کا اصول ہے کہ تمام ضعیف خبر احاد وغیرہ کو بیان کر کے آخر اس کا فیصلہ ثقات سے کرتے ہیں، چنانچہ امام زرقانی اقوال مختلف کو بیان کر کے اخیر فیصلہ فرماتے ہیں، وروی ابو یعلی عن فاطمة مرفوعًا ان عیسٰی ابن مریم مکث فی بنی اسرائیل اربعین سنة ...... وورد ومکث عیسٰی علیه السلام اربعین سنة فی عدة احادیث من طرق مختلفة منها هذا الحدیث الذی اخرجه ابو داؤد وهو صحیح ومنها ما اخرجه الطبرانی عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ینزل عیسٰی بن مریم فیمکث فی الناس اربعین سنة ومنها ما اخرجه احمد فی الزهد عن ابی هریرة قال یلبث عیسٰی ابن مریم فی الارض اربعین سنة لو یقول للبطحاء سیلی عسلًا تسالت ومنها ما اخرجه احمد فی مسنده مرفوعًا

marfat.com

اس کو پیٹنا شروع کر دیگا۔ حالانکہ اس کا جواب یہ ہے۔ ایسے حافظ صاحب نے خداوند کریم کی حیاتِ ابدی کو ثابت کر کے نصاریٰ کا رد کیا، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوتے تو خدا کے لیے حیاتِ ابدی ہے۔ اُن کے لئے بھی موت نہ ہوتی، اور اگر اُن کے لئے موت ہے، تو خدا کے بیٹے نہ بن سکے، تو یہاں حافظ صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے موت کو مستلزم ثابت کیا ہے نہ وقوعِ موت۔ جیسا کہ تم نے غلط سمجھا ہے، حافظ صاحب نے تو حیاتِ مسیح علیہ السلام بیان کر کے مرزائیت کے بخیے اُدھیڑ دئے ہیں؛ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خادم صاحب اس کا نٹے کو کھینچنا چاہتے ہیں، اب وہ کیسے نکلے، اور یہ محاورہ مذکور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، خداوند کریم نے فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ۔ بے شک آپ بھی میت ہیں اور وہ بھی میت، تو کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میت تھے، اور وہ لوگ بھی میتہ تھے؟ ہرگز نہیں، خادم صاحب بیچارے تو پنجابی محاورہ کو بھی نہ سمجھ سکے، فقیر نے پنجابی محاورہ سے بھی اور قرآنی محاورہ سے بھی ثابت کر دیا، کہ لزوم کا ثبوت بیان کرنے سے وقوع کا تحقق نہیں ہوتا، بلکہ زمانِ استقبال میں اس کے وقوع کا اثبات ہوتا ہے، ایسے ہی ثابت ہوا، کہ حافظ صاحب نے فرمایا خداوند کو موت نہیں حیات ابدی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے موت ہے۔ یعنی عنقریب آنیوالی ہے، جیسا کہ آنے والے نے کہا آیا جی، یعنی میں عنقریب آنیوالا ہوں، اس سے تو خادم صاحب حیاتِ مسیح ثابت ہو گیا، یہ ہے خادم صاحب کی پنجابی دانی،

(خادم صاحب کھڈاں وچ رترتیاں کجھ نہیں بندا، کوئی تا کم دی گل کرو)۔

(۱۲۳) "مرزائی" - ابن جریر میں ہے، کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں،

"محمد عمر" - خادم صاحب کتابی چور مشہور ہیں، چنانچہ اس مقام پر بھی ابن جریر کی چوری کی اور اپنا عقیدہ ظاہر فرما دیا۔

ابن جریر ۳/۱۰۱ میں مذکور ہے، عن محمد بن جعفر بن الزبیر الحیُّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَقَدْ مَاتَ عِیْسٰی وَصُلِبَ فِیْ قَوْلِهِمْ یَعْنِیْ فِیْ قَوْلِ الْاَحْبَارِ الَّذِیْنَ حَاجُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَصَارٰی اَهْلِ نَجْرَانَ۔

محمد بن جعفر سے روایت ہے، کہ خدا حی ہے، جس کو موت نہیں، حالانکہ تحقیق عیسیٰ علیہ السلام اُن کے کہنے کے مطابق مر گئے ہیں، اور صلیب دئے گئے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے عالموں کے

marfat.com

کثیر نے اس روایت کو تفسیر ابنِ کثیر جلد اوّل میں شاذ غریب بعید فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

البدایہ والنہایہ لابن کثیر ۲/۹۵

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَاِنَّہٗ اَخْبَرَنِیْ اَنَّ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ عَاشَ عِشْرِیْنَ وَمِائَۃَ سَنَۃٍ فَلَا اَرَانِیْ اِلَّا ذَاھِبًا عَلٰی رَأْسِ سِتِّیْنَ ھٰذَا لَفْظُ الْفَسَوِیِّ نَھُوَ حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاکِرَ وَالصَّحِیْحُ اَنَّ عِیْسٰی لَمْ یَبْلُغْ ھٰذَا الْعُمُرَ وَاِنَّمَا اَرَادَ بِہٖ مُدَّۃَ مَقَامِہٖ فِیْ اُمَّتِہٖ۔

اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زرقانی صہ ۳۵ پر اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ وَیَکُوْنُ ذَالِکَ مُضَافًا اِلٰی مُکْثِہٖ قَبْلَ رَفْعِہٖ اِلَی السَّمَاءِ وَکَانَ عُمُرُہٗ حِیْنَئِذٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِیْنَ سَنَۃً عَلَی الْمَشْھُوْرِ۔ اور یہ مذکورہ (مسلم) کی حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف چڑھنے کی نسبت ہے، اور آپ کی عمر آسمان پر چڑھنے سے پہلے (تنتس ۳۳) سال کی تھی، مشہور حدیثوں سے یہی ثابت ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! زرقانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال ثابت ہوئی، یا تینتیس برس کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بعد از نزول من السماء چالیس سال ثابت ہو گئی۔

(۱۲) "مرزائی"۔ حافظ محمد لکھوکے والے نے اپنی تفسیر میں وفاتِ مسیح کے متعلق لکھا ہے۔

جو یہود ے نال مشابہ بیٹھا ہوندا شک نہ کائی

زندہ رب ہمیش نہ مرسی موت عیسے نوں آئی

"محمد عمر"۔ کلام وہابی کی ہے، اس لئے جواب دینا فقیر کا حق نہیں ہے، لیکن فقیر کو خادم صاحب کے فہم پر ہنسی آتی ہے، کہ بیچارے علم سے ایسے کورے ہیں، کہ پنجابی بھی نہیں سمجھتے، جو بیچارہ پنجابی زبان سمجھنے سے عاری ہے، اس سے عربی دانی کی توقع رکھنا، مرزائیت کو ہی گوارہ ہے۔ پنجابی محاورہ میں جب کسی نوکر کوئی بلاتا ہے، او خالد! تو اس کا نوکر اس کو جواب دیتا ہے آیا جی! ابھی وہ مالک کے پاس پہنچا نہیں ہوتا، لیکن وہ صیغہ ماضی کا یوں استعمال کرتا ہے، جیسا کہ وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے، تو ثابت ہوا کہ جو امر ضروری جانا اس کو صیغہ ماضی ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی نوکر کہدے کہ حضور آ ئیگا تو مالک

marfat.com

اَلْمَ، پھر انہوں نے اس مثیل مقتول کو دفنایا بھی تو حضرت عیسیٰ کا یقین کر کے، جس کا رد اللہ تعالےٰ نے فرمادیا کہ یہ قبر مثیل کی بنائے پھرتے ہیں، بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف چڑھالیا ہے، اور پھر تمام کتب تواریخ میں لکھا ہے، جو تمہارے اسی پیش کردہ صفحہ پر بھی ابن جریر لکھتے ہیں، کہ حضرت مریم علیہما السلام اور وہ عورت جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علاج کیا تھا، ہفتہ کے بعد مصلوب کی قبر پر گئیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند کی طرف سے اجازت لیکر ان کو جنگل میں ملے، کہ یہ قبر میرے مثیل مقتول کی ہے، ان کو دھوکا لگا ہوا ہے، تو ان کی تسلی ہوگئی، تو جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل کی قبر کو قبر عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے، تو ضرور انہوں نے پتھر کا کتبہ بھی لگایا ہوگا، تو یہودیوں کا کتبہ لکھ کر مثیل کی قبر پر رکھنے سے اور کسی عورت کے کہدینے پر کون مسلمان یقین کرتا ہے، جب خداوند کریم فرماتے ہیں، کہ یہودیوں نے جس کو صلیب پر لٹکا کر دفن کیا ہے، یہ مثیل عیسیٰ علیہ السلام تھا، جو صلیب پر لٹکایا گیا، اور اسی کی قبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالےٰ نے اپنی طرف آسمان پر اُٹھالیا ہے، چنانچہ مرزائی بیچارے بھی ان یہودیوں کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے لگ گئے ہیں، کہ یہودیوں نے دفنایا تو تھا خبر نہیں کہاں دفنایا کبھی تو کہتے ہیں کشمیر میں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ طبری نے لکھا ہے کہ حجاز میں ایک عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کا کتبہ کئی مسافروں سے پڑھوایا وہی قبر ہوگی، بھلا ان کچی باتوں سے کون اعتبار کرتا ہے، ایک طرف اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو میں نے اپنی طرف آسمان پر اُٹھالیا، اور ان کے مرنے سے پہلے جب وہ آسمان سے اُتریں گے تو تمام یہود و نصاریٰ اُن پر ایمان لاوینگے، چنانچہ فرمایا، وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خداوند کریم کے کلام پاک کی ہی تائید فرمائی، آخیر ان کے مدفن کا بھی ذکر فرمادیا، کہ میرے روضہ میں میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کئے جاوینگے،

بھئی مسلمانوں کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر یقین آگیا، کوئی سیدھا ہو، کوئی اُلٹا ہو، مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں بدل نہیں سکتا، اب دقت پڑی ہے مرزائی بیچاروں کو، کہ مرزا صاحب کہہ گئے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، اب مرزائیوں کو ایک عورت کا حوالہ یہودیہ والا مل گیا، کہ حجاز میں ہے،

marfat.com

قول سے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا نجران کے نصارٰی سے تھے،

کیوں جناب خادم صاحب! عیسٰی علیہ السلام کا مرنا اور صلیب دیا جانا، اس حدیث کے مطابق ابن جریر نے نجرانی نصارٰی کا عقیدہ بیان کیا ہے، یا اپنا مسلمانوں کا۔ لیکن تشابہت قلوبہم فرمان الٰہی سے تم مرزائیوں نے انہی کا عقیدہ وفات مسیح اور صلیب پر لٹکایا جانا اور مرہم عیسوی کا عقیدہ گھڑنا اپنا عقیدہ بنالیا ہے۔ محمد بن جعفر نے تو اس مقام پر عیسائیوں کا عقیدہ بتایا ہے نہ مسلمانوں کا،

اب دوسری حدیث اسی صفحہ پر ہے، کہ ان نجرانی نصارٰی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہ اِنَّ رَبَّنَا حَیٌّ لَا یَمُوْتُ وَاِنَّ عِیْسٰی یَاْتِیْ عَلَیْہِ الْفَنَاءُ۔ بے شک ہمارا رب حی ہے، جو مرتا نہیں اور بے شک حضرت عیسٰی علیہ السلام پر موت آئیگی، اب یہ تھی حدیث اور ما قبل کا قول راوی کہ نجرانی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، چونکہ القلب یھوی الی القلب کا قانون سچا ہے، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو مرزائی نے پس پُشت ڈالدیا، اور عیسائیوں کے عقیدہ کو پسند فرمایا، اور کہدیا کہ ابن جریر میں لکھا ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام نوت ہوگئے ہیں، وہاں تو عیسائیوں کا عقیدہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے جو بعد میں اسی کتاب کے اسی صفحہ سے فقیر نے عرض کردیا، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کو موت آئیگی، ابھی آئی نہیں، بھائی ہمیں تو فرمانِ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہے، ہمیں یہ مبارک ہو اور تمہیں عیسائیوں کا عقیدہ وفات مسیح قبول ہے تو تمہیں وہ مبارک ہو ہمیں رب العزۃ اس دھڑے سے قیامت کو اٹھائیگا اور تمہیں اس دھڑے سے، یہ جوابات پاکٹ بک ص ۳۲۷ کے استدلالات مرزائیہ سے دئے جارہے ہیں، استدلال نمبر ۱۳ ختم ہوا۔ اب سوال نمبر ۱۴ چونکہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں اسواسطے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب استدلال مرزائیہ نمبر ۱۵ شروع ہوتا ہے۔

(۱۵) "مرزائی"۔ تاریخ طبری میں ہے کہ مسیح کی قبر پر کتبہ لکھا ہے، کہ یہ قبر عیسٰی رسول اللہ کی ہے۔

"محمد عمر"۔ خادم صاحب بیچارے تاریخ سے بھی بہرہ ہیں، اور جوبات لیتے ہیں کچی، پہلا جواب تو یہ ہے، کہ پتھر کا کتبہ دیکھنے والی ایک عورت ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں، کہ وہ کون تھی؟ کہاں کے رہنے والی تھی، جب قول کے قائل کا ہی علم نہیں تو ایسی افواہ عقلا کے نزدیک غیر معتبر سمجھی جاتی ہے، دوسرا جواب۔ تمام کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب عیسٰی علیہ السلام کے شبیہ کو صلیب پر لٹکایا، جس کے متعلق رب العزت نے فرمایا وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَا صَلَبُوْہُ وَلٰکِنْ شُبِّہَ

marfat.com

ٹھکرادے اور جن کا بیان وہ بھی پکئے، گو اُس کے روات بیان نہیں فرمائے، لیکن ہر صورت تمہاری پیش کردہ جھوٹھ جھوٹھ چوتالسو سے تو اولی ہے۔

ایسی مرزائیات کو پیش کر کے جن کا کہیں نام و نشان نہ ہو، خادم صاحب نے اپنی پاکٹ بک کو مزین باالکذب بنا دیا ہے۔

(۱۷)۔ "مرزائی"۔ حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں تمام انبیا علیہم السلام کو میں نے دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو جب دوسروں کی روحوں کو دیکھا تو ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی دیکھا ہوگا۔

"محمد عمر"۔ اس کا جواب گو پہلے گذر چکا ہے، لیکن پھر عرض کئے دیتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیکر مرزائی مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہتا ہے، اور ایک پخچر اپنی طرف سے لگا دی، کہ شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ہی دیکھا ہوگا، بھلا خادم صاحب کوئی صاحب انصاف و دیانت کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو ہی دیکھا ہوگا، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کونسی عبارت کا تم نے ترجمہ کیا ہے۔

دوسرا جواب۔ جب تمہارا معراج جسمانی پر ایمان ہی نہیں، تو تمہیں تو یہ اعتراض ہی کرنا نازیبا ہے، یہ اعتراض کرتے وقت تمہیں خود شرم چاہیئے، کہ ہمیں مجیب شرمندہ کریگا، کہ کیا تم مرزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر ایمان لے آئے ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم اطہر ان میں موجود ہیں، اس میں تمام مرزائیوں کی عقلیں دنگ ہیں اور حیران ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمع جسم اطہر کے تشریف لے گئے اور یہ انکار محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کی بنا پر ہے، ورنہ مرزائی کبھی انکار نہ کرتا، اور استدلال کتنا بودا ہے کہ باقی انبیا علیہم السلام کے ارواح کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی روح ہی ہوگا، اُلٹا ملع چلایا۔ دماغ کو سیدھا کر کے ایمان نہ لے آئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے ہیں اور قرب قیامت دمشق کے شرقی مینار کے پاس اُترینگے، اور جب آسمان پر تشریف لیگئے تو وہاں بھی باقی ارواح انبیاء علیہم السلام میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ قرب قیامت آسمان سے اُترینگے بھی، تو اس سے تو مسلمانوں کا یقین پختہ ہوتا ہے، کہ یہاں بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی خبر دی اور آسمان پر جا کر ملاحظہ فرما کر علم الیقین کو حق الیقین

marfat.com

مرزائی بیچارے حیران ہیں، کہ کس کی بات کو تسلیم کریں،

ہمیں تو بھائی نہ مرزاجی کے کلام پر اعتبار، نہ یہودیوں کے منہ کہتے پر، ہم نے تو بفرمانِ الٰہی حضرت عیسٰی علیہ السلام کو تسلیم کرلیا، جو قرب قیامت تشریف لاوینگے، اور بفرمانِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر روضۂ اطہر میں ہوگی،

آؤ مرزائی دوستو! کیوں دربدر بھٹکتے پھرتے ہو، اور مصیبت کے منہ میں آئے ہوئے ہو، کہ کس کی بات سچی مانیں، ایک اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچی مان لو، اور حیاتِ عیسٰی بن مریم علیہ السلام کے قائل ہوجاؤ، تمہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصائب سے نجات دیدینگے،

(۱۶) **"مرزائی"** - طبقاتِ کبیر میں لکھا ہے، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے خطبہ پڑھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کے فوت ہونے کی یہی رات ہے، اور اسی رات حضرت عیسٰی کی روح آسمان پر اٹھائی گئی تھی، یعنی ۲۷ رمضان کو۔

"محمد عمر" - حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کا روایت کنندہ اس میں بیان نہیں ہے، تو یہ کلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتی، کیونکہ اس کا راوی کوئی نہیں، ایسی جعلی باتوں کو اپنا مذہبی اصل سمجھنا یہ مرزائی کو ہی گوارہ ہے، اس سے مرزائی تو ضرور خوش ہوگا، لیکن مسلمان ایسی باتوں کو مضحکہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ سب بناوٹ اور مرزائیات سے ہے، اس سے بہتر فقیر آپ کو عرض کرتا ہے، ملاحظہ ہو۔

البدایہ والنہایہ ۲/۹۵	وَرُوِیَ عَنْ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلِیٍّ اَنَّ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام رُفِعَ لَیْلَۃَ الثَّانِیْ وَالْعِشْرِیْنَ مِنْ رَمَضَانَ۔ وَقَدْ رَوَی الضَّحَّاکُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

اَنَّ عِیْسٰی لَمَّا رُفِعَ اِلَی السَّمَاءِ جَاءَتْہُ سَحَابَۃٌ۔

اور حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے روایت کیا گیا ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام رمضان کی بائیسویں تاریخ کو آسمان پر چڑھائے گئے، اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ سے یہی روایت بیان کی ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام جب آسمان کی طرف چڑھائے گئے آپ کو (لینے کے لئے) ایک بادل آیا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! بات تو ہوئی، کہ لکھنے والا بھی ابن کثیر جو کچی بات کو فوراً

marfat.com

تو مرزائیت کا اصولی مسئلہ تو کٹ گیا، تم اجرائے نبوت کے قائل اور اصفہانی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سب انبیاء علیہم السلام کو مُردہ ثابت کر رہے ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو تمہارے لئے یہ قول اصفہانی بھی حجت نہ رہا۔

دوسرا جواب اصفہانی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ سے انبیاء مراد نہیں ہو سکتے بلکہ اُن کی اُمتیں یہاں مُراد ہیں، حالانکہ یہ خلاف قرآن کریم ہے۔

پھر اس کا جواب دینے کے لئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو پیش کر کے آگے قول حضرت قفال رحمۃ اللہ سے اس کا رد کر دیا ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو خلاف قرآن سمجھ کر دوسرے کے قول سے رد فرمایا ہے، لیکن مرزائی صاحب اس قول مردودہ کو اپنے لئے حجت بناتا ہے، سبحان اللہ! یہ مرتبہ مرزائی کو نصیب رہے۔

(۱۹) مرزائی۔ فصل الخطاب میں خواجہ محمد پارسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پاتے تو وہ آپ کی شریعت میں داخل ہوتے۔

محمد عمر۔ ٹھیک ہے، لَوْ اَدْرَكَا کا ہے، کہ اگر وہ دونوں آپ کا زمانہ پاتے، تو ضرور آپ کی شریعت میں داخل ہوتے زمانہ ماضی میں، آئندہ جو پائے گا سوا ایمان لائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بموت زمانہ نہیں پایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی رہائش کی وجہ سے نہیں پا سکے، جب اُتریں گے تب زمانہ مصطفائی پائیں گے تو ضرور آپ کی شریعت میں داخل ہوں گے۔ آپ ولی اللہ تھے، آپ کو علم تھا، کہ مرزائی اعتراض کریں گے، اسی واسطے لَوْ اَدْرَكَا کا ایسا جملہ ارشاد فرمایا، جو زندہ مُردہ دونوں کو شامل ہو، ورنہ آپ لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيًّا والے جملی قول کو کیوں نہ پیش کر دیتے، جب نہیں فرمایا، اور ایسا جملہ بیان فرما دیا جس میں زندہ اور مُردہ دونوں شامل ہیں، تو ثابت ہوا، کہ آپ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے کیونکہ آپ حنفی ہیں۔

آپ حیات مسیح علیہ السلام جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور احناف کا مسلمہ عقیدہ شرح عقائد نسفی وغیرہ میں لکھا ہے، حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ تمہارا الٹی بناوٹی باتوں سے انشاء اللہ تعالیٰ حنفی کبھی دھوکا نہیں کھا سکتا، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کا تو عقیدہ نقیر تمہارے سامنے عرض کرتا، لیکن بوجہ طوالت ختم کرتا ہوں، یہ ہے تمہارے (۱۹) نمبروں کا مفصل جواب جو پاکٹ بک صٓ ۳۲۵ تا صٓ ۳۲۸ ہیں، چونکہ استدلال بزرگان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس لئے اس مقام پر ہی جواب دینا مناسب تھا۔

marfat.com

کے مرتبہ تک پہنچا دیا، اس کی مثال یوں سمجھیئے، کہ یہاں کوئی افسر کہ دے کہ وزیر اعظم امریکہ گیا ہوا ہے، اور پھر وہی افسر جب امریکہ جاوے، اور واپس آکر کہدے کہ میں نے امریکہ میں فلاں انگریز کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، محمد علی کو دیکھا، تو سننے والا یقین کرلیگا، کہ جو اس نے پہلی بات کہی تھی اس نے سچ کہا تھا، لیکن مرزائی دماغ والا فوراً کہ دیگا کہ وہ وزیر اعظم امریکہ کا ہوگا محمد علی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تمام امریکن انگریز ہی رہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کی وہاں کیا رسائی، تو ذی شعور جواب دیگا، کہ جیسے میرا وہاں پہنچنا ممکن ہؤا، ویسے ہی اس کا پہنچنا بھی ممکن تھا حالانکہ قائل کی یہ بات سچی ہے،

لہذا خادم صاحب کا استدلال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، ورنہ اگر ہمت ہے تو ثابت کرو، کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وفاتِ مسیح علیہ السلام کے قائل تھے، تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، جو عقیدہ پہلے فقہ اکبر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گذر چکا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی عقیدہ حیاتِ مسیح علیہ السلام پر تھا، اور تمام احناف کا ہے، تمہاری اس دلیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فرمانِ خداوندی کی تائید ہوگئی، کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقی انبیاء کرام علیہم السلام سے الگ بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کی مفصل بحث پیچھے گذر چکی ہے۔ ملاحظہ فرمالیں۔

(۱۸) "مرزائی"۔ علامہ اصفہانی کے قول کو امام رازی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا، کہ تمام انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت فوت ہوکر زمرہ اموات میں شامل ہو چکے تھے، ثابت ہؤا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں۔

"محمد عمر"۔ خادم صاحب کانٹوں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کہ کہیں ہاتھ پاؤں اٹکے، لیکن مرتے کو تنکے کا سہارا بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کی اجل پوری ہو چکی ہوتی ہے، ایسے ہی جب کسی کو دلیلِ ایمانی نہ میسر ہو سکے، تو بیچارہ غیر معقول باتوں میں اپنی تحریر کے نمبروں کو پُر کرکے متبعین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب اس مقام میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اصفہانی کے قول کو نقل کیا،

پہلا جواب تو یہ ہے، کہ یہ قول بھی تمہارے لئے حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصفہانی نے کہہ دیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام بوقت بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمرۂ اموات میں شامل ہو چکے تھے

marfat.com

ان آیاتِ کریمہ فرقانیہ سے ثابت ہؤا، کہ تمام جہانوں کے واسطے اب ایک ہی کتاب قرآن کریم کافی ہے، جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھنے سے اُس حقیقی خالق کے کے سوا اور کسی رب کی طرف مومن کا خیال منتقل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نذیر کے پیدا ہونے کی آس ہی نہیں رہجاتی، چنانچہ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ (سورة انعام ع) پڑھ کر قرآن کریم کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت نہ رہ گئی، اور نہ انشاء اللہ ہو گی، سوائے فرقہ مرزائیہ کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمان سے زمین پر تشریف لاوینگے تو وہ بھی اسی رائجہ مقررہ خدائی قانون قرآن کریم کے ہی عامل ہونگے، کیونکہ قانونِ خداوندی مقرر عالمین کے لئے مقرر ہو چکا ہے۔

سورة طٰهٰ - ۱۶/۵	قَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝

ضرور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے نصیحت نامہ دیا، جس شخص نے اس نصیحت نامے (قرآن کریم) سے اعراض کیا تو بے شک وہ قیامت کے دن (نافرمانی کا) بوجھ اُٹھاوے گا۔

معلوم ہؤا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بایں قانونِ خداوندی عامل بالقرآن ہی ہونگے، اور وہ اپنی منزلہ کتاب انجیل کے عمل کو ترک کر کے قرآنی عامل بننے میں نازاں ہونگے، کیونکہ قرآن کریم کی افضلیت، اکملیت اور سالمیت اور انجیل کی اقصریت اور تحریفیت کا نقص اُن کے سامنے عیاں ہو گا اور وہ مرزائیوں کی طرح تو اُن سے بعید نہ ہونگے، جو خداوند کریم کی مکمل کتاب کو ترک کر کے مصنوعہ اور محرفہ کتاب کو اپنا معمول بنائیں گے۔

شیر محمد مرزائی کا دوسرا سوال کیا وہ قرآن کریم کسی دوسرے انسان سے سبقاً سبقاً پڑھینگے یا ان پر خدا تعالےٰ بذریعہ وحی نازل فرماویگا، اگر کسی اُستاد سے پڑھینگے تو یہ بھی تمہارے عقیدے کے خلاف اور اگر وحی سے نازل ہو گا تو قرآن محمدی رہے گا یا عیسوی یا دونوں کا اور کیا یہ عقیدہ شرعی درست ہے؟ جواب قرآنی ہو۔

"**محمد عمر**" - مرزائی صاحب تم بڑے ہوشیار رہو، سوال عقلی اور جواب قرآنی، اگر

marfat.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

شیر محمد مرزائی قصوری کے سوالات کے جوابات

شیر محمد مرزائی کا پہلا سوال | قرآن کریم پر سوالات جو شیر محمد صاحب مرزائی نے کئے اُن کے سوالات مفصل دے گئے، اب جو عقلی سوال اُس نے کئے ہیں، اُن کے مفصل جوابات بیان کئے جاتے ہیں،

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاوینگے، تو جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے، انجیل تو منسوخ ہو چکی ہے، کیا وہ قرآن کریم پر عمل کرینگے ؟

"محمد عمر" | جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاوینگے، تو اُن کا معمول قرآن کریم ہوگا، کیونکہ خداوند کریم نے قرآن کریم ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اگر تمام انبیا علیہم السلام بھی دوبارہ تشریف لے آویں، تو اس قرآن مجید کے ہی عامل ہو جائیں۔ کیونکہ یہ قرآن کریم ایک فرقے یا ایک علاقے یا ایک قوم کے متعلق نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام عالمین کے لئے نازل ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے۔

سورۃ ص ۵ | اِنۡ ھُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ۝
نہیں ہے وہ مگر تمام جہانوں کے لئے نصیحت

سورۃ قلم ۲ | وَمَا ھُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ۝
نہیں وہ مگر تمام جہانوں کے لئے نصیحت۔

سورۃ تکویر ۱ | اِنۡ ھُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ لِمَنۡ شَآءَ مِنۡکُمۡ اَنۡ یَّسۡتَقِیۡمَ ۝
نہیں وہ مگر تمام جہانوں کیلئے نصیحت تم سے جسکا ارادہ ہو استقامت کا،

marfat.com

حٰم سجدہ ۲۴/۵	وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۔

اور بے شک یہ کتاب اپنی وقعت والی ہے، جس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل کی ملاوٹ نہیں آسکتی،

(کیونکہ دلیل خداوندی ہے)

حجر ۱۴/۱	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی نگہبانی کے ذمّہ دار ہیں، تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں غلطی محال، تو مرزا صاحب کا قرآن کریم کی آنکھوں کا لال کرکے الہامی دعوٰی افتراء علی اللہ ثابت ہوا، لیکن تم نے کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈالکر سوچا؟ یا اعتراض کیا، کہ یہ محمدی قرآن ہے یا مرزائی قرآن، عیسٰی علیہ السلام پر جھٹ اعتراض یاد آگیا، لیکن مرزا صاحب پر بھی کبھی یہ اعتراض یاد آیا؟ اگر اس اعتراض کی طرف بھی کبھی توجّہ کرو گے، تو یاد رکھو، پہلے مرزائیت کو دور باد کہنا پڑے گا، پھر بات کر سکو گے۔

چوتھا جواب۔ آیئے نقیر تمہیں سمجھا دے کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام خداوند کے ارشاد جو بیوم میثاق ہو چکا ہے، ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ (پھر تشریف لاوینگے تمہارے پاس ایک رسول، جو کچھ تمہارے پاس ہو گا۔ اس کے مصدق ہونگے تو تم اس کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور امداد کرنا) تشریف لاوینگے، تو کُمْ سے مخاطب تمام انبیائے کرام ہیں، اور جَآءَ کے فاعل مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی وضاحت رسول کی وحدت نے کی ہے، اور کُمْ کے خطاب نے حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی شامل فرمایا، مصدق مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَعَكُمْ نے انجیل حضرت عیسٰی علیہ السلام کو بھی گھیر لیا، اور دنیا میں دوبارہ تشریف لا کر آپ کے ساتھ ایمان لا کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ کے عامل ہونگے اور وَلَتَنْصُرُنَّهٗ پر عمل کر کے بے ایمانوں کی تباہی کرینگے، تو تمہارے سوال کا جواب نقل وعقل سے واضح کیا گیا، اب تمہارے ایمان پر ڈالتا ہوں، جو قرآن کریم کی آیات صریحہ کو پس پشت ڈال کر اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اجماع امت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کر کے تمہیں وفات عیسٰی علیہ السلام کی طرف لیجا رہا ہے اور طرح طرح

marfat.com

سوال قرآنی ہے تو جواب بھی قرآنی کی ہوس میں رہو، اور اگر سوال عقلی ہے تو جواب بھی عقلی کا ہی یقین رکھو۔ لیکن فقیر کی یہ فراخ دلی ہے کہ تمہارے تمام سوالات کے جوابات قرآن کریم اور احادیث شریف اور عقل سے بھی مکمل کر رہا ہے، فکر نہ کرو، ایمان لانا یا نہ!

پہلا جواب ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کسی سے سبقاً نہ پڑھینگے کیونکہ نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتک ہے۔ اور قرآن کریم سے معاذاللہ بے خبر بھی نہ ہونگے، کیونکہ نبی جاہل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان کو بلا باپ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کامل بنایا اور اپنے مقررہ قانون خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ سے مبرّا من اسباب النسانی پیدا فرمایا، ایسے ہی اپنی قدرت کاملہ سے بلا اقسام وحی رسالت انکو طاقت قرآن خوانی کی عطا کر کے بھیجیں گے، جیسا کہ ایک شخص پاس شدہ استاد سے الجبرا وغیرہ پڑھ چکا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اگر کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ سوال پیش کیا جاوے تو فوراً حل کر دیتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ وحی الٰہی کی سابقہ تعلیم سے پہلے واقف ہیں، اس واسطے اُن کو قرآن کریم پڑھنے میں نہ استاد کی ضرورت ہوگی اور نہ وحی کی۔

دوسرا جواب ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا توریت وانجیل وزبور صحائف ماسبق کے عالم تھے یا نہ؟ اگر تھے تو بذریعہ وحی یا سبقاً کسی سے پڑھے، سبقاً آپ کا پڑھنا محال، کیونکہ آپکی شان میں فرمانِ خداوندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے قانون سے معلم کل بن کر تشریف لائے اور اگر بذریعہ وحی تسلیم کرو، تو تمہارا ہی اعتراض تم پر وارد ہوگا، کہ وہ صحیفے ان انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب ہونگے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابِیْ۔

تیسرا جواب ۔ یہ مذکورہ بالا تو ہے حقیقت، اب میں تمہاری بناوٹ کی طرف رجوع کرتا ہوں، کہ تمہارے مرزا صاحب نے اپنی تصنیفات میں ایسی کئی قرآنی آیات جو بموجب عبارت قرآنیہ غلط درج کی ہیں اور اپنی الہامی ہونے کا دعوٰی کیا ہے، تو کیا تم نے کبھی اپنی عقل سے کام لیا، کہ کیا قدیمی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غلط آیتیں نازل فرمائی ہیں، یا مرزا صاحب کا دعوٰی ان کے متعلق الہام ہونے کا افترا علی اللہ ہے، قرآن کریم میں غلطی ہونا تو محال، کیونکہ خدائی دعوٰی موجود ہے،

marfat.com

تو ان کی بطالت صاف ہو جاتی ہے، اور کئی دلائل حقہ سمجھنے کا دماغ ہی نہیں رکھتے، بلکہ غیر کی مزدوری کر کے ان کے دماغ پر قوت متخیلہ غالب ہوتی ہے، تو وہ اپنے خیالات میں ہی حیران ہوتے ہیں، اور کَالَّذِی اسْتَھْوَتْہُ الشَّیٰطِیْنُ مِنَ الْمَسِّ سے بیچارے معذور ہوتے ہیں، ان کے لئے مجسمہ عنصر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالٰے کو چونکہ علم تھا، کہ امت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اہل حق کے سایہ میں حق بین ہونگے، لیکن بعض کمزور دماغ جو حق وباطل کی تمیز نہ رکھینگے، اصل ونقل میں فرق نہ سمجھینگے جھوٹ اور سچ کو کبھی نہ پرکھ سکھینگے، سفید نام لیکن سیاہ قلب ہونگے، ہاتھ میں قرآنی شمع، لیکن بوجہ عدم بصیرت غیبت الجب میں گرے ہونگے، اور ایسے لوگ چونکہ قرب قیامت ہی ظاہر ہونے والے تھے، اسواسطے اللہ تعالٰے نے ایسے کوتہ اندیشوں کے لئے حضرت عیسٰی علیہ السلام جو اپنی ڈیوٹی کو ختم کر چکے تھے، بحکمہ چندسال کے لئے پرائیویٹ ملازمت پر متعین ہونگے، جو اپنے خطاب نبوۃ کی بحالی میں اولیاء محمدیہ میں شمولیت اختیار کر کے حکمرانی چلائیں گے اور وَاِنْ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ سے اپنے وصال سے قبل ہی قرب قیامت تمام اہل کتاب کے مدعیوں کو کفروشرک فی التوحید والی رسالۃ سے توبہ کرا کر دین مصطفائی میں داخل فرما دینگے، تو اسوقت سوائے دین محمدی کے مرزائیت، نیچریت، چکڑالویت سب بے نشان ہو جائیں گے۔

اس اسلامی عقیدہ سے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آسکتا، کیونکہ وہ دنیا میں تشریف لاکر اپنی نبوت کا اعلان نہ فرما دینگے، مفصل بحث ملاحظہ فرمانے کا شوق ہو، تو حصہ ختم نبوت کو ملاحظہ فرمالیں، آجتک سوائے مرزائی کے ملائکہ کو کسی نے بیکار نہیں کہا، بھلا یہ تو بتلایئے کہ قبل از مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ساڑھے تیرہ سو سال معاذ اللہ جبریل علیہ السلام بیکار ہی رہے، اب مرزاجی تشریف لائے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کی بیکاری کا آپ کو فکر لاحق ہؤا، مرزائی صاحب یہ تو فرمایئے کہ انسان لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا۔ تھا تو اسوقت ملائکہ کی بیکاری کا آپ کو کوئی خیال نہ دوڑا، کیا اسرافیل علیہ السلام نے ابھی قرناء پھونکا نہیں، ابھی پھونکنا ہے تو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک بیکار ہی رہینگے نہیں مرزائی صاحب قرآن کریم سے سن لو، وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ رَبِّہٖ۔ کوئی شے ایسی نہیں، جو اپنے رب کی تسبیح نہ بیان کرے، یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اس آیۃ

marfat.com

کے بناوٹی بہانے سکھاتا ہے، حالانکہ اسلام ایسا ٹیڑھا نہیں۔ جتنا تم مروڑ تروڑ کر مرزائیت کے سلانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو، تمہارا یہ سبق اسلامی نہیں، بلکہ مرزائی گورکھ دھندا ہے جس نے تمہیں اشکال میں ڈال رکھا ہے۔

پانچواں جواب۔ مائدہ ۶/۷ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا

ہم نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ کئی انبیاء علیہم السلام جو اسلام لائے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ ایک کتاب خداوندی کے کئی انبیا کرام علیہم السلام عامل رہے، اور ان کی نبوت میں بھی فرق نہ آیا، کیونکہ ان کی نبوت جبلی نہ تھی جعلی نبوت کا مدعی متبع کتاب خداوندی نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ اس کتاب کا مکذب ہوتا ہے۔

لہٰذا ثابت ہوا کہ ایک کتاب خداوندی کے بلا تلمیذ انسانی کئی انبیا کرام عامل رہے اور وہ کتاب جس پر نازل ہوتی، اسی کے نام کی طرف ہی منسوب رہتی، یہ ہے تمہارے سوال کا جواب قرآن کریم سے۔ اب تمہارے ایمان جبلی پر نظر ڈالتا ہوں، کہ اس کو بلا چشمہ مرزائیت ملاحظہ فرماؤ، اور انصاف کرو، کہ تمہارے سوال عقلی کا جواب عقلاً و قرآناً تسلی بخش ہوا ہے یا نہیں، وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

"بشیر محمد مرزائی کا تیسرا سوال" اب اگر بقول آپ کے کوئی نبی نہیں آسکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہ لازم آئے گا، اور سلسلہ وحی تو ۱۴۰۰ سال سے جب بند ہے، تو جبرئیل علیہ السلام بیکار ہی بیٹھے نہیں۔ اور زندگی عبث گزار رہے ہیں، ورنہ نہیں عقائد احمدیہ کی تائید کر کے وحی کی آمد کو کھلا ماننا پڑے گا۔

محمد عمر! دوست خداوند کی طرف سے نبوت کا دروازہ بند ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوۃ کسی کو نہیں مل سکتی، نہ کہ معاذ اللہ پہلے انبیائے کرام نبوۃ سے خالی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کہ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ حق کو غالب کرتا ہے اور باطل کو نابود کرتا ہے، اور کسی کو دلائل سے نابود کرتا ہے، جو اُولِی الْاَبْصَار ہوں ان کے لئے دلائل ہی کافی ہوتے ہیں۔

marfat.com

شیر محمد مرزائی کا چوتھا سوال

جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے اور امت محمدیہ کی اصلاح میں مصروف ہونگے، تو اس وقت وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ آیت قرآنی کی کیا تشریح ہو گی۔

"محمد عمر" | مرزائی صاحب تم بڑے سادہ لوح ثابت ہوئے ہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے تھے، تو اس وقت کے واقعہ کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوٰی کیا، وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ، لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے خطاب خداوندی وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا نے بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور تمام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واحکام محمدیہ کے ماتحت ہونیکا اعلان فرما دیا، اب ان کے دوبارہ تشریف لانے سے خداوند کریم کا یہ حکم وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ کو توڑ کر وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ کو پھر از سر نو قائم کیسے فرماوینگے، بلکہ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ میں ہی داخل رہیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ سے اپنی رسالت کو محض اسوقت کے بنی اسرائیل سے مخصوص کرنا مقصود ہے، بعد ازاں رفع الی السماء سے ان کا حکم رسولی منسوخ نہ ہوا، اب ان کی تشریف آوری کے بعد ان کے سابقہ خطاب رسالت میں کبھی فرق لازم نہ آئیگا، جیسا کہ ریٹائرڈ گورنر کو اگر بوقت ضرورت بادشاہ وزیر اعظم لگا دے، تو اس کی سابقہ گورنری میں کبھی فرق لازم نہ آئیگا، اور نہ ان کی سابقہ گورنری کی حکمرانی کو کالعدم سمجھا جائیگا، اور اس کے وزیر اعظم مقرر کرنے سے نہ ہی اس کے اعلیٰ افسر سابقہ گورنری کے خطاب میں ہی فرق لازم آئیگا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی اصلاح کے لئے نہ تشریف لائینگے، یہ تمہیں دھوکا دیا جاتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور حاکم امت محمدیہ کی طرف سے دشمنان امت محمدیہ کو تلوار سر کرنے کے لئے تشریف لاوینگے، اور جھوٹے مسیحیوں کو اپنی مجسمہ موجود فی الخارج دلیل دکھا کر منکرین کو امت محمدیہ میں داخل فرماوینگے، تو وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ کے گذشتہ قول عیسوی کو اللہ تعالےٰ نے نقل فرمایا ہے، جس کا حکم وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۝ (سبا ۲۸/۲) سے ختم ہو چکا، اور اگر تم یہ کہو، کہ مرزا صاحب نے اسی کام کو سر انجام دیا ہے، تو یہ غلط ہے ایک تو وہ عیسیٰ بن مریم نہیں، اور نہ ان کے علامات ان میں موجود، نہ ان کا مقام اور نہ ہی نزول من السماء بلکہ قادیان میں پیدائش، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لئے سمجھنا یہ کسی نے خلاف

marfat.com

کریمہ میں رب کریم نے تسبیح ملائکہ کو مقدم فرمایا، تاکہ ارضیوں سے سماویوں کی پیدائش اور تسبیح کا تقدم ثابت ہو، اس میں لامکانی کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا ذکر تمام سے وراء تھا، تم مرزائی بیچارے سمجھتے ہو، کہ مرزا صاحب ہمیں تسبیح وصلوٰۃ سے بیکار کرگئے ہیں، تو شاید جبریل علیہ السلام بھی بلا انزال وحی بیکار ہی رہتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ وہ بوقت انزال وحی بھی تسبیح الٰہی سے بیکار نہیں رہ سکتے، اور اس کار سے اعلیٰ اور کوئی کار ہے ہی نہیں، جو اہل اللہ جانتے ہیں اور لغیر اللہ بے خبر و بے کار ہیں۔

پھر ایک اور گذارش ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء اگر تمہیں ختم نبوت میں فرق لازم آنے سے مجبور کرتا ہے، تو تم نے مرزا صاحب کو نبی تسلیم کیوں کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پاس خاطر کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرزا صاحب کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے تو اس سے تمہارا اصل پول کھل جاتا ہے، کہ تم ختم نبوت میں فرق لازم آنے کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے منکر نہیں، بلکہ مرزا صاحب کو جعلی عیسیٰ تسلیم کرنے کے لئے اور مرزا صاحب کے نقلی عیسیٰ کے دعویٰ کو سچا کرنے کی خاطر عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے نزول من السماء کا انکار کرکے قرآن وحدیث واصل اسلام کو ترک کرتے ہو، اور تشتت فی الاسلام کا تم نے شیوہ اختیار کر رکھا ہے، باقی رہا نزول مسیح کو من السماء ہمارا تسلیم کرنا تو یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور ایمانی قوت ہے، کہ ہمیں رب العزت نے فرمادیا، کہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوسکتا، آپ خاتم النبیین اور تمام کے لئے کافی ہیں، تو ہم مسلمانوں نے بلا دلائل حکم الٰہی کے سامنے سر کو خم کردیا، اور اس نے فرمادیا کہ آخیر زمانہ میں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر چڑھ چکے ہیں، دوبارہ بلا تبلیغ نبوت تشریف لاوینگے، تو ہم نے بلا عذر تسلیم کرلیا، کہ یا اللہ تو نے سچ فرمایا ہے، ہم مسلمانوں کو نہ پہلے حکم خداوندی میں دلائل کی ضرورت ہوئی اور نہ حکم ثانی میں عذر خواہاں ہوئے۔ بلکہ جیسا کسی سے ہوسکا اپنے عقل و دلائل کو ان دونوں حکموں پر منطبق کرنے کی کوشش کی، غیر نے تسلیم کیا یا نہ، اگر ہندو اپنے بُت کے سامنے بلا دلائل و حکم سر جھکا سکتا ہے، تو ہم مسلمان اپنے حقیقی خالق و حاکم کے حکم کے سامنے اپنے تضاد عقلی کو عذر آ پیش نہیں کرسکتے، بلکہ عذر خواہ کی عقل غلط اور حکم الٰہی کو صحیح کہینگے، کسی کے پھُسلانے سے مسلمان حکم خداوندی کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ کوئی کتنی ہی ہیرا پھیری سے کام لے۔

marfat.com

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے، جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے۔

سورۂ محمد ۲۶ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتارا گیا ہے اور وہی حق ہے اُن کے رب کی طرف سے۔

ہم تو بھائی قرآن کریم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل مانتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی قرآن کو منسوب کرتے ہیں، ایماندار خواہ نبی ہو یا ولی کے قرآن کریم پر عمل کرنے سے یا افشا سے اس کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے، اسی واسطے ربّ العزۃ نے قرآنی احکام و آیات کو نجمًا نجمًا نازل فرمایا، اور ۲۳ ... آن کریم کو بارہ سال میں جمع فرمایا، اب اگر کوئی بیک وقت پڑھے یا خداوند کسی کو ایک دفعہ ہی پڑھنے کی طاقت دیدے تو قرآن کریم بغیر تجدید وہی ہے، جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو کسی اور کی طرف قرآن کے نزول کو ہم منسوب نہیں کر سکتے، اور یہ قرآن کریم عالمین کے لئے ہدایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی اور، اور جو اپنے آپ کو عالمین میں شمار نہ کرے اس کے لئے قرآن کی ضرورت بھی نہیں،

دوسرا جواب:۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کئی انبیاء کرام تشریف لائے، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ع آپ کے زمانہ میں، حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام، ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تجدید کرتے رہے، انہوں نے توراۃ کو نہ کسی سے سبقًا پڑھا، نہ خداوند کریم نے دوبارہ وحی فرمائی، بلکہ خداوند کریم نے ان کو قوّت علمی ایسی عطا فرمائی، جو وہ اس کتاب الٰہی توراۃ کو خود بخود اس عطائی علم سے پڑھ لیتے، اور توریت موسیٰ علیہ السلام کی ہی کہلاتی رہی، کیونکہ ان کی طرف نازل ہوئی تھی، اور دوسرے کسی طرف منسوب نہ ہوئی، تم محض افشا سے عیسیٰ ع کی طرف قرآن کریم کو کیسے منسوب کر سکو گے

شیر محمد مرزائی کا چھٹا سوال

کیا وہ جنت سے نکل کر دنیا میں تشریف لائینگے، جو تعلیم قرآنی کے خلاف ہے، یا ابتک جنت میں ہی داخل نہیں ہوئے، اگر نہیں تو دلیل قرآنی ہو، اگر ہیں تو کوئی بشر عارضی رہائش جنت میں رکھ سکتا ہی اگر ایسا ہے تو حضرت الیاس کے متعلق تمہارا عقیدہ کیوں نہیں، اور اگر جنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

marfat.com

قرآن و حدیث تمہارے ذہن میں بٹھایا ہے، ان کی اصلاح امت محمدیہ کے لئے نہ ہوگی، بلکہ امت محمدیہ کی خدمت اور غیر کی اصلاح ہوگی، اور رَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ کی تخصیص رسالت کو بھی یاد رکھنا، پھر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو امت محمدیہ کے لئے کارگر سمجھ کر کسی کے دھوکے میں نہ آنا، رسالت کی تخصیص بوقت رفع اور خدمت کی تخصیص بوقت ہبوط، اب بھی اگر تم ختم نبوت کے مسئلہ اور رَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ کو نہ سمجھو، تو تمہیں خدا ہدایت دے۔

اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رَفَعَ اِلَی السَّمَآءِ اور ان کے نزول من السماء کو سمجھنے کے واسطے نہیں باتیں گھڑتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی پر ان کے واقعہ کو چسپاں کرنا چاہتے ہو، کبھی آیات قرآنیہ کے معانی کو اُلٹاتے ہو، کبھی ترتیب کو، لیکن مرزا صاحب بنانے سے عیسیٰ بن مریم کیسے بنجائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفر و شرک کو مٹائیں گے، اور مرزا غلام احمد صاحب نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کفار و مشرکین و خنازیر اور حرامزادوں کے خطاب سے نوازا، اور امتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا تفرقہ ڈالدیا، اور ایسا اختلاف کیا کہ نہ ان کے جنازے میں شمولیت نہ اس کے ساتھ رشتہ داری، بلکہ امت محمدیہ کی ایک عورت جوان کی منکوحہ تھی، ان کی محبوبہ محمدی بیگم کے نہ حصول پر اس کو طلاق دیکر علیحدہ کر دیا، اور باقی رشتے مرزائیوں سے ہی حاصل کئے، بعد ازاں امت محمدیہ سے ایک بیوی بھی نہ مل سکی، حالانکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتِ محمدیہ سے ہی بیوی کرینگے، اور اس سے ہی اولاد ہوگی اور یہاں اس کے خلاف بعد از دعوٰی نبوت امت محمدیہ سے ایک ہی عورت محمدی بیگم کو لینے کی کوشش کی، چونکہ جعلی عیسٰی تھے، اس لئے خداوند کریم نے کامیاب نہ ہونے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوٰی نبوت لیکر نہ تشریف لائیں گے، مرزا صاحب نے بتدریجًا دعوٰی نبوت کیا، اس کے متعلق زیادہ تفصیل انشاء اللہ عنقریب مذکور ہوگی۔

"بشیر محمد مرزائی کا پانچواں سوال"

جیساکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں اور قرآن کریم بھی اس پر شاہد ہے، کہ مسیح کو اللہ تعالےٰ نے انجیل عطا فرمائی ہے، لیکن برخلاف اس کے آپ ان کو قرآن کریم سے منسوب کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہرگز نہیں،

"محمد عمر"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی نبوت کے انشاء کے لئے نہ تشریف لاوینگے اور نہ اپنی انجیل کے انشاء کے لئے، بلکہ منکرین کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دینگے، اس لئے وہ دوبارہ تشریف لاکر انجیل کی طرف دعوت نہ دینگے اور قرآن کریم

marfat.com

فرمایا، اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے، کہ مائدہ من السماء کی خواہش بھی جنتی کھانے کی نہ تھی، تاکہ منکرین کو بھی معلوم ہو جائے، کہ قدرتی کھانا بھی بغیر دنیا و جنت و دوزخ کے مہیا ہو سکتا ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! ثابت ہوا، کہ مائدہ جو آسمانوں سے اُتارا گیا وہ کھانا نہ دنیاوی ہے نہ جنتی، بلکہ قدرتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے مائدہ قدرتی زمین پر بھیجا گیا، ایسے ہی آسمان ثانی پر بھی قدرتی کھانا ملتا ہے، جس کا باورچیخانہ ارضی ہے، نہ اس کا خزانہ جنت ہے، بلکہ قدرت الٰہی سے مل رہا ہے، کیونکہ زمین سے بھی قدرتِ خداوندی سے ہی آسمان پر تشریف لے گئے اور قدرتِ خداوندی سے ہی انہیں کھانا ملتا ہے، اب تو تمہارے سوال کا جواب تسلی بخش ہو گیا یا نہ: باقی رہا تمہارا کہنا کہ کسی بشر کی عارضی رہائش جنت میں ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قدرتِ خداوندی سے آسمان پر قیام پذیر ہیں، جب دنیا پر پھر تشریف لاویں گے، پھر نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، بے ایمانوں کا مقابلہ کر کے مسلمان کریں گے، بعد ازاں وصال ہوگا، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ریاض الجنۃ میں قیام پذیر ہوں گے، اس سے تمہارا تمام اعتراض حل ہو گیا لیکن باوجود اس کے پھر بھی فقیر تمہارے شک کو فک کر ہی دیتا ہے، سنیئے جنت میں جتنے جنتی ہیں تمام عارضی ہیں، بلکہ موجودہ جنت بھی عارضی ہے، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے، کُلُّ شَیۡءٍ ھَالِکٌ اِلَّا وَجۡھَہٗ، ہر شے فنا ہونے والی ہے، سوائے ذوالجلال کے، معلوم ہوا، کہ یہ جنت و دوزخ و ما فیہا سب فنا ہونے والے ہیں، بعد از حشر پھر دوبارہ قیام جنت و دوزخ ہوگا، اس میں خلود ہوگا، یہ ہے مطلب خٰلِدِیۡنَ فِیۡھَا کا اور جو کھا جواب اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ کو ارواح جنت سے دنیا کی طرف باذن اللہ آتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے، تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَالرُّوۡحُ فِیۡھَا بِاِذۡنِ رَبِّھِمۡ، شب قدر میں باذنِ الٰہی روح اور ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں جب ان کے اس نزول نے خَالِدِیۡنَ فِیۡھَا میں اختلاف ثابت نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارضی قیام بمعہ جسم جنت میں فرماتے تھے، ملاحظہ ہو۔

مسلم شریف ۲ / ۲۹۲	عن جابر بن عبد اللہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اُرِیۡتُ الۡجَنَّۃَ فَرَاَیۡتُ اِمۡرَاَۃَ اَبِیۡ طَلۡحَۃَ

marfat.com

نے دنیا میں آنا ہے، تو ھُمْ فِیۡھَا خٰلِدُوْنَ کے کیا معنیٰ؟

"محمد عمر" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بفرمان الٰہی وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَبَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ آسمان پر زندہ اٹھایا جانا ثابت ہے، کما مضی بیانہ اور بموجب حدیث صحاح آسمان پر تشریف فرما ہیں، جیسا کہ شب معراج میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان ثانی پر جاتی دفعہ بجسدہٖ ملاقی ہوئے۔ بہر صورت میں بمطابق قرآن و احادیث مجید آسمان میں بجسدہٖ قیام پذیر ہیں، اس کی تفصیل سماوی چونکہ خداوند کریم نے زیادہ ظاہر نہیں فرمائی، اس لئے فقیر زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ ان کو خوراک جو ملتی ہے، نہ وہ جنت کی ہے، نہ دنیا کی، مائدہ کی طرح قدرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ دنیا میں ہیں، نہ جنت میں، آسمان ثانی میں قیام پذیر ہیں۔ جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی ہے۔

"مرزائی" ہاں جنت و دوزخ و دنیا کے علاوہ بھی کوئی مقام ہے۔ یا ان کے علاوہ بھی کہیں کھانا مہیا ہوتا ہے۔

"محمد عمر" ہاں جنت و دوزخ و دنیا کے علاوہ بھی مقام ہے، سمٰوٰت میں ایسے مقامات ہیں، جو دنیا و جنت و دوزخ کے ماسوا ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام پذیر ہیں، اور کھانے کے متعلق عرض کر دوں، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ طلب کیا، تو آپ نے رب العزۃ سے دعا فرمائی، تو کھانا آسمان سے نازل ہوا، سنئے، شمعون نے تمہاری طرح دریافت کیا، کہ حضور ایسے اعلیٰ کھانے کہاں سے آرہے ہیں، چالیس دن ہو گئے ہیں اور پانچ سات ہزار آدمی روزانہ کھانا کھاتے ہیں، یہ اتنا اعلیٰ کھانا کہاں سے آرہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ملاحظہ ہو۔

تاریخ کامل لابن اثیر ۱/۱۰۹

فَقَالَ شَمْعُوْنُ یَا رُوْحَ اللّٰهِ اَمِنْ طَعَامِ الدُّنْیَا اَمْ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ فَقَالَ الْمَسِیْحُ لَا مِنْ طَعَامِ الدُّنْیَا وَلَا مِنْ طَعَامِ الْاٰخِرَةِ اِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ خَلَقَهُ اللّٰهُ بِقُدْرَتِهٖ۔

تو کہا شمعون نے اے روح اللہ (یہ مائدہ) کیا دنیا کے کھانے سے ہے یا جنت کے طعام سے، تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا، نہ دنیا کے کھانے سے نہ آخرت کے کھانے سے سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ایسی شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا

marfat.com

حتمی ثابت کر رہی ہے، مرزا صاحب وَمَا خلفہ کا ہر پہلو سے انکار کرنا یہ سوائے تکذیب صریحہ کے اور کچھ نہیں،

(نقض)

کیا تم مرزائی حیاتِ مسیح کا اسواسطے انکار کرتے ہو، کہ ختم نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلّم میں فرق لازم آتا ہے؟ تو یہ غلط ہے، کیونکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کو نبی تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس اعتراض سے محض تمہاری دھوکا دہی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء سے انکار کرنا محض مرزا غلام احمد صاحب کو نبی بنانا مقصود ہے، اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے نزول من السماء پر ہمارا عقیدہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے، اور یہ بناوٹ نہیں، بلکہ حقیقت ہے، خواب نہیں، تحریری ثبوت قرآن اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ٹوٹتی نہیں، بلکہ پہلے اُن کی نبوت پر آپ کی مہر لگ چکی ہے، اب نئے سرے سے دوبارہ مہر کی ضرورت نہیں، نبوت وہ مشکوک ہے، جو آپ سے سابق نہیں، اور آپ کی مہر اس کی نبوت پر چسپاں نہیں ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کنندہ مہر کو داخل دفتر فرما چکے ہیں، اب نہ وہ دفتر کھل سکتا ہے اور نہ وہ مہر نکل سکتی ہے، اور نہ ہی کسی مدعی نبوت کی تصدیق ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ کاذبین کی صف میں کھڑا رہے،

آٹھواں سوال | کیا اُن کی کتاب قرآن ہو گا، یا انجیل، انجیل تو منسوخ ہو چکی اور اگر قرآن ہو گا تو کُلٌّ تَوْمٍ هَادٍ کے خلاف لازم آتا ہے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک بھی لازم آتی ہے، اب نیا بیان جو ہمارے نزدیک ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیا قرآن کریم میں کوئی نص ہے، اگر ہے تو بیان فرماویں۔

"محمد عمر" تم نے سمجھ رکھا ہے، کہ مرزا صاحب کی کتابیں تذکرہ اور حقیقۃ الوحی وغیرہ ہیں، تو شاید انبیائے صادقین کی بھی کتب ایسے ہی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے انجیل نازل ہوئی، اور قرآن اُن پر نازل نہیں ہوا، پھر وہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی، کتاب قرآن کریم جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل بعد از نزول من السماء قرآن کریم کے مطابق ہو گا، کیونکہ یہ قرآن ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ہے اور

marfat.com

ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِیْ فَاِذَا بِلَالٌ۔

جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت دکھایا گیا، تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے اپنے آگے جوتے کی آہٹ سنی تو حضرت بلالؓ تھے،

کیوں جناب مرزائی صاحب! حضرت بلال رضی اللہ تعالٰی عنہٗ کا عارضی قیام جنت میں ثابت ہو گیا، اب تو مرزائیت سے تائب ہو جاؤ، یا حدیث کو پس پُشت ڈال دو، جو تمہارا پُرانا وطیرہ ہے۔ پہلے آریہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے سماوی زندگی کے منکر تھے، اب ٹھیک تم نے اختیار کیا ہے،

"ساتواں سوال" | کیا ان سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی؟

"محمد عمر" | نہیں ٹوٹتی - کیونکہ آپ کی مصدقہ مہر ان کی نبوت پر لگ چکی ہے، ٹوٹے تب جب نئے سرے سے ان کی نبوت پر مہر چسپاں کرنی پڑے، اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ ان کا ڈیوٹی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذر چکی ہے، اور وہ ما بین اُمّت میں تشریف نہ لا دینگے، بلکہ آخر میں تشریف لا دینگے، جو قرب قیامت ہر کام خلاف ہی ہوگا، اُن کی نبوت سابقہ ہے، لیکن آمد آخیر میں ہے، بعد جعلی نبیوں دجالوں کی جہت بنکر تشریف لائیں گے تاکہ تمام کاذبین کا کذب امر میں نشر ہو جائے کہ تو نے نبوت کو ختم کر کے حضرت عیسٰی علیہ السلام کو دوبارہ واپس کیوں نازل فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

کنز العمال ۲۰۲/۷
ابن ماجہ

کَیْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَعِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ اٰخِرُهَا۔
کیسے ہلاک کی جائے گی ایسی اُمت، جس کے اوّل میں مَیں اور اس کے آخیر میں حضرت عیسٰی علیہ السلام ہوں،

کیوں جناب اب فرمائیے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہ میری امت کے آخیر میں حضرت عیسٰی بن مریم تشریف لا دینگے، عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ ان کو ابن مریم سے خصوصیت دی، تاکہ منکرین کے لئے وضاحت تامہ ہو جائے، کہ عیسٰی علیہ السلام وہی گذشتہ ابن مریم ہی آخر امت میں ہیں، جن کی نسبت مادری ہی ہے پدری نہیں، عیسٰی بن مریم علیہما السلام کی آمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عنوانات وطرق وطرز معاش دنیاوی کو بیان فرمانا یہ عیسٰی علیہ السلام کی آمد ثانی

marfat.com

غلام مصطفیٰ صاحب کی جائداد کے وارث بنے تو حصّہ تب ملا، جب غلام احمد بن غلام مصطفیٰ ہونے کے مدّعی بنے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر یہ بوقت وصول جائیداد تحصیلدار صاحب کو فرما دیتے کہ غلام مصطفیٰ کی جائیداد عیسیٰ بن مریم کے نام درج کردو، تو جدی ورثہ سے محروم رہ جاتے، اس طرف تو غلام احمد بن غلام مرتضیٰ ہونے کی حیثیت سے غلام مصطفیٰ کی جائیداد لے چکے ہیں، اب اپنی طرف سے اپنے نسب و نام کو بدل کر جعلی عیسیٰ بن مریم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تحصیلدار حقیقت کے سمجھنے والا عیسیٰ بن مریم کی جائداد کو مرزا غلام احمد صاحب کے نام کبھی درج نہ کریگا، لیکن مرزا صاحب اس حقیقت کو بدلنے والے مسلمانوں کو خنزیر اور کتے اور حرامزادے اور کنجریوں کی اولاد کہہ کر خطاب فرمادیں، کہ تم بکواس بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، مجھے جائیداد کیوں نہیں لینے دیتے، اس دعوےٰ کی وہی شخص ہی داد اور صفائی دیگا، جو یا تو مرزا صاحب کی طرف سے وہ پٹی دار ہونے کی خواب دیکھ رہا ہے، یا عقل و فکر کو استعفےٰ دے چکا ہے، تو اس طرفین کے جھگڑے کو سن کر فیصلہ حقہ کرنے کے واسطے تحصیلدار صاحب غلام احمد بن غلام مرتضیٰ یا غلام احمد بن چراغ بی بی کی پیدائش والی کتاب علیحدہ ان کے علاقہ سے منگا لیگا اور عیسیٰ بن مریم کی جائے پیدائش کے اور ان کی نسب کے علیحدہ دفاتر تلاش کریگا، جب دونوں کو عکس نقیض پائیگا تو مرزا صاحب کو دفعہ ۴۲۰ میں رکھ کر مستوجب سزا قرار دیگا، اب مشکل تو تمہارے لئے ہے، کہ اگر عیسیٰ بن مریم خدانخواستہ فوت ہوچکے ہوتے، تو تمہارے مرزا صاحب کو کونسی مصیبت پڑی کہ اپنے آپ کو پہلے عیسیٰ بن مریم بنانے کی کوشش کی، پھر مدعی نبوت بنے اس مرزائی سازش سے بھی صاف ہر ذی عقل پر واضح ہو رہا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی بفرمانِ الٰہی زندہ آسمان پر ہیں، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی بھی مسلمانوں کو دھوکا دیکر خود اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم جعلی قرار دے کر نبوت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور سیدھے سادھے اور بھولے بھالے مسلمان کوئی سادگی میں کوئی کسی لالچ میں دام کا شکار ہو رہے ہیں، خداوند ہر ایک کو راہ حق کی توفیق عنایت فرمادیں، یہ پیش کردہ آیت اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ تو مرزائیوں کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالےٰ نے فرمادے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے آپ ہادی ہیں، لیکن مرزائی اس آیت کریمہ کی تکذیب کرتے ہوئے مرزا صاحب کو اپنا ہادی

marfat.com

عالمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انجیل محدود وقت محدود قومی کے لئے مقرر تھی، قرآن کریم کے لئے نہ حد زمانی، نہ قومی، ہر زمان اور ہر قوم کے لئے، قرآن کریم نے تمام کو ایک قوم اور تمام زمانوں کا ایک زمانہ قیامت تک کر دیا، اور جناب نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کو فوراً پڑھ دیا۔ لیکن میرے دوست سے آیت کا ماقبل سہواً رہ گیا، کاش اگر ماقبل یاد آجاتا، تو کبھی لغزش نہ کرتے ملاحظہ ہو۔

رعد ۱۳/۱ — اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کوئی بات نہیں، آپ ہی واحد ڈرانے والے ہیں، اور آپ ہی ہر قوم کے ہادی ہیں، اس سے ایسا مسئلہ ثابت ہؤا، کہ اس نے مرزائی نبوت کی جڑ سرے سے ہی کاٹ کر پھینک دی، جس کا نام نشان نہ ملا، کہ ہر قوم کے ہادی آپ ہیں اور کوئی ہادی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائینگے، تو وہ لِتُبَلِّغَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ کے لئے نہ تشریف لائینگے، بلکہ لِتُبَلِّغَ مَا اُوْحِيَ اِلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشریف لائینگے، تو ثابت ہؤا، کہ ان کا عمل بھی واحد منذر اور واحد ہادی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء تو قدرت ایزدی کا انکشاف خاص ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بلا نسبت پدری تسلیم کرتا ہے، اس کے لئے تو عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا قرب قیامت نزول من السماء بھی کوئی بڑی بات نہیں، اشکال تو تمہارے لئے ہے، کہ تمہارے مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم بن بیٹھے ہیں، حالانکہ زمانہ جانتا ہے، اپنا پرایا جانتا ہے، کہ مرزا صاحب غلام احمد بن چراغ بی بی ہیں، اب کسی تحصیلدار کے پاس کسی جائیداد کا ورثہ کا غذات در جسٹرات سرکاری میں عیسیٰ بن مریم کے نام لکھا ہو، تو وہ صاحب انصاف وایماندار تحصیلدار اس تحریرات کے مطابق عیسیٰ بن مریم حقیقی کے نام ہی درج کریگا، لیکن اگر کوئی غیر یعنی غلام احمد بن چراغ بی بی تحصیلدار کی عدالت میں پیش ہو جائے۔ اور اپنا نام عیسیٰ بن مریم خود بنالے اور کہدے کہ میں ہی عیسیٰ بن مریم ہوں، اور جو اس کے پڑوسی اس کو پہچانتے ہوں، وہ شہادت دیں، کہ جناب یہ غلط کہتا ہے، یہ تو ہمارے سامنے قادیان میں پیدا ہوئے ان کے والد صاحب نے انکا نام غلام احمد رکھا اور ان کے جننے والی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، ہمارے سامنے ان کی پرورش ہوئی، عدالت برطانیہ میں یہ کئی مقدمات لڑے، وہاں بھی یہ غلام احمد بن غلام مصطفےٰ لکھاتے رہے۔ اور مردم شماری میں اتنا عرصہ یہ غلام احمد بن غلام مصطفےٰ لکھاتے رہے ہیں، اپنے والد صاحب

کے نزول من السماء کو ثابت کرنے کے واسطے وَفِیْهَا نُعِیْدُکُمْ استعمال فرمایا، ورنہ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ کا حکم ہی کافی تھا،

یاد رکھو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا اعادہ آسمان سے زمین کی طرف نہ تسلیم کروگے، تو وَفِیْهَا نُعِیْدُکُمْ کے مکذب بنجاؤگے ۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب تم نے فِیْهَا نُعِیْدُکُمْ کے معنی غلط کئے ہیں، دیکھو قرآن کریم میں ہے۔ سَنُعِیْدُهَا سِیْرَتَهَا الْاُوْلٰی، دوسری جگہ ہے، کَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیْدُهٗ۔ کیا اس سے نزولِ سماوی مراد ہے ۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب خداوند کریم تمہیں ہدایت دے، اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمادے، نفیر نے پہلے ہی عرض کیا تھا، کہ یہاں اعادہ مکانی ہے، اور مکان کی تخصیص رب العزۃ نے زمین سے فرمائی، اور زمین کے مقابلہ میں تغیر مکانی آسمانوں کے سوا کوئی اور نہیں سکتا، اور تمہاری پیش کردہ مثالوں میں پہلی مثال میں اعادہ کیفی ہے جس کی تخصیص سِیْرَتَهَا الْاُوْلٰی نے واضح کردی اور دوسری مثال میں بھی اعادہ کیفی ہے، یعنی ہٗ کی ضمیر کا مرجع خلق اوّل ثابت کر رہا ہے، تو ان دونوں مثالوں میں مکانیت کا ذکر ہی نہیں، کوئی ایسی مثال قرآن مجید سے پیش کرو، جس میں اعادہ مکانی ہو، اور پھر خصوصیت ارضی ہو، تو اس کے مقابلہ میں آسمان ہی آئیگا اور کچھ نہیں، تو ثابت ہوا، کہ وَفِیْهَا نُعِیْدُکُمْ کی تصدیق کے لئے رب العزۃ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے، اور قرب قیامت ان کو آسمان سے زمین پر اتارکر اعادہ ثابت فرماکر اپنے قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کرکے قدرت کاملہ کا اظہار فرمائینگے، منکرین کے لئے حجت کاملہ مسلّمہ ہوگی، لہٰذا تمہاری مرضی کے مطابق رجوع من السماء قرآن کریم سے ثابت ہوگیا ہے، جس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لاکر فرمادینگے ۔

دسواں سوال

"مرزائی"۔ کیا قرآن کریم میں نئے اور پرانے نبی کا کوئی امتیاز ہے۔ اگر ہے تو کونسی آیت اس پر شاہد ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، کہ نیا نبی تو آنہیں سکتا، البتہ پرانا نبی آسکتا ہے، مفصل تشریح فرمادیں، (خاکسار میاں شیر محمد)

"محمد عمر" جی ہاں۔ رب العزت نے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کو پرانا ثابت فرمایا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نیا نہیں، سب پرانے ہو گئے،

marfat.com

سمجھتے ہیں۔ تو ان کو ان کے ہی سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مرزا صاحب کو عیسیٰ بن مریم نبی بنانے سے ٹلتے نہیں، اور پھر متبع قرآن وحدیث کے بھی مدعی ہیں، کسی کی عورت اگر امرت جل پی کر بھی سیر ہو جائے اور بچے بھی اس طرف لاکھوں کی تعداد دے چکے پھر بھی کہے، کہ میں تو مسلمہ ہوں، اس کا واقف تو بھائی اس کے جوڑے بندھے بچے فوراً پیش کر کے تمام الائمہ راز فاش کر دیگا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ○

"نواں سوال" | مرزائی۔ آمد ثانی کے متعلق رجوع کا لفظ کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتب عرب اور قرآن کریم کی رُو سے رجوع کے الفاظ ہونے چاہئیں۔ اگر قرآن کریم میں لفظ رجوع ہے، تو تحریر فرما دیں۔

"محمد عمر" | رفع الی السماء کے متعلق قرآن مجید میں صریح نص موجود ہے، وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ۔ جس کی شرح پہلے گذر چکی ہے، اور اس کے علاوہ آیات صریحہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء پر دال ہیں، ایماندار کے واسطے کافی ہیں۔ ملاحظہ فرما دیں، اور اپنے اعتقاد وضعی کو بالائے طاق رکھ کر محض خداوند کریم کو عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ یقین کر کے اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نذیر سمجھ کر آیاتِ مذکورہ کو بغور ملاحظہ فرماویں، تو تمہاری انشاء اللہ تعالےٰ تسلی ہو جائے گی، باقی رہا تمہارا کہنا کہ لفظ رجوع خداوند نے اس مقام پر کیوں نہیں استعمال فرمایا ہے، اگر تمہیں نظر نہ آوے تو کسی کا قصور نہیں، ملاحظہ ہو۔

طٰهٰ ۱۶/۲ | مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى۔ اسی (زمین) سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی (زمین) میں ہم تمہارا رجوع کریں گے اور اسی (زمین) سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ہم تمام کو شامل حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کے ماتحت ہیں، اور فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ یہ اعادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اگر ان کا رجوع نہ تسلیم کیا جاوے، تو فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ کی معاذ اللہ تکذیب لازم آئیگی، اور اعادہ یہاں مکانی ہے، نہ زمانی ہے، نہ کیفی نہ کمی، تو جبتک زمین کے علاوہ دوسرا امکان تسلیم نہ کیا جاوے، اور اس مکان ثانی سے زمین کی طرف اعادہ درست نہ ہوگا، اور وہ زمین کے مقابلہ میں آسمان ہے، جس کے مکیں ہم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا معراج وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکین ہونا سو اس کے بھی تم منکر ہو تو فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ تب ہی درست ہو سکتا ہے کہ آسمان کے مکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں رجوع فرماویں، عیسیٰ علیہ السلام

maktabah.com

اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے نزول سماوی کا حکم جاری فرما رہے ہیں، تو تم ان کو بقول مرزا صاحب تاویلات باطلہ سے ٹھکرا رہے ہو، لیکن اگر اس کے مقابلہ میں مرزا صاحب ہوں، غلام احمد بن چراغ بی بی اس حقیقت کا تمہیں بھی یقین ہو چکا ہے اور مدعی رہیں عیسیٰ بن مریم بننے کا جو تم سے مخفی نہیں، تو تم اس کو اپنا ایمان تصور کر لو، تو اس فیصلہ کو تم اپنے ضمیر سے ہی دریافت کرو، کہ کیسا ہے، سیدھا ہے یا ٹیڑھا، صحیح ہے یا غلط، ہدایت ہے یا گمراہی، اور توازن میں دونوں سے کون معتبر ہو سکتا ہے اور کس کے کلام اور اتباع کو فوقیت لازمی ہے، فَتَدَبَّرُوْا اَسْئَلُكَ هَدَاكَ اللّٰهُ سَوَاءَ الصِّرَاطِ۔ وَلَا تَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا۔ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ خداوند کریم آپ کو ہدایت دے۔

خیالات مرزا غلام احمد صاحب قادیانی

در مسئلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

مرزا صاحب بھی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے اُترنے کے قائل تھے، ملاحظہ ہو،

براہین احمدیہ ۴۹۸

اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئیگا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاوینگے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جاویگا، (دین اسلام نہ کہ مرزائیت)۔

"مرزائی" - اس کا جواب خادم صاحب نے اپنی مکمل پاکٹ بک صد ۳۹۱ میں دیا ہے، کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ بیان کیا تھا، انہوں نے اپنے عقیدہ کا اظہار نہیں فرمایا، چنانچہ کشتی نوح میں مرزا صاحب کی عبارت نقل کی ہے، کہ میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا، لہٰذا تم نے براہین احمدیہ کی عبارت کو سمجھا نہیں۔

marfat.com

جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے نبی ہونے کے متعلق ارشاد الٰہی ہے، یٰاَیُّھَا النَّبِیُّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خطاب نے آپ کے لئے تازہ نبوت کا ثبوت دیا، اور فرمان الٰہی۔

طٰہٰ ۱۶/۵ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۔

ایسے آپ پر ہم نے پُرانے نبیوں کی بعض خبروں کا واقعہ بیان کیا۔

اس آیۃ کریمہ سے ثابت ہوا، کہ پہلے انبیاء علیہم السلام پُرانے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے متعلق اطلاع یا واقعہ اللہ تعالےٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمایا اور نہ اس کا ذکر ہی ہے اور نہ احادیث میں ہی اس کا ذکر ہے، اگر ہے تو پُرانے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا جو عہدہ گورنری پر فائز ہو کر تشریف لا وینگے۔ کیونکہ بادشاہت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گورنری حکومت تو ہو سکتی ہے، لیکن بادشاہت یعنی نبوت اُمت محمدیہ میں محال ہے، کیا کسی بادشاہ کا بادشاہی کرنے کے لئے آنا، یعنی باشاعت خود یہ بھی محال ہے؟ اور پرانے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد والی آیات صریحہ قرآنیہ بیان ہو چکیں، جو ذی شعور و ایمان والے کے واسطے کافی ہیں، وقت تو بیچارے مرزائی کو ہے، جسکے مقتداء مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، جس نے ظلی و بروزی نبی ہونے کا دعوای کیا، جس کا ذکر کسی آیت یا حدیث میں نہیں، مماثلت مسیح ہونے کا دعوای کیا، وہ بھی صلیب دیا جا چکا، اور کسی مثیل کا ذکر ہی نہیں، اب مرزائی بیچارہ مسلمانوں سے مختلف سوالات کر کے اُلجھن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن بے چارہ اپنے دعوای سمجھنے سے قاصر ہے۔

شبیر محمد صاحب مرزائی! تمہارے سوال صرف دو تھے، اور ہیر پھیر کر کے تم نے دس بنا دیئے۔ لیکن فقیر نے تمہارے مقرر کردہ دس سوالوں کا ہی بالترتیب جواب دیا، اور تمہاری منشاء کے مطابق، تم نے بھی خداوند کریم کے دربار میں پیش ہونا ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کسی کی اتباع کا تم سے سوال نہ ہوگا اور سوائے قرآن کریم کے کسی کتاب کی پرسش نہ ہوگی، تو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، تو محض فرمانِ خداوندی اور اتباعِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت یقین کرنا، جو جاہیں منوائیں، ان کو لائق ہے، اللہ تعالےٰ اور اس کے رسول صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے وہ فرما دیں، نہیں یقین سے بلا تردد ایمان لے آنا چاہیئے، اگر فرمانِ خداوندی اور حضرت

marfat.com

اے مرزائی دوستو! تمہیں تمہاری مرزائیت کی قسم ذرا انصاف سے فرمانا کہ پہلے گذشتہ انبیا علیہم السلام نے بھی کبھی کہا، کہ میرے ملہم نے میرے دل پر غلط القا کیا، یہ میرا قصور نہیں، یہ قصور میرے ملہم کا ہے، میرا" ذہول صرف یہی ہے کہ میں نے اس کی اتباع کرلی، اس غلطی کو نہ سمجھ سکا، آؤ! اگر سچے مرزائیت کے دعوی پر ہی ڈٹنا دھار لیا ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت تو دکھاؤ کہ جس میں یہ صاف واضح الفاظ موجود ہوں، کہ اے نبی میرا فلاں واقعہ کا الہام یا القا تیرے دل پر غلطی سے یا ذہول سے ہوگیا، واقعہ حقیقۃً یوں تھا، لیکن ذہول سے اس کے خلاف القا کیا گیا، اگر نہیں تو یہ اس کی سادگی نہیں، بلکہ تمہاری از حد سادگی ظاہر ہو رہی ہے، جو مرزا صاحب کے اس کلام کو بقول مقر سادگی سے تعبیر کر رہے ہو، اتنا بھی نہ سمجھا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں اپنا عقیدہ لکھا اور کسی کے کہے سے سادہ لوح نہیں بنے، بلکہ خود ہی اپنے متعلق فتوی صادر فرما دیا، کہ یہ میری کمال سادگی تھی اور ان کی امت نے آمنا کہا سبحان اللہ کیا خوب! خود ہی مدعی اپنے متعلق اور خود ہی مفتی، پر تھوڑا سا پردہ انداز ہی سے بھی کام لیا، فرمایا ذہول ہوگیا، کیوں جناب اپنا ذہول ہو جائے تو بھی سجدہ سہو سے بریت ہو جائے، اور جہاں سرے سے ملہم ذہولی ہو تو وہ اصل ہی غلط ثابت ہؤا۔ یہ ذہول نہ تھا۔ اگر ذہول ہوتا تو محض ایک ہی طرح پر اکتفا کیا جاتا، جب طرحیں دو ڈال دیں کہ اگر داؤ نہ چلا، تو سیدھا رُخ دکھا دیا جا دیگا، جس میں صاف صاف اقرار ہے اور اگر ذرا سا ناخن بھی اڑ گیا، کسی نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، تو اُلٹے رخ والی طرح پیش کر دی جائیگی، اگر محض ذہول ہوتا تو رُخ ایک بیان کیا جاتا، دوسرے رخ کی طرح کا اشارہ نہ دیا جاتا، اب اشارات چونکہ ذو معنیین تھے، کوئی مسلمان صاف فتوی اس پر نہیں لگا سکتا تھا جبتک دعوی صاف نہ ہو، پھر بعد ازاں کوئی صاحب یہ نتیجہ اپنے متبعین کو سنائے کہ جی میرا پہلے بھی عقیدہ موجودہ رُخ والا ہے، تو صاحب ایمان اس کی طرح کو فوراً سمجھ جائیگا کہ یہ قول تمہارا اس وقت واضح طور پر نہ تھا، اس واسطے فتوی بھی واضح نہ تھا، جب تم واضح ہوئے فتوی بھی واضح ہوگیا، پھر یہ کہنا کہ ہمارے مرزا صاحب نے بھی عوام کا عقیدہ بیان کیا ہے، اپنا نہیں، تو میں یہی سمجھوں گا، کہ یہ مرزا صاحب کی تحریر کو جھٹلایا جا رہا ہے کیونکہ مرزا صاحب اپنا عقیدہ تسلیم کر چکے ہیں، گو مرزا صاحب بھی بعد میں انکار کر دیں، تو بھی ان کے انکار سے ان کے پہلے قول کی تکذیب لازم آئیگی جو ذی شعور سے مخفی نہیں، کیونکہ پہلے حیات و نزول من السماء عیسیٰ علیہ السلام پر مرزا صاحب کا عقیدہ بارہ سال تک مضبوط

marfat.com

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب اپنی طرف سے اگر فقیر کوئی بات پیش کرے تو شاید آپ کو کوئی مانع درپیش ہو، لیکن اگر مرزا صاحب ہی خود اقرار فرمالیں کہ میں نے براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا اقرار کیا ہے، اور اُس وقت میرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پر تھا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا۔

"مرزائی"۔ اگر یہ تحریر مرزا صاحب کی ثابت ہو جائے تو پھر خادم صاحب کا بھی اور مرزا صاحب کے دوسرے اقوال کو بھی سوائے جھوٹ کے کچھ نہ سمجھا جاوے گا۔

"محمد عمر"۔ سبحان اللہ! ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیئے، کہ کسی بڑے سے بڑے کی بات میں بھی اگر کذب ثابت ہو جائے، اور پھر وہ تاویلات سے اس کو بحال کرنا چاہتا ہے، تو واقعی ایسے سے کوئی دوسرا صادق المصدق چننا بہتر ہوتا ہے، اور ایسے کو ترک کرنا بہتر ہوتا ہے، سنیئے اب مرزا صاحب کے فرمان سے جگر تھام کر تسلّی فرمائیے۔

اعجاز احمدی ۷

باوجودیکہ میں براہین احمدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا، مگر میں نے بوجہ اس ذھول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا، پس میری کمال سادگی اور ذھول پر یہ دلیل ہے۔

سبحان اللہ! خادم صاحب آپکے مرزا صاحب کا حیات مسیح کے عقیدے سے پلٹنا تو اہل علم کے نزدیک کیا ہی سادگی کا نمونہ ہوگا، البتہ مرزا صاحب کا یہ کلام اعجاز احمدی والا توان کے متبعین کی کمال سادگی کو ظاہر کر رہا ہے جو مرزا صاحب کی مذکورہ عبارت سے" میں نے بوجہ اس ذھول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا"۔ کو نہ سمجھ سکے کہ مرزا صاحب کے اس فرمان کی زد کس پر پڑ رہی ہے، اس عبارت سے صرف مرزا صاحب کا تبدیل کلام ہی ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی کلام سے یہ بھی ثابت کر دیا، کہ میرا ملہم مجھے تعلیم ذھولی سے مشرف فرماتا ہے، جو ان کا قول ذھول میرے دل پر ڈالا گیا ہے، صاف اقرار ہے۔ اور پھر اپنے ذھول کا بعد میں اقرار کہ مجھ سے بھی حیات مسیح کے متعلق ذھول ہؤا، کہ میں اپنے ملہم کے غلط الہام کی تصحیح نہ کر سکا، تو مرزا صاحب نے اپنی امت کو صاف سنا دیا، کہ میرا ملہم ذھولی غلطی کنندہ ہے، جس نے میرے دل پر بھی حیات مسیح کے متعلق غلط القا کیا۔

marfat.com

شبہ نہیں،

مرزاجی کی اس عبارت سے صاف ثابت ہوا، کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ نزولِ مسیح میں سچا ہے بلا شک وشبہ، لیکن پھر مرزاجی نے مسلمانوں کی جماعت کو ترک کر کے اپنی شعوریت کیوں پسند فرمائی، جو خود اقرار کیا کہ مجھے میرے سابقہ ذہولی ملہم نے اتنا مجبور کردیا کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ کو ترک کر کے اور وفات مسیح کا اعلان کر کے خود مسیح بننے کا دعوٰی کردیا، چنانچہ فرمایا آئینہ کمالات کے اسی صفحہ پر ان الہامی لاغبار ولا تلبیس ولا تخلیط، مجھے میرے الہام نے جس پر رتی کا غبار بھی نہیں، مکر بھی نہیں، اور اس الہام میں قرآنی ملاوٹ بھی نہیں، محض اسی ذہولی ملہم کا کورا الہام ہے، تو پھر مرزاجی نے فرمایا کہ مجھے اپنے الہام قرآن وحدیث کے مطابق والے جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا، اس کے درمیان اور میرے الہام ثانی میں مجھے تطبیق دینی مشکل ہوگئی، کہ کونسی شے کو پسند کروں، تو فرمایا فَعَسُرَ عَلَیَّ تَطْبِیْقُھَا وَکُنْتُ مِنَ الْمُتَحَیِّرِیْنَ ان دونوں کی تطبیق مجھ پر تنگ ہوگئی اور میں حیران ہو کر کالذی استہوتہ میں شامل ہوگیا گے فرمایا فَمَا قَنَعْتُ بِالنُّصُوْصِ فقط تو میں نے صرف قرآنی آیات پر اکتفا نہ کیا دیکھو اس میں کوئی گنجائش نہ تھی، مسئلہ حیاتِ مسیح علیہ السلام واضح تھا) پھر فرمایا لانی وَجَدْتُ فی الاحادیث الصحیحۃ قلیلۃ بیسیرۃ من دخن الاختلاف بظاھر النظر اس لئے محض قرآنی آیات پر اکتفا نہ کیا کیونکہ حدیثوں میں میں نے تھوڑا سا اختلاف کا دھواں ظاہر نظر میں دیکھا، یعنی بعض ضعیف اور غیر مستند اقوال حیات مسیح کے خلاف بھی سمجھے، تو مرزاجی نے اتنے مصائب کا سامنا کر کے وفات مسیح کا دعوٰی کیا جب مسلمانوں کو مرزاجی کے اس الہام سے بھی تسلی نہ ہوئی، اور کب ہو سکتی تھی کون مسلمان اس بات کو گوارا کرسکتا ہے، کہ آیات قرآنیہ صریحہ اور احادیث صحیحہ متواترہ کو ترک کر کے مرزاجی کے الہام کو کون سُنے، تو مرزاجی پھر کچھ ڈھیلے ہوئے فرمایا، کہ حیات و وفات کا مسئلہ فروعی اختلاف ہے، تم اس معمولی اختلاف سے ہمیں کیوں اسلامی دشمن سمجھتے ہو، یہ کوئی بڑی ضروری بات نہیں، چنانچہ اپنا یہ حوالہ پیش کردیا، کہ اس مسئلہ کی مرزائیت میں کیا وقعت سمجھتا ہوں، سنیئے۔

ازالہ اوہام مطبوعہ لاہوری ۱۳۱	اوّل تو یہ جاننا چاہیئے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صدہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیشگوئی ہے، جس کو حقیقت اسلام سے

کچھ بھی تعلق نہیں، جس زمانہ تک یہ پیشینگوئی بیان نہیں کی گئی تھی، اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہوگیا۔

marfat.com

رہا، ایک دو دن بھی نہیں، مہینہ دو مہینے نہیں بلکہ بارہ سال عقیدہ پر رہے، ملاحظہ ہو۔

کشف الغطاء ۲۸

بارہ سال تک برابر اس پہلی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر نہ کی۔ مرزا صاحب کی تائید انکے لڑکے خلیفہ مرزا صاحب نے بھی فرمادی

کلمۃ الفصل ۴۷

حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ مسیح ناصری آسمان پر موجود ہے اور آخری زمانہ میں زمین پر نازل ہوگا اور آپ قریباً بارہ برس اسی عقیدہ پر قائم رہے۔

خادم صاحب اب تم بھی مسلمانوں کو یہ نہ کہنا کہ حیاتِ مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں نصاریٰ سے آیا ہے ورنہ بارہ سال مرزا صاحب کو تمہیں نصاریٰ میں شمار کرنا پڑیگا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اب تو ان کے لڑکے کی بھی تائید ہوگئی، اب بھی تم کہو، کہ مرزا صاحب نے عوام کا عقیدہ لکھا ہے، تو دروغ بر روئے خود گفتن سے زیادہ کیا کہا جائے، جب مسلمانوں نے مرزا صاحب کو زیادہ باز پرس کی کہ آپکا پہلا عقیدہ جسپر آپنے بارہ برس تبلیغ فرمائی وہ صحیح ہے یا بعد کا تو مرزا صاحب نے آخر کچھ پہلو پلٹا اور فرمایا۔

اعجاز احمدی ۶

پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! کونسی کل کو سیدھی سمجھا جائے، یہ بھی مرزا صاحب کا فرمان اسی صفحہ پر ہے کہ میرے ملہم کا ذہول ہے کیونکہ میرے دل پر ذہول ڈالا گیا، اور یہ بھی مرزا صاحب ہی کا کلام ہے کہ میں بارہ برس تک اس سے بے خبر رہا کجا بے خبری کا اقرار، کجا ملہم کا غلط القا، اب تم اس مرزائی گورکھ دھندے کو بجائے اس کے کہ انصاف سے کام لیتے اُلٹا ٹیڑھا کر کے مرزا صاحب کے قول کو ہی سیدھا کرنا چاہتے ہو، لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ لکڑی اگر جبلت میں گانٹھل اور بنجل ہو وہ گھڑائی سے درست نہیں ہوسکتی، خواہ کوئی کیسا ہی کاریگر کیوں نہ ہو، جب اس عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام و نزولہ من السماء مرزا صاحب کا بھی رہا جسکی تائید ان کے لڑکے مرزائیوں کے خلیفہ نے بھی کردی، اب تم رندے سے صفائی کرنا چاہتے ہو، تو اُلٹی خرابی لازم آئیگی اور چپڑیں اکھڑینگی، مرزا جی نے جب اپنے خلاف مسلمانوں کا احتجاج صحیح سمجھا تو تسلیم کیا، پھر انکار کیسا؟

آئینہ کمالات مطبوعہ لاہوری ۴۳۸

كَانَ يَقِيْنِيْ بِاَنَّ اِعْتِقَادَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ حَقٌّ لَاشُبْهَةَ فِيْهِ وَلَارَيْبَ

میرا یقین تھا کہ مسلمانوں کا اعتقاد نزول مسیح کے متعلق سچا ہے اس میں کوئی شک

ایک وجود رکھتی تھی اور ایک مجسم انسان کی طرح آسمان میں موجود تھی۔ اور ضرور تھا، کہ آخری زمانہ میں وہ حقیقت پھر نازل ہو، سو وہ حقیقت مسیحیہ ایک مجسم انسان کی طرح اب نازل ہوئی۔ انسان نہیں۔

اب اے فرقہ مرزائیہ تمہارے انصاف پر چھوڑتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھو گے، یا مرزا صاحب کو، اجتماع نقیضین تو محال ہے، ان کے علاوہ مرزا صاحب کی بے شمار بناوٹیں کتب مرزا صاحب میں موجود ہیں، جن کو بوجہ طوالت بیان نہیں کیا جاتا، چنانچہ ان مذکورہ عبارات سے تم کو بھی ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب یہانتک نہ تو احادیث صحیحہ کو ہی غلط کہہ سکے اور نہ ہی ان کو تسلیم کرنے کی طرف لوٹے، بلکہ ان حدیثوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں ان کو تاویلات باطلہ سے اپنے پر چسپاں کر لیا جب امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا صاحب کی ان تاویلات باطلہ کو لوگوں کے سامنے طشت ازبام کیا اور مرزا صاحب کی نفسانی خواہش مرزا صاحب کی زبانی واضح ہو گئی، تو مرزا صاحب نے اپنی ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑتے ہوئے اپنی بناوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم الہٰیہ عطائیہ پر برتر ہونیکا دعویٰ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بے سمجھ ثابت کیا، ملاحظہ ہو۔

ازالۃ الاوہام حصہ دوم ۳۶۴

بہرحال ان تمام باتوں سے یقینی طور پر یہ اصول قائم ہوتا ہے۔ کہ پیشگوئیوں کی تاویل اور تعبیر میں انبیاء علیہم السلام کبھی غلطی بھی کھاتے ہیں .... اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ معلوم ہونے کسی نمونہ کے موبمو منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الٰہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت ظاہر فرمائی گئی ہو اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان جہانتک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوی کے ممکن ہے، اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو، تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔

اے مرزائیو! تم سوچو کہ ہم مرزا جی کے اس کلام سے مرزا جی کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دیں یا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم الہٰیہ کے اعلم تسلیم کر کے مرزا جی کو جھوٹا سمجھیں، جو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انکار کر کے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملہ میں بے علم سمجھتے ہوئے خود بناوٹی مسیح اور بناوٹی عیسیٰ بن مریم بنکر سارے لوگوں کو دھوکے کے جال میں پھنسا لیا۔ ع

دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا

marfat.com

جب مرزا جی کو مسلمانوں نے دلائل قرآنیہ واحادیث صحیحہ مصطفویہ سے حیات مسیح علیہ السلام پر یکطرفہ ڈگری دینے کے لئے مجبور کردیا کہ کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات مسیح کا قائل نہیں ہؤا، سوائے تمہارے، تو تم یا تو صاف وفات مسیح کا اپنا عقیدہ ٹھوس ظاہر کرو، اور امت مسلمہ سے علیحدہ ہوجاؤ یا حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ صحیح کر کے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاؤ، تو مرزا صاحب نے پھر آیتوں اور حدیثوں کی تاویلیں کر کے اپنے اصلی مقصد کو ظاہر کرنا شروع کردیا۔

ازالۃ الاوہام ۱۲۹ ایک بڑے کام کے لئے اس دمشق میں اس عاجز کو اُتار ا بطرف شرقی عند المنارۃ البیضاء من المسجد الذی من دخلہ کان آمنا فتبارک الذی انزلنی فی ھذا المقام۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق کی مسجد کے سفید مینار کے پاس حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو مرزا صاحب نے اس حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے ہوئے دانستہ باطل بناوٹیں اختیار کیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق فرمایا، مرزا صاحب نے خود مسیح بننے کے لئے قادیا کو ہی دمشق کہہ دیا، اور سنیئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر صلیب کا دنیا سے نام و نشان مٹا دینگے اور مرزا صاحب فرماتے ہیں،

لجۃ النور ۱۲ وَاَنْزَلَ مَسِیْحَہُ الْمَوْعُوْدَ لِیَکْسِرَ الصَّلِیْبَ ومسیح خود را از آسمان برزمین فرود آورد تا صلیب دشمناں را بشکند، اور خدا نے اپنے مسیح کو آسمان سے زمین پر اُتارا تاکہ دشمنوں کی صلیب کو توڑ دے۔

اب مرزا صاحب نے صاف اقرار کیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اُترنا حق ہے جھوٹ نہیں، اور ان کا زمین پر آکر صلیب کو توڑنا بھی برحق ہے، ان دونوں امروں کو تسلیم کر کے پھر بناوٹ سے کام لیا کہ خدا نے مجھے آسمان سے اُتارا، حالانکہ آسمان سے اُترے نہیں، ہم مرزائیوں کو بھی یقین ہے کہ یہ محض بناوٹ ہے، پھر بناوٹ سے کام لیا کہ میں نے صلیب کو توڑا، حالانکہ صلیب کو نیست ونابود نہ کر سکے، پھر اور بناوٹ سنیے۔

مسیح ہندوستان میں ۸۵ تا وہ شہر جو سچائی کا طالب ہے، اب اُٹھے اور تلاش کرے مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا گویا ایک غلطی تھی، تب بھی اس میں ایک راز تھا۔ اور وہ یہ کہ جو مسیحی سوانح کی حقیقت گم ہوگئی تھی، جیسا کہ قبر ایک جسم کو کھا لیتی ہے وہ حقیقت آسمان پر

بسم الله الرحمن الرحيم

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (احزاب)

المجلد الثاني

من كتاب

مقياس النبوة

في ثبوت

انقطاع النبوة

تألیفه

محمد عمر اچھرہ لاہور

marfat.com

جب مرزا صاحب کا گورکھ دھندا اور بناوٹ ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہوگئی تو ہماری تسلی انجیل برناباس سے بھی کرا دیتے ہیں،

"مرزائی"۔ مولوی صاحب معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار ان کی نفسانی غرض پر مبنی تھا، ورنہ آخیر تک انکی کلام سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے بموجب قرآن اور حدیث کے ضرور تشریف لادینگے اور فرمایئے کہ کیا انجیل برنباس بھی معتبر کتاب ہے؟

"محمد عمر"۔ تمہارے مرزا صاحب کی اسکے متعلق شہادت پیش کر دیتا ہوں تا کہ تمہاری تسلی ہو جائے،

کشف الغطاء ۲۶ اعجاز احمدی ۲۱	اور انجیل سے ظاہر ہے کہ برنباس بھی ایک بزرگ حواری تھا اور ان کو جتایا گیا کہ حضرت مسیح آسمان پر گئے۔

(حیات مسیح عیسیٰ علیہ السلام از روئے اناجیل)

انجیل برنباس فصل ۱۱۲ آیت ۱۳	پس اے برنباس تو معلوم کر کہ اسی وجہ سے مجھ پر اپنی حفاظت کرنا واجب ہے، اور عنقریب میرا ایک شاگرد مجھے تیس ۳۰ سکوں کے ٹکڑوں کے بالعوض بیچ ڈالیگا، اور اس بنا پر مجھکو اس بات کا یقین ہے کہ جو شخص مجھے بیچیگا وہ میرے ہی نام سے

قتل کیا جاویگا (۱۵)۔ اسلئے کہ اللہ مجھ کو زمین سے اوپر اٹھالیگا اور بے وفا کی صورت بدل دیگا، یہانتک کہ اسکو ہر ایک یہی خیال کریگا کہ میں ہوں، مگر جب مقدس محمدؐ آئیگا وہ اس بدنامی کے دھبہ کو دور کریگا۔

انجیل برنباس فصل ۲۱۵ ص ۲۱	پس جبکہ اللہ نے اپنے بندہ کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں جبرائیل اور میخائیل اور رفائیل اور اوریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لیویں، تب فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی

طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا، پس وہ اس کو اٹھالے گئے۔

انجیل برنباس ف ۲۱۶ ص ۲۹	یہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا، جس میں سے یسوع اٹھا لیا گیا تھا۔
بائبل متی باب ۲۴	اگر تم سے کوئی کہے مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے

نبی اٹھ کھڑے ہونگے۔

تمت

الجزء الاول من الاجزاء الثلاثة

آو مرزائی دوستو! اب بھی وقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کافی سمجھو اور جس کا سکہ رائج ہے اُسی کی سلطنت تسلیم کر لو، ورنہ دربارِ خداوندی میں بغاوت کی سزا کے مستوجب ہو گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر ہی یوم میثاق سے ربّ العزت نے نبوۃ کو ختم کر دیا ہے لہٰذا آپ کے بعد کوئی اور نبی نہ ظلی نہ بروزی نہ اصلی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کا خطاب خداوندی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہی ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد نبی کی پیدائش بند ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رحیمی حقیقی کے بعد اگر کوئی یہودی یا نصرانی بنجائے تو اس کا علاج تلوارِ عیسوی سے ہی ہو گا جو خداوند تعالیٰ نے فرما دیا ہے، دوسرے بناوٹی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ بفرمانِ خداوند کریم لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا تمام جہانوں کے نذیر ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیساکہ مریضوں کی کثرت بد پرہیزی کی وجہ سے اگر مریض شفایاب نہ ہوں تو ڈاکٹر کا قصور نہیں بلکہ مریضوں کو پرہیز لازم ہو گا اور جو لا علاج ہو جائے اور مرض متعدی ہو، تو اُسے سول سرجن زہر کی پڑیا دیکر راہِ عدم کی طرف روانہ کر دیتا ہے، جس سے باقی ماندوں کو نجات مل جاتی ہے۔ جیساکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرائینگے تو جس کو تندرستی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائینگے اور جس کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک ہو گا اس کا علاج بھی قربِ قیامت تلوارِ عیسوی سے ہو گا۔ اُن کی سابقہ نبوت کی ڈیوٹی چونکہ پوری ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو صفِ انبیا علیہم السلام میں شمار کر چکے، وہ سابقہ انبیا علیہم السلام سے ہونگے، پھر بھی وہ قربِ قیامت اپنی نبوت چلانے یعنی اپنی مَا اُوْحِیَ اِلَیْہِ کی تبلیغ کے لئے نہ تشریف لاوینگے، جیساکہ پہلی جلد میں اس کی بحث مفصل گذر چکی ہے اور نہ وہ ختم نبوت کی مہر توڑنے آئیں گے، جیساکہ مرزا صاحب اور مرزائی کوشاں ہیں۔ بلکہ منکرین ختم نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے اور منکرین الوہیت واحدہ کی تعلیم کے لئے آوینگے اور توحید و رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے اعتقاد کو درست کرنے کے لئے ہی تشریف لاوینگے، کیونکہ پہلے صرف الوہیت واحدہ کا اور اجرائے نبوت کا اعلان تھا، تو لوگ اِلٰہ کے مدّعی بنے، کیونکہ ذاتِ اِلٰہ ایک اس سے شریک اِلٰہ انیک اور چونکہ رسالت کا سلسلہ شہر بشہر، علاقہ بعلاقہ

marfat.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

مسئلۂ ختم نبوت

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَلَا نَظِيۡرَلَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مَنۡ لَا نَبِيَّ بَعۡدَهٗ وَلَا مَثِيۡلَ لَهٗ وَسَلَامٌ عَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى مَنۡ صَحِبَهٗ۔

بعض مسلمانوں سے قلیل افراد انگریزی تہذیب اور انگیخت پر ایسے نازاں ہوئے کہ حضرت مُحَمَّدٌ مُصْطَفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھے تیرہ سو سال بعد ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا بیٹھے، جس بنا پر انہیں اُس بے نیاز عزّ وجل نے امّت محمّدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دُور ڈال دیا کہ قادیانی اُمّت مسلمانوں کی اقتدا میں نماز گذارنے سے محروم ہو گئی۔ یعنی خداوند کریم کے دربار میں بھی امّت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش کھڑے ہو کر عبودیت کا مُنہ نہیں دکھا سکتے اور مسلمانانِ دنیا میں شامل ہو کر اُن کے کسی رشتے میں نامزد نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص امّت قادیانی سے مرجائے تو کوئی مسلمان دربار خداوندی میں اُن کے لئے دستِ دعا نہیں اُٹھاتا، کیونکہ یہ سزا ہے جو اُن کو حضرت محمد مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ترک کرنے پر ملی۔ اور مرزائیوں نے بَیۡتُ اللّٰه کے بدلے قادیان کو پسند کر لیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مسجد غلام احمدی کو برگزیدہ سمجھا اور مَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا کا اعلان بھی سنایا۔ لیکن وہ اُن کے لئے ہی وبالِ جان بن گئے اور قبر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے نا آشنا ہونے کے سبب لَا اَدۡرِیۡ کہنے والوں کے دھڑے میں شامل ہو گئے۔ میدانِ حشر میں يَا وَيۡلَتٰى لَيۡتَنِيۡ لَمۡ اَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيۡلًا پکارتے ہوئے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ساتھ اُٹھیں گے اور کملی والے کے دامن کو ترستے ہوئے مرزا صاحب سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

marfat.com

یوم میثاق سے ہی اللہ جل شانہٗ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا

اللہ رب العزۃ عزّ اسمہٗ نے تمام ارواح سے جب اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو تمام مخلوقات سے ارواح انبیا و رسل علیہم السلام کو مخاطب کرکے فرمایا۔ جس میں تمام انبیا علیہم السلام سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم یعنے بس کرنے کا ہر ایک سے اقرار کرایا، چنانچہ اس واقعہ کو اللہ جل شانہٗ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے، تاکہ میثاقی اعلان سے ہر شخص باخبر ہو جائے۔

(۱) آل عمران ۳ ع ۹ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥

اور جب اللہ تعالےٰ نے تمام انبیا علیہم السلام سے حلفیہ وعدہ لیا، جو میں تم کو کتاب اور دانائی عنایت کروں گا، پھر آئیگا تمہاری طرف ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مصدق ہونگے اس شے کے جو شے (میری انعام کردہ) تمہارے پاس ہوگی۔ اس رسول کے ساتھ تم ضرور ایمان لائیو، اور ضرور اس کی ہی مدد کرنا، فرمایا رب العزۃ نے کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر تم نے میرا پکا وعدہ قبول کیا۔ تمام انبیا علیہم السلام نے عرض کیا کہ ہم تمام نے اقرار کیا، خداوند کریم نے فرمایا تم تمام انبیاؑ بھی گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں، تو جس نبی نے اس کے بعد اعراض کیا تو یہی وہ فاسق ہونگے۔ اس آیۃ کریمہ سے یوم میثاق کے کئی امور ثابت ہوئے:۔

marfat.com

عام تھا۔ اس لئے کئی سچے انبیا علیہم السلام کے مقابلہ میں اتنے سچے سودے عام کو چھوڑ کر جھوٹ کو کون قبول کرتا، لہذا کسی کو جرأت جعلی نبوّت کی نہ ہوتی، جب نبوۃ واحدہ کا اعلان فرمادیا اور آپ پر دروازہ نبوّت بند ہی کر دیا گیا تو بعد ازاں سچی نبوت کے مقابلہ میں بھی شریک نبوۃ بننے کا کوئی غبرذوں نے اعلان کر دیا، بھلا قرآن کریم واسلام کی اتباع کرنے والا اس کو کب گوارہ کرسکتا ہے، ہاں یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ اگر الٹ چلے، یعنی خداوند اگر عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرما کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قرب قیامت نازل کرنے کا دعوی کرے تو مرزائی اس کو تاویلوں سے ٹھکرا دے اور مرزا غلام احمد جس کا قرآن کریم اور حدیث شریف میں نام ونشان نہیں ایسے شخص غیر نبی کو نبی تسلیم کریں اور اپنے اُلٹے دماغوں کو قرآن وحدیث کے مقابلہ میں سیدھا سمجھیں۔ تو یہ اُن کا رب العزت سے مقابلہ ہے، نہ کہ حق　حق وہی ہے جس کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے اور بس۔

اور یہ ہمیشہ کا اصول ہے، کہ جس شے کا گورنمنٹ کنٹرول کرلے اور اپنی طرف سے اس شے کا ڈیپو مقرر کر دے تو اس شے کی بلیک شروع ہو جاتی ہے، جب وہ شے عام ہو، تو چونکہ بلیک کے بغیر عام دستیاب ہوسکتی ہے، پہلے خدا کی طرف سے نبوّت ورسالت عام تھی یعنی نبوت کا دروازہ کھلا تھا تو کوئی جھوٹا نبوّت کا مدّعی نہ تھا، کھرے عام سونے کو چھوڑ کر پیتل کا زیور کون خریدتا ہے، نبوّت کے واحد ڈیپو مقرر ہونے سے پہلے لوگ خدائی دعوای کرتے رہے جب نبوّت کا کنٹرول ہوگیا، تو بعد از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوّت کی بلیک شروع ہوگئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مسئلہ یوم میثاق سے رب العزت نے حل کر دیا ہے. تاکہ دنیا میں یہ مسئلہ ختم نبوّت نیا مسئلہ نہ کہلاوے۔ بلکہ قانون میثاقی ہونے کے باعث اجرائے نبوّت کا قائل خداوند کا بھی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا و رسل اور رسول الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکذّب ثابت ہو جائے، ملاحظہ ہو،

اور اس رسول اللہ کی آمد کا خطاب تمام رسولوں کو بھی کیا جارہا ہے کہ وہ تمہارا بھی رسول ہوگا، تو اس کی شان، رسول الرسل کی ہوگی، کیونکہ رسولوں کی طرف رسول بھیجنے کی خوشخبری دی جارہی ہے، تو رسولوں کا رسول، رسول الرسل مقرر ہوگیا اور رسول الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا کا خطاب آپ کو ہی خدا کی طرف سے ملا ہے۔

"مرزائی" - مولوی صاحب تمام انبیاء کے اختتام پر ایک رسول آئیگا، یہ اختتام کس لفظ کا ترجمہ ہے،

"محمد عمر" - ثُمَّ ثابت کر رہا ہے، ملاحظہ ہو۔

مفردات راغب ۸۹

(ثُمَّ) حَرْفُ عَطْفٍ يَقْتَضِيْ تَأَخُّرَ مَا بَعْدَهٗ عَمَّا قَبْلَهٗ۔

ثُمَّ حرف عطف ہے، جو مابعد کے تأخر کو چاہتا ہے اپنے ماقبل سے۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ حکم الٰہی نے واضح کر دیا کہ تمام انبیاء کے بعد ایک رسول جو تمام انبیا علیہم السلام سے خصوصیت رکھنے والے ہیں، جن کے متعلق سب کے بعد تشریف لانے کی تاکید خصوصی اسی یوم میثاق والے دن اپنی الوہیت اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے بعد ہو رہی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی نبوت کا اقرار عوام سے نہیں لیا گیا، صرف ایسی ہستی جسکے آخری نبی ہونے کے متعلق ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا و رسل سے تاکیداً وعدہ لیا جارہا ہے۔

تو اس آخری نبی کو مَا فَوْقَ الانبیاء، نبی الانبیاء کا رتبہ عنایت فرما کر سب انبیاء و رسل علیہم السلام سے ان کے آخری نبی ہونے کا فیصلہ اُسی وقت کر لینا یہ اس امر کا متقضی ہے کہ اس علام الغیوب کو علم تھا کہ اس آخری نبی کے بعد بھی کئی جھوٹی نبوت کے مدعی پیدا ہونگے اور ان کے بعد اجرائے نبوت کے قائل ہونگے، لہٰذا اس کے آخری نبی ہونے کا فیصلہ بھی آج ہی یوم میثاق کر لینا چاہیئے، چنانچہ رب العزۃ نے اسی دن تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کو آخری نبی کا اعلان سنا دیا کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ، پھر تم تمام انبیاء و رسل کے بعد ایک رسول آئیگا، تو غور طلب یہ امر تھا کہ وہ کون تھے؟ - جنکے آخری نبی ہونے کا اعلان یوم میثاق ہوا - تو تمام مفسرین نے لکھا

marfat.com

(۱) ۔ تمام انبیا علیہم السلام کو خدائی مکتوب کا دنیا میں پہنچانا ۔

(۲) ۔ مکتوب کا پڑھنے سمجھنے والا خود نبی اللہ ہوگا ، جو نبی الہام کو نہ سمجھ پڑھ سکے ، بلکہ سمجھنے پڑھنے کے لئے اپنے اُمتی کا محتاج ہو ، وہ الہام الہام الٰہی نہ ہوگا ، بلکہ شیطانی ہوگا اور اس کا مدعی نہ نبی صادق ہوگا بلکہ کاذب کہلائیگا ، جیسا کہ مرزا صاحب کو الہام انگریزی ہو تو اس کے سمجھنے پڑھنے میں اپنی امت کے دربدر اُن کو دھکے کھانے پڑھتے تھے وہ خود سمجھنے پڑھنے سے قاصر تھے ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مدعیوں کے واسطے یوم میثاق سے ہی فیصلہ سنا دیا کہ جو شخص کہے کہ مجھے خدائی الہام ہؤا ہے ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ۔ اس کا مطلب تم سمجھاؤ اور مدعی نبوت ہو تو سمجھو کہ ایسا شخص اپنے دعوای نبوت میں کاذب ہے ، کیونکہ میں تمہارے سچے نبیوں کے ساتھ آج ہی فیصلہ کرتا ہوں ، کہ اگر میری طرف سے تمہیں میرا کوئی الہام یا مکتوب پہنچے تو میں تمہیں اُس کے سمجھنے پڑھنے کی سمجھ بھی دونگا ، جو مِنْ کِتَابٍ کے ساتھ وَحِکْمَةٍ کی زیدبڑھا کر واضح کر دیا ۔ اور دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی ، کہ

نمل 19/1 اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم وعلیم کی طرف سے قرآن اِلقا کئے گئے ہیں ، کسی کے پڑھانے یا سمجھانے کے محتاج نہیں ، معلوم ہؤا کہ آپ کو خداوند کریم کی طرف سے آیات قرآنیہ کا پہلے القا ہوتا ، پھر جبریل علیہ السلام آیت لیکر نازل ہوتے ، یہ نہیں کہ جبریل علیہ السلام آیت لاکر پڑھاتے یا بعد جبریل علیہ السلام کے جانے کے لوگوں سے آیت کا مطلب دریافت کرتے پھرتے ۔ جبریل علیہ السلام محض آپ سے مسئلہ کے یا حکمی آیت کے سائل بنکر امت کو متنبہ از حکم کرنے کے لئے تشریف لاتے ۔ کیونکہ حاکم کا خود بخود حکم سنانا اتنا زیب نہیں دیتا جتنا کہ سائل کے سوال کرنے سے ۔ تو ثابت ہؤا ، کہ نبی اللہ اپنے الہام کو خود سمجھتا ہے ، اور مرسلہ وحی میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا ۔ آگے فرمایا ۔

(۳) ۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ ۔ پھر تمہارے پاس تمام انبیا علیہم السلام کے بعد ایک رسول اللہ آئیگا کے جملے سے رب العزۃ نے مسئلہ ختم نبوت کا وعدہ تمام انبیا علیہم السلام سے لیا کہ تم تمام انبیا علیہم السلام کے آخر میں صرف ایک رسول آئیگا ، یہ وعدہ الٰہی تمام انبیا علیہم السلام کو یوم میثاق ختم نبوت کا سبق سکھا رہا ہے کہ جب تم تمام انبیا کرام اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے اپنے مقررہ وقت میں نبٹا لو گے ، تو تمہاری ڈیوٹی نبوت و رسالت کے اختتام پر صرف ایک رسول مبعوث ہوگا ، جو تمہارا مصدق ہوگا ،

marfat.com

(۲) - باقی تمام انبیا و رُسل علیہم السلام کو محض کتاب وحکمت یعنی صحف اور سمجھ کا وعدہ دینا اور ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ جو سب کے بعد رسول آنے والا تھا، اُس کو تمام کا مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سے نواز کر تاکید ثانوی سے تمام کے سامنے پیش کرنا کہ وہ رسول اس خصوصیت کا مالک ہوگا، کہ جو شے مثلاً نبوت یا رسالت صحف یا دانائی یا معجزات تمہیں میری طرف سے عطا شدہ ہونگی وہ آخری نبی ان تمام کا مصدق ہوگا، یعنی اس کو درجہ مصدق الانبیاء کا حاصل ہوگا، تو نبی الانبیاء کا درجہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، جس کا قرآن کریم شاہد ہے۔ مکذب الانبیاء مصدق الانبیاء نہیں کہلا سکتا۔

(۳) - ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کی تیسری تاکید لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ ہے، کیونکہ تمام انبیا و رسل علیہم السلام نے بعد از بعثت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اقرار اور ایمان ظاہر فرمایا، تو فرمان الٰہی لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ۔ کہ اے انبیاء و رُسل تم تمام اس آخری نبی رسول الرسل ہونے اور آخری نبی ہونے اور تم پر اس کے مصدق ہونیکا حلفیہ بیان دو، کہ ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام بھی اپنے اس حلفیہ بیان کے مطابق محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی رسول الرسل اور آخری نبی ہونے کی اور آپ پر ایمان لانے کی تاکید اپنے اُمتیوں کو کرتے رہے جو اس امر کی دلیل ہے، کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کی تاکید مع ان کے اوصاف مصدق ہونے کے اور مطاع المرسل دمع مہم کے مصداق بن انہ زمانہ آدم علیہ السلام سے چل کر آجتک محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تسلیم شدہ ہیں، جیسا کہ فرمان الٰہی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ ظاہر کر رہا ہے۔ نہ جیسا کہ آج بعد از ہزار ہا سال مرزائیوں نے اس مسلم خداوندی و رسل وانبیا علیہم السلام مع ان کی امتوں کے اور مسلم جن وانس و وحوش وطیور وملائکہ وغیرہم کو ترک کر کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی بنا بیٹھے ہیں، اور دوسرے حکم خداوندی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ کے مدِ مقابل ہوگئے ہیں، حالانکہ تمام انبیا و رسل علیہم السلام نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ فرمان خداوندی پر عمل کرتے ہوئے کلمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھا، اس لئے یقیناً یہ شان مطاع رسل وانبیا ہونے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ نہ کسی اور کی۔

چوتھی تاکید اکید اور حلفیہ وعدہ انبیا و رسل علیہم السلام سے خداوند ذوالجلال نے وَلَتَنصُرُنَّهٗ سے لیا، کہ اس رسول الرسل آخری نبی اور مصدق ومطاع کی امداد بھی ضرور بالضرور کرنا ہے

marfat.com

ہے، کہ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ سے مراد آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ملاحظہ ہو۔

تفسیر ابن کثیر ۱/۳۷۸

قَالَ عَلِیُّ ابْنُ اَبِیْ طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَابْنُ عَمِّہٖ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا مَا بَعَثَ اللّٰہُ نَبِیًّا مِّنَ الْاَنْبِیَاءِ اِلَّا اَخَذَ عَلَیْہِ الْمِیْثَاقَ لَئِنْ بَعَثَ اللّٰہُ مُحَمَّدًا وَّھُوَ حَیٌّ لَیُؤْمِنَنَّ بِہٖ وَلَیَنْصُرَنَّہٗ وَاَمَرَہٗ اَنْ یَّاْخُذَ الْمِیْثَاقَ عَلٰی اُمَّتِہٖ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَّھُمْ اَحْیَاءٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِہٖ وَلَیَنْصُرُنَّہٗ

فرمایا علی ابن ابی طالب اور ان کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کسی نبی کو نہیں مبعوث فرمایا، مگر اس سے زبردست وعدہ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور وہ زندہ ہوں تو تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لانا اور ضرور اس کی امداد کرنا اور یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت سے پکا وعدہ لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں اور وہ امتیں زندہ موجود ہوں تو وہ امتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور ایمان لائیں اور ان کی ضرور امداد کریں۔

تفسیر کبیر ۲/۷۳۰

ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ وَھُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ پھر آئینگے تمہارے پاس رسول جو مصدق ہے جو تمہارے پاس ہوگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،

ان عبارات سے بھی ثابت ہوا کہ سب کے بعد جو رسول آنیوالا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسے ہی اس آیت کا ترجمہ سمجھا، سیاق کلام بھی اسی بات کا متقاضی ہے، کہ اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، کیونکہ

(۱)۔ انبیاء کرام و تمام رسل علیہم السلام سے حلفیہ وعدہ لینا جو لفظ میثاق سے واضح ہے۔ کیونکہ میثاق کے لغوی معنی حلفیہ بیان کئے ہیں۔ چنانچہ تفسیر خازن میں مذکور ہے۔

تفسیر خازن ۱/۳۱۳

وَاَصْلُ الْمِیْثَاقِ فِی اللُّغَۃِ عَقْدٌ یُّؤَکَّدُ بِیَمِیْنٍ۔ اور اصل میثاق لغت میں ایسے عقد کو کہا جاتا ہے، جو قسم کے ساتھ مضبوط کئے ہیں،

marfat.com

تحریری آرڈر جاری کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں رسول الرسل کو اچانک مبعوث نہ کروں گا، بلکہ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہیں کتابۃً اطلاع دوں گا اور اس مکتوب ب اور مکتوب لہٗ کی کچھ بھی عطا کروں گا، بعدازاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الرسل کے درجہ پر فائز کر کے مبعوث کروں گا، کیا تمہیں منظور ہو گا، اگر منظور کر لیا ہے، تو فرمایا ءَ اَقْرَرْتُمْ کیا تم ابھی اقرار کر سکتے ہو، کہ ہم تمام کو وہ رسول الرسل منظور ہے، جن کا تشریف لاتے ہی پہلا کام یہ ہو گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام انبیا و رسل علیہم السلام کے اُن عہدوں پر جو میری طرف سے عطا شدہ ہونگے، مثلاً کسی کو کلیم اللہ کا، کسی کو صفی اللہ کا، کسی کو خلیل اللہ کا وغیرہم وغیرہم، تو وہ اُن پر مہر تصدیق ثبت کریگے، اور تصدیق کنندہ کی چونکہ ضرورت آخیر میں ہوتی ہے، اسی لئے ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ فرمایا کہ پھر یعنی تم تمام کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تصدیق کرنے کے لئے بھیجا جائیگا، کیا تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمع ان کے مراتب رسول الرسل و آخری نبی ہونا اور تم تمام کا مصدق ہونا اور تمہارا ان پر ایمان لاکر مطیع ہونا اور ان کا منصور ہونا اور تمہارا ان کے لئے ہر خدمت بجا لانا اگر منظور ہے تو ابھی میرے رُوبرو اقرار کرو، تو تمام نے یوم میثاق آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام موجودہ صفات کا قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا سے دربار خداوندی میں اس مذکورہ حلفیہ بیان کا اقرار کیا، کہ یا اللہ ہم تمام تیرے رُوبرو وَاللّٰهِ بِاللّٰهِ تَاللّٰهِ اقرار کرتے ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول الرسل کے درجہ پر فائز ہونا ہمیں منظور ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ہم نے تسلیم کر لیا اور اُن کا ہماری نبوّت کا تصدیق کنندہ ہونا بھی منظور، وہ ہمارے مطاع اور ہمیں اُن کی اطاعت منظور، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بمع اپنی اُمتوں کے اُن کی تشریف آوری پر اُن کی اطاعت اور امداد کریں گے اور ہر خدمت بجا لائینگے، یہ اللہ کریم کے پیش کردہ حکم کا جواب قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا سے ختم ہوا، پھر ارشاد الٰہی ہے، قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ، ربّ العزۃ نے فرمایا، کہ اس حلفیہ بیان کے تم بھی گواہ رہنا اب تم اقرار کر رہے ہو، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی شہادت بھی لی گئی، اور فرمایا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے

marfat.com

یعنی ایسا نہ ہو، کہ اس آخری نبی محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی تمہاری نبوتوں کی اشاعت ہو، بلکہ ہر نبی و رسول یا ان کی امت کے زمانہ میں وہ تشریف لے آویں، ان کے ہی معاون ہوں، ان کی ذات والاصفات کے، اُن کے دین کے، اُن کی کتاب کے، اُن کی اُمت کے، اُن کے کعبہ کے، اُن کی مساجد کے دامے، درمے، قدمے، کلامے ہر طرح براہ راست ان کی ہی امداد ہو، کسی اصلی کو چھوڑ کر کسی ظل بروز کو نہ مقرر کیا جاوے۔ اور یہی وعدہ رب العزت نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، تاکہ آپ حلفیہ بیان سے اس عہدہ ختم نبوت کو سنبھالیں اور رسول الرسل ہونے کا اقرار کریں۔

احزاب ۲۱/۱ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

اور جب ہم نے تمام انبیا کرام سے حلفیہ وعدہ لیا اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور ہم نے اُن سے سخت حلفیہ بیان لیا۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہؤا، کہ رب العزۃ نے اکابرین انبیا علیہم السلام سے جنکے اسمائے گرامی قابل ذکر تھے، ان کے حلفیہ بیان کا ذکر خیر فرمایا، چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء کرام سے حلفیہ بیان لیا گیا تو آپ سے بھی حلفیہ وعدہ لیا گیا، کہ کیا آپ اس عہدہ رسول الرسل وخاتم النبیّٖن ہونے اور تمام انبیا و رسل کے مصدق ہونے اور عالمین کی نبوت اور رسالت کے بوجھ کو اُٹھاتے ہیں، تو آپ نے بھی اقرار فرمایا۔ کہ ہاں، یا اللہ میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس تمام بوجھ کو اُٹھاؤنگا، اور باقی انبیا و رسل جن سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کروایا، اُن سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اعلان پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسی یوم میثاق میں اُن سے اس حلفیہ بیان کا اقرار بھی کرایا، فرمایا قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا یعنی محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مکمل حلفیہ بیان کا ابھی میرے روبرو اقرار کرو، یعنی ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رسول الرسل منظور رہیں، اقرار کرو کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الرسل منظور ہیں، (دوسرا اقرار)، کیونکہ بادشاہ جب کسی حاکم اعلیٰ کو مطیعین پر فائز کر کے بھیجتا ہے، تو اس اعلیٰ افسر کے ان پر حکمران ہونیکا پہلے اس کے ماتحتوں کو

marfat.com

میں خداوند نے اس کو نبوّت کا خطاب نہیں دیا، تو آج وہ کیسے نبی کہلا سکتا ہے، کیونکہ جس جس کو نبوّت خداوندی عطا ہونی تھی، اس کو تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی مل چکی۔ اب آپکے بعد نبوّت کا درجہ کسی کے لئے ہے ہی نہیں، تو مدعی جھوٹا سمجھا جائیگا، اس آیت کریمہ کی رُو سے جب مرزا غلام احمد کو ابنیا ورسل کی جماعت میں خطاب نہیں کیا گیا، تو جو آج بعد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مدّعی بنے تو مسلمان کب تسلیم کر سکتا ہے، کیونکہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سے جن کو پہلے نبوّت عطا ہو چکی تھی، ان کو خداوند نے مخاطب کر کے حلفیہ وعدہ لیا ہے اور انہوں نے ہی آمَنَّا کا اقرار بھی کیا، مرزا صاحب بعد کے مدعی ہیں، قبل کے نہیں، تو رسول اور نبی بھی نہیں، بلکہ خداوند کریم کی آخری سزا کے مستوجب قرار دیے جائیں گے۔

"مرزائی" ۔ مولوی صاحب ختم نبوّت کا منکر کون ہے؟ ذرا سوچیں تو! جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تشریعی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آنے کا قائل ہو، اور پھر بھی اس کے عقیدے کے مطابق ختم نبوّت بدستور رہے، یعنی منکر نہ کہلائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت سے بالتبع ظلی نبوت کا قائل ہو، تو اس کو ختم نبوت کا منکر کہا جاوے، تو کتنی ظلم کی بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعًا نبوّت ختم ہے، تو نئے اور پرانے نبی کی تفریق کرنا ایمان کے خلاف ہے۔

"محمد عمر" ۔ دوست یہ اعتراض تمہارا دربدر پھر رہا ہے، اور اس کو تم اپنے مذہب میں مسلمانوں کے مقابلہ میں بڑا زور دار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارا یہ سوال محض مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوّت منوانے کے لئے ہے، نہ کہ قرآنی سوال ہے اور نہ یہ خاتمیت محمدیہ کی خاطر ہے، یہ محض تمہارا ہیر پھیر کلامی ہے، جو مقلدین مرزائیت کو دھوکا دے رہا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بنایا ہوا نہیں، بلکہ حکم خداوندی ہے، حالانکہ ختم نبوّت کا مسئلہ یوم میثاق میں خداوند کریم نے حل فرما دیا ہے، جبکہ انبیاء کرام و رسل علیہم السلام کو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ فرمایا گیا یعنی تم تمام کی نبوت و رسالت کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ایک رسول آئیگا۔ تو اسی دن ختم نبوّت کا فیصلہ خداوندی ہو چکا، کیونکہ جس کو نبوّت اور رسالت تقسیم ہونی تھی اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقسیم کر کے بعد ازاں تو نبوت و رسالت کا اجراء ختم ہو چکا، آپ کے بعد اور کسی کو نہ ظلی نہ بروزی نہ تبعی نہ متبوع کسی قسم کی نبوّت نہیں مل سکتی، نہ کہ پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوّت و رسالت معاذ اللہ چھن گئی

marfat.com

ہوں ، کہ نہ تم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے اعلان کو تسلیم کرنا اور نبوت کے معلن کو جھوٹا سمجھنا ، خواہ کسی قسم کی نبوت کا مدعی ہو ، اور جیسا کہ تم نے حلف اُٹھا کر وعدہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا کیا ہے ، میں بھی تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول الرسل اور آخری نبی ہونے کا اور تمام رسولوں کے تصدیق کنندہ ہونے کا اور ان کے مطاع ہونے کا اور تمہارا منصور ہونے کا گواہ ہو رہا ہوں ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول الرسل ہونگے ، ان کے لئے کوئی رسول یا نبی نہ ہوگا ، اور نہ ان کے بعد کسی قسم کے نبی کو پیدا کرونگا ، سب نبیوں اور رسولوں کے آخر ہی مبعوث کرونگا ، وہ سب کے مصدق ہونگے ، ان کو مصدق کی ضرورت نہ ہوگی ، وہ خود میرے مصدقہ نبی ہوں گے ، ان کو مطاع ہی پیدا کرونگا ، وہ کسی کے مطیع نہ ہونگے ، ہر ایک اُن کا خادم ہوگا ، وہ کسی کے خادم نہ ہونگے ، بعد ازاں تمام انبیاء و رُسل کو یہ حکم سنایا فَمَنۡ تَوَلّٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ، یہ تو جس شخص نے اعراض کیا (رسول الرُسل پر نبوت ختم ہونے سے اس حلفیہ وعدہ کے بعد جا کر) تو یہی وہ فاسق ہیں ۔

تو اللہ رب العزۃ نے یوم میثاق انبیا کرام و رسل علیہم السلام کے اس حلفیہ بیان ختم نبوت کو بیان فرما کر بعد میں اعلان عام کر دیا کہ جو شخص اس حلفیہ بیان یوم میثاق کے بعد جو شخص مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نبوت کے ختم ہونے کا یقین نہ رکھے گا ، وہ مومن یا مسلم تو کجا فاسق کہا جائے گا ، یعنی مولائے ذوالجلال کے دربار میں جس صف میں زانی ، چور ، جواری بدمعاش ہونگے ، اسی جماعت میں اس کو شمار کیا جائے گا کیونکہ تمام امتوں کے تمام انبیا و رسل علیہم السلام سے حلفیہ وعدہ لیا گیا اور اس نے اپنے اس پیشوا حقیقی کے وعدہ خلاف کیا ، جو اس نے خداوندی دربار میں کیا تھا ، لہٰذا وہ فاسق ہے ختم نبوت کا منکر اجرائے نبوت کا قائل ، ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے وعدہ میثاق کو توڑنے والا احد خداوندی سے متجاوز ہے ، اور جو مَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ کے فتوے کا مصداق ہے ، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرے ، تو وہ جھوٹا ہے ، کیونکہ یوم میثاق وہ انبیا کرام و رسل علیہم السلام کی جماعت

marfat.com

لِلقتال کا حامی نہیں، بلکہ جہاد باالقلم کا حامی ہوں، تو میم غین کے متعلق حکم صادر فرمادے کہ یا تو اپنے اس کاروبار کو چھوڑ دے ورنہ تو باغی سلطنت قرار دیا جائیگا۔ تو وہ کہے کہ تم بڑے ظالم ہو، کہ سابقہ بادشاہ عین کو حبس دائمی کا حکم صادر نہیں فرماتے اور میں جس نے آج تک کسی مُلک پر حکمرانی کی ہی نہیں، تو میرے عمل کو تو بغاوت پر محمول کرتا ہے، تو میم غین کو ضرور جواب دیگا، کو تو شاطرانہ چال میرے ساتھ کھیلتا ہے، عین گو سابقہ شاہ رہا ہے، لیکن اب وہ میری سلطنت میں باغیوں کو درست کرنے کا کام کر رہا ہے، اور سلطنت بالخاظ سلطانی کا خواہشمند نہیں، اور تم میری سلطنت کے ایک فرد ہو کر میرا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، اور محض اپنی چال سے حکمرانی اور سلطانی کے خواہشمند ہو، اور کبھی جانشین کے مدعی بھی بن جاتے ہو، یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، تو میم غین کے اس عُذر یا بہانے سے غین کو چھوڑ کر عین کو کبھی گرفتار نہ کریگا، اور نہ ہی غین کے اپنے اعمال سے باز آنے پر اس کو بحالہ رہنے دیگا، بلکہ اس کو بمعیت ناسقین جیل خانے میں حبس دائمی کی سزا دیگا، بعینہٖ یہی حال آنجہانی مرزا غلام احمد صاحب کا ہے کہ غلامی کے دھوکے میں نبوۃ کے عہدہ کو سنبھالنے کی کوشاں رہے، بلکہ دعوٰی نبوّۃ کا اظہار بھی کرتے رہے، اجرائے نبوّت کا علی الاعلان دروازہ کھولدیا، جیسا کہ اُن کے متبعین کا یہی حال ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزّت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونیکی محبّمہ دلیل نازل فرمادینگے، جو یہ قرب قیامت زمانے کو دلیل دینگے، کہ میں باوجو دیکہ سابقہ نبی آنجہانی ہوں، لیکن زمانۂ محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت ختم ہونے کی وجہ سے میں سابقہ نبی اپنی نبوّت کا معلن نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمّتی ہونے کو فخر سمجھتا ہوں۔ یہی میری صداقت کی دلیل ہے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعد مدّعی نبوّت بنا۔ وہ جھوٹا جعلی نبی تھا، اور اس کے متبعین بھی جھوٹے، جنکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا خیال نہیں، اور وہ آپ کی ختم نبوّت کو توڑنا چاہتے ہیں، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ کے مرتکب ہیں اور اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِينَ کی سزا کے مستوجب ہیں۔

تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ رب العزّت نے یوم میثاق میں ہی نبوّت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کردیا اور فیصلہ کلّی فرمادیا۔ اور ختم نبوّت کا اقرار بھی تمام انبیاء و رسل علیہم

marfat.com

جو تم دعوکا دے رہے ہو، جنکو نبوت اور رسالت کا مصداق بناکر نبی و رسول بنانا تھا - وہ بن چکے، ان کی نبوت و رسالت کی ڈیوٹی ختم ہوگئی ہے، یعنی ان کی نبوت و رسالت بعد از بعثت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتی، نہ کہ اُن کا گذشتہ خطاب بھی اُن سے چھن گیا ہے، اب کوئی سابقہ نبی آ بھی جائے، تو وہ تشریعی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ شریعت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شریعتوں کو منسوخ کردیا ہے، سابقہ نبی کا نبوت سے خلا بھی نہیں اور اجراء بھی نہیں جیساکہ اگر ایک آیت دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کردے تو آیتِ سابقہ بحیثیت کلام الٰہی ہونے کے کلام خداوندی ہی کہلائیگی، اور اس کی تلاوت بھی مومنین کرتے ہیں، لیکن بموجب آیت ثانیہ ناسخہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا، اس سابقہ آیت کا حکم جاری نہیں ہو سکتا، تو تمہارا کہنا کہ تشریعی نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تسلیم کر رہے ہو، یہ غلط ہے: کیونکہ جب اُن کی شریعت قرآن کریم نے منسوخ کردی تو اب اُن کی نبوت کا عنوان باقی ہے، نہ اُن کی شریعت یا اُن کا صاحب شریعت کہلانا باقی ہے، پہلے وہ صاحبِ شریعت تھے اب نہیں، جب اُن کی شریعت کا ہی بقا نہیں، تو صاحب شریعت کیسے؟ مثلاً ایک مثال مشہور ہے کہ کسی نے کسی سے سوال کیا کہ تم کون ہو، تو مجیب نے جواب دیا کہ میں زمیندار ہوں، سائل نے کہا کتنی زمین کے مالک ہو، تو مجیب بولا کہ زمین تو دے چکا ہوں، اب تو محض والا ہی دار ہوں، پھر تمہارا کہنا کہ بنی اسرائیل کے نبی کے آنے کے تم قائل اور امت محمدیہ سے نبی پیدا ہونے کے قائل کیوں نہیں، تو بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے قائل نہیں، کیونکہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ میثاقی وعدہ مانع ہے، اور آپ سے سابقہ انبیاء و رسل کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اگر کوئی بعد میں پیدا ہو کر سابقین کا ظل بنے تو نہ ہم ایسے کے قائل ہیں، کیونکہ امت محمدیہ میں نبی پیدا ہو سکتا ہی نہیں، یہاں تو جب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت و نذارت لا زوال مل چکی ہے، تو زوالی بشارت و نذارت امت محمدیہ میں باعث ذلت ہے، تمہارے سوال کے جواب میں فقیر ایک مثال پیش کرتا ہے، مثلاً الف و نون و سین وغیرہم بادشاہ ہوں تو تم نے آ کر تمام کے ممالک کو فتح کردیا تو پھر ان نون والف وعین سے ایک عین م کی سلطنت میں بلا اسلحہ پھر رہا ہے، بلکہ میم کی سلطنت کے باغیوں کی اصلاح کرے اور میم کی سلطنت میں ہی ایک غین اپنے رضاکار بھرتی کر کے اپنے اصول کے ماتحت ان کو اپنے مصنوعہ اسلحہ سے مسلح کر کے مجاہدین تیار کرے اور مدعی اس امر کا ہو کہ میں مجاہدین

marfat.com

پہلے رُسل کا ذکر فرماکر ربّ العزۃ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اب بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، تو اَھْلَ الذِّکْرِ یعنی اولیاء اللہ سے دریافت کرلیا کرو، اگر بعد از محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جاری ہوتی، تو ربّ العزّۃ مسلمانوں کو اولیاء اللہ کے سپرد نہ فرماتے، بلکہ فرمادیتے آپکے بعد جو رسل آنیوالے ہیں، اُن سے دریافت کرلیا کرو، جب اولیاء اللہ سے سوال کے حل کرنے کا ارشاد فرمایا، تو ثابت ہوا، کہ نبوّت پہلے جاری تھی، جس کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ کے بعد نبوّت و رسالت بند ہے کسی کو نبوّت و رسالت کے مدّعی ہونے کا حق نہیں رہا، اور ملاحظہ ہو۔

(۶) فُرقان $\frac{۲۴}{۵}$ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ۔
اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کے پہلے رسولوں کو مگر وہ کھانا کھاتے تھے،

(۷) حٰم سجدہ $\frac{۲۴}{۵}$ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ۔
آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کہا گیا، جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔

(۸)۔ زُمر $\frac{۲۴}{۷}$ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ۔
اور ضرور ہم نے آپکی طرف (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم) وحی کی اور ان لوگوں یعنی (نبیوں) کی طرف جو آپ کے پہلے تھے۔

اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ اللہ تعالےٰ نے وحی نبوّت و رسالت فرمائی، آپ سے پہلے بھی ایسے ہی کی، لیکن آپ کے بعد دروازہ وحی و نبوّت و رسالت قطعًا بند ہے۔ اسی لئے وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِكَ نہیں فرمایا، آپ کے بعد نبوّت کا نیا دروازہ کھولنے والا مجرم خداوندی ہے، منکر قرآن کریم ہے، مکذّب آیات قرآنی ہے۔

(۹) رُوم $\frac{۲۱}{۵}$ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ۔
اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے بہت رسولوں کو اُن کی قوم کی طرف۔

(۱۰) رعد $\frac{۱۳}{۱۴}$ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ۔
اور ضرور بالضرور ہم نے آپ کے پہلے کئی رسول بھیجے۔

اس آیۃ کریمہ سے بھی یہی ثابت ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اللہ تعالےٰ نے رُسل تو بہت مبعوث فرمائے، لیکن آپ کے بعد میں رُسل کا سلسلہ بند ہے، اسی لئے آپ کے بعد کسی رسول کے مبعوث ہونے کا ذکر نہیں فرمایا۔

(۱۱) شوریٰ $\frac{۲۵}{۱}$ كَذٰلِكَ يُوْحِيْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ۔

marfat.com

السلام سے کرایا، چنانچہ اسی کے مطابق ہی دنیا میں عمل شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اطہر میں رب العزۃ نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیا و رسل مبعوثین کا ارشاد فرمایا، آپکے بعد سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سابقہ نبی کے نزول من السماء کے کسی اور نبی اور رسول کے پیدا ہونے کی اطلاع نہیں فرمائی، آپکے مابعد کسی قسم کے نبی پیدا ہونے کی قرآن کریم میں اطلاع نہیں دی گئی، سابقہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطلاع قرآن کریم میں اکثر مقامات پر مذکور ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوۃ ختم ہونیکا بیّن ثبوت ہے، چنانچہ ارشاد الٰہی ہے، ملاحظہ ہو۔

(٢) طٰهٰ ١٦/٥ — كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۔

اسی طرح بیان کیں ہم نے ماسبق کی خبروں سے ۔

اگر آپ کے بعد نبوت کا اجراء ہوتا تو بعد کے مبعوث ہونے والے انبیاء و رسل کی خبریں بھی ضرور قرآن کریم میں ہوتیں، صرف ایک سابقہ نبی علیہ السلام نے بعد میں بلا اعلان نبوۃ نازل ہونا تھا، مرزائی اس کا تو منکر ہو بیٹھا اور اس کی جگہ ایک اپنی طرف سے نبی بنا کر خداوند کا مدّمقابل بن بیٹھا کہ اگر خداوند سابقہ نبی کو آپ کے بعد بھیج سکتا ہے، تو ہم مرزائی ایک خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اور خاتم النبیین کا بھی ہمیں انکار نہیں، خداوند کریم تسلیم کریں یا نہ کریں، اس دھڑے کا نہیں تو دوسرے دھڑے کا تو انکار ہی نہیں، اور سنیئے، تم مرزائیوں نے تو ایسے آدمی کو نبی بنا لیا ہے، جو نصف مرد اور نصف عورت ہونے کا مدّعی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ تمام مرد ہی تھے ۔ ملاحظہ ہو۔

(٣) نحل ١٤/٦ — وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

(٤) یوسف (آخر) — وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۔

(٥) انبیاء ١٧/١ — وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کے پہلے مگر مردوں کو جنکی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو تم اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو،

marfat.com

(۱۵) رعد ۱۳/۱

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٥

اور کوئی بات نہیں، اب آپ ہی (تمام مخلوق میں) اکیلے ڈرانیوالے ہیں، نذیر ہیں، اور آپ ہی ہر قوم کے لئے ہادی ۔

اس آیت کریمہ نے ثابت کردیا، کہ آپ ہی اب ہر قوم کے ہادی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نذیر یا ہادی نہیں، یعنی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ بن سکتا ہے،

"مرزائی"۔ جب پہلی امتوں میں رسل آتے رہے تو اب کیوں بند کئے گئے، کیا یہ امت ناقص ہے؟

"محمد عمر"۔ بھائی امت ناقص ہوتی، تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی، دوسرا جواب یہ ہے، کہ اللہ تعالٰی نے آپ کے سوال کا جواب دیدیا ہے، فرمایا۔

(۱۶) فاطر ۲۲ آخر

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ٥

پھر وہ منتظر نہیں، مگر پہلوں کی سنت کے (مطابق چاہتے ہیں)۔

یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں، کہ پہلے لوگوں کی طرح ہم میں بھی رسول آئیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب نبوت آخر ہے، تو قانون بھی آخری، اب اس امت میں کسی نبی یا رسول کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ فرمایا حجر ۱۴/۱۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ٥ اور تحقیق پہلوں کی سنۃ گذر چکی، اب گذشتہ تمام سنتیں گذر چکیں۔ اب تمہیں

(۱۷) عنکبوت ۲۱/۵

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ

کیا اور نہیں کفایت کیا، اس بات نے کہ ہم نے آپ پر کتاب اُتاری جو اُن پر پڑھی جاتی ہے، یعنی (قرآن کریم کافی نہیں)۔

اللہ تعالٰی فرماتا ہے، کہ کیا یہ لوگ پہلے لوگوں کی سنت چاہتے ہیں، یعنی نبوت کے متمنی ہیں، کیا اُن کو قرآن کافی نہیں، اگر نبوت کے متمنی ہیں، تو کتاب (قرآن کریم) کے علاوہ کسی الہامی کتاب کے بھی خواہشمند ہیں، حقیقۃ الوحی ہو یا مکاشفات وغیرہ ہو۔ حالانکہ انبیاء و رسل بھی پہلے لوگوں میں تھے الہامی کتابیں بھی آپ کے پہلے لوگوں کو ملیں، بعد کے لوگوں کو نہیں، آپ کے بعد میں نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے اور نہ کسی پر کوئی صحیفہ یا الہامی کتاب نازل ہو سکتے ہیں، فرمایا

(۱۸) بقرہ ۱/۱

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ٥

marfat.com

اسی طرح آپ کی طرف وحی کی گئی اور اُن رسولوں کی طرف جو آپکے پہلے تھے۔

پاس آیت کریمہ سے آپ کے ماقبل رُسل کی وحی رسالت و نبوت کا ذکر فرمایا، مابعد کا سلسلہ بند ثابت ہوا۔

(۱۲) سجدہ ۲۱/۱ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ٥
تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو جنکے پاس آپ کے پہلے نذیر آئے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ آپ اُس قوم کے نذیر ہیں، جو آپ کے پہلے سابقہ نذیروں پر ایمان لانیوالے ہیں، جو بعد کے نذیر مقرر کرنیوالے یا مدعی ہیں، ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر نہیں، یعنی منکرین نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپکی نبوت و رسالت کا وہ شخص قائل ہے، جو آپ پر اور آپسے سابقہ نبیوں پر ایمان رکھے، اور تسلیم کرے، جو بعد کے مدعی رسالت کے قائل ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مکذب ہے۔

(۱۳) زخرف ۲۵/۱ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ٥
اور پہلوں میں ہم نے کئی رسُل بھیجے۔

خداوند کریم نے کیوں نہ فرما دیا، کہ بعد کے لوگوں میں بھی ہم رُسل کو بھیجیں گے۔

"مرزائی" - کیا اب عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ آئیں گے؟

محمد عمر - پھر وہی بات! جب فقیر نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ وہ پہلوں کے رسول رہے ہمارے لئے بحیثیت رسول نہیں تشریف لاوینگے، پھر ان کی رسالت مِنْ قَبْلِكَ میں داخل ہے، نہ کہ مِنْ بَعْدِكَ، جھگڑا تو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسالت مل سکتی ہے؟ - نہیں ہرگز نہیں! ممکن ہی نہیں!

(۱۴) نحل ۱۴/۵ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا -
اور ضرور بالضرور ہر امت میں ہم نے (زمانہ ماضی میں) رسول بھیجا۔

اس آیت کریمہ نے ثابت کر دیا، کہ خداوند کریم کا ماسبق کے لئے قانون تھا کہ ہر امت کے لئے ایک رسول آتا، لیکن اب قانون ختم نبوت کا جاری ہے، چنانچہ فرمایا۔

پہلے نبیوں پر اُتاری گئی ہے، اور آپ کے بعد کی جعلی وحی مثلاً حقیقۃ الوحی اور تذکرہ وغیرہ جس وحی کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعد سلسلہ وحی کا ذکر ہی نہیں، تو ہم اُن پر ایمان لانے سے معطون ہیں، حالانکہ اُن کو جو شخص الہام الٰہی سچے سمجھے، تو خداوند کریم نے اس کو فُسّاق سی شمار کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، اور آپکے بعد کی الہامی آیت الٰہی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہی سبق ہمیں رب العزت نے سکھایا ہے، سنیئے۔

(۲۲) آل عمران ۳

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور جو ہم پر اُتارا گیا اور جو شے اُتاری گئی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہما السلام پر اور اُن کی اولاد پر اور جو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام دیئے گئے اور باقی تمام انبیاء کرام جو اپنے رب کی طرف سے دیئے گئے، ہم کسی ایک میں فرق نہیں کرتے اور ہم اُس کے لئے ایمان لانے والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں بھی رب العزۃ نے پہلے نبیوں کے چند نام لیکر ایمان لانے کی تاکید فرمائی، بعد کے ایک دو نبیوں کے نام تک نہیں لئے، معلوم ہوا، کہ بعد میں خدا کی طرف سے کوئی نبی اللہ بن سکتا ہی نہیں، اگر بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جاری ہوتی، تو رب العزت آپسے سابقہ انبیاء و رسل کی طرح آپکے بعد کے نبیوں یا رسولوں کے ضرور اسماء گنواتے۔ آپکے اسلاف انبیا علیہم السلام کا ذکر کرنا اور خلف کے مدعیوں کو محض زیرو کا نمبر دینا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کو ثابت کر رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالےٰ نے ایک اور عقدہ بھی حل فرما دیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین انبیاءؑ میں شمار فرما لیا، تاکہ اگر اب قرب قیامت آپ دوبارہ تشریف لاویں، تو اُن کو کوئی جہالت سے دوبارہ نہ شمار کر لے، بلکہ وہ پہلوں کی گنتی میں ہی شمار ہونگے، جیسا کہ ایک شخص جب کسی سے ایک دفعہ اپنا حصّہ حاصل کر لے تو کوئی جاہل اس کو دوبارہ حصّہ گیروں میں دیکھ کر قاسم کے گلے لپٹنے جائے کہ مجھ کو بھی ان کا کچھ حصّہ دیا جائے جو اُن کو دیا ہے کیونکہ پہلے اپنا

متقی وہ لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اُس شے کے ساتھ جو آپ کی طرف اُتاری گئی، اور جو آپکے پہلے اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں،

اس آیت کریمہ سے ثابت ہؤا، کہ متقی وہی لوگ ہیں، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم نے نازل فرمایا اور جو آپسے پہلوں پر نازل فرمایا، بعد کے کسی پر کسی شے کے اُتارنے کا ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آپ کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا، کہ وہ قیامت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، معلوم ہؤا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہ ہوگا، جسپر کوئی وحی نبوت یا رسالت نازل ہے، آپ پر یا آپسے پہلے نازل ہو چکی سو ہو چکی، آپ کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت بند ہے، اسواسطے سلسلہ وحی نبوت و رسالت بھی بند۔

(۱۹) نساء ٥/٥ — وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ،

اور مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اُس چیز کے ساتھ جو اُتاری گئی آپکی طرف، اور جو شے اُتاری گئی آپکے پہلے، اور جو کوئی آپ کے بعد کہے کہ مجھ پر یہ آیت اُتاری گئی تو مومن وہ ہے جو اُس کا انکار کرے، کیونکہ ایماندار کا عمل قرآن کریم پر ہے، اور قرآن کریم نے مومن کی تخصیص فرمائی کہ مومن قرآن کریم پر ایمان لائے، اور سابقہ کتب وحی پر ایمان لاوے اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وحی نبوت و رسالت کا انکار کرے تو مومن ہے ورنہ نہیں،

(۲۰) نساء ٥/١٩ — يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ۔

اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کتاب (قرآن) کے ساتھ جو آپ پر اُتاری گئی ہے اور اس کتاب کے ساتھ جو پہلے اُتاری گئی، اور جو بعد کے اُترنے کا دعوٰی کرے حقیقۃ الوحی ہو یا تذکرہ، ان تمام کے ساتھ انکار کرو۔

(۲۱) مائدہ ٦/٩ — هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ لَفَاسِقُوْنَ۔

نہیں بدلہ لیتے تم ہم سے، مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ اور جو ہماری طرف اُتارا گیا اور جو ہمارے سے پہلے اُتارا گیا، اور بے شک بہت تمہارے البتہ بدکار ہیں، کیا تم ہم سے اس بات کا بدلہ لیتے ہو، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالےٰ اور قرآن کے ساتھ اور جو شے

marfat.com

اور پچھلے ولیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول الرسل کے خدمتگار کہلائینگے مدعی رسالت نہ کہلائینگے، اور اب نہ اُن کا یہ مقصد ہوگا، کیونکہ اب خاتم النبیین تشریف لے آئے ہیں، رسول الرسل کا زمانہ آگیا ہے، جنہوں نے آکر ہر ایک کو جس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور جن کے سامنے کوئی مدعی رسالت و نبوّت نہیں بن سکتا، کیونکہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم میثاق والے ختم نبوت کے وعدے کو یاد دلا کر اعلان فرمادیا ہے۔

اعراف (۲۴) ۹/۱۲

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

فرما دیجئے، یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اے لوگو بلاشک میں تم تمام کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کا مُلک ہے

اس آیت کے اعلانِ مصطفوی نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربّ العزت نے کرایا، علوی سفلی آپکی شاہی نبوّت ظاہر فرمائی، تاکہ ثابت ہوجائے، کہ تمام آسمانوں اور تمام روئے زمین میں اب صرف آپکی ہی رسالت ہے، اس کے بعد جو مدعی رسالت ہو وہ اس حکم کی رُو سے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، کیونکہ اللہ تعالےٰ نے اعلان کرایا اور آپنے اعلان فرمایا تو بعد ازیں مدعی رسالت آپ کے مقابلہ میں ظلی بروزی اپنی رسالت کا مدعی مکذّب قرآن قرار دیا جائیگا، کیونکہ تمام علوی سفلی کے رسول اور رسول الرسل تشریف لا چکے ہیں، چنانچہ کوئی مجسٹریٹ کسی بزرگ کی خدمت کرے اور اپنی مجسٹریٹی کسی کو نہ جتائے تو اس کی ہتک نہ سمجھی جائیگی، اور اگر ایک نا اہل اپنے بزرگ کے مجسٹریٹ کی خدمت کرنے دیکھ کر وہ جعلی مجسٹریٹ بن بیٹھے کہ مجسٹریٹ میرے باپ کے خدمتگار رہیں، تو میں کیوں نہ مجسٹریٹی کا مدعی بنوں تو مستوجب سزا ہوگا، اور باپ کی یہ ہتک ہوگی، اور باپ لڑکے سے ناراض ہو کر کہیگا کہ ایسا نالائق لڑکا پیدا ہوا، کہ اس نے میری عزّت کا پاس تک نہ کرتے ہوئے جعلی مجسٹریٹی کا مدعی بنکر سزاوار ہوگیا، خدا ایسے نالائق لڑکے کسی کو نہ عطا کرے، اس سے تو دوسرے کا لڑکا اچھا ہے جس نے جب سے میری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اپنی حقیقی مجسٹریٹی کا کبھی نام تک نہیں لیا، ہر وقت میری غلامی میں ہے معروف ہے تو کیوں نہ وہ مجسٹریٹ خدمتگار فیض یاب ہوگا اور اس کا لڑکا کیوں نہ باپ کا عاق شمار کرکے جائداد و ورثہ سے بھی یعنی ایمان سے بھی محروم کیا جاویگا۔ فافہم و تدبّر

marfat.com

حصہ وصول کرچکا ہے، اب پھر دوبارہ کیوں یہاں پھر رہا ہے۔ تو قاسم غین کو جواب دیگا، کہ کچھ عقل سے کام لو، اگر میں اس کو دوبارہ حصہ دینے کے لئے ہاتھ بڑھاؤں، یا وہ حصہ لینے کے لئے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو تم بھی کہہ سکتے ہو، کہ مجھے بھی کچھ مل جائے، جب میں نے جو کچھ خواص پر تقسیم کرنا تھا، وہ تقسیم کرچکا ہوں، اب میں تم کو کہاں سے دوں، تو غ کہدے کہ تم نہ دو گے تو میں آخری حصہ گیر سے کچھ لیلو نگا، تو قاسم م کو کہدے جس کو اُس نے آخری حصہ دیا ہے، کہ تم پہلے حصہ گیروں سے کلام کرنا، اس سے کلام ہی نہ کرنا، ایسے ہی رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اُن سے بعد کے نبوت کا دعوٰی کرنیوالے ہیں، اُنسے کلام ہی نہیں کرنے دیتا، تو وہ اُن سے حصہ دار اور نائب وتابع نبی کیسے کہلا سکتے ہیں، سنیئے، اللہ کریم فرماتے ہیں ۔

(۲۳) زخرف ۲۵/۴

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

اور دریافت فرمایئے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو آپسے پہلے رسول ہیں، کہ کیا ہم نے رحمٰن کے سوا کوئی معبود بنایا ہے، جو پُوجا کئے جائیں وہ۔

اس آیت کریمہ میں رب العزّۃ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی الوہیت کے متعلق پہلے انبیا ورُسل سے مخاطب ہونیکے لئے فرمایا جس سے صاف دو مطلب ظاہر ہو رہے ہیں،

(۱) ۔ اگر کوئی بعد کا مدعی رسالت من اللہ ہوتا تو خداوند اس کے متعلق بھی آپ کو ہمکلام ہوتے کا فرما دیتے، معلوم ہوُا کے کوئی مدعی نبوّت بعد میں ہے ہی نہیں ۔

(۲) ۔ اور خداوند کریم کو یہ علم تھا، کہ بعد میں نبوّت کے مدعی جھوٹے ہیں، اس لئے ایسوں کو کسی شمار میں ہی نہیں لیا اور یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرا نبی آخر الزمان ایسے جھوٹے مدعیوں سے مخاطب ہوں ورنہ ضرور ارشاد ہوتا۔

"مرزائیؑ"۔ اس سے تو وفات مسیح ثابت ہوئی ۔

"محمد عمر"۔ تمہارا دماغ معطل ہے، نقیر پہلے عرض کر آیا ہے کہ وہ پہلے نبیوں میں شمار ہو چکے ہیں، اب انکی آمد ثانی مدعی رسالت کی نہ ہوگی، تاکہ یہ اعتراض لازم آئے، وہ سابقہ انبیا ورسل سے ہیں، اسلئے رب العزت نے مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا، فرمایا جس میں حضرت عیسٰی بن مریم بھی شامل ہیں، آپسے بعد والے جھوٹے مدعی نبیوں میں شامل نہیں، سابقہ نبیوں میں شامل

marfat.com

ثابت ہوا کہ بیت اللہ تمام جہانوں کے لئے کعبہ ہے، اور ہدایت ہے، اس کے علاوہ بیت اللہ مقرر کرنا گمراہی ہے۔

ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی، لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا، آپ تمام جہانوں کے لئے نذیر ہیں، آپ کے بعد کسی کو صفات نبوت سے نذیر مقرر کرنا یہ صاف قرآن کریم کا انکار ہے، کیونکہ عالمین کے لئے ایک، قرآن کریم عالمین کے لئے ایک کعبہ، عالمین کے لئے ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے بشیر و نذیر ایک مقرر ہو گئے، اب دوسرا مقرر کرنیوالا سب کا منکر ثابت ہوگا جیسا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے نذیر ہیں، اسی طرح آپ تمام جہانوں کے لئے رحمۃ بھی ہیں، اور آپ کی رحمت تمام جہانوں کو محیط ہے، اب آپ کی رحمت کے بعد کسی رحمت کی ضرورت نہیں چنانچہ فرمایا

(۲۷) انبیاء ۱۷/۷ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝
اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت۔

اس آیت کریمہ میں رب العزۃ نے فرمایا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محض تمام جہانوں کیواسطے رسول ہی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کی رحمت بھی آپ ہی ہیں، یعنی تمام جہانوں میں جس شے کو کوئی زحمت درپیش ہو، تو اس کو آپ ہی کی رحمت بچا سکتی ہے، حتیٰ کہ عذاب الٰہی سے بھی، اگر نجات کی کسی کو ضرورت ہو، تو آپ کا دامن رحمت ہی اس کا ناجی ہو سکتا ہے، تو ایسا تمام جہانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق کی ہر حوائج کو پورا فرمادے۔ تمام جہانوں کے رسول سے اگر کوئی شفایاب نہ ہو سکے، اور نیم حکیم خطرۂ جان اور نیم ملّاں خطرۂ ایمان کا متلاشی ہو، تو وہ لَآ اِلٰی هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰی هٰٓؤُلَآءِ کا مریض ہو چکا، ایسے مریض کے لئے فِی الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ہی کی پڑیاں کافی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خداوند کریم نے جس ذات کو تمام جہانوں کا معالج اور رحمت بنا کر بھیجا، لیکن مریض کا اسپر اعتقاد ہی نہیں ٹھیرتا، تو ایسے شخص کو خداوند تعالےٰ نے اعلان فرمادیا ہے، کہ جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کفایت نہ کرے۔ تو فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْیَكْفُرْ، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، ہمیں ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو آپ کی رحمت سے محروم ہوگا، وہ آپ کا کہلا ئیگا اور جسکو آپ کی رحمت سے تسلی نہ ہو، بلکہ کسی اور کا محتاج ہونا چاہے تو جائے، تو وہ غم

marfat.com

یہ اعلان قرآنی تو خداوند کریم نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کہ آپ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمادیجے کہ میں تمام ارضی وسماوی کے لئے رسول بنکر خدا کی طرف سے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی ریاستی، کوئی قومی، کوئی ظلی نہ بروزی رسالت ونبوت کا مالک نہیں کہلا سکتا۔ اب خداوند کا اپنی طرف سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الکل بناکر آپ پر ہی نبوت ختم کرکے اعلان کردیا۔ سُن لیجئے:۔

(۲۵) سبا $\frac{22}{3}$

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کافی تمام لوگوں کیواسطے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔

اِس اعلانِ الٰہی نے ثابت کردیا کہ تمام لوگوں کے لئے نذیر بھی اور بشیر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں، اب یا تو مرزائی ناس میں شامل نہیں جنکو آپ کی بشارت ونذارت کافی نہیں، نئے بشیر ونذیر کا تقرر کرلیا ہے، یا اس حکم الٰہی سے منحرف ہے، اور سنیئے۔

(۲۶) فرقان $\frac{18}{1}$

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا، تاکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے نذیر ہوجائیں۔

فیصلہ ہوگیا، کہ آپ قرآن کے ساتھ تمام عالمین کے نذیر ہیں، اللہ تعالےٰ کی صفت ہے رب العلمین، اگر کوئی شخص رب العالمین کا اقرار کرے تو ثابت ہوگا، کہ تمام جہانوں کے ایک رب ہونے کا اقرار کررہا ہے، کیونکہ ایک خدا ہی رب العلمین ہے اور قرآن پاک خداوندکریم کی کلام پاک ہے، جسکی شان یہ ہے، کہ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٥ نہیں ہے وہ قرآن مگر تمام جہانوں کے واسطے نصیحت جو اس آیت پاک کا معتقد ہے، اس کے لئے سوائے قرآن کریم کے اور تمام جہانوں میں کوئی نصیحت اکتفا نہیں کرسکتی،

خانہ کعبہ کی شان ہے، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٥

بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مکہ میں تیار کیا گیا برکت کا مقام ہے، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے۔

marfat.com

ہمیں تو بھائی محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کافی ہے، آپ کے بعد اور کسی نبی کی نبوت کی اتباع کی ضرورت نہیں، یہی سبق ہم کو خداوند کریم نے سکھایا ہے۔

(۲۸) نساء ۵/۱۱ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

اور ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریگا، پس وہ اللہ کا مطیع ہے، اور جس شخص نے رُوگردانی کی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) تو ہم نے آپ کو اُن پر محافظ نہیں بھیجا۔

اس آیت پاک کے حکم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اسی بات پر اللہ تعالےٰ نے اپنی گواہی ثبت فرمائی ہے، اسیواسطے فرمایا کہ جس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر اکتفا کیا، تو بس اللہ تعالےٰ کا مطیع ہو گیا، اب اور کسی نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں، اور جس شخص نے اطاعت نبوۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا نہ کیا اور آپ کی رسالت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ کسی اور رسول کی رسالت کا مطیع ہو گیا تو فرمایا، وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اور جس شخص نے آپکی رسالت سے اعراض کیا اور منکر ختم نبوت ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے وہ نکل گیا، اور تمام جہانوں میں اب واحد نبوت صرف مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، جو آپ کو مل چکی، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے۔

(۲۹) نساء ۵/۸ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ۔

پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ بے ایمان ہی رہیں گے، حتیٰ کہ آپ کو واحد حاکم نہ تسلیم کرلیں۔

اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہؤا، کہ تمام جہانوں میں جو شخص آپ کی نبوت حکمیہ کو واحد تسلیم نہ کرے بلکہ کسی اور کو نبی مقرر کرلے، وہ بے ایمان ہی رہیگا، ثابت ہؤا، کہ تمام جہانوں میں آپ کی بعثت کے بعد محض آپ کی ہی نبوت حکمران ہے۔ اگر غلامی پر ہی اکتفا کیا جائے تو محبوب خدا ہو جائیگا، اور اگر نبوت کو ہاتھ ڈالے تو وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ میں داخل ہوگا۔ ملاحظہ ہو۔

(۳۰) آل عمران ۳/۴ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو، تو میری غلامی

marfat.com

کا ہی کہلائیگا، اس کو حَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ہی کفایت کرے گا۔

"مرزائی" - تم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہو، لہذا تم بھی محمدی نہ رہے، عیسائی بن گئے۔

"محمد عمر" - یہ اپنی بات ہمیں سُناتے ہو، اور ہم پر چسپاں کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمدی بننے کے لئے تشریف لائینگے اور عیسائیوں کو محمدی بنانے کے لئے، نہ کہ محمدیوں کو مسیحی کہلانے کے لئے نہ جیسا کہ مرزا صاحب نے کیا اور تم مرزائی مسیحی بن رہے ہو، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی اسلئے انتظار نہیں ہے، کہ وہ تشریف لائیں، تو اُن کی رسالت سے ہم استفادہ کریں، بلکہ انتظار اس لئے ہے، کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے، کہ وہ تشریف لادینگے تو مسیحیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں داخل کرینگے۔ امت محمدیہ کی ترقی ہو گی جعلی مسیحیوں کا خاتمہ ہو گا، تمام محمدی امت ہی نظر آئیں گے، کیونکہ امتی خدام ہونے سے آپ کی توہین نہیں، بلکہ عزت ہے، کہ پرائے اپنے کہلائیں، افسوس اُن پر ہے جو اپنے پرائے کہلائیں،

"مرزائی" - ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے قائل ہیں،

"محمد عمر" - سبحان اللہ مرزائی صاحب! ایسا دھوکہ، اگر تم قادیانی خاتم النبیین کے قائل ہو، تو مرزا صاحب کی خلافتیں دو کیوں بن گئیں، لاہوری اور قادیانی جماعت یعنی مرزائیت دو حصوں میں کیوں منقسم ہو گئی قادیانی مرزائی مرزا غلام احمد صاحب کو نبی ثابت کرتے ہیں، دیکھو حقیقۃ النبوۃ، اور لاہوری مرزا غلام احمد صاحب کو مجدّد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ملاحظہ ہو، النبوۃ فی الاسلام، یہ ہے مرزا جی کی نبوت کہ اُن کی اُمت ہی کو مرزا صاحب کی نبوت پر شک ہے، اگر سچے ہوتے تو اُن کی امت کو اُن کے نبی ہونے میں شک نہ ہوتا، معلوم ہوا، کہ مرزا جی کا دعویٰ نبوت بناوٹ پر مبنی تھا۔ یہ داؤ ہمارے ساتھ کھیلتے ہو اگر تم مرزا غلام احمد صاحب کو نبی علیحدہ تسلیم نہیں کرتے تو تم احمدی کیوں کہلاتے ہو، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو غیر احمدی کیوں کہتے ہو، یعنی مرزا صاحب کو تم اصل سمجھتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فرع سمجھتے ہو، ورنہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غیر احمدی نہ کہو اور خود احمدی نہ کہلاؤ، وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۝

آؤ مرزائیو! اب بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو کافی سمجھو، اور غلام احمدیت کو ترک کر کے اُمت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ، تا کہ آپ کی رحمت ہی تمہارے اعمال سیئہ کو اعمال صالحہ سے بدل دے۔ یہ طاقت اور کسی کو نہ ہوئی اور نہ انشاء اللہ ہو سکتی ہے، یہ طاقت صرف محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بننے سے خدا کی طرف سے انعام ہوتی ہے۔

marfat.com

"مرزائی"۔ اگر امتِ محمدیہ میں ہی لوگ گمراہی کی طرف راغب ہوں، تو پھر بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں۔

"محمد عمر"۔ یہ ڈیوٹی اب بعد از مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی نہیں، کیونکہ اُمتِ محمدیہ کی اصلاح کے واسطے اگر کوئی نبی مقرر کیا جائے، تو محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے، کہ آپ کی نبوت و رسالت امت کو کافی نہ رہی۔ اس لئے خداوند کریم نے اُمتِ محمدیہ سے اُمتیوں کی یہ ڈیوٹی لگادی ہے، جو نبی نہیں کہلا سکتے، سنیئے۔

(۳۳) آلِ عمران ۳ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

اور چاہیئے کہ تم سے ایک ایسا گروہ ہو (مبلغین) جو نیکی کی طرف بلائیں، اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور بُرے کاموں سے روکیں اور یہی لوگ ہیں خلاصی پانے والے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ بعد از مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے آپ کی اُمت سے ایک گروہ پر جو اہل علم ہوں فرض ہے اور وہ صرف اُمتی ہی کہلائیں گے، نبی یا رسل نہیں کہلا سکتے، لہذا آپکے بعد بھی اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو رب العزۃ امتی نبیوں کے خطاب سے بیان فرماتے، اُمتیوں کو مخاطب کرکے یہ کام امتیوں کے ذمے نہ لگاتے، ثابت ہوا، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلۂ نبوت خداوند کریم کے ہاں بند ہے، اور جب خداوند کریم کی اصطلاح ان امورات کے حاملین کو کسی قسم کے لفظ نبی سے نہیں نوازتی، تو مرزائی بیچارے کی کون سُنے اور ملاحظہ ہو۔

(۳۴) نساء ۵/۸ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔

اے ایمان والو اللہ تعالٰے کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو اور جو تم سے اُولی الامر ہوں اور اگر کسی شے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ کے سپرد کرو (قرآن دیکھو) اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سپرد کرو (حدیث

کرو، تو تمہیں اللہ دوست بنا لیگا۔

اِس آیت سے ثابت ہوا، کہ مطاع بس اب تمام جہانوں میں ایک ہی ذات محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سب مطیع ہیں، تو ارشادِ الٰہی ہوا، کہ آپ فرما دیں کہ بس اب میری ہی غلامی میں آدمی محب اللہ بنجاتا ہے اگر ہمسری کا مدّعی ہو تو عَدُوّ للہ ہے۔

اے مرزائی دوستو! نبوّت تو ختم ہو چکی، اب اگر محب اللہ بننے کا ارادہ رکھتے ہو، تو محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہی اکتفا کرو۔ تاکہ محب اللہ بنجاؤ، اگر دوسرا رسول مقرر کر بیٹھے، تو یاد رکھو، عدوّ اللہ بن جاؤ گے۔

(۱۳) آل عمران ۴/۱۱

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔

تم بہتر امت لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو۔

اس آیت کریمہ میں امت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کہ تم اے امتِ محمدیہ سب امتوں سے بہتر ہو، اگر اس امتِ محمدیہ کا کوئی نبی ہوتا تو اللہ جل شانہٗ فرماتے، كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ وَّاَنْبِيَاءٌ كُنْتُمْ خَيْرٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ السَّابِقَةِ۔ جب محض امت ہی کے خطاب سے مخاطب کیا گیا تو معلوم ہوا، کہ امتِ محمدیہ سے کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو خطابِ خداوندی ضرور ہوتا، جب نہیں تو نہیں، نبوّت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی اور تمام امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالےٰ نے ایسے ہی سبق دیا ہے۔ کہ جیسے تم امتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ایسے ہی کوئی دوسرا تمہاری طرح امتی ہونے کا مدعی ہو اور غلامی کے دائرے میں ہی ہے تو تمہارا ساتھی، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ کا مصداق، تو فرمایا۔

(۳۲) بقرہ ۱/۱۶

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِیْ شِقَاقٍ۔

پس اگر وہ ایمان لائیں، جیسا کہ تم اس کے ساتھ لائے، پھر تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو اور کوئی بات نہیں وہ اختلاف میں ہیں (بے ہدایت ہیں)۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ اگر کوئی اسلام کا مدعی ہو، تو اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محض امتی ہی رہے، اس حد سے تجاوز نہ کرے تو ہدایت پر ہے اور مسلمان ہے، ورنہ بے ہدایت اور امتِ محمدیہ سے خارج ہے۔

marfat.com

(۳۶) حجرات ۲۶

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ایمان داروں کو خطاب کر کے فرمایا، کہ اے ایماندارو اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو میرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت بڑھو۔ یعنی جب میں نے اس کو خاتم النبیین بنا دیا ہے، تو پھر تم رسالت کے آگے کیوں بڑھتے ہو اور اگر تم نے آپ کی رسالت کے آگے قدم رسالت یا نبوت بڑھایا تو یاد رکھو وہ خدا کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے بہانوں کو سن رہا ہے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا قدم رسالت و نبوت آگے نہ بڑھاؤ، اور نہ بڑھے، خداوند کریم تمہاری اس مراد کو جاننے والا ہے بے خبر نہیں، اگر بڑھاؤ گے، تو یاد رکھو۔ ان کے دعوٰی سے یا تمہارے نبی یا رسول بنانے سے بن تو سکیں گے نہیں، البتہ تمہارے تمام اعمال زندگی ضائع ہو جائینگے، کیونکہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے رسالت و نبوت کو جاری رکھ کر غلط قدم آگے بڑھایا ہے، جو چودہ سو سال سے کوئی نہ بڑھا سکا، اور نہ قیامت تک کوئی بڑھا سکتا ہے، سُنیئے۔

(۳۷) سبا ۲۲/۶

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِیْرٌ لَّكُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۝

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی رسول نہیں، وہ مگر تمہارے لئے قیامت تک نذیر ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نذیر نہیں ہو سکتا اور جو کہے کہ اُمت محمدیہ میں نذیر آ سکتا ہے، وہ مکذب قرآن کریم ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! ایسی آیات قرآنی سُنکر، پڑھ کر، دیکھ کر کہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نذیر نہیں آ سکتا، پھر بھی تم منکر قرآن بنکر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی تسلیم کر کے اجرائے نبوت کے قائل رہو، تو منکر قرآن کی جو سزا ہے وہ تم خود سوچ لو ورنہ تُوْبُوْا اِلَی اللّٰهِ جَمِیْعًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ اور سنیئے۔

خداوند کریم نبوت و رسالت کی کلام پوری کر چکے ہیں، اب کسی انسان سے رب العزۃ نبوت و رسالت کا ایک کلمہ بھی نہیں فرما سکتے، ملاحظہ ہو، ارشاد الٰہی۔

marfat.com

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو) اگر تمہارا ایمان اللہ اور قیامت کے ساتھ درست ہے، (کسی اور کو خود بخود نبی نہ بنالو)۔

اس آیت کریمہ میں رب العزت نے پہلے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، بعد ازاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کا بعد ازاں مومنین سے اولی الامر اہل اللہ کی یعنی اولیاء اللہ کی (اطاعت کا ارشاد فرمایا)۔

اس آیتہ سے بھی ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آپ کی اُمت سے ہوتا تو اللہ تعالے بعد از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الامر اولیاء اللہ کی اطاعت کا ارشاد نہ فرماتے، بلکہ اُمتی نبیوں کا ارشاد فرماتے، اور پھر فرمایا۔ کہ اگر تم مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرو، یعنی اُن کا ہی فیصلہ کافی سمجھو، اولی الامر بھی کوئی فیصلہ کریں تو رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی جعلی اُمتی نبی یا رسول کے فیصلے کی طرف نہ جھانکنا اگر تمہارا ایمان خداوند اور قیامت پر صحیح ہے، اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کسی نبوت کے اجراء کے قائل رہے، تو یاد رکھو۔ تو منکر خداوند اور منکر قیامت ثابت ہو جاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کیا، تو تمہارے اچھے اعمال بھی حبط یعنی ضائع ہو جائینگے، سنیئے۔

(۳۵) محمد ۴ ۲۶/۴ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ۔

اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔

اس آیت نے بھی مسئلہ ختم نبوت کو حل کر دیا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی آپکی اُمت میں سچا رسول مبعوث ہونا، تو اللہ تعالے اُس کی اطاعت کا ارشاد بھی فرما دیتے، بلکہ فرمایا، یاد رکھو۔ اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی خواہش رکھی، تو تمہارے تمام اعمال ضائع کئے جائیں، اس سے ثابت ہؤا، کہ مرزائیوں نے چونکہ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ سے تجاوز کر کے مرزا غلام احمد صاحب کو نبی مقرر کر لیا ہے، لہذا ان کے تمام اعمال اکارت ہیں اور سنیئے۔

marfat.com

زمانے میں مکمل ہو گیا، تو خدائی نبوت بھی ختم، کیونکہ اور نئے دین کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب خدا کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کون بیوقوف ہے جو مرزائیت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، خدا کے دین برگزیدہ کو بھی چھوڑا۔ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گیا، قرآن چھوڑ کر تذکرہ یا حقیقۃ الوحی کو ماننا پڑا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر اسلام چھوڑا، پانچواں حصہ یا گیارھواں حصہ مال بھی مرزائیت کو سونپا، پھر بھی جہنم ہی ٹھکانا ہوا، ایسا پہلو کوئی برطانیہ کا غلام تو گوارہ کر سکے، مسلمان دمن گوارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دین بھی مکمل ہو چکا ہے، پھر آگے ارشادِ الٰہی ہے، وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ کہ میں نے تم پر اپنی نعمت یعنی نبوۃ بھی پوری کر دی، اب نبوت کا بھی کچھ بقایا نہ رہا، یہ اس لئے فرمایا کہ شاید کوئی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پڑھ کر نبوت کی خواہش نہ کر بیٹھے، اس لئے فرمادیا کہ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ میں نے تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی، اب نبوت والی نعمت کی حرص نہ رکھنا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، میں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر چکا ہوں۔ کیونکہ نبی دین بدلانے کے لئے آتا ہے، اور یہ دین اب بدل نہیں سکتا اور وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب جو کوئی نیا دین مثلاً مرزائی، قادیانی یا لاہوری بنائیگا، تو خدا کے غیر پسندیدہ دین کو ماننے والا اور خدا کے غیر نبی کا متبع کہلائیگا، تو جب خداوند کریم نے دین مکمل کر دیا، نبوت کا اتمام ہو چکا، اب کوئی ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے تو جائے، نبی اللہ کا متبع نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو چکی۔ اور سنیئے۔

(۴۰) آل عمران $\frac{۴}{۱۵}$

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔
اور نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول تحقیق گذر چکے پہلے آپ کے تمام رسول۔

اس آیت کریمہ نے ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی تمام رسول آپ سے پہلے گذر چکے، اب بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہونے والا نہیں،

اس آیت کریمہ نے مسئلہ ختم نبوت کو کیسے واضح کر دیا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپکی نبوت و رسالت میں کوئی شک نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے، وہ گذر چکے، اب بعد میں کوئی سلسلہ نبوت جاری نہیں، کیسی آسان عبارت سے رب العزۃ نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبی اللہ نہیں، اب بھی اگر کوئی مرزائی کہے کہ نبوت جاری ہے،

marfat.com

(۳۸) انعام $\frac{8}{14}$

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

اور آپ کے رب کا سچا اور عدل والا کلام پورا ہو چکا۔ اس کی بات بدلنے والی نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

خداوند کریم نے فرمادیا کہ آپ کے رب کا سچا کلام اور عدل والا کلام پورا ہو چکا، وہ انبیاءٴ ورسل سے کیا کرتا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمایا اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ پھر کئی انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝ اور خداوند کریم اپنے انبیاء ورسل علیہم السلام سے کلام فرماتے ہیں، جن کی تین قسمیں فرمائیں، مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ ۝ اب کسی شخص سے ایسے کلام نہیں کرتے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا، رسالت بند ہو چکی، چنانچہ فرمایا،

(۳۹) مائدہ $\frac{6}{1}$

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝

آج ہی تمہارا دین مکمل ہو گیا اور تم پر میری نعمت (رسالت ونبوت) پوری ہو چکی اور تمہارے لئے دین اسلام میں نے پسند کر لیا اور تمہارے مرزا غلام احمد صاحب نے لکھا ہے۔

آئینہ کمالات لاہوری مطبع ۲۷۵

انبیاء اسلئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں۔

تو رب العزت نے فیصلہ فرمادیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ کہ آج سے تمہارے دین کو ہیں نے مکمل کر دیا، جب دین مکمل ہو چکا ہے بفرمان الٰہی، تو بقول مرزا صاحب بھی نبی کی ضرورت نہ رہی اور پھر رب العزت نے فرمایا کہ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔ تمہارے لئے میں نے دین اسلام پسند کر لیا۔

جب ہمارے مسلمانوں کے واسطے اللہ جل شانہٗ نے دین اسلام پسند کر لیا اور پھر دین اسلام کو مکمل بھی فرمادیا، تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، جب دین آپکے

marfat.com

جو بطور رفع متکلم کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے، چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی لکن کے جملہ اول کا ایک حصہ نفی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمولی نہیں ہیں، اس کو بطور رفع لکن کے بعد کے مغائر جملے کا حصہ اول اثباتی صورت میں رب العزت نے بیان فرمایا، وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ولکن اللہ کے رسول ہیں، ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان نہیں، اسی اخفا کو ولکن رسول اللہ نے پہلے کے مغایر جملہ نے بطور رفع واضح کر دیا ہے، کیونکہ وہ اتنی شان والے ہیں، کہ رسول اللہ ہیں، دوسرا حصہ پہلے جملے کا بصورت نفی اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ تمہارے کسی آدمی کے باپ نہیں، اس میں اخفا تھا، کہ کیوں نہیں اور پھر کیا ہیں تو اس اخفا کو خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ لکن کے بعد کے مغائر جملے کے دوسرے حصے نے بطور رفع واضح کر دیا، کہ آپ اس لئے کسی بالغ جوان بیٹے کے باپ نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اگر لکن کے ماقبل و مابعد کے سالم جملوں کو اکٹھا حل کردگے تو بھی بتغائر مطلب صاف ہے، پہلے جملے کا مفہوم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جوان لڑکا نہیں، اس کے اخفا کو بطور رفع تو واضح کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ خود بھی رسول اور بحیثیت رسول ہونے کے تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کر چکے ہیں، یہ دلیل لمی ہے، اس لئے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور ایسی آیتیں جن میں لکن کا استعمال ہوا ہو اور اس کے بعد پہلے جملے کے مغایر اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے واسطے بطور رفع جملہ دوسرا استعمال ہوا، ملاحظہ ہو، طوالت نہ ہونے کے سبب چند آیات عرض کر دیتا ہوں، ملاحظہ ہو۔

(۱)۔ بقرہ $\frac{۲}{۳۳}$	وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ٥

اور اگر اللہ تعالےٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکے تو خدا کی زمین اُجڑ جاتی، اور لیکن اللہ تعالےٰ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔

اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ اگر اللہ تعالےٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ روکے تو خدا کی زمین اُجڑ جاتی، تو اس میں اخفا تھا، کہ کیوں اور کیسے روکا، تو لکن کے بعد پہلے جملے کے مغائر جملے نے بطور رفع اخفاء کو دور کر دیا، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسلئے تمام جہانوں پر فضل کیا، اور بعض کو بعض کے نیچے روکا، تو زمین بچ گئی، ایسے ہی پہلے جملے کا حل ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان لڑکا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، اس لئے آپ کے ہاں کوئی بڑا آدمی لڑکا نہیں۔

(۲) بقرہ $\frac{۲}{۲۸}$	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ

marfat.com

تومکذب قرآن ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہوسکتا یا اگر کوئی اُمت محمدیہ سے ہی ہونا ہوتا تو اُس کا ذکر ضرور قرآن کریم میں ہوتا، جیسا کہ ہود علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام پیدا ہونے تھے، تو رب العزۃ نے فرمایا

(۴۱) احقاف ۲۶/۳

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ ۔

اور یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہود علیہ السلام کو یاد فرمایئے، جب اس نے اپنی قوم کو ریگستان میں ڈرایا اور ضرور گذر چکے تھے اس کے پہلے کئی نذیر اور اس کے پیچھے بھی۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہؤا، کہ جن انبیاء علیہم السلام کے پہلے اور بعد میں رسول پیدا ہونے تھے اُن کے ماقبل اور ان کے مابعد کا ذکر بھی ہؤا، اور یہ بھی معلوم ہؤا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رُسل اور انبیاء علیہم السلام تھے جن کا ذکر مولا کریم نے فرما دیا، بعد کا ذکر نہ فرمانا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی دلیل ہے،

(۴۲) نساء ۶/۲۳

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۔

بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام نبیوں کو کی،

نوح علیہ السلام کے بعد چونکہ انبیا کرام پیدا ہونے والے تھے، اس لئے نوح علیہ السلام کے بعد مِنْۢ بَعْدِهٖ کا ذکر کیا گیا، اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت ظلی ہونی ہوتی یا نبوت جاری ہوتی تو جہاں تمام قرآن کریم میں من قبل کے انبیاء کا ذکر ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے اجراء کا ذکر تمام قرآن کریم میں کسی مقام پر ہی ہوتا، لہذا آپ کے بعد کا نبی بنا لینا یہ قرآن کریم پر پیش قدمی ہے۔

(۴۳) احزاب ۲۲/۵

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے اور اللہ تعالےٰ ہر شئی کو جاننے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں ایک لفظ لکن ہے اور لکن عربی زبان میں دو متغایرین جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اور استدراک کے لئے مستعمل ہوتا ہے، یعنی متکلم کو اگر خیال ہو، کہ شاید سامع کے ذہن میں میرے مفہوم کے خلاف وہم نہ ہو، تو اس کو دُور کرنے کے لئے بعد از لکن پہلے جملے کے مغایر ایسا جملہ استعمال کرتا ہے،

marfat.com

ان پر سفر کی دوری مشقت معلوم ہوئی،

تو اس آیت کریمہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کو منافقین کے نہ جانے میں اخفا تھا، تو اُن کے جانے کی لِمّ لکن کے بعد بیان کی گئی، کہ حقیقت الامر یہ ہے، کہ ان کو چونکہ بعد سفر کی مشقت نظر آنے لگی، اس لئے وہ آپ کے ساتھ سفر میں نہ گئے، تو ثابت ہوا، کہ لکن کے بعد پہلے جملے کی لِمّ بیان کر کے اس کے اخفا کو دور کیا جاتا ہے، اور جملہ ثانی لکن کے بعد والا پہلے کے مغایر بھی ہوتا ہے، چنانچہ آیت متنازعہ میں آپ کے کسی آدمی کے باپ نہ ہونے کی لِمّ یہ ہے، کہ آپ ایسے رسول اللہ ہیں، کہ خاتم النبیین ہیں، اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ بالغ ہوتا تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہو سکتے، کیونکہ اگر لڑکا جوان ہوتا تو اس کی تین صورتیں تھیں، پُوت یا سپوت یا کپوت، اگر کپوت ہوتا، یعنی مرتبہ نبوت پر فائز نہ ہوتا، تو معاذ اللہ یہ بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک تھی، کہ باپ رحمۃ اللعالمین اور لڑکا فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کا مصداق تو یہ بھی آپ کی ذات مطہرہ پر دھبہ لازم آتا، لہٰذا کپوت کا بعد زندگی بسر کرنا یہ بھی ناممکن اور اگر سپوت ہوتا، تو پھر آپ سے زیادہ مرتبہ پر فائز ہوتا تو سپوت کہلاتا، پھر اُس کی تین صورتیں تھیں۔

(ا)۔ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات مع صفات اقرب الی اللہ ہوتا، تو یہ بھی ناممکن، کیونکہ اَوْ اَدْنٰی سے زیادہ قرب ذاتی یا صفاتی محال۔

(ب)۔ مخلوق کے استفادہ میں زیادہ مفید ہوتا تو یہ بھی ناممکن مخلوق آپ سے پہلے بہت تلخ تجربے کر چکے تھے، اور وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ کا رتبہ آپ کی ذات مقدسہ کو ہی زیبا ہوا۔ نہ کسی اور کو ملا۔ اور نہ مل سکتا تھا۔

(ج)۔ نذارت کا کام ہی مخلوق کے لئے سپرد کیا جاتا، لیکن یہ بھی محال، کیونکہ رب العزۃ نے عالمین کی نذارت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا کا خطاب دیکر عطا فرمادی عالمین سے چونکہ کوئی شے باہر نہ تھی جس کا نذیر مقرر کیا جاتا، لہٰذا نذارت کی صورت بھی ختم۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تینوں وجوہات سے سپوت کا ہونا بھی محال ہوا۔ باقی رہا کہ پوت ہی رہ جاتا، سجادہ نشین نائب رہ جاتا، تو یہ بھی محال، کیونکہ پوت وہی کہلا سکتا ہے، جو باپ کے اوصاف سے مساوی ہو، یعنی جس عہدہ پر باپ فائز اسی عہدہ پر بیٹا ہو جائے، تو یہ بھی ناممکن، کیونکہ آپکے مساوی ہوتا تو آپ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی، تو فرمان الٰہی وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ کا خطاب معاذ اللہ غلط ثابت ہوتا ورنہ مساوی پوت کہلانے کا حقدار نہ ہوتا۔ ایسے ہی

marfat.com

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ۔

نہیں مؤاخذہ کریگا تم کو خداوند تعالے تمہاری لغو قسموں میں اور لیکن مؤاخذہ کریگا تمکو جو تمہارے دلوں نے عمل کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی لکن کے سابقہ جملے میں اخفا تھا، کہ لغو قسموں میں خداوند کریم کی گرفت کرنے میں نفس الامر میں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کی تصدیق کے لئے لکن کے بعد جملہ بولا گیا کہ خداوند حقیقۃً گرفت کریگا، جو تمہارے دلوں نے عمل کیا ہے، اس آخری جملے نے بھی لکن کے بعد جملے کی لم کو بیان کرکے واضح کردیا۔

(۳) آل عمران ۳/۷

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا

ابراہیم علیہ السلام یہود و نصاریٰ نہ تھے، اس میں اخفا تھا، کہ کیوں نہ تھے، حقیقۃ الامر میں کیا تھے۔ اس اخفا کو دور کرنے کے لئے لکن کے بعد جملہ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا کہا گیا، کہ لیکن وہ راہِ راست پر چلنے والے مسلمان تھے، جو حنیف اور مسلمان ہو، وہ نہ یہودی نہ نصرانی کہلا سکتا ہے۔ ایسے ہی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اور نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، اس لئے ان کے نرینہ آدمی لڑکا نہیں ہوسکتا، کیونکہ ہوتا تو بعد از بلوغت نبی کہلاتا، تو حقیقۃ الامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین میں فرق لازم آتا۔ کیونکہ آپ ایسے رسول ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں۔

(۴) آل عمران ۳/۸

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ۔

کسی بشر کو لائق نہیں کہ اللہ تعالے اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے سوا میرے بندے بنجاؤ، اور لیکن تم ہوجاؤ رب والے کہیگا۔

اس آیت کریمہ میں بھی لکن سے پہلے جملے میں اخفا تھا، کہ حقیقۃ الامر انبیاء کے کہنے کی کیا ہے، اسکی وضاحت اور تصدیق کیواسطے لکن کے بعد كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ فرما دیا، کہ عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نہ کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رب والے بناتے ہیں، اور چونکہ وہ رب والے بناتے ہیں اسلئے وہ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نہیں کہلا سکتے۔

(۵) توبہ ۱۰/۶

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ۔

اگر سامان معمولی ہوتا اور سفر میانہ ہوتا تو منافق ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ اور لیکن

marfat.com

کے نبی ہو سکتا ہے، مگر وہی جو پہلے اُمتی ہو، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مُہر کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی۔

"محمد عمر" ۔ مرزائی دھوکہ مشہور ہے، زہر حلوے میں ملا کر فروخت کرتا ہے، تاکہ سمیت کا اظہار تب ہی ہو، جب کھانیوالے کا خاتمہ ہی ہو جائے، اور بعد از اختتام اپنے خاتمے کو کون درست کر سکتا ہے، جو شخص قرآن کریم کو ختم کر کے بھی ختم کے معنی نہ سمجھے، تو اُس کو خدا ہی ختم کرے ؎

ختم رسل تم ہو، تو ہم خیر اُمم — آگے ہو قدم جس کا، قاطع ہے خدا اُسکا

تو ختم رُسل کردی وما خیر اُمم گشتیم — قدم آنکہ نہد پیشت، مقہور شود نارا

رُسُلاً خُتِمَتَ یَا خَاتِمَ الْقُرْآن

فَدُ مَا قَطَعْتَ اِذًا لِمَنْ سَبَقَاكَ (محمد عمر)

خاتم کی تحقیق لغات سے

(۱) قاموس ۴/۱۰۲

(خَتَمَهُ) يَخْتِمُهُ خَتْمًا وَخِتَامًا طَبَعَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِهٖ جَعَلَهُ لَا يُفْهَمُ شَيْئًا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْئٌ (وَالشَّيْئَ خَتْمًا بَلَغَ آخِرَهُ) ۔

یَخْتِمُهُ خَتْمًا وَخِتَامًا اُس نے اسکو مُہر لگائی اور اس کے دل پر مہر لگائی اسکو ایسا بنا دیا، کہ کچھ نہیں سمجھتا اور نہ اس سے کچھ نکلتا ہے۔ اور شئی ختم ہو گئی آخیر کو پہنچ گئی۔

(۲) مصباح المنیر ۲۵۳

وَخَتَمْتُ الْقُرْآنَ حَفِظْتُ آخِرَهُ۔

اور میں نے ختم قرآن کیا یعنی آخیر تک حفظ کیا۔

لغت احادیث

(۳) مجمع بحار الانوار ۲/۹

اُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ اَيْ الْقُرْآنَ خُتِمَتْ بِهِ الْكِتَابُ السَّمَاوِيَّةُ۔

مجھ کو جوامع الکلمات دیا گیا ہوں اور اس کا خواتم قرآن جس کے ساتھ تمام کتب سماویہ ختم کی گئیں۔

marfat.com

لِیَکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا میں بھی، تو فرمانِ الٰہی کا غلط ہونا محال، لہذا آپ کے لئے بُوت آدمی کا ہونا بھی محال، تو ان تمام وجوہات مروجہ مذکورہ بالا کی بنا پر رب العزت نے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ فرما کر آپ کی ذات پاک کو صلبی بیٹے سے مبرا رکھا، تاکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہی معزز ہیں جو نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب خاتم النبیین کی آیت میں جو جملہ خاتم النبیین کا موجود ہے، اس کی صحیح تفسیر عرض کرتا ہوں ؎

ہم ہوئے خیر اُمم تجھ سے ہی اے خیر رُسُل
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے (از مسیح مرزا غلام احمد)

خاتَم النبیین تا کی زبر سے ہے، لفظ خاتَم کا عربی زبان میں بند کرنے کے معنوں میں کبھی استعمال نہیں ہوا، اس کے معنی صرف مہر اور انگوٹھی کے ہیں، اور آپ کو نبیوں کا خاتَم مندرجہ ذیل مناسبتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔

(۱)۔ زینت۔ جیسے انگوٹھی جو پہننے والے کے لئے باعثِ زینت ہے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی زینت ہیں، انبیاء کا مقدس گروہ آپ کے وجود مسعود کو اپنے لئے باعثِ فخر و زینت سمجھتا ہے، اور یہ معنی تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے۔

(۲)۔ احاطہ۔ جس طرح انگوٹھی انگلی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح آپ تمام نبیوں پر محیط ہیں، یعنی جس قدر خوبیاں اور کمالات دوسرے انبیاء میں فرداً فرداً پائے گئے، وہ سب کے سب آپ کی ذات والا صفات میں بدرجۂ اتم موجود ہیں، اور آپ جامع کمالات انبیاء ہیں۔ اور علی الاطلاق سب انبیاء سے افضل و برتر ہیں، اور خاتم کا لفظ کمال کے معنوں میں عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ غوث الاعظم رح نے تُخْتَمُ الْوِلَایَۃُ فرمایا ہے۔

(۳)۔ تصدیق۔ خاتَم کے معنی مُہر کے بھی ہیں، دوسری قرأت خاتِم ہے، جسکے معنی مُہر لگانیوالے کے ہیں، اور مُہر تصدیق کے لئے لگائی جاتی ہے، اس صورت میں آپ سب نبیوں کے مصدق ہوگئے اور کسی نبی کی نبوت جب تک آپ کی مُہر نہ لگے، مکمل نہیں، چنانچہ مرزا صاحب نے بھی فرمایا ہے۔ کہ اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کی اُمت سے نہ ہوتا، تو کبھی نبی نہ کہلا سکتا۔ کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا، اور بغیر شریعت

marfat.com

خَاتَمٌ اور خَاتِمٌ وہ شے ہے جسکے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ اور ہر شے کے آخر کو بھی ختم کہتے ہیں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! تم تو کہتے تھے، کہ خاتم کے معنی بند کرنے کے ہوتے ہی نہیں، صرف مُہر اور انگوٹھی کے ہیں، اب تمہارے تینوں معانی کے متعلق وضاحت کرتا ہوں، تمہارے پہلے معنی زینت کے یہ بناوٹی ہیں، لفظ خاتَم کے معنی زینت کے کسی عربی لغت میں مذکور نہیں، اگر کوئی مرزائی کسی لغت عربی کی کتاب سے دکھا دے تو

پانچ آنے اِنعام حاصِل کرلے

تمہارے بیان کردہ دوسرے معنی انگوٹھی کے تو مرزائی صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں، کہ جیسے انگوٹھی اُنگلی کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح آپ نبیوں پر محیط ہیں، یعنی جس قدر خوبیاں اور کمالات دوسرے انبیاء میں فرداً فرداً پائے گئے وہ سب کے سب آپ کی ذات والاصفات میں بدرجہ اتم موجود ہیں، لفظ یعنی سے انگوٹھی کے احاطہ کی شرح مرزائی صاحب نے خوب فرمائی، اگر کوئی ذی شعور اس شرح کو ملاحظہ فرمائے تو مرزائی کی عقل کا ماتم کرے کہ انگوٹھی کا احاطہ اُنگلی پر ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء پر محیط ہیں، یعنی تمام انبیاء کی خوبیاں آپ کی ذات میں ہیں، تو مرزائی کا مطلب یہ ہوا، کہ اُنگلی کے وجود میں جتنے اوصاف ہیں، وہ تمام انگوٹھی میں موجود ہیں، کیونکہ وہ انگوٹھی اُنگلی کو محیط ہے، مرزائی صاحب کے مطیعون بھی سبحان اللہ کہنے والے خود بھی نرے معاذ اللہ ہی ہوتے ہیں، سچ ہے، کہ خداوند کریم جس کا دین چھین لیتے ہیں، تو عقل بھی ساتھ ہی استعفےٰ دیجاتی ہے۔ کیوں نہیں صاف ہی اقرار کرلیتے، جیساکہ انگوٹھی اُنگلی کو محیط ہے۔ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تمام انبیاء علیہم السلام کو محیط ہیں، محاط محیط کے اندر داخل ہوتا ہے، نہ خارج، تو جن انبیاء علیہم السلام کو آپ سے پہلے نبوت مل چکی، ان کی نبوت کو تو آپ کی نبوت محیط ہوگئی اور جو احاطہ کرنے کے بعد داخل ہونا چاہے تو بھلا اس کو محیط یا صاحب محیط کب داخل ہونے دیتا ہے، اور اگر باصول اقلیدس بھی محیط کے خارج سے محاط میں کوئی داخل تسلیم کیا جاوے تو محیط، محیط ہی نہ رہ جائیگا، بلکہ انقطاع سے خط منحنی باقی رہ جائیگا، اور محاط، محاط نہ کہلائیگا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا علیہم السلام کو محیط ہیں جو مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ تھے، اُن کے لئے تو آپ محیط، یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا علیہم السلام محاط ہیں، اور اگر کوئی مرزا صاحب کی طرح محیط یعنی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے داخل ہونا چاہے

marfat.com

مجمع بحار الانوار (۳۳۰)

والخاتم والخاتم من اسمائه صلی اللہ علیہ وسلم
ش بالفتح اسم ای آخرهم و بالکسر اسم فاعل خاتم وخاتم۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ سے ہے۔ اور خاتم کے معنی ان کا آخیر اور خاتم اسم فاعل ہے' ختم کرنے والا۔

لغت قرآنی

(۴) مفردات امام راغب ۱۴۲

وخاتم النبیین لانہ ختم النبوۃ ای تممها بمجیئہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسلئے ہیں، کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، یعنی آپ کے تشریف لانے سے نبوت پوری ہو چکی۔
وقیل ما یختم بہ ای یطبع و انما معناہ منقطعۃ۔

اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ مہر لگائی جائے اور کوئی بات نہیں، اس کے معنی ہیں، کہ اس کے منقطع کرنیوالا ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہے تحقیق، مسلمانوں میں قرآن کریم کی مشہور کتاب لغت جسے خاتم النبیین تا کی زبر کے معنی کئے کہ آپنے نبوت کو پورا کر دیا ہے۔ اب نبوت باقی نہیں ہے۔ یہ ہیں خاتم کے معنی حقیقی لغت قرآنی سے۔ تم بھی کسی قرآنی لغت کی کتاب سے ہی خاتم کے معنی مہر کے نکال کر دکھاؤ۔

پھر مہر کا محاورہ بھی قیل سے بیان فرمایا کہ بعض نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ مہر لگائی جاوے اور کوئی بات نہیں اس کے معنی بھی نبوت کے انقطاع کرنیوالے کے ہیں'

کیوں جی! تم تو کہتے تھے بند کرنے کے معنی میں خاتم استعمال ہوتا ہی نہیں، اب تو تمام کتب لغات سے خاتم کے معنی بند کرنے کے ثابت ہو گئے، (اب تم یہ بتاؤ قرآن کریم سے دکھاؤ جس سے تم صرف تشریعی نبوت کو ختم کرتے ہو اور ظلی کو جاری کرتے ہو، عیسائی لغت کا حوالہ بھی سن لیجئے)۔

عیسائی لُغت سے خاتم کی تحقیق

(۵) المنجد ۱۶۴

الخاتم والخاتم وختم الخاتام ... محمد عاقبة كل نبي

marfat.com

ہو چکے، اور صانع نے محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے خاتم بھی پورا پورا صحیح تمام انبیاءؑ گذشتہ کے مطابق تیار کر دیا، اب مرزائی کہتے ہیں، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کے بعد بھی آپکے بالتبع نبی بن سکتا ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے، کہ یہ بالتبع نبی کس جنس سے ہے، انگشتری کی جنس سے یا انگلی کی جنس سے، انگلی کے تابع یا انگشتری کے تابع، تو اگر کہا جائے، کہ انگشتری کے بالتبع، تو بھائی انگشتری پہنی ہی تب جاتی ہے، جب مکمل تیار ہو جائے، ورنہ صانع کی ذات میں نقص ثابت ہوگا، اور یہ ناممکن ہے، کیونکہ انگشتری انگلی میں جب پہن لی جائے، تو صانع کہے کہ ٹھہر جاؤ، انگوٹھی میں ایک کمی رہ گئی ہے، میں اس کو انگلی میں ہی درست کر دیتا ہوں، تو کون ذی شعور ایسے صانع کی بات تسلیم کریگا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم تشریف لا چکے۔ اب اس میں کمی بیشی ہر طرح سے محال اور اگر کہا جائے کہ انگلی کی جنس سے یعنی ماسبق انبیاء علیہم السلام کی جنس سے تو یہ بھی محال، کیونکہ انگوٹھی کے نیچے زائد انگلی کا نکلنا ہی محال، انگوٹھی ایسے زائد جسم کو اپنے نیچے پیدا ہونے ہی نہیں دیتی، تو مرزائی صاحب کے مسلمہ ترجمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے کے بعد آپکے بالتبع کوئی نبی بن سکتا ہے، یہ محال ہے اور اگر کوئی تسلیم کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتا، بلکہ ارشاد خداوندی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ کا مکذب ہے، اور قرآنی مکذب کی سزا تم خود سمجھ لو، یہ ہے تمہاری تسلیم شدہ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ کی تفسیر جس کے تم منکر ہو، فقیر نے وضاحت کر دی، تم چاہے ایمان لاؤ یا نہ، اٰمِنُوْا اَوْلَا تُؤْمِنُوْا۔

پھر تم خاتم کے معنی کمال لیتے ہو، جو کسی اہلِ لغت سے ثابت نہیں، ان معنی پر بھی تمہارا ایمان نہیں۔ کیونکہ خاتم النبیین کے معنی ہونگے، کہ تمام نبیوں کی نبوت کے مکمل کرنیوالے آپ ہیں، جب آپ تمام انبیاءؑ علیہم السلام کو مکمل کر چکے تو بعد میں کسی کو نبی تسلیم کرنا یہ مکمل ہونیکا انکار ہے، یا تو آپ کو تمام کا کمال تسلیم نہ کرو اگر آپ کو تمام انبیا علیہم السلام کا کمال تسلیم کرتے ہو، تو اس کے بعد کسی اور نبی کا پیدا ہونا آپ کے کمال میں نقص لازم آتا ہے، لہذا تم مرزائی خاتم النبیین کو کمال النبیین بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کے بھی منکر ہو۔ سچ ہے جن کی نبوت محض زبانی انکا ایمان بالقرآن بھی محض زبانی، خود ہی ترجمہ کریں اور پھر اس پر ایمان بھی صحیح نہ لاویں، تو ایسے لوگوں کو خداوند کریم توفیق ہدایت عنایت فرماویں۔

پھر تمہارے تیسرے معنی تصدیق کے کہ خاتم کے معنی تصدیق کے ہیں، اس پر بھی تم مرزائیوں کا ایمان نہیں، کیونکہ جب خاتم النبیین کے معنی تم نے مصدق النبیین تسلیم کر لئے، تو جب تمام انبیاء علیہم

marfat.com

تو محیط کا انقطاع لازم آئیگا، تو اس کا بعد سے یعنی خارج سے محاط میں محیط کو عبور کر کے داخل ہو نیوالا محیط کے احاطہ کا منکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر قرآن کریم کا مکذب ہے، لہذا اس صورت میں تمہارا دعوای کرنا اور ٹریکٹ شائع کرنے اور بار بار پکارنا کہ ہم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، یہ محض بے علم لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنا ہے۔ انگوٹھی کا کمال جو تم محض زینت سناتے ہو۔ یہ حقیقتہً مقصد الٰہی کے مطابق نہیں، بلکہ انگوٹھی کا کمال یہ ہوتا ہے، کہ انگوٹھی کو جب پہننے والا پہنتا ہے تو انگوٹھی انگلی کے شروع سے چلتی ہے، اور جڑ تک پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، اور جڑ کو ایسا مضبوط احاطہ کر لیتی ہے کہ جب تک لابس اسکو خود نہ ہلائے، ہلنے نہیں پاتی، اور انگلی سرے سے جڑ تک انگوٹھی پہننے کے وقت جس جسمیت میں ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے، اس میں کچھ کم و بیش نہیں ہوتا، اگر زائد جسمیت ہو جائے، تو صاحب انگشت اس کو کٹوا دیتا ہے، ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے جب مبعوث فرمایا اور خاتم النبیین کا خطاب عطا فرمایا (یعنی اب انگوٹھی کو انگلی پر پہنا یا گیا)۔ تو آپ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے تمام انبیا علیہم السلام کی ابتداء ہوئی، وہاں سے لیکر آخیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی جڑ تک پہنچ گئے اور ایسا احاطہ فرما لیا، کہ اب انگلی کے وجود میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے، باقی تمام انبیا علیہم السلام بمنزلۂ انگلی ثابت ہوئے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ انگشتری، اب مرزائی صاحب تمام انبیاء علیہم السلام کو بمنزلۂ انگلی تسلیم کر چکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمنزلہ انگشتری بھی تسلیم کر چکے اور اگر انگلی صحیح ہو، تب ہی صاحب انگلی انگشتری کا خواہشمند ہوتا ہے، اگر کٹی ہوئی ہو یا انگلی ہی نہ ہو، تو اُسے انگوٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ثابت ہو گیا، کہ انگلی بھی مکمل اور صانع نے انگشتری تیار کی تو وہ بھی انگلی کے حجم کے مطابق، اگر صانع اس امید پر انگوٹھی کھلی بنا دے، کہ شاید انگلی کا حجم کہیں بعد میں بڑھ نہ جاوے، ذرا کھلی بنا دوں تو مشتری اس کو خریدنے کے لئے تیار ہی نہیں، کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ میری انگلی کے قابل ہی نہیں، یہ گر جائے گی، انگلی میں ٹھہر سکتی ہی نہیں، اور اگر تنگ بنا دے تب صانع فروخت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ انگلی پر انگوٹھی چڑھتی ہی نہیں، تو جب تک صانع انگوٹھی کو انگلی کے مطابق پوری پوری نہ بنا دیگا تب تک وہ انگوٹھی اس انگلی کی کہلا سکتی ہی نہیں، لہذا انگلی کا قبل از انگوٹھی مکمل صحیح پورا ہونا ضروری، پھر انگوٹھی کا اُسی انگلی کے لئے جس کے لئے وہ تیار کی گئی ہے، پورا ہونا ضروری، تو خداوند تعالےٰ تو صانع کل ہے، اس لئے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وجود انبیاء علیہم السلام مکمل پورے

marfat.com

قرآن کریم سے ختم مہر کے معنی سے بند کرنا

(۱) بقرہ ۱/۱

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ۔
مہر لگادی اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں پر۔

کفار کے ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لادیں، اور حکم خداوندی کو ٹھکرا دیں، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مُہر کفر ثبت فرما دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، تو خداوند کریم کے اس مہر لگانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اُن پر یکساں ہے، کیونکہ وہ بے ایمان ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کی بے ایمانی کی وجہ سے اُن کے دلوں پر مُہر چسپاں کردی ہے تو ثابت ہوا، کہ جن کے دلوں پر رب العزت مہر لگا دیں، بعد ازاں اُن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، تو جس شی پر جس غرض کے لئے مہر لگا دیں، تو اس کا بالکلیہ اختتام ہو جاتا ہے، اجراء کی گنجائش باقی نہیں رہتی، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کفار کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگادی، مثل ابوجہل وغیرہ تو نہ اُن کے کانوں نے حکم مصطفائی کو قبول کیا اور نہ اُن کے دل ایمان کی طرف راجع ہوئے، ایسے ہی دوسرے مقام پر ارشاد الٰہی ہے۔

(۲) انعام ۷/۵

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ۔
فرما دیجئے (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تم بتاؤ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سمع اور بصارت کو لیلے اور تمہارے دلوں پر مُہر کر دے، اللہ کے سوا کون معبود ہے، جو اس کو واپس لوٹا دے۔

اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ جن کے دلوں پر رب العزت مُہر لگا دیں، پھر خداوند نے تو اُن کے دلوں کو ہمیشہ کے لئے ایمان سے خالی کر دیا، تو رب العزت فرماتے ہیں، کہ میں نے تو اس مہر شدہ دل کو ایسا ناکارہ کر دیا، پھر تمہارا کوئی دوسرا معبود ہے؟ جو پھر اس کو لائق بنا سکے، تو خداوند نے ثابت کر دیا جیسا کہ دوسرا معبود محال ایسے ہی خدا کے مہر شدہ دلوں کا درست ہونا محال، اب مرزائی کہے کہ نہیں جس پر مُہر لگ جائے وہ زیادہ اچھی کار آمد بنجاتی ہے، مرزائی صاحب یہ رواج محاورہ انگریزی ہے کہ جو شئے مہر شدہ ہو جائے

marfat.com

السلام کے صرف مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مصدق تسلیم کرتے ہو، تو جن انبیاء علیہم السلام کی آپ نے تصدیق فرمادی وہ انبیاء اللہ ثابت ہو گئے اور جو مصدق کی تصدیق کرنے کے بعد آجائے تو مجسٹریٹ کے تشریف لیجانے کے بعد اگر کوئی تصدیق کے لئے کاغذات لئے پھرے تو کون پوچھتا ہے، لہذا تصدیق کنندہ کا وقت مقررہ نکل چکا،

تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا،

اب بعد ازاں غیر مصدقہ نبی کو کون تسلیم کرتا ہے سوائے مرزائی جماعت کے، تو تمہارا مرزائیوں کا دعوای کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی مصدق النبیین تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی سادے مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔

پھر تم کہتے ہو، کہ ہم خاتم کو بمعنی مہر تسلیم کرتے ہیں، تو یہ بھی محض تمہارا کذب ہے، کیونکہ جب مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام نبیوں کی مہر ہیں، تو جب تمام انبیا علیہم السلام پر مہر ثبت ہو چکی، تو بعد میں خطِ نبوت لئے پھرنا کس کام؟ کیونکہ جب مہر کنندہ مہر کو اپنے مقام سے باہر نکالتا ہے، تو مہر لگانے کے لئے نکالتا ہے، جب اس نے مہر نکالی تو جو جو نبی اللہ تھے ان پر مہر کنندہ نے مہر ثبت کردی، اور جب وہ مہر کو ثبت کرکے مہر کو اپنے مقام پر رکھدے تو بعد ازاں کوئی خط لئے پھرے تو فضول ہے، اور اگر کہو کہ آپ کی ذات مہر ہے، اب آپکے بعد جو کوئی نبوت کا مدعی ہوگا، اس پر آپکی مہر چسپاں ہوگی، تو یہ بھی غلط۔ کیونکہ پہلے تمام انبیا علیہم السلام کا معاذ اللہ انکار لازم آتا ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑیگا، کہ مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مہر ہے، جتنے انبیاء اللہ تھے انپر مہر ثبت ہو گئی اور وہ سچے انبیاء اللہ۔ جو بعد میں بنے وہ بے مہرے غیر مصدقہ جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں، تو ثابت ہوا کہ تم خاتم بمعنی مہر بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے معنی الٹ کرتے ہو کہ مہر لگانے سے شے کا اجلو ہوتا ہے، اب مہر کی اصلاح قرآن کریم سے ہی تلاش کرلیتے ہیں، کہ مہر لگنے سے شے بند ہو جاتی ہے، یا اس کا اجراء ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمان ایماندار کے لئے خود قرآن کافی ہے۔

---

marfat.com

بس ہو گئی۔

اے امت مرزائیہ آیت خاتم النبیین کلام الٰہی ہے، لہٰذا اگر تمہیں دعوائے اجرائے نبوت کا سچا ہے تو قرآن کی اصطلاح سے دکھاؤ، ہم کسی اور کی کتاب سے تسلیم نہ کرینگے، قرآن بعض کی بعض تعبیر خود کر دیتا ہے ختم کے معنی اجرا یا فضیلت کے یا مبالغہ کے قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے نکال کر دکھا دو، تو تمہیں ایک مرزائی انعام مبلغ یکصد روپیہ ادا کیا جاویگا، ورنہ توبہ کرو، اور قرآنی آیت کے مقابل انسانوں کی مبالغہ آمیز کلام پیش کر کے گمراہ نہ کرو، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔

لمعہ شہادات باللہ

آیت شریف کے آخر میں ارشاد الٰہی ہے: وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، اس نے نبوت اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے اور آپ کو اس نے خاتم النبیین بنا دیا ہے تو وہ ہر شے کو خوب جانتا ہے، اس کو یہ بھی علم تھا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نبوت کو ختم کر دونگا تو منکرین کا امتحان ہو جائیگا جو جعلی نبوت کا مدعی ہوگا وہ خود شرمندہ ہوگا،

ان تمام آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد خدا کی طرف سے کسی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ ہیں معنی خاتم النبیین کے، جس میں مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن ایماندار کب دھوکہ کھا سکتا ہے، آیت ۱۰ سے ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونیکا فیصلہ رب العزت نے یوم میثاق کو ہی کر دیا تھا، اور اس مسئلہ کی بار بار تاکید اکید سے حل فرمایا، پھر دنیا میں قرآن کریم کی مذکورہ آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونیکا مسئلہ حل کر دیا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شخص کو کسی قسم کی نبوت مل سکتی ہے۔

ایسے ہی قبر میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی حساب منکر نکیر ختم ہوتا ہے، اگر آپ کے بعد کوئی کسی شخص کو نبوت خدا کی طرف سے ملتی، تو آپ پر حساب نکیرین ختم نہ ہوتا، بلکہ آپ کے بعد کے نبی پر ختم ہوتا، اگر نہیں یعنی محض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی حساب ختم ہوتا ہے تو ثابت ہوا، کہ حساب قبر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔

(۱) بخاری شریف ۱ ۱۷۸ - ۱۸۳	عن انس بن مالک انہ حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان

تو وہ شے زیادہ کار آمد بنجاتی ہے، چونکہ نبوت انگریزی ہے، اسلئے انگریزی محاورے سے تحریف قرآنی کے درپے ہیں، لیکن مرزائی صاحب الحق مبارک انگریزی اور دولتے قادیانی سے مزین ہیں، اس لئے محاورہ انگریزی کو بھی پورا نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں وکیل صاحب کو یہ لفظ کہنے کا مجاز نہیں رکھتا۔ البتہ اس کو تجاہل عارفانہ سے ہی تعبیر کرونگا، کیونکہ محاورہ انگریزی میں بھی مہر شدہ ترجمہ سیل ہے ایک ایسا لفظ کہ جس کو گورنمنٹ مہر شدہ کردے یعنی سیل کردے، تو اس سیل کو توڑنے والا سرکاری مجرم کہلاتا ہے، اور قابل سزا بنجاتا ہے، اسی طرح مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العزت نے عہدۂ نبوت کو سیل کردیا، اس سیل کو توڑکر نبوت کا مدعی مجرم خداوند کریم ثابت ہوگا، جو مستوجب سزا ہوگا، اور ملاحظہ ہو۔

(۳) جاثیہ ۲۵/۳ — اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

کیا آپنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پس ملاحظہ فرمایا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا اور باوجود علم کے اللہ نے اس کو گمراہ کردیا اور اس کے کانوں پر اور دل پر اس نے مہر لگادی اور اس کی بینائی پر اس نے پردہ کردیا، تو اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دیسکتا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔

اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا، کہ رب العزت جس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگادے تو اللہ تعالیٰ کے مہر لگانے کے بعد کون طاقت رکھتا ہے، جو اس کو ہدایت دیسکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب بھی تمہیں نصیحت نہیں آتی۔

(۴) یٰسٓ ۲۳/۴ — اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(دنیا مرت کو اللہ تعالےٰ فرماوینگے) آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر لگادینگے اور کفار کے ہاتھ ہم سے کلام کرینگے اور ان کے پاؤں گواہی دینگے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں،

اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا، کہ رب العزت کفار کے مونہوں پر مہر لگادینگے تو زبان کی قوت گویائی معدوم ہوجائیگی، بس ہوجائیگی، پھر اُن کے ہاتھ ان کے اعمال کسبیہ کے پول ظاہر کرینگے، اگر مرزائی معنی لئے جائیں تو چاہیئے تھا کہ قوتِ گویائی زیادہ ہوجائے، اور جب اللہ کے مہر لگانے سے قوت گویائی زبان کی بس ہوگئی، تو معلوم ہوا، کہ رب العزت نے جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنادیا، تو نبوت بھی

marfat.com

توحید کے بعد آپ کی ختم نبوت پر سوال نکیرین ختم، تم مرزائی آگے نبوت کو جاری کرو، تو تمہارا محض بہتان ہے، اور مسلمانوں کو ختم نبوت کا منکر بنا کر پہچانِ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کرکے قبر کو اندھیری بنانا مقصود ہے۔

آؤ مرزائیو! مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا عقیدہ رکھ لو، اور قبر کو روشن بنالو۔ ورنہ وہاں مرزاجی کا نام نہ لینگے، ایسے ہی قیامت کو بھی آپ پر نبوت ختم ہوچکی ہوگی، آپ کے بعد کسی کا کوئی نہ نام لیگا۔ چنانچہ رب العزت بھی قیامت کو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم ہونیکا اعلان فرمادینگے، ملاحظہ ہو۔

(۳۴۴) هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِیْنَ ۝

یہ ہے فیصلہ کا دن (اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ہم تمہیں بھی اکٹھا کرینگے اور تم سے پہلوں کو بھی۔

اس آیت کریمہ سے فیصلہ ہوا کہ قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہوگی، اور پہلے انبیاء اور ان کی امتیں ہونگی، آپ سے بعد والے مدعی نبوت کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، مارے مارے پھرتے ہونگے، یوم میثاق رب العزت کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کرنے کا فیصلہ دینگے، دنیا میں بھی رب العزت آپ پر ہی نبوت ختم کرنے کا کئی بار حکم جاری کرچکے ہیں، قبر پر بھی آپ پر نبوت ختم، قیامت کو بھی اللہ جل شانہ آپ سے اور آپ کے پہلوں انبیاء علیہم السلام سے ہمکلام ہوگا۔ آپ کے بعد والوں سے متوجہ نہ ہوگا، تب بھی آپ پر نبوت ختم ہوئی خدا کے تمام جہانوں میں تو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم ہونیکا اعلان ہوا اور اقرار ہوا، لیکن مرزائی حضرات واللہ اعلم کس جہان کے باشندے ہیں، جو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ نبوت کے اجراء پر یقین رکھ کر معلوم نہیں کس خدا کو مانتے ہیں، جو ان کو اجرائے نبوت پر مجبور کررہا ہے، لیکن یاد رکھو، اے امت مرزائیہ! خداوند کون ومکان کے روبرو جانا ہے وہاں کیا منہ دکھاؤ گے، اور خداوند لم یزل کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہوگے؟ آؤ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوۃ ختم ہونے کو تسلیم کرلو، تمام جہانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر تمام جہانوں کے خداوند کریم کو ناراض نہ کرو، کیونکہ اس کی نافرمانی اس کی سخت پکڑ کے سزاوار بنادیتی ہے، مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ کے مصداق ہوجاؤ گے، اب بھی وقت ہے توبہ کرو۔

marfat.com

فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ۔

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے ان کو حدیث بیان کی، کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اس سے اُس کے دوست منہ پھیرتے ہیں، بے شک ضرور اُن کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ تو صاحب قبر کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہ اُسے کہتے ہیں، اس آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا تو مومن پھر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(۲) ترمذی شریف
۱/۱۲۷

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهٗ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهٗ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ،

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو کہا تمہارے ایک نے کہ اس کے پاس دو فرشتے سیاہ ڈرانی آنکھوں والے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں، اس آدمی کے متعلق تو کیا کہتا تھا، تو کہیگا جو وہ کہا کرتا تھا، کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ دونوں کہتے ہیں، کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہیگا پھر اس کی قبر ستر مربع گز فراخ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لئے اس میں روشنی کی جاتی ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے سو جا، پھر وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل کی طرف واپس جا کر ان کو بتا آؤں، تو وہ دونوں اس کو کہتے ہیں، دُلہن کی نیند سو جا۔

تو ان حدیثوں سے ثابت ہوا، کہ قبر میں بھی اسخیر نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بات ختم ہو گی، اگر آپ کے بعد کا بھی کوئی نبی ہوتا، تو آپ کے بعد کے نبی کا بھی سوال کیا جاتا، معلوم ہوا کہ قبر میں بھی توحید

marfat.com

جس کو چاہتا ہے۔

(۲) نحل ۱۴/۱۱ وَاللّٰہُ اَخْرَجَکُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّھٰتِکُمْ۔
اور اللہ ہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتا ہے۔

(۳) رعد ۱۳/۹ وَاللّٰہُ یَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِہٖ۔
اور اللہ ہی ایسا حکم کرتا ہے، جس کے پچھاڑنے والا کوئی نہیں۔

(۴) رعد ۱۳/۴ اَللّٰہُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ۔
اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے، جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، جس کے لئے چاہتا ہے۔

(۵) انعام ۷/۸ اَللّٰہُ یُنَجِّیْکُمْ مِّنْھَا وَمِنْ کُلِّ کَرْبٍ۔
اللہ ہی بچاتا ہے تم کو اُن سے اور ہر سختی سے۔

(۶) بقرہ ۲/۳۷ اَلشَّیْطٰنُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَاْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَآءِ۔
شیطان ہی تمہیں محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے۔

(۷) بقرہ ۲/۳۷ وَاللّٰہُ یَعِدُکُمْ مَّغْفِرَۃً مِّنْہُ وَفَضْلًا۔
اور اللہ ہی اپنی طرف سے تمہیں بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا۔

(۸) یونس ۱۱/۴ اَللّٰہُ یَھْدِیْ لِلْحَقِّ۔
اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔

(۹) بقرہ ۲/۳۶ وَاللّٰہُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ۔
اور اللہ ہی دگنا بڑھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن میں فاعل کی خصوصیت کی بنا پر فاعل کو مقدم کیا گیا جس میں محض خصوصیت ہی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی رب العزۃ نے آیت مذکورہ متنازعہ کو خصوصیت محضہ بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

(۱۰) اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ۔
اللہ ہی ملائکہ سے رسولوں کو برگزیدہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی لوگوں سے رسولوں کو برگزیدہ فرماتے ہیں۔

دوسری خصوصیت خداوند کریم کو چونکہ علم تھا، کہ بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے، جو

marfat.com

ادلّہ مرزائیہ کے اجرائے نبوّت کے جوابات

"مرزائی" - تم نے تو کہہ دیا کہ نبوّت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، حالانکہ قرآن کہتا ہے، کہ نبوّت جاری ہے، سنیئے قرآنی آیت۔

اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ - کہ اللہ چنتا ہے اور چنے گا فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے، اس آیت میں یَصْطَفِیْ مضارع کا صیغہ ہے، جو حال اور استقبال دونو زمانوں کے لئے آتا ہے، لہذا ثابت ہؤا، کہ اللہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاءؑ چنتا رہے گا۔ (پاکٹ بک صفحہ ۳۹۶)۔

"محمد عمر" - فقیر نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں، وہ بھی تو قرآن کی ہیں، کیا ان پر تمہارا ایمان نہیں، تم نے منکر ہو، جو ختم نبوّت کی آیات صریحہ ہیں، ان کو تو تم نے اپنی مرزائیت کے تعصب سے ٹھکرا دیا۔ اب قرآنی آیات مرزائی سمجھنے کی لیاقت سے محروم ہے، سمجھے یا نہ سمجھے مقابلہ میں اپنے مطلب کے لئے بڑھ دیتا ہے۔ مطلب مطابق دعوی ہو یا نہ ہو۔ مرزائی صاحب تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ عربی اصطلاح کے مطابق فاعل فعل کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ کیونکہ لِکُلِّ فِعْلٍ فَاعِلٌ ہر فعل کے لئے فاعل ہوتا ہے، فعل سے فاعل کا علم ہوتا ہے، کم از کم فاعل کی تعریف ہی دیکھ لیتے

ہدایت النحو ۱۳ — اَلْفَاعِلُ کُلُّ اِسْمٍ قَبْلَہٗ فِعْلٌ نَحْوُ قَامَ زَیْدٌ۔ فاعل ہر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس کے پہلے فعل ہو، جیسا کہ قَامَ زَیْدٌ۔ کھڑا ہؤا زید، اور ملاحظہ ہو۔

شرح جامی ۶۷ — وَقُدِّمَ اَیِ الفعلُ او شبہہ علیہ ای علٰی ذٰلِکَ الْاِسْمِ فعل فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، ثابت ہؤا، کہ قانون عربی نحو کے مطابق فعل فاعل سے مقدم ہوتا ہے، اب مذکورہ بالا متنازعہ آیت میں فاعل مقدم ہے۔ تو فاعل کو فعل پر محض خصوصیّت کی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے، تو اس آیت کریمہ میں بھی محض خصوصیّت خداوندی مقصود ہے، جس کی بنا پر فاعل مقدم ہے، ایسے ہی کئی مقامات پر رب العزّت نے محض اپنی خصوصیت بیان فرمانے کے لئے فاعل کو مقدم فرمایا ہے، سنیے۔

(۱) **شوریٰ ۲۵/۲** — اَللّٰہُ یَجْتَبِیْٓ اِلَیْہِ مَنْ یَّشَآءُ - اللہ ہی اپنی طرف برگزیدہ فرماتا ہے،

marfat.com

ہوتا، تو اللہ رب العزّت اس کی خصوصیت کو بھی مستثنیٰ فرما دیتے، جیسا کہ اولیاء اللہ کے مقابلہ میں اولیاء الشیطان تھے، اس کا بیان فرمادیا، جو شخص بغیر نبی اللہ ہونے کے وحی رسالت کا مدعی ہو، تو اس کو اِنَّ الشَّیٰطِیْنَ لَیُوْحُوْنَ اِلٰٓی اَوْلِیَآءِ ھِمْ۔ کہ شیاطین اپنے اولیاؤں کی طرف شیطانی وحی کر دیتے ہیں، تو وحی الہی کے علاوہ وحی شیطانی کے ملہم کو رسول الشیاطین سے خطاب کرنا چاہیئے تھا، حالانکہ رسول الشیاطین کی جگہ اولیاء الشیاطین فرمایا کیونکہ خداوند نے شیطانی ملہم کو شیطانی رسول کے خطاب سے نامزد کرنا بھی رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی ہتک سمجھی، اور سچے رسولوں کے خطاب کو جھوٹے یا جعلی یا ظلی رسولوں کے دعوای رسالت کو کالعدم ثابت کر کے رسالت الٰہی کو معصومیت سے مزین شدہ قرار دے کر جعلی اور کسبی رسولوں کو اولیاء الشیطان کا خطاب دے دیا، اور رسالت کو انسانی ہو یا ملکی اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ سے لفظ اللہ فاعل مقدم کر کے اپنی خصوصیت کو بیان فرمادیا۔ رب العزۃ نے اپنی خصوصیت رسل کے چناؤ کے لئے فاعل کو مقدم بیان کر کے رسالت ظلی جعلی کسبی کا رد فرمادیا، اور کسبی نبوۃ کے لئے معنی اُلٹ بیان کر کے اجرائے نبوت کا مقصد نکالنا ہے، افسوس ہے مرزائی صاحب آپ کی اس تحریف قرآنی پر، پھر دوسرا دھوکہ ایک اور پیش کرتے ہیں، کہ جی مضارع چونکہ حال و استقبال دونوں کے معنی دیتا ہے، اس لئے اس کے معنی ہونگے کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا رسولوں کو، مرزائی صاحب خبر نہیں، عربی کس ہندو سے پڑھتے رہے ہیں، یا سکھ سے، جو زبان غیر ہونے کی بنا پر یا مذہب غیر ہونے کی وجہ سے صحیح تعلیم نہیں دے سکا، مرزائی صاحب تم اگر کچھ تھوڑی سی عقل رکھتے تو سمجھ لیتے میں ایک تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، کہ مثلاً ایک عورت ہے، اگر کوئی شخص اس کے ماں ہونے کا مدعی ہے تو وہ اس کو بیوی نہ کہہ سکے گا، اگر بیوی کہے گا، تو ایمان سے خالی ہو جائے گا، ایسے ہی جو دوسرا شخص اسی عورت کے متعلق بیوی کا تعلق رکھتا ہے تو اس حالت میں اس عورت کو ماں نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو شرعی سزا کا حقدار ہوگا، تو ثابت ہؤا، ایک عورت سے ایک ہی وقت میں ایک آدمی ماں اور بیوی دونوں تعلق قائم کرے تو یہ محال، اس عورت میں مجاز دونوں موجود ہیں، لیکن اگر ایک کے لئے بیوی ہے، تو اسی وقت میں اس شخص کے لئے ماں کا تعلق نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ دوسرے شخص کے لئے وہی عورت ماں کہلا سکتی ہے،

marfat.com

نبوت و رسالت کسبی کے قائل ہونگے، کہ انسان اپنے اعمالِ صالحہ کی بنا پر یعنی اطاعت سے درجہ رسالت کو پہنچ سکتا ہے، لہذا رب العزت نے اس عقیدہ کو باطل کرنے کے لئے فرمادیا کہ تمہارا کہنا، کہ اطاعت و اعمال سے مومن رسول کہلاسکتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ رسالت و نبوۃ اکتسابی شئے نہیں، کہ تم اپنے اعمال و طاعت سے درجہ رسالت و نبوۃ حاصل کرسکو گے، بلکہ نبوۃ و رسالت وہبی شئے ہے، فرمایا اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ۔ یہ اللہ ہی کو لائق ہے، کہ فرشتوں سے جسے چاہے رسول چن لے اور انسانوں سے جسے چاہے رسول چن لے، یہ مرتبہ رسالت کسبی نہیں ہے، وھب من اللہ ہے، ہاں اگر اس خصوصیت کو رب العزت کا عام کرنا مقصود ہوتا تو استثنا سے دوسرے کے لئے حکم خصوصی فرمادیتے ہیں، مثلاً جیسا کہ فرمایا۔

رعد ۱۳/۲　اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
اللہ ہی جانتا ہے جو مؤنث حاملہ ہوتی ہے، اور جو ارحام کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں۔

اس آیتِ کریمہ نے ثابت کردیا، کہ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى اور وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ کا علم اللہ کو ہی ہے، پھر دوسرے مقامات پر اس اپنے علم خصوصی کو انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی مستثنیٰ فرمادیا، جیساکہ دوسرے مقام پر فرمایا،

جن ۲۹/۲　عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ۔

اللہ ہی عالم الغیب ہے، اپنے خصوصی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر رسولوں سے جس کو پسند فرمائے۔

اب خداوند نے چونکہ اپنے علم خصوصی سے جس کو حصہ عطا فرمانا تھا، تو انکو دوسری آیت کریمہ سے خاص کردیا، ایسے ہی اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ میں بھی رسولوں کو برگزیدہ کرنا اور اپنی خصوصیت سے برگزیدہ فرمانا مقصود تھا، فاعل کو مقدم کرکے اپنی خصوصیت محضہ کو ہی بیان فرمادیا، اس کے مقابلہ میں چونکہ مخلوق میں کوئی اہلیت عطا نہیں رکھتا تھا، اگر کوئی بنالے تو جعلی کہلاوے، اس لئے اس منصب رسالت و نبوت کے عطا کرنے کو اپنی ذات تک ہی محدود و مخصوص فرمایا، ذات باری تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور کو رسول چننے یا خود بننے کا حق

marfat.com

خدائی اصطلاح نہیں، لسانِ عربی کی اصطلاح نہیں، بلکہ مرزائی صاحب کے خودساختہ معانی ہیں، جو لوگوں کو مثالیں دیکر دھوکہ دینا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے صحیح معنی حال کے ہونگے، کہ اللہ ہی چنتا ہیں ملائکہ سے رسولوں کو اور لوگوں سے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے چناؤ کا ذکر فرمایا ہے، رسالت کا چناؤ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اس میں انسانی اکتساب کا کوئی دخل باقی نہیں رہا، اور باقی رہا، کہ کب چنتا ہے، تو یہ امر باقی سابقہ آیتوں سے ثابت ہو چکا ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چناؤ کرتا رہا ہے، بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا چناؤ نہ ملائکہ سے برائے رسل انسانی اور نہ رسول و نبی انسان کا چناؤ ہو سکیگا۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ وعدہ الٰہی حتمی کئی آیتوں سے ہو چکا ہے۔ جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عالمین کا نذیر اور بشیر مقرر کر دیا گیا ہے، اور نبوت کو آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہی ختم کر دیا گیا ہے، اب آپ کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی محال، کیونکہ سلسلہ نبوت ہی بند ہو چکا ہے۔

"مرزائی"۔ سنت اللہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی، جب پہلے رسل بھیجتا رہا ہے، تو اب کیوں دروازہ بند کر دیا۔ سنت اللہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جب سنت قدیمہ یہی ہے کہ وہ تبلیغ کے لئے رسول بھیجا کرتا ہے، تو پھر اب بھی نبوت جاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ (احزاب ۸ و فاطر ۵) کہ اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی، اندریں حالات تمہارا ارسال رسل کا انکار کرنا بیہودہ ہے۔ (ت ۲)

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب نے ختم نبوت کو توڑنے کے واسطے ایک اور قسم کی ڈاکہ زنی فرمائی، کہ سنت قدیمہ ارسال رسل کی ہے۔ تو پھر اب کیوں نبوت جاری نہیں، یہ سنت اللہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آتے ہی رہیں گے، یہ مرزائی صاحب کا مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالنا محال ہے، کیونکہ قرآن کریم کو پس پشت ڈال کر یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، آئیے مرزائی صاحب جو ذَهَبَ اللّٰهُ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ کا معنون ہو، اس کے سامنے جو کچھ آجائے کہدیتا ہے۔ کیونکہ وہ پس و پیش کو دیکھ نہیں سکتا، مرزائی صاحب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل ارسال رسل کی سنت اس لئے تھی، کہ ہر قوم یا ہر علاقہ کے لئے نبی علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

(۱) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۔ کہ میں صرف بنی اسرائیل ہی کی طرف

marfat.com

عورت ایک ہی ہے، اس کے اوصاف کئی ہیں، پھر موصوف ایک کسی کی ماں ہے تو دوسرے کی بیوی، تیسرے کی بہن، علیٰ ہذا القیاس، اس کے اوصاف مختلفہ کے لئے موصوف مختلف ہونے سے مختلف اوصاف موجود مراد لیے جاسکتے ہیں، ورنہ نہیں،

"مرزائی" ۔ اگر ایک ماں کے کئی بچے ہوں، تو کیا وہ مختلف آدمیوں کی ایک ماں نہ کہلا سکے گی ۔

"محمد عمر" ۔ مرزائی صاحب کچھ سوچ کر تو بات کیا کرو، تمہاری ہر بات ہی بے سوچے نکلتی ہے قرآن بے سوچے نکل رہا ہے، بھلا دنیا دی مثال کو کیسے سمجھ سکو، مرزائی صاحب تمام کے لئے عورت کی صفت ماں تو ایک ہی ہے، یہی تو اختلاف ہے، جب اسی وقت صفت دوسری تسلیم کرو گے تو موصوف غیر کی ضرورت ہوگی، جیساکہ مضارع حال کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے اور استقبال کے لئے بھی، اب تم کہو کہ مضارع کی دونوں صفات حال اور استقبال کے لئے ایک ہی وقت استعمال کیا جائے۔ تو یہ غلط ہے، یا حال کے لئے استعمال ہوگیا یا استقبال کے لئے، ایک ہی وقت میں دونوں زمانوں کا استعمال محال ہے ۔ سنیئے ۔

مثلاً لفظ با کئی معنی سے مستعمل ہوتا ہے، الحاق کے معنی میں بھی، استعانت کے معنی میں بھی، تعلیل کے لئے بھی، مصاحبت کے لئے بھی، تعدیہ کے لئے بھی، مقابلہ کے لئے بھی، قسم کے معنی میں بھی، ظرفیت کے معنی سے بھی ———— زائد بھی کبھی آجاتی ہے ۔

اب لفظ باء کے ان تمام اوصاف کو پڑھ کر کوئی مرزائی کہدے کہ ایک ہی وقت میں با ایک ہی جملہ میں لفظ باء سے یہ تمام معانی مراد لئے جاویں گے، تو مسلمان کیا ہندو بھی اگر کچھ عربی سے تعلق رکھتا ہوگا، تو وہ مرزائی صاحب کو علم سے کیا، عقل سے بھی کورا سمجھے گا، کہ ارے کورے عقل کے گو لفظ باء کئی معانی سے مستعمل ہوتا ہے، لیکن مختلف المقام پر ایک ہی جملہ میں ایک ہی وقت تمام معانی کو استعمال کرنا محال ہے، ایسے ہی مثلاً مصدر کبھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے، کبھی مضاف ہوتا ہے، تو مصدر کے تمام عملوں کو ایک ہی وقت ایک ہی جملہ میں استعمال کرنا محال ہے، اور نہ ہی ہوسکتا ہے ۔

لہذا ثابت ہوا، کہ کلمہ عربی زبان میں جو کئی اوصاف یا معانی سے استعمال ہوتا ہو تو وہ ایک ہی جملہ میں ایک ہی وصف سے استعمال ہوگا ۔ وہ ایک ہی جملہ میں ایک ہی وقت مختلف المعانی استعمال نہیں ہوسکیگا اگر اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ اللہ ہی چنتا ہے، کہا جائیگا، تو اسی وقت زمانہ استقبال میں استعمال کرنا یہ

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۝

قوم لوط علیہ السلام نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اُن کو کہا، کیا تم ڈرتے نہیں، کہ میں صرف تمہارے لئے ہی امین بھیجا گیا ہوں۔

(۸) شعراء ۱۹/۱۰ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

جانگلیوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان کو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ بے شک میں صرف تمہارے لئے رسول امین ہوں۔

ثَمَانِيَةُ حُجَجٍ

ان تمام آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا، کہ اللہ رب العزۃ کا رسل وانبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کی سنت ماقبل از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی اپنی قوم یا علاقہ کے لئے مخصوص تھی، ماسبق سنت اللہ یہی تھی، پہلے نہ کسی کو لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا سے تمام جہانوں کا نذیر بنایا، اور نہ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ سے تمام جہانوں کی رحمت کسی کو مقرر کیا گیا، تاکہ سنت اللہ میں فرق لازم آتا، سنت اللہ تب تبدیل ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا جب پہلے بھی کسی نبی کو تمام جہانوں کے لئے وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا رب العزۃ مقرر فرماتے، اور بعد از رسل بھیجے رہتے، تو تمہارا کہنا درست ہو سکتا تھا، کہ سنت اللہ بدلتی رہتی ہے، جب پہلے تمام رسل قومی تھے، اور اب عالمی مقرر ہو گئے، تو سنت اللہ میں کیسے تبدیلی واقع ہوئی۔ یہ تو مرزائی کی نظر میں شاید ہو، اور وہ بھی نظر کے غلطی کھانے کا عذر ہو سکتا ہے، ورنہ وکیل صاحب سے یہ توقع نہیں،

دوسرا جواب رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، ملاحظہ ہو۔

انفال ۱/۱۴ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۔

فرمادیجیے مویارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کہ اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے گذشتہ گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر وہ عود کریں، تو پہلوں کا طریقہ سنت گذر چکا ہے۔ نافرمانوں کو عذاب الٰہی کا تھم

marfat.com

ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا۔ کہ

(۲) شعراء ۱۹/۱ | اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ
کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجدے۔

چنانچہ رب العزت نے آپ کے ذمہ بنی اسرائیل کو فرمایا۔ اور ساتھ ہی تخصیص فرمادی کہ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى۔ کہ فرعون کی طرف جا، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون و قومہ کی تخصیص فرمائی گئی۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کے لئے مخصوص کئے گئے تھے۔

(۳) شعراء ۱۹/۵ | وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِیْمَ ۘ اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ
آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھیے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا، کہ تم کیا عبادت کرتے ہو۔

(۴) شعراء ۱۹/۶ | كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ۔
تکذیب کی قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کی، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان کو کہا۔ کیا تم ڈرتے نہیں۔ بے شک میں صرف تمہارے لئے رسول امین ہوں۔

(۵) شعراء ۱۹/۷ | كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ۔
قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کہ میں صرف تمہارے لئے رسول امین بھیجا گیا ہوں۔

(۶) شعراء ۱۹/۸ | كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِیْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ۔
قوم ثمود نے رُسل کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کہ میں صرف تمہارے لئے رسول امین بھیجا گیا ہوں۔

(۷) شعراء ۱۹/۹ | كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

marfat.com

مرزائی: یہ نبی کی تعریف تمہارے عقیدے والوں کی ہے، اس لئے قابل قبول نہیں،

محمد عمر: مسلمانوں کے عقائد کی کتابوں میں تو نبی کی تعریف یہی ہے، تم اب تم کو اسی کے مطابق قرآن کریم سے دکھا دیتا ہے، ملاحظہ ہو۔

(۱) عنکبوت ۲۱/۵ — اُتْلُ مَا اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ۔
پڑھیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔

(۲) احقاف ۲۶/۱ — اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰی اِلَیَّ۔
نہیں اتباع کرتا میں مگر جو میری طرف وحی کی گئی۔

(۳) یونس ۱۱/۱۱ — وَاتَّبِعْ مَا یُوْحٰی اِلَیْکَ۔
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کریں، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔

(۴) مائدہ ۶/۱۰ — یٰاَیُّھَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمائیے جو آپ کے رب کی طرف سے اُتارا گیا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا۔

(۵) ۱۲/۵ — فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِہٖ اِلَیْکُمْ۔
پس تحقیق میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔

اِن آیات مذکورہ بالا سے نبوت کی تعریف واضح ہوگئی، کہ نبی اسے کہا جاتا ہے، جو اس کی طرف وحی کی گئی ہو، اب تم اپنے مرزا صاحب کا فیصلہ ہی سن لیجئے۔

آئینہ کمالات لاہوری ۲۷۵ — انبیاء اس لئے آتے ہیں، کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرادیں، اور بعض احکام کو منسوخ کریں، اور بعض نئے احکام لادیں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اب تم ہی نبوت کی تعریف سے مرزا صاحب کو پرکھو اور سوچو، کہ آیا نبوت جاری ہوسکتی ہے یا نہیں۔

جب شریعت کو کاملہ یقین کرتے ہو اور اس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں،

marfat.com

"محمد عمر" سبحان اللہ! دوست تم نے تو ایسا جملہ بول دیا جس نے تمہاری اختراعی نبوت کی جڑ کاٹ کر رکھدی۔ جب شریعت ہی مکمل ہو چکی، تو نبی کی کیا ضرورت، کیونکہ نبی کی تعریف ہی یہ ہے، کہ

شرح عقائد جلالی ۸ اَلنَّبِیُّ اِنْسَانٌ بَعَثَہُ اللّٰہُ اِلَی الْخَلْقِ لِتَبْلِیْغِ مَا اُوْحِیَ اِلَیْہِ۔

نبی ایسا انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف مبعوث فرماتے ہیں، تاکہ جو اس کی طرف وحی ہو، اس کی تبلیغ کرے، اس سے ثابت ہوا، کہ نبی اُسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو اس کی طرف وحی کی جائے، اس کی تبلیغ کرے۔

تمہارے مرزاجی بھی اس تعریف سے نبیوں کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اور تمہارا اجرائے نبوت کا مسئلہ بھی ختم ہوگیا، کہ جب تم شریعت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانتے ہو اور تسلیم کرتے ہو، کہ آپ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آسکتا، تو کوئی نبی طریق بالا نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی اُسے ہی کہا جاسکتا ہے، جو ما اُوحی الیہ کی تبلیغ کرے۔ اور بقانون اِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ الْمَشْرُوْطُ وَاِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ۔ ما اُوحی الیہ کی تبلیغ والا آنہیں سکتا، تو اور نبی کا بننا محال، کیونکہ نبی کی تعریف ہی یہی ہے، لتبلیغ ما اُوحی الیہ یعنی جو اس کی طرف وحی ہو، اس کی تبلیغ کے لئے آتا ہے۔

"مرزائی" تم نے تو غضب کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس کے تابع نبی تھے، اُن پر کوئی وحی نازل نہ ہوتی تھی، یعنی ان کو کوئی صحیفہ نہیں ملا، تو تمہارے اس خیال سے تو حضرت ہارون کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے، معاذ اللہ!

"محمد عمر" وکیل صاحب! تم بھی تو نرے میاں مٹھے ہی ہو، کم از کم قرآن کریم کی طرف نظر تو دوڑا لیا کرو۔

انبیاء ۴/۱۷ وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰی وَھٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ۔

اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دی، جو حق و باطل کی تفریق کرنے والی تھی۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! دونوں کو کتاب ملی۔ یا ایک کو؟

marfat.com

کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس شعر میں شاعر نے تمام قبائل کے مقابلہ میں اپنی رفعت بیان کی ہے۔ اور اگر تمہارے مطلب کو مدنظر رکھا جائے۔ کہ ہمیشہ وہ میرا گھوسی ہی بنا رہتا ہے۔ تو قائل کی بجائے رفعت ہتک ثابت ہوگی، یہ جملہ شرطیہ ہے فصلیہ نہیں، ورنہ معانی تبدیل ہوجائیں گے، کہ اس کے پاس بھی عمر گذاری، تو گھوسی کا گھوسی ہی رہا، کوئی ترقی نہ کرسکا، تو ثابت ہؤا، کہ یہ تمہارا مطلب غلط ہے۔ شاعر کی مراد یہی ہے، کہ جب قوم اپنے سردار کو سرداری کی حالت میں بھیجتی ہے، تو اس حال میں وہ میرا گھوسی ہوتا ہے۔ اس میں استمرار نہیں، اگر استمرار لیا جاوے، تو معانی غلط ہوجائیں گے،

دوسرا تمہارا حوالہ کہ بیضاوی میں اِنِّیْ اُعِیْنُ عَابِکَ وَذُرِّیَّتَهَا کے ماتحت اُعِیْذُهَا بِکَ فِیْ کُلِّ زَمَانٍ مُسْتَقْبِلٍ لکھا ہے، یہ حوالہ غلط ہے، بیضاوی میں اس مقام پر یہ عبارت نہیں ہے۔ لہٰذا مرزائیات میں شمار کرونگا۔ اور تمہارا اس عبارت سے بھی استدلال نہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ مضارع کے ساتھ ذُرِّیَّتَهَا مضارع کو زمانہ استقبال کے ساتھ خاص کرنے والا قرینہ موجود ہے۔ اور پھر مضارع کو ایک زمانہ استقبال کے ساتھ ہی خاص کیا ہے۔ تم دونوں کو اکٹھا مراد لیتے ہو، تمہارا کہنا یہ بھی غلط ثابت ہؤا، اور محض مضارع کو استمرار سے خاص کرنا یہ بھی مرزائی اصطلاح ہے، عربی زبان کی اصطلاح نہیں ہے، اور نہ کوئی ذی فہم بچہ بھی اس غلطی کو تسلیم کرسکتا ہے۔

"مرزائی" ۔ اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

خدا تعالےٰ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑیگا، جس پر اے مومنو! اس حالت میں ہو، یہانتک کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کردے گا۔ خدا تعالےٰ ہر ایک مومن کو غیب پر اطلاع نہیں دیگا (فلاں پاک ہے اور فلاں ناپاک) بلکہ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہے گا بھیجے گا۔ (اور ان کے ذریعے سے پاک اور ناپاک میں تمیز ہوگی)۔ پس اے مسلمانو، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو، تو تم کو بہت بڑا اجر ملیگا۔

marfat.com

تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت مکمل ہونے سے تمہیں کونسی چیز مانع ہے، چنانچہ عالمین میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، ارے جس کی شریعت کاملہ اس کی نبوت بھی کاملہ۔ جو ایکی شریعت کو کیسے کمل سمجھتا ہے، جو نبوۃ کو مکمل نہیں سمجھتا، یہ محض مرزائی گورکھ دھندا ہے، جو ہر ذی فہم سمجھ سکتا ہے، شریعت غیر محرف تو نبوّت بھی غیر محرف۔

لہٰذا ثابت ہوا، کہ شرعی اور غیر شرعی نبوّت کی تقسیم کر کے اس آیت میں ایک رخنہ نکالنا، یہ محض مرزاجی کی ہوشیاری ہے، ورنہ نبی کی تعریف کے مطابق نہ مرزاجی نبی بن سکتے ہیں، اور نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اَللّٰہُ یَصۡطَفِیۡ مِنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ نے ایک اور حکم صاف کر دیا، کہ خداوندی ملائکہ سے قاصد اپنا چُنتے ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے جبریل علیہ السلام رب العزّت کی طرف سے مقرر تھے، نہ کہ مرزا صاحب کی طرح خود ہی ٹیچی اور شیر علی وغیرہ کو تلاش کرتا پھرے۔

"مرزائی" ۔ اَللّٰہُ یَصۡطَفِیۡ استمرار تجددی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ چنتا رہے گا، استمرار میں تینوں زمانے شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ اَوَ کُلَّمَا وَرَدَتۡ عُکَاظَ قَبِیۡلَۃٌ بَعَثُوۡٓا اِلَیَّ عَرِیۡفَھُمۡ یَتَوَسَّمُ اور بیضاوی میں بھی زیر آیت اَحۡیٰنَاھَا بَلۡدَۃً مَّیۡتًا کے ماتحت لکھا ہے، اُحۡیِیۡنَھَا فِیۡ کُلِّ زَمَانٍ مُسۡتَقۡبِلٍ۔ (پاکٹ بک ص۳۰۲)۔

"محمد عمر" ۔ سُبحان اللہ! مرزائی صاحب، علم عربی کو تو آپنے کھلونا بنا رکھا ہے۔ جدھر چاہا، قانون گھڑ لیا، عبارت عربی کا کچھ مطلب ہو، لیکن مرزائی اپنے مطلب کی طرف موڑ لیتا ہے، بنے یا نہ۔ پہلے تو کہہ دیا کہ مضارع استمرار کے لئے مستعمل ہوتا ہے، حالانکہ مضارع کے ساتھ جب تک کَانَ نہ شامل ہو، تب تک مضارع استمرار کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اس مقام پر کَانَ مذکور نہیں، لہٰذا تمہارا استمرار کا دعوای غلط۔ پھر مثال میں ایک شعر پڑھ دیا، جس کے دوسرے مصرعہ میں استدلال غلط لیا گیا ہے، بَعَثُوۡٓا اِلَیَّ عَرِیۡفَھُمۡ یَتَوَسَّمُ یعنی جب عکاظ میں کوئی قبیلہ قیام پذیر رہتا، تو وہ اپنے بزرگ کو میری طرف بھیجتے ہیں، تو میرے پاس آ کر گھوسی بنتا ہے، مرزائی صاحب! کچھ تو ناک رکھ لو۔ اتنا ناک کٹاؤ، کہ ہندو، سکھ، عیسائی بھی تمہاری عربی دانی سنکر مضحکہ اڑائیں، اس مصرعہ میں یَتَوَسَّمُ جو ہے، جو جملہ اپنے ماقبل سے حال ہے۔ یعنی جب قبیلہ میری طرف اپنے سردار کو اپنا وقار ثابت کرنے کے لئے بھیجتا ہے، تو وہ ان کے ہاں کا انتہائی مرتبہ والا میرے ہاں وہ گھاس لانے کے

marfat.com

رب العزت نے ڈانٹا۔ کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اور کفار نہ گمان کریں، جو ہم اُن کو مہلت دیتے ہیں، اُن کے نفسوں کے لئے بہتر ہے، اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہو رہا ہے، کہ خداوند کریم نے کفار کو بھی ابھی مہلت دی ہوئی تھی، کہ منافقین مومنین کا بھید لے بھی جاتے تھے، تو بھی ان کو علیحدہ نہ کیا گیا تھا، یہ تفریق غزوۂ احد میں ہوئی، جب منافقین نے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ہی انکار کر دیا، کہ انہیں ہمارے نفاق کا علم نہیں، تو اس آیت وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ سے اُن کی تفریق ہوئی، قرآن کریم میں تمہارے معنی کو ایک جملہ عَلٰى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ کہ رب العزت کو یہ گوارہ نہیں کہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے، جس پر تم اب ہو، تمہارے معنی کو غلط ثابت کر رہا ہے۔

کیونکہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جس حالت پر وہ اس وقت تھے، یعنی اختلاطی صورت میں کہ منافقین پر سختی کر کے ابھی ان کو نکالا نہ گیا تھا، اللہ جل شانہٗ نے مومنین کو اس حالت اختلاطی میں چھوڑنا گوارہ نہ فرمایا، اس آیت کریمہ سے منافقین کو علیحدہ کیا گیا اور يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ سے منافقین سے کفار کی شمولیت میں مومنین کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور تمہارے معنی غلط ہونے کی چوتھی دلیل قرآنی اسی آیت کے آخر میں موجود ہے، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اگر تم مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر ایمان لائے۔ کہ آپ کو منافقین کا علم ہے، اسی بنا پر منافقین سے علیحدگی کا حکم جاری فرما دیا، اور ان کے نام نہیں گنائے، تاکہ منافقین کو ثابت ہو جائے، کہ رب العزۃ نے علم مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف رکھا ہے، کہ جس کو آپ منافق فرما دیں وہ منافق ہے اور جس کو آپ مومن ثابت رکھیں وہ، رہے۔ تو یہ چاروں دلائل قرآنی صی احتہ النص سے تمہارے معنی کو غلط ثابت کر رہے ہیں، کہ یہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین و منافقین کی تفریق کرنا مراد ہے پانچویں دلیل تمہارے معنی غلط ہونے کی یہ ہے، کہ خداوند کریم فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے، تاکہ مومنین کو اس حالت پر چھوڑ دے، جس پر تم اب ہو، حالت مومنین اس وقت منافقین سے مخلوط اور رب العزت کو گوارہ اس وقت نہ ہو، لیکن تفریق کرے ساڑھے تیرہ سو سال بعد، تو بعد از مرگ واویلا یہ مرزائیت کے دماغ کا ہی اختراع ہوگا اور اس مرزائی عقل کے معنی کو دیوانگی پر حمل کیا جاویگا، حالانکہ رب العزت نے اسوقت وَمَا كَانَ اللّٰهُ

marfat.com

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کم ازکم تیرہ سال بعد نازل ہوئی، جبکہ پلک اور ناپاک میں ابوجہل وغیرہ میں کافی تمیز ہوچکی تھی، مگر خدا تعالےٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ خدا تعالےٰ مومنوں میں پھر ایک دفعہ تمیز کریگا۔ مومن کے ذریعے نہیں، بلکہ رسول بھیجکر یعنی ہم پھر ایک دفعہ تمیز کرینگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک دفعہ یہ تمیز ہوگئی، اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور تمیز کریگا، پس اس سلسلہ سے نبوت ثابت ہے۔ (پاکٹ بک ص۳۹ تا ص۴۰)

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب خدا کے روبرو ہونے کا تمہیں کیا ڈر؟ جب قرآن والے کو ہی ترک کردیا، تو قرآن سے تمہارا کیا تعلق۔ جتنا تم سے ہوسکتا ہے، بیشک دل کھول کر قرآن کو بدلو۔ معانی بگاڑو۔ خدا کے فضل سے تمہارے جیسے کئی گذر گئے، اور کئی گذر رہے ہیں، اور کئی گذرینگے، اور اس قرآن کریم کے بگاڑنے کی کوشش بھی سر توڑ ہوئی اور ہوتی رہے گی، لیکن اس قرآن میں ایک لفظ نہ بدلا اور نہ بفضلہ بدل سکتا ہے، یہ جو تم نے معنی کئے ہیں، ایسے خلافِ عبارت معنی تو اگر یہ بھی نہ کریگا، تم نے ہر طرح قرآن میں زیادتی کی، اشارۃً، کنایۃً، صراحۃً، دلالۃً، معنیً، لفظاً۔ لیکن پھر بھی تمہاری مطلب برآری نہ ہوسکی، اب اس آیۃ میں تم نے کہہ دیا ہے، کہ کفار میں اور مومن میں تمیز کافی ہو چکی تھی، لیکن وکیل صاحب بات گول مول بنا گئے، یہ بتایا نہیں، کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اور کس وقت نازل ہوئی، وکیل صاحب اگر آپ کو قرآن کی چوری کی عادت ہے، تو فقیر کا عمل ایسے چوروں کی چوری نکالنا ہے، غزوہ احد کے وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب منافقین نے باتیں بنائیں کہ یہ نبی آسمان کی خبریں دیتا ہے لیکن ہم دشمن ان کے مریدوں میں ملے ہوئے ہیں، ہماری خبر نہیں رکھتا، تو اللہ تعالےٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ابھی اسوقت منافقوں کو مومنین سے نکالا نہ گیا تھا۔ جو اس آیت کریمہ کا ماقبل بھی ثابت کررہا ہے۔ اور یہ تمام ذکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین اور منافقین کا ہی ہے۔ جو تم نے بعد کا کہا ہے، کہ آپ کے بعد یہ تمیز کریگا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس مذکورہ آیت کے ماقبل تمام غزوہ احد کا ذکر ہے، ملاحظہ ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار غم میں نہ ڈالیں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، پھر آگے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کو

marfat.com

جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ لہٰذا استقبال کے معنی کرنا یہ قرآن کریم کی اصطلاح ومحاورہ عرب میں بے ایمانی ہے اب منکرین اسلام سے فیصلہ کرلیتے ہیں، کہ آیا جو تم مرزائی معنی غلط گھڑتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ بعد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی نبی سے فیصلہ کریگا مراد ہے، یا یہ فیصلہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا۔

اُدلّہ تفاسیر

تحت وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔

(۱) تفسیر کبیر ۳/۱۸۱

اعلم ان ھذہ الاٰیۃ من بقیۃ الکلام فی قصۃ احد

تو سمجھ لے کہ آیت واقعہ غزوہ احد کے بقیہ کلام سے ہے۔

فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهٖ وَعَلٰى تَصْدِيْقِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مُنَافِقًا ظَهَرَ نِفَاقُهٗ وَكُفْرُهٗ۔

تو جو شخص مومن تھا اس کے ایمان پر مہر لگ گئی اور تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو شخص منافق تھا اس کا نفاق اور کفر ظاہر ہو گیا۔

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۴۳۲

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ) قَالَ مُجَاهِدٌ مَيَّزَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اُحُدٍ۔

اور ایسا نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ مومنین کو اس حالت پر چھوڑ دے، جس پر تم اب ہو حتیٰ کہ علیحدہ کر دے خبیث (منافق) کو طیب (مومن) سے۔ کہا مجاہد نے اللہ نے تمیز کر دی علیحدگی کردی اُحد کے دن۔

(۳) تفسیر بیضاوی ۲/۳۹

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اَلْخِطَابُ لِعَامَّةِ الْمُخْلِصِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ فِيْ عَصْرِهٖ۔

اس آیت میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلصوں اور منافقوں کو خطاب ہے آپ کے زمانے میں،

marfat.com

لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ سے منافقین کو مومنین سے الگ کر دیا۔ بعد میں پھر خلفاء اربعہ رضؓ اور یزید کے زمانہ میں پھر منافقین مل گئے، اگر بعد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہوتا، تو اسوقت منافقین سے میل جول کا قانون نہ بنتا، اب نقیر اسی عبارت کی کئی آیتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے معنی استقبال کے نہیں لے سکتے۔

قرآن کا ترجمہ قرآن سے

(۱) توبہ $\frac{11}{14}$	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰهُمْ اور اللہ تعالےٰ کو گوارہ نہیں ہے، کہ گمراہ کرے اس قوم کو جب اُس نے اُسے ہدایت دی ہو۔
(۲) فاطر $\frac{22}{5}$	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالےٰ ایسا نہیں کہ اُسے آسمان میں کوئی شے عاجز کرے اور نہ زمین میں۔
(۳) توبہ $\frac{11}{15}$	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً۔ اور مومنین کو یہ لائق نہیں، کہ تمام کے تمام نکل پڑیں۔ (جہاد کے لئے)
(۴) انفال $\frac{9}{14}$	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ۔ اور اللہ تعالےٰ کے یہ لائق نہیں، کہ ان کو عذاب کرے۔ اس حالت میں کہ آپ اُن میں ہوں۔

اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ

یہ اسی متنازعہ فیہا آیت کریمہ کے مضمون کی آیتیں موجود ہیں، لیکن اس میں استقبال کے معنی نہیں، جو صاحب علم سے مخفی نہیں، لام مضارع پر داخل ہے، نفی کی تاکید کے لئے جو اقتران کو ظاہر کر رہا ہے، نہ کہ استقبال کو، تو ثابت ہؤا، کہ یہ فیصلہ زمانہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا ہے لہٰذا تمہارے معنی از روئے محاورۂ قرآن کریم غلط ثابت ہوئے، ان امثلہ مذکورہ بالا سے جو بعینہ تمام ترکیب نحوی میں متنازعہ فیہا آیت کی مثل ہیں، جن سے اقترانِ زمانی فوری ہے، نہ استقبالی

marfat.com

لہ صار داہ مخالفین لنص اخر وھو قولہ وخاتم النبیین۔

اور لیکن اللہ نے یجتبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی طرف وحی کرتا ہے، اور اس کو خبر دیتا ہے، کہ غیب میں ایسے ہے، اور بے شک فلاں کے دل میں نفاق ہے، اور فلاں کے دل میں اخلاص ہے، تو یہ اللہ تعالےٰ کے اخبار سے ہوتا ہے، من جہتہ نفس نہیں، اور یہ آیت بنی کو باطنی علم ہونے پر دلیل ہے، پس بے شک وہ اس علم کا اپنے امام کے لئے دعوای کرتے تھے، تو اگر وہ امام کے لئے نبوت ثابت نہ کریں، تو وہ اس عنصر کے مخالف ہوجاتے، کہ انہوں نے غیر رسول کے لئے علم غیب ثابت کر دیا، اور اگر وہ اپنے امام کے لئے نبوت ثابت کر دیں، تو دوسری نص کے مخالف ہوجاتے ہیں، اور وہ اللہ کا فرمان ہے، وَخَاتَمَ النَّبِیّٖن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! علامہ نسفی نے تو مرزائیت کی جڑ کاٹ کر رکھدی۔

(۸) معالم التنزیل ۳۸۲ (ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء) قال السدی معناہٗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اِجْتَبَاهُ۔

اب فقیر اس آیت کاملہ کو لکھتا ہے، اور اس کے معنی لفظی عرض کرتا ہے، جس میں مرزائی نے بددیانتی سے کام لیا۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ۔

اور اللہ تعالےٰ ایسا نہیں ہے، کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے، جس پر تم ہو، حتیٰ کہ علیحدہ کردے خبیث کو (منافق کو) طیب سے (مومن سے)، اور نہیں ہے اللہ تعالےٰ کہ تم تمام کو علم غیب پر اطلاع دے، اور لیکن اللہ تعالےٰ اپنے رسولوں (ماسبق) سے چنتا ہے۔ جس (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو چاہتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے غیب پر اور اگر تم ایمان لے آئے، (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اور آپکے تفویض کرنے مومنوں اور منافقوں پر) اور ڈرے تم (منافقوں کی بے ایمانی سے) تو تمہارے

marfat.com

(۴) تفسیر جلالین ۵۳

حَتّٰی یَمِیْزَ الْخَبِیْثَ ۔ اَلْمُنَافِقَ مِنَ الطَّیِّبِ ۔ اَلْمُؤْمِنِ بِالتَّکَالِیْفِ الشَّاقَّۃِ الْمُبَیِّنَۃِ لِذَالِكَ فَعَلَ ذَالِكَ یَوْمَ اُحُدٍ ۔

حتیٰ کہ علیحدہ کرے اللہ تعالٰی خبیث کو یعنی منافق کو طیب سے یعنی مومن سے ظاہر سخت تکلیفوں سے، اس لئے تو یہ (علیحدگی) اللہ نے کردی اُحد کے دن ۔

(۵) ابن جریر ۴/۱۱۶

حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنی ابوعاصم عن عیسٰی بن ابی نجیح عن مجاھد فی قول اللہ مَاکَانَ اللّٰہُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلٰی مَآ اَنْتُمْ عَلَیْہِ حَتّٰی یَمِیْزَ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیِّبِ قَالَ مَیَّزَ بَیْنَھُمْ یَوْمَ اُحُدٍ نِ الْمُنَافِقَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ۔

کہا مجاہد نے احد کے دن اللہ نے منافق کو مومن سے علیحدہ کر دیا ۔

(۶) تفسیر خازن ۱/۳۸۲

فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اَکْثَرَ الْمُفَسِّرِیْنَ اَلْخِطَابُ لِلْکُفَّارِ وَالْمُنَافِقِیْنَ ...... فَمَیَّزَ اللّٰہُ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنَ الْمُنَافِقِیْنَ یَوْمَ اُحُدٍ ۔

تو کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما نے اور اکثر مفسرین نے یہ خطاب کفار اور منافقین کو ہے ...... پھر اللہ تعالٰی نے مومنین کو احد کے دن منافقین سے علیحدہ کر دیا ۔

تو ان تفاسیر کے تمام حوالہ جات سے ثابت ہوا، کہ اس آیت میں مرزائی معنی غلط ہیں، اور قرآن کریم میں زیادتی ہے، خداوند کریم تم کو ہدایت دے، فقیر اب اَللّٰہُ یَجْتَبِیْ کے معنی عرض کر دیتا ہے ۔

(۷) تفسیر مدارک ۱/۱۵۳

(ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء) ای ولکن اللہ یرسل الرسول فیوحی الیہ ویخبرہ بان فی الغیب کذا وان فلانا فی قلبہ النفاق وفلانا فی قلبہ الاخلاص فیعلم ذالك من جھۃ اخبار اللہ لا من جھۃ نفسہ والایۃ حجۃ علی الباطنیۃ فانہم یدعون ذالك العلم لاما مھم فان لم یثبتوا النبوۃ لہ صاروا مخالفین للنص حیث اثبتوا علم الغیب لغیر الرسول وان اثبتوا النبوۃ

marfat.com

اور شہید ہوئے، یاد رہے کہ یہاں اٰمَنُوْا صیغہ ماضی اور رُسُلِہٖ صیغہ جمع ہے، بخلاف مَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ والی آیت کے، کہ اس میں یُطع مضارع ہے، اور الرَّسُوْلَ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ گویا پہلے انبیاء کی اطاعت درجہ نبوت تک نہیں پہنچا سکتی"۔ (مکمل پاکٹ بک ص۴۰۵)۔

محمد عمر:۔ مرزائی صاحب! جو بات نکالتے ہو، نرالی ہی ہوتی ہے، تمہارا مطلب قرآن میں موجود ہو یا نہ، اس آیت کریمہ میں رب العزت نے پہلے شرط بیان فرمائی ہے، کہ جو شخص اطاعت کریگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جملہ میں اللہ تعالےٰ نے مطیع کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو، تو مطیع مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال یہ ہے۔ کہ مطیع مطیع ہی رہیگا۔ یا مطاع بن جائے گا، اگر مطیع کو اطاعت سے رسالت حاصل ہو سکتی ہے، تو یہ اصول سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ پہلے قانونِ خداوندی مذکور ہو چکا ہے، اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ، کہ اللہ ہی رُسُل کا چناؤ کرتا ہے فرشتوں سے ہو یا لوگوں سے، اگر تمہارے معنی کئے جاویں، کہ اطاعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت مل سکتی ہے، تو اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ فرمان الٰہی کی معاذ اللہ تکذیب لازم آئیگی، کیونکہ رُسُل کے چناؤ کی ابتداء من جانب اللہ ہے، نہ کہ اس کا حصول باطاعت، تو ان دونوں آیتوں میں تضاد لازم آئیگا۔ تو معلوم ہؤا، کہ اطاعت سے حصول نبوت نہیں، یعنی بندہ بتدریج درجہ نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ درجہ نبوت کی ابتداء رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مطیع درجہ مطاع کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی محال، کیونکہ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، مطاع مساوی ہو گا یا ناقص، اگر مساوی ہو تو شرک فی الرسالۃ لازم آیا، لہٰذا یہ بھی ناممکن۔ اگر ناقص ہو تو بعد از نبوت کاملہ یعنی عروج سے ہبوط کی طرف تسلیم کنندگان کے ایمان میں نقص لازم آئے گا، اور اصل میں بھی نقص لازماً ثابت ہو گا۔ تو یہ دونوں صورتیں محال، لہٰذا مطیع اللہ جل شانہٗ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باطاعت درجہ مطاع یعنی نبوت کو پہنچنا یعنی وصول الی درجۃ النبوۃ محال ثابت ہؤا۔

دوسرا جواب یہ ہے، کہ وَمَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ وَالرَّسُوْلَ جملہ شرط ہے، اور فَاُولٰٓئِکَ اِلٰی اٰخِرِہٖ جزا ہے، جب شرط موجود ہو جائے تو جزا کا موجود ہونا واجب، جب شرط اطاعت میں سب سے مقدم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ثابت ہیں۔ تو درجہ نبوت کے اول حقدار

marfat.com

لئے اجر عظیم ہے۔ اور باقی رسل سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ خاتم نبوت کا ہی ہے،

تو ثابت ہوا، کہ اس آیت کریمہ سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غزوۂ احد کے واقعہ پر مومنین اور منافقین کی رب العزت نے تفریق فرمادی اور امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طیب کا خطاب فرمایا، اور ان کے علاوہ کو خبیث کا خطاب دیا، اور رسالت کا چناؤ باقی تمام انبیا علیہم السلام سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور آپ کو ہی رب العزۃ نے مصطفےٰ اور مجتبےٰ کا خطاب عنایت فرمایا، اور غیوبات باطنیہ کے علوم سے بھی سرفراز فرمادیا، اب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کو جاری کرنے یعنی چناؤ الٰہی کے بعد نبی بننے والا یا بنانے والا خدائی رسول نہیں ہے، بلکہ جعلی ہے، اور مومن منافق کی تمیز از روئے قرآن ہی ہوسکتی تھی، اب نبوۃ کے سلسلے کو جاری کرنا، اور تفریق مصطفائی کو پس پشت ڈالنا یہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت کو معاذ اللہ عدم اعتماد کا ووٹ دینا ہے، خدا تعالےٰ اس عقیدہ سے محفوظ رکھے۔

"مرزائی" - یہ تو ثابت ہوگیا، کہ ان دونوں آیتوں میں واقعی ہمارے وکیل صاحب نے زیادتی سے کام لیا ہے، آجتک کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کئے، اور ان دونوں آیتوں میں واقعی قرآن کے معانی تبدیل ہوگئے ہیں، لیکن ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے صاف اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے، سنیئے :-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ہ (نساء ۹ ع)

جو اطاعت کرینگے اللہ کی اور اس کے اس رسول (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی پس وہ اُن میں شامل ہوجائیں گے، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اور یہ ان کے اچھے ساتھی ہونگے، اس آیت میں اللہ تعالےٰ نے امت محمدیہ میں طریق حصول نعمت اور تحصیل نعمت کو بیان فرمایا ہے، آیت میں بتایا گیا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ایک انسان صالحیت کے مقام سے ترقی کرکے نبوّت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، دوسری جگہ انبیاء سابق کی اتباع کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے نتیجہ میں انعام نبوّت نہیں دیا گیا، جیسا کہ فرمایا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ - (الحدید ۱۲ ع) یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالےٰ پر اور باقی تمام انبیاء پر وہ تمام صدیق

marfat.com

نور ۱۸/۷ وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّہُمْ فِی الْاَرْضِ۔

اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے وعدہ کیا، جو تم سے ایماندار ہیں، اور جنہوں نے عمل نیک کیا، کہ ضرور اُن کو خلیفہ بنائیگا۔

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شانِ ایمانی بیان فرما کر خلافت کا وعدہ فرمایا، اگر اطاعتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول نبوت ہوتا تو بجائے خلافت اُن سے وعدہ نبوت کا کیا جاتا، کیونکہ وہ زیادہ حقدار تھے۔

آل عمران ۴/۱۲ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔

تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے فائدے کے لئے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! تمہارے مرزا صاحب کا دعوای بھی تو اُمتی نبی ہونے کا ہے، اگر امر بالمعروف و نھی عن المنکر سے ہی ہے، خداوند کریم کی طرف سے کوئی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں نبی ہو سکتا تو خیر امت کا خطاب نص قرآنی تو ملے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور جنکے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عاملین ہونے کی تصدیق بھی رب العزت فرمادیں، اُن کو تو خطاب نبوت سے نہ نوازا جائے، اور مرزا غلام احمد صاحب جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کریم کا ایک شعشہ بھی میسر نہیں، تو وہ اسلام میں نبی اللہ ہونے کا دعوای بنا بیٹھیں اور اجرائے نبوت کے قائل ہوں، تو یہ مرزائی ایمان کو ہی گوارا ہے، انصافِ خداوندی سے بعید ہے، معلوم ہوا کہ طاعت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت محال، اگر ممکن ہوتی تو جنکو تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ کہ ہوا، اُن کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا، اگر خیر امت کو نبوت میسر نہ ہوئی تو اشرار امت مرزائیوں کے لئے خداوند کریم کیسے دروازہ نبوت اطاعت میں کھول دیگا، جنکی اطاعت کی تصدیق رب العزۃ فرمادیں، ان کو نبوت نہ مل سکی، تو ساڑھے تیرہ سو سال بعد والوں کو کیسے اطاعت میں نبوت مل سکتی ہے، تمہاری پیش کردہ دوسری آیت کریمہ نے تو پہلی آیت کو بھی واضح کردیا۔

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرُسُلِہٖ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ وَالشُّہَدَاءُ

marfat.com

وہی ہیں، کیونکہ اگر اطاعت سے مرتبہ نبوت حاصل ہوسکتا، تو جو اطاعت شرط میں مقدم اس کا جزا میں یعنی نبوت میں بھی مقدم ہونا لازمی ہونا چاہیئے، جب صحابہ کرام سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسے اولوالعزم صحابہ کرام جن کی اطاعت بلا واسطہ بالمشافہ کی شہادت قرآن پاک نے بیان فرما کر یقیناً ثابت کی ہو، تو منصوصہ مطیعون کو اگر درجہ نبوت حاصل نہیں ہوا، تو دوسرا ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد اطاعتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کا مدعی جھوٹا ہوگا۔

بالمشافہ اطاعت صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین از قرآن

(۱) آل عمران ۴/۱۷ — لَقَدْ مَنَّ اللّٰہُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِمْ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ

حقیقۃً احسان فرمایا اللہ نے مومنین پر جب ان میں رسول بھیجا اُن سے۔

اس آیت سے صحابۂ کرام پر اللہ تعالیٰ نے تین احسانات جتائے ہیں، ان کے مومن ہونے کی تصدیق، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، ان سے مبعوث فرمانا۔

(۲) توبہ ۱/۱۳ — وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُہٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْہُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ وَاَعَدَّ لَہُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَہَا الْاَنْہٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ

اور سبقت کرنے والے اوّلوں میں مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے اتباع کی نیکی کے ساتھ، خداوند اُن سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے، اور ان کے لئے اللہ نے باغات تیار کئے ہیں، جن میں نہریں پانی چلتا ہے، اس میں ہمیشہ رہینگے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

از روئے نص سبقت لے جائیں مہاجرین اور انصار مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبوت ملے مرزاجی کو، سبحان اللہ مرزائی صاحب، اگر اطاعت میں نبوت مل سکتی، تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سابقین تھے، پہلے حقدار قرآنی قانون سے وہ تھے، جب وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ ثابت ہوا، کہ نبوت بند ہے۔ تم مطلب غلط بیان کر رہے ہو اور یہاں محض معیت مراد ہے۔ جو ظاہر نص ثابت کر رہی ہے، کیونکہ جنکی ذات بابرکات پر اُولٰٓئِکَ ہُمُ الرّٰشِدُوْنَ ٥ سے ان کے رشد کی توثیق و تصدیق رب العزت نے فرمادی ہو، وہ تو اطاعت میں نبوت کے حقدار نہیں، اور مرزاجی کے لئے نبوت کا دروازہ اب کھل گیا، کچھ تو سوچ کر بات کرو۔

marfat.com

کو ہی ضائع کر دیا ہے، جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تو اَلَّذِیْنَ کے ماتحت جملہ اوّل کا وجود تب ہو گا جب دوسرا جملہ متحقق ہو گا، چنانچہ اس آیت کریمہ میں چونکہ بصیغہ ماضی جملہ فعلیہ مذکور ہے جو فائدہ عموم شرط کا دیتا ہے، جس سے دوسرے جملہ کا وجود متحقق ہوا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم سے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔

(۱) بقرہ	۱/۳	وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۔
(۲)	؍	فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۔
(۳) بقرہ	۱/۹	وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
(۴) بقرہ	۲/۲۰	وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۔
(۵) بقرہ	۳/۲	اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۔
(۶) بقرہ	۳/۳۸	اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۔
(۷) مائدہ	۳/۳۸	وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝
(۸) حج	۳/۷	فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِیْمٌ ۔
(۹)	؍	فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ۝
(۱۰) روم	۲/۲	فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِیْ رَوْضَةٍ یُّحْبَرُوْنَ ۝

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

marfat.com

عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے رسولوں کے ساتھ تو یہی وہ صدیق اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک ان کو انکا ثواب ملیگا، اور ان کا نور۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہؤا، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تو اس کو درجہ صدیق اور شہید کا ملتا ہے، معلوم ہؤا، کہ نبوت کا نہیں، ایسے ہی اگر مطیعون کو اس متنازعہ فیہا آیت میں بھی درجہ نبوت حاصل ہو سکتا، تو وہاں بھی اس آیت کی طرح بجائے مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ کے هُمُ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہونا جب رب العزت نے مَعَ الَّذِیْنَ سے تخصیص فرمائی ہے، تو مرزائی اگر مِنَ الَّذِیْنَ کہے تو بجائے کلام خداوندی کلام مرزائیہ کو کون سُنے۔ تو ثابت ہؤا کہ جس مرتبے کا حصول ہو سکتا تھا، تو صاف فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ فرما دیا، باقی رہا کہ اس آیت میں وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ہے، اور اس آیت میں مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ تو ایمان ثمرۂ اطاعت ہے، جب اِیْمَان بِاللّٰهِ وَبِالرُّسُلِ سے نبوت نہیں مل سکتی تو محض اطاعت سے کیسے مل سکتی ہے۔

پھر تمہارا کہنا کہ دوسری آیت میں اٰمَنُوْا صیغہ ماضی ہے، جو زمانہ گذشتہ سے متعلق ہے، لہذا انبیاء گذشتہ کا ذکر ہی مراد ہوگا، یہ بھی تمہارا کہنا غلط ہے، کیونکہ اسم موصول کے لئے صلہ کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے جملہ کا وجود جملہ اوّل کی جزاء ہوتا ہے، جو افادہ شرط کا دیتا ہے، جملہ فعلیہ اگر مستقل ہوتا تو اَلَّذِیْنَ کے ماتحت نہ ہوتا اور صیغہ ماضی محض مذکور ہوتا، تو تمہارا مطلب منشا جب جملہ فعلیہ بالذات مراد ہی نہیں، اور نہ ایک جملہ فعلیہ اَلَّذِیْنَ کے ماتحت کلام کو تام ہی کرتا ہے۔ جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا جملہ اس کی جزا واقعہ نہ ہو۔ جیسا کہ اس آیت میں اٰمَنُوْا جملہ فعلیہ اَلَّذِیْنَ اسم موصول کے ساتھ شرط واقع ہے، جس کا تعلق کسی زمانے سے نہیں، کیونکہ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ الخ کا تحقق پہلے جملے اٰمَنُوْا پر موقوف ہے، تو محض اٰمَنُوْا کے صیغہ ماضی کو ذکر کے اپنے ایمان کو پس پشت ڈالتے ہو، اَلَّذِیْنَ اس جملہ فعلیہ کے موصول کو جیسا کہ یہ فعل جز وصلہ واقع ہے، ہضم کر جانا اور اپنی مطلب برآری کے لئے محض ماضی کہہ کر زمانہ گذشتہ مراد لینا قرآن کریم سے بے انصافی کا برتاؤ کرنا ہے یہ مرزا کو ہی زیبا ہے، جس کو اہل حق گوارہ نہیں کر سکتے، اور اسی داؤ پیچ سے تم نے اپنے اعتقاد ایمان

marfat.com

ہمارے گناہ بخشدے اور ہماری برائیاں مٹادے اور ہمیں ابرار سابقین مقبولین منصوصہ کے ساتھ شامل کرے تو رب العزت بندگان مومنین کی اس دعا کو منظور فرماتے ہوئے سائل کو منعم من اللہ انبیاء کرام سابقہ اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ اور ان کی صحبت نصیب فرماتے ہیں اور یہ ان کی معیت بعد از وصال ہے، کیونکہ منصوصین مراتب مذکورہ کا وصال ہو چکا ہے۔

"مرزائی"۔ اس آیت میں مع بمعنی من ہے، یعنی اطاعت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم درجہ نبوت کو اور صدیقیت اور صالحیت کو پہنچا دیتی ہے اور اگر تمہارے معنی مع کے معیت ہی کے لئے جائیں تو بڑی خرابی لازم آئیگی، کہ حضرات خلفائے اربعہ حضرت حسین رضوان اللہ تعالےٰ علیہم اجمعین صالحیت کے درجے کو بھی حاصل نہ کر سکے۔

حالانکہ ارشاد الٰہی ہے، اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰہِ وَاَخْلَصُوْا دِیْنَھُمْ لِلّٰہِ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَسَوْفَ یُؤْتِ اللّٰہُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَجْرًا عَظِیْمًا ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور خدا کی رسّی کو مضبوط پکڑا اور اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کیا، پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور خدا وند تعالےٰ مومنوں کو عنقریب بڑا اجر دیگا،

کیا یہ صفات رکھنے والے مومن نہیں، صرف مومنوں کے ساتھ ہیں اور کیا ان کو اجر عظیم عطا نہیں ہوگا، اور تفسیر بیضاوی میں بھی فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ کا ترجمہ مِنْ عِدَادِھِمْ فِی الدَّارَیْنِ لکھا ہے، پس جو لوگ مومنوں کی گنتی میں شامل ہیں، تو مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْھِمْ مِّنَ النَّبِیّٖنَ کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ مطیعین دونوں جہانوں میں انبیاء کی گنتی میں شمار ہونگے، اور سنیئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ تو وہ صالح بنا کر نہیں مارے جاتے اور ایک جگہ شیطان کے متعلق آتا ہے لَمْ یَکُنْ مِّنَ السّٰجِدِیْنَ، ایسے ہی اگر مَنَازِعِ فِیْھَا آیت میں بھی مع بمعنی من نہ کئے جاویں، تو نعوذ باللہ امت محمدیہ شر امت قرار پاتی ہے، جو بالبداہت باطل ہے، مکمل پاکٹ بک مرزائیہ صفحہ ۴۰۶۔

"محمد عمر"۔ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ والی آیت میں بڑی جلدی تمہیں تفسیر بیضاوی یاد آگئی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْھِمْ میں بھی کسی

marfat.com

ان مذکورہ بالا آیات میں اَلَّذِیْنَ مَنْ اسم موصول کے صلے میں پہلے جملے کا فعل بصیغۂ ماضی ہے، جس سے عموم مشروط مراد ہے، نہ زمان سے متعلق ہے، جیسا کہ تم نے قرآن میں غلط بیانی کرکے عوام کو دھوکا دیا ہے، لہٰذا اٰمَنُوْا کو بھی حرف ماضی ذکر کرکے زمانہ گذشتہ مراد لینا یہ بھی مرزائیت پر مبنی ہے، نہ کہ اصطلاح فرقانی ہے، لہٰذا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرُسُلِہٖ اُولٰٓئِکَ ھُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ وَالشُّھَدَآءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ کے معانی وہی ہونگے جو ازابتدائے نزول قرآن تا الآن ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تو (ان کو یہی درجے حاصل ہو سکتے ہیں) کہ یہ ہی وہ صدیق ہونگے اور شہدا ہونگے، نبوت درجہ حصولی نہیں بلکہ عطاء من اللہ ہے جو اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتا، باقی رہا تمہارا کہنا کہ مطیعون مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحیت سے درجۂ نبوت پہنچ سکتا ہے، یہ بھی سراسر غلط اور بہتان عظیم ہے، کیونکہ اگر بقول تمہارے مِنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّھَدَآءِ وَالصّٰلِحِیْنَ کے قانون سے صالحیت کے مرتبے سے نبوت کے مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے، تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ صالحیت کے مرتبے سے تو شہادت کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب شہید ہوگا تو درجہ شہادت ملیگا اور جب شہید ہو چکا، تو اوپر ترقی کرنے کے لئے اس کے اعمال ہی منقطع ہو چکے، اب تو وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر داخل جنت ہو چکا، ترقی کا سلسلہ ہی منقطع ہو چکا، درجۂ صدیقیت کو بھی حاصل نہ کر سکا، چہ جائیکہ نبوت تک پہنچ سکے، تو معلوم ہوا، کہ تمہارا کہنا کہ صالحیت سے ترقی کرکے انسان درجہ نبوت تک درجہ بدرجہ فائز ہو سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیعین کو انبیاء ما سبقت اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ انبیا علیہم السلام جنکا سلسلۂ اجرائے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چکے اور شہداء اور صالحین جنکی شہادت وصالحیت بالنص ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ بعد کے عاملین کے منازل ظنی ہونگے، جن کے مراتب کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے، کہ وہ کس کس درجہ پر خداوند کی طرف سے فائز ہیں، سوا اس کے کہ محض صالحین کے خطاب سے ہی ان کو نوازا جائے، کیونکہ ان کے لئے نص قرآن موجود نہیں، یا کوئی صاحب نظر سمجھ سکتا ہے کہ فلاں صدیقوں میں جا ملا ہے فلاں شہداء میں ہماری استدعا بھی دربار خداوندی میں یہی ہے کہ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔ یا اللہ

marfat.com

عَلَیۡهِمۡ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیۡقِیۡنَ وَالشُّهَدَآءِ نے بیان کردیا، کہ یہ صدیق پہلے صدیقین کے ہمراہ ہونگے، یہ شہداء پہلے شہداء کے ساتھ ہی ہونگے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَلَلۡاٰخِرَةُ خَیۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰی آپ کے لئے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اوّل سے بہتر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نسائی شریف ۱/۲۷۹ اَنَا اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ۔
میں تمام مومنوں کی جانوں سے بہتر ہوں اور قریب ہوں،

تو معلوم ہؤا، کہ ہر مومن نبی ہو یا ولی، اس کو آپ کی معیت ہوگی، نہ کہ کسی کو آپ کا درجہ ملیگا،

اور جو تم نے اس آیت کریمہ سے نبوّت کے اجراء کا مسئلہ استنباط کیا ہے، یہ غلط ہے، اور جو تھا جواب یہ ہے، کہ کیا مَنۡ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ کے لئے نا و لٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِمۡ کے مراتب حاصل کرنے کے بعد دنیا میں جو زندہ رُسل اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اُن میں اُن کے مراتب پر فائز ہو کر شامل ہونگے، یا جو سابقین ہیں اُن میں شمولیت ہوگی، تو اگر زندہ میں شمولیت مراد لی جاوے زندہ رسُو تو پہلے موجود نہیں، تو پھر بھی تمہارے معنی غلط ثابت ہوئے، اور اگر نبوت کے درجے کو حاصل کر کے سابقین کے ساتھ منعم من اللہ میں شمولیت مراد لی جاوے تو وہ بھی محال؛ کیونکہ عالم برزخ میں عالم دنیا کے باشندوں کو شامل کر کے مراتب کی دعوت دیجائے تو یہ بھی ناممکن، کیونکہ نبوت زندگی میں ملتی ہے، نہ بعد از وصال، کیونکہ ہدایت زندوں کی مقصود ہوتی ہے، اگر نبی کو عالم برزخ میں نبوت ملی تو دعویٰ بھی عالم برزخ میں ہی ہوسکتا ہے، یہ بھی مفید نہیں، لہذا تمہارے معنی اگر قرآن کریم کی اس آیت میں کئے جاویں، تو قرآن کریم میں نقص لازم آئیگا، اور نقص محال ہے، لہذا تمہارے معنی ہر صورت غلط ثابت ہوئے، تو اس آیت کریمہ کے یہی معنی ہونگے، جو تمام امت نے اجماعی معنی کئے ہیں، کہ مطیعین کو انبیاء علیہم السلام کی معیت میں صدیقیت اور شہادت کا درجہ حاصل ہوگا جس کا اعمال سے حاصل ہونا ممکن ہے، اور صالحیت کو لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِی الصّٰلِحِیۡنَ نے ثابت کردیا، کہ درجہ صالحیت بھی ملتا ہے، اور سابقین صالحین کے ساتھ شمولیت ہوجاتی ہے۔

marfat.com

مفسر نے مع بمعنی من لکھتے ہیں، جھگڑا تو اُس آیت میں ہے، اُس متنازعہ فیہا آیت کے ماتحت دکھاتے کہ فلاں مفسر نے مع بمعنی من لکھے ہیں، جب اُس میں تم ثابت نہیں کر سکتے، اور قرآن کے معنی بگاڑ رہے ہو، تو دوسری آیتوں کے ماتحت تمہارا تفسیر پیش کرنا فضول ہے، باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ خلفائے اربعہ اور امام حسین رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ کے متعلق تو انہی کا نقشہ تو اللہ تعالےٰ نے کھینچا ہے، جیساکہ دوسرے مقام پر فرمایا وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی المرتضےٰ و حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنسے اطاعت کی نیکی کے ساتھ تو اُن سے اللہ راضی ہو گا اور ان کا نقشہ کھینچا فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَآءِ، سب سے پہلے مُنْعَمٌ مِّنَ اللّٰهِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنکو مِنَ النَّبِیّٖنَ سے نوازا گیا، بعدازاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ جنکو وَالصِّدِّیْقِیْنَ کے عنوان سے یاد فرمایا گیا، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ کو وَالشُّهَدَآءِ سے خطاب ہوا، بعدازاں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہٗ جنکو وَالصّٰلِحِیْنَ سے خطاب ہوا، اور اگر محض مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب من النبیین کا ہو تو بھی درست ہے، یعنی تمام آیت میں خلفائے اربعہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، پھر ہر ایک کو صدیقین اور شہداء اور صالحین کا جمع سے کھول کر ذکر فرمایا، اس لئے کہ تمام انبیا علیہم السلام کی اصلیت حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جامع صفات کُل ہیں، اس لئے النبیین سے خطاب ہوا، اور بعدازا انبیا علیہم السلام چونکہ تمام صدیقوں کا مرکز جامع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ ہیں۔ اس لئے ان کو صدیقین کا خطاب ہوا، اور انبیا علیہم السلام کے علاوہ باقی صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ کی معیت میں ہونگے، علیٰ ہذا القیاس تمام اوصاف کے برابر چونکہ خلفائے اربعہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ تھے، اس لئے ان کا نقشہ بیان کیا گیا، اور اُن کی ہی اتباع کا ذکر اس آیت میں ہی مذکور ہے، اور ساتھ ہی دوسری آیت موجود ہے، فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ اُن کی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی اس حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر اخفا یہ تھا، کہ بعد والے صدیقین اور شہداء ان کے ساتھ شامل ہیں یا علیحدہ تو فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

marfat.com

(۷) یوسف ۱۲/۸ — فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا۔
بھیج تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔

(۸) یوسف ۱۲/۸ — قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ۔
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔

(۹) مائدہ ۶/۳ — وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ، کیا تمام مومنین اِلٰہ بن گئے؟
اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔

(۱۰) انعام ۷/۸ — فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝
تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھے۔

کیا معاذ اللہ! ظالموں کے پاس بیٹھنے سے ظالم ہو جائیگا، کچھ تو سوچ کر بات کرو۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

انبیاء علیہم السلام کی معیت میں نبی نہیں بن سکتا بلکہ اُمتی ہی رہتے ہیں

(۱) اعراف ۸/۹ — فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ۔

(۲) اعراف ۹/۱۳ — فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

(۳) ہود ۱۲/۵ — وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔

(۴) ہود ۱۲/۶ — فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔

marfat.com

پانچواں جواب وَحَسُنَ اُولٰٓئِکَ رَفِیْقًا۔ اور یہی رفاقت اچھی ہے۔ تو یہ جملہ قرآنیہ مع کے معنی رفاقت کے معنی کی تخصیص ثابت کر رہا ہے، قرآنی آیت کی تفسیر جب قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے، تو قرآنی تفسیر کو چھوڑ کر مرزائی تفسیر کو کون تسلیم کرے، اب مع بمعنی رفاقت کے قرآن کریم سے ملاحظہ فرمادیں۔

قرآن کریم میں مَعَ رفاقت کے معنی میں

(۱) بقرہ ۲/۱۹ — اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ہ
بے شک اللہ تعالےٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔

کیا خدا کو صابر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ خداوند کریم کی رفاقت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔

(۲) آل عمران ۴/۱۵ — وَکَاَیِّنْ مِّنْ نَّبِیٍّ قٰتَلَ مَعَہٗ رِبِّیُّوْنَ کَثِیْرٌ۔
اور کئی نبیوں کی رفاقت میں بہت رب والوں نے جنگ کی۔

کیا نبیوں کی معیت میں وہ نبی ہو گئے؟

(۳) نساء ۵/۵ — وَلْتَقُمْ طَآئِفَۃٌ مِّنْھُمْ مَّعَکَ۔
اور چاہیئے کہ کھڑا رہے اُن سے ایک گروہ آپ کے ساتھ۔

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کھڑے ہونے والے آپ کی معیت میں تمام نبی بن گئے۔

(۴) توبہ ۱۰/۱۱ — وَجَاھِدُوْا مَعَ رَسُوْلِہٖ۔
اور جنگ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں۔

کیا آپ کی رفاقت میں جنگ کرنے والے تمام کو انبیاء کہو گے؟

(۵) ہود ۱۲/۲ — لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْہِ کَنْزٌ اَوْجَآءَ مَعَہٗ مَلَکٌ۔
کیوں نہیں اُتارا گیا آپ پر خزانہ یا آپ کی رفاقت میں کوئی فرشتہ ہو۔

(۶) یوسف ۱۲/۵ — وَدَخَلَ مَعَہُ السِّجْنَ فَتَیٰنِ۔
اور یوسف علیہ السلام کی رفاقت میں دو جوان قید ہوئے کیا وہ دونو نبی ہو گئے

marfat.com

معیت غلامی اور اطاعت کو مضبوط کرتی ہے، نہ کہ درجۂ الوہیت یا رسالت تک پہنچا تا ہے
جیسا کہ تم نے سمجھا ہے، کیونکہ ان کی ہر قسم کی مماثلت غیر سے محال ہے، باقی ان کے علاوہ چونکہ
مماثلت ممکن ہے، اس واسطے محض شراکت فعلی ان کی معیت میں ہو سکتی ہے۔ اور علاوہ الوہیت
و نبوت باقی مراتب چونکہ کسبی اور اختیاری ہیں، حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے،

(۱)۔ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(۲)۔ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(۳)۔ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

(۴)۔ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

(۵)۔ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

"مرزائی"۔ نبوت واقعی وہبی ہے، لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، کہ کوئی موہبت
نازل نہیں ہوتی، جب تک کہ انسان کی طرف سے بعض اعمال ایسے سرزد نہ ہوئے ہوں، جو اس
موہبت کے لئے جاذب بنجائیں، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالےٰ فرماتا ہے، يَهَبُ لِمَنْ
يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ۔ کہ اللہ تعالےٰ جسے چاہتا ہے اس کو لڑکیاں
موہبت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے موہبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب موہبت
کئے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے، اولاد موہبت ہے، لیکن کیا اولاد کے حصول کے لئے
کسی انسانی عمل کی ضرورت نہیں، بیشک نبوت کے لئے اتباع مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اعمال
صالحہ شرط ہیں، اور اعمال صالحہ کا صدور بھی خدا تعالےٰ کی توفیق پر موقوف ہے، (پاکٹ
بک صفحہ ۱۷)۔

محمد عمر۔ وکیل صاحب بیچارے عقل سے ایسے کورے ہوتے ہیں، کہ وہبی اور کسبی کی
تفریق بھی نہیں کر سکتے، فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے، حالانکہ دونوں میں
بون بعید ہے، کسب میں اعمال شرط ہیں، اور موہبت میں محض عطاء الٰہی ہے، اس کا
سبب اعمال نہیں، بلکہ اعمال صالحہ حتی معصومیت کے لئے نبوت شرط ہے، کیونکہ تمام جن و
انس میں نبی علیہ السلام کی ذات ہی گناہ سے معصوم ہو سکتی ہے، جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ و
وسلم کے متعلق خداوند تعالےٰ فرماتے ہیں،

marfat.com

(۵)	ہود	۱۲/۸	وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۔
(۶)	اعراف	۹/۱۶	وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۔
(۷)	"	"	لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۔
(۸)	شعراء	۱۹/۴	وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۔
(۹)	تحریم	۲۸/۲	يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۔
(۱۰)	فتح	۲۶/۴	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ ۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالٰے عنہٗ رہے، لیکن نبی نہ بن سکے، معیتی ہی رہے۔

تو ثابت ہوا، کہ انبیاء علیہم السلام کی معیت ملنبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ غلامی میں شمولیت مراد ہوتی ہے، نہ کہ نبوت میں شمولیت، جیسا کہ تم نے غلط سمجھا ہے، ایسے ہی خداوند کی معیت عبودیت الہیہ کی مخصص ہوتی ہے، نہ کہ درجۂ الوہیت مل جاتا ہے،

شعراء	۱۵/۴	اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ۝ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے جلدی ہدایت دیگا۔
توبہ	۱۰/۶	اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۔ جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرماتے تھے، کہ کچھ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

ان آیاتِ کریمہ سے ثابت ہوا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

marfat.com

اعمال کرنے والے کو دو برس یا تین برس کی میعاد کے بعد اولاد ہونی چاہیئے، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ الیٰ قدرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون کے میعاد خداوندی پر ہی موقوف ہے، اگر وہ کم کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، تو کیوں نہ کہا جائے ویل یومئذٍ للمکذبین اور پھر اگر نبوت کسبی تسلیم کی جاوے تو نبی عملی کہلاتا، نبی اللہ کا خطاب نہ ہوتا۔ اور نبوت کی عطا کو اولاد کی موہبت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ بعض اولاد کے متعلق تو یہ بھی ارشاد الٰہی ہے۔

تغابن ۲۸/۲ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

ضرور تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے لئے دشمن ہیں، تو تم اُن سے بچو۔

تغابن اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔

اور کوئی بات نہیں، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں،

اب تم کہیں قرآن کریم سے یہ بھی نکال کر دکھاؤ، کہ خداوند کریم نے نبوت کو بھی کبھی اُمت کے لئے دشمن فرمایا ہو، یا نبوت کو فتنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہو، حالانکہ تمہارے نزدیک دونوں موہبت الٰہی ہیں، اور حالانکہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ۔ وہ ایسی ذات ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا تو بعض تم سے کافر ہے اور بعض مومن، تو یہ موہبت دو قسموں سے ثابت ہے، کیا نبوت الٰہی بھی معاذ اللہ دو قسموں سے منقسم ہے، مومن اور کافر، تم نے دوسری قسم شیطانی وحی والے کا نام نبی مقرر کیا ہے، خدا کی طرف سے شیطانی الہام والا نبی اللہ کے خطاب سے مخاطب نہیں ہے۔

تو ثابت ہوا کہ اولاد کی عطا کو وہبی نبوت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، اور نبوت کو اعمال کا ثمرہ مقرر کرنا یہ قرآنی قانون کے خلاف ہے، اعمال کا ثمرہ ایمان ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہے، قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِیْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اور رسالت عطاء الٰہی ہے، اعمال اطاعت کا ثمرہ نہیں، جیسا کہ ارشاد الٰہی مذکور ہو چکا، اَللّٰهُ يَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ۔ اللہ ہی چنا کرتا ہے ملائکہ سے رسولوں کو اور لوگوں سے۔ یہ کسبی رتبہ نہیں،

marfat.com

بنی اسرائیل ۱۵/۸

وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۔ اور اگر ہم آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ رکھتے، تو نزدیک تھا، کہ آپ ان کی طرف ذرا سا مائل ہو جاتے ۔ تو معلوم ہوا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم جزو الذی لایتجزی لغزش سے بھی مبرا ہیں، خداوند کریم نے آپ کو ایسا ثابت رکھا، کہ شیٔ قلیل کی مقدار بھی آپ کو صراطِ مستقیم سے اور کسی طرف مائل نہیں ہونے دیا، تو انبیا علیہم السلام کی معصومیت نص قرآنی سے ثابت ہوئی، کیونکہ اُن کی نبوت و رسالت خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، اور اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۔ نبی کے وعدہ کو پورا فرماتے ہوئے ہر سہو اور لغزش و جرم سے محفوظ رکھتا ہے، بناوٹی خطاب نہیں، کہ خود ہی اپنے متعلق اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ کہ کر خود ہی گناہ شروع کر دے اور پھر فتویٰ دے، کہ نبی گناہ سے معاذاللہ معصوم نہیں ہوتا، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْاِعْتِقَاد ۔

اور اگر اعمال کو بشرطِ نبوت مقرر کرو گے، تو کئی ہندو اور سکھ ایسے ثابت ہوں گے، جو تمہارے مرزاجی سے اعمال میں اچھے ہوں، تم نے ان کو نبی نہیں مانا، مرزاجی کو ہی نبی مقرر کر لیا ہے۔ حالانکہ تمہارے لئے نبی بن سکتے ہیں، اور اگر اعمال سے نبوت مل سکتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بطریق اولٰے انبیا تسلیم کرنا چاہیئے، حالانکہ تم ان کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اعمال کو شرط مقرر کر کے يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا میں اعمال کو شرط بناؤ گے تو چاہیئے تھا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یحییٰ علیہ السلام کے سوا کسی کی اولاد نہ ہوتی، یا محض ملائکہ کی ہی اولاد ہوتی، دوسرے اولاد سے محروم رہتے، اور اگر عمل سے مراد دنیاوی لطف ہی مراد ہے، تو مرزائیوں کے سوا باقی سب بے اولاد ہونے چاہئیں، حالانکہ ابن سعود نجدی زیادہ اولاد رکھتا ہے، حکیم نور دین صاحب جو مرزاجی کے خلیفہ اول تھے، اُن کے ہاں اولاد زیادہ ہونی چاہیئے تھی، حالانکہ محمود صاحب کے ہاں حکیم صاحب سے زیادہ اولاد ہے۔ تو معلوم ہوا، کہ موہبت الٰہی کسی عمل پر موقوف نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام بلا عمل غیر پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت اسحٰق و یعقوب علیہما السلام عطاءِ الٰہی ہیں، یعنی ماں باپ لائق اولاد نہ تھے، یعنی قوت اولادی مفقود تھی، تو یہ بھی موہبت الٰہیہ سے پیدا ہوئے، اور بڑی بات یہ ہے کہ عمل پر موقوف ہو، تو نو ماہ کی میعاد خداوندی سے پیدا نہ ہو، بلکہ اعلیٰ اعمال صالحہ کرنے والے کو ماہ سے جلدی اولاد ہونی چاہیئے، اور بڑے

marfat.com

آیت متنازعہ فیہا میں مَن کی تخصیص ہے۔ تو مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیّٖنَ کی تخصیص اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ سے اور مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی تو اللہ کا مطیع ہوگیا سے بیّن ہے۔ یعنی مطیع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مطیع اور آپ کی اطاعت سے تجاوز کر کے مطاع بننے والا خداوند کریم کا نافرمان ہے۔

"مرزائی"۔ جب پہلی اُمتوں میں عورتیں نبیات نہیں بنیں۔ تو اس اُمت میں کیسے بن سکتی ہیں، پہلی اُمتوں میں عورتیں چونکہ درجہ صدیقیت تک ہی پہنچی ہیں، تو اس میں بھی نبوت تک نہیں پہنچ سکتیں، صدیقیت تک ہی رہینگی۔ مکمل پاکٹ بک صـ ۴۰۹۔

"محمد عمر"۔ سچ ہے، دروغ گورا حافظہ نباشد۔ پہلے تم خود اپنی مکمل پاکٹ بک صـ ۴۰۵ میں تسلیم کر چکے ہو، کہ پہلے انبیاء کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کسی انسان کو صدیقیت کے مقام تک پہنچا سکتی تھی، تو اب بھی وہی قانون جاری رہیگا۔ کیونکہ تمہارا مسلمہ قانون ہے صـ ۴۰۰ سطر ۵ پر۔ کہ اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی، اب تم نے دوبارہ تائید کر دی، کہ اللہ کی سنت ہے کہ پہلی امتوں میں عورتوں کو نبوت نہ ملتی تھی، لہٰذا اس اُمت میں بھی یہی قانون رہے گا، اور اس اُمت کا یہ قانون تم نے قرآن کریم سے پڑھا نہیں، اور بغیر قرآنی قانون کے تم نے مَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ وَالرَّسُوْلَ میں مردوں کو عورتوں سے خاص کر دیا، لیکن تمہارے مقابلہ میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرُسُلِہٖٓ اُولٰٓئِکَ ھُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ وَالشُّھَدَآءُ، جو لوگ اللہ اور اسکے رسولوں کے ساتھ ایمان لائینگے تو وہی صدیق اور شہید بن سکتے ہیں، وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کا خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، کہ اگر تم کہو کہ ہم رسل کے درجے کو پہنچ جائیں، تو محال ہے، البتہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسل کے ساتھ ایمان لے آئیں تو وہ محض صدیقین اور شہداء کے درجے کو ہی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اور صالحین کا خطاب دوسری جگہ دیا گیا، بلکہ صالحین سے بھی بڑھ کر خیر اُمت کا خطاب دیدیا گیا، تو ثابت ہوا کہ صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کا خطاب کا درجہ جاری ہے اور نبوت کے درجے کا خطاب بند ہے اور اگر مَن کو عام رکھو تو عورت بھی شامل ہوتی ہے مطیع سے مطاع بننے کی خرابی لازم آتی ہے، درجے پر پہنچنا کجا، خود درجہ دینے

marfat.com

اور نہ ہی خداوند کریم نے کہیں فرمایا کہ فلاں نے عمل کیا تو ہیں نے اس کو نبوت دے دی، اور فلاں نے اچھے عمل کیئے تو ہیں نے اس کو نبوت عطا کر دی، تو ثابت ہوا کہ نبوّت عطائے الٰہی ہے وہبی رتبہ ہے نہ کہ کسبی، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے، اور نہ نبوت کے کسبی ہونے کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، حالانکہ نبوت کے وہبی ہونے کی سینکڑوں صراحةً آیات موجود ہیں، کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا، وَجَعَلَنِیۡ نَبِیًّا مجھے اللہ تعالٰی نے نبی پیدا کیا ہے، تو نبوت پیدائشی قرآن کریم سے ثابت، لیکن نبوت کسبی کسی آیت سے ثابت نہیں جس کو تم اپنی تمام پاکٹ بک میں بھی نہ درج کر سکے، اور مرزاجی کا کہنا کہ یہ نعمت میری کوشش سے نہیں۔ بلکہ شکم مادر ہی سے مجھے عطا کی گئی، (حقیقۃ الوحی صـ۶۷) بقانون تمہارے کذب محض ثابت ہوا، اگر یہ بات سچی تھی تو منا زعہ فیہا آیت کے معنی کہ اطاعت سے نبوت تک ترقی ہو جاتی ہے، قرآنی معنی تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ تمہارا اس آیت کے معنی بگاڑنا کہ اطاعت سے نبوت ملتی ہے، غلط ثابت ہوا، اور مرزاجی کا فرمان بھی غلط ثابت ہوا، کیونکہ اگر ماں کے پیٹ سے نبی ہوتے تو درجہ بدرجہ دعوٰی نہ کرتے، فافہم وتدبر۔

عورتیں نبی کیوں نہیں بنتیں؟

تم نے مَنۡ کو عام تو مراد لے لیا، لیکن من میں عورتیں بھی تو شامل ہیں، کیونکہ مَنۡ یُّطِعِ اللّٰہَ وَالرَّسُوۡلَ سے عورتیں بھی اطاعت کرتی ہیں، ان کو بھی نبوت ملنی چاہیئے۔ حالانکہ آج تک کبھی کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، اور اس کے خلاف دوسری آیت بھی ملتی ہے۔ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ۔ اور نہیں رسول بھیجا ہم نے آپ کے پہلے مگر مردوں کی طرف وحی کی، تو جب رسالت و نبوت میں رجولیت شرط ثابت ہوئی اور منا زعہ فیہا آیت میں تم نبوت کا درجہ ہر عورت و مرد کے واسطے یکساں ظاہر کر رہے ہو، تو معلوم ہوا کہ تم قرآن کریم کے معانی قرآنی محاورہ کے خلاف اور غلط کر رہے ہو۔ اور اگر یہ کہو، کہ رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ والی

marfat.com

نے یہ نہ سوچا، کہ ہم نے پہلے مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ سے نبوّت کا معیار اور شرطِ اطاعت اللہ اور محمد رسول اللہ مقرر کی ہے، تو معلوم ہؤا، کہ تمہارا یہ استدلال اس آیت سے غلط ہے اگر صحیح ہوتا تو ضرور اطاعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبوت ملتی، کیونکہ اطاعت شرط ہے، یا کہو کہ ہم نے جو شرطِ اطاعت میں مطاع بننے کی بنائی، غلط ہے، جب مطیع کے لئے مطاع بننے کا ایک قانون تم نے مقرر کر دیا، پھر تم کہو، کہ جیسے ہر اطاعت کرنے والا نبی نہیں بن سکتا ہے، گو آیت عام ہی ہے، تو معلوم ہؤا، کہ تمہارا مقرر کردہ معنی بھی جعلی، کیونکہ باوجود حکم کے عام ہونے کے تم مرزائی جس کو چاہو، نبی بنالو، تو وہ مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ میں داخل ہو سکتا ہے، خداوند کریم نص قطعی سے جو مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ کا فیصلہ حتمی فرمائے وہ تمہیں منظور نہیں ہے۔ تو جب ربّ العزّت نے اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً سے فرمادیا، کہ قیامت تک تمہاری یہی ایک اُمت ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہو گا، اور نہ کوئی امت اُمت سمجھی جائیگی تو قیامت تک اس امت میں بھی اُمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی ہو گی، اور کوئی نبی نہ پیدا ہو گا، چنانچہ ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا، کہ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اب تم اطاعتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رستہ خدا سے مانگو اور ان کے ساتھ عالمِ برزخ اور عالمِ عقبیٰ میں شمولیت کی درخواست مجھ سے کرو نہ کہ رسالت کے درجہ پر فائز ہو جاؤ۔ یا صحابی بننے کی تلاش کرو، تمہیں تو رسالت کی سوجھتی ہے، تم تو محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تابعین اور تبع تابعین کی خاک پا کی بھی ہمسری نہیں کر سکتے،

لہذا ثابت ہؤا کہ تمہارا اطاعت اللہ و رسولہ سے اجرائے نبوت ثابت کرنا تمہارے کلام نے ہی غلط ثابت کر دیا، کہ اطاعت میں جب صحابہ کرام مقدم ہیں تو اگر رسالت میسّر ہو سکتی تو حقدار رسالت وہ تھے، ان کو ملتی، جو پانچوں وقت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آپ کے فرمان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ فرمانے کے بعد مل کر آمین کہتے رہے، پھر بھی اگر وہ بالمشافہ اطاعت میں درجہ رسالت تک نہ پہنچ سکیں، بلکہ صدیق اور شہید اور صالح کے درجے کو پہنچ سکیں، تو آج تمہارا قرآن کے معنی کو بدلنا اظہر من الشمس ہے، کیونکہ تمہارے کلام سے صاف ظاہر ہو رہا

marfat.com

والا بننے کی خرابی لازم آئیگی، قرآنی معنی کو تبدیل کرنے سے جو جو خرابیاں لازم آتی ہیں، فقیر نے عرض کردیں، قرآنی آیت کے معنی صاف ظاہر ہیں، کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا انبیاء علیہم السلام کی رفاقت میں صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے منازل طے کرکے متقدمین کی شمولیت حاصل کریگا۔

"مرزائی"۔ اللہ تعالٰے نے فرمایا ہے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ، اس میں صیغۂ ماضی ہے، جس کے معنی یہ ہیں، کہ اے خدا جو انعامات تو پہلی امتوں کے افراد پر نازل کرتا رہا ہے وہ ہم پر بھی نازل کر، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں، کہ صحابہؓ نے بھی اطاعت کی، اُن کو بھی نبوت ملنی چاہیئے تھی، تو اس کا جواب اللہ تعالٰے نے دیدیا، اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ اور خداوند کریم نے فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ، جب صحابہ کرام کو خلافت مل گئی اور اُن میں ایک نبی بھی آگیا، کیونکہ ہر قوم میں نبی ایک ہی آتا ہے، جیسا کہ موسٰی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ توصِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور وَمَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ والی آیات میں یہ نہیں وعدہ دیا گیا کہ آنحضرت کے بعد ہر کوئی نبی بنے، بلکہ یہ نعمت کسی فرد پر نازل ہوگی۔ یا کٹ بک ص

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب تم نے قرآن کریم کو گھر کی کتاب بنا رکھا ہے، آیت الٰہی کو جس طرح چاہا اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا، کون پوچھنے والا ہے، اچھا خداوند کے دربار میں لوگ حقوق العباد میں گرفتار ہونگے، لیکن تمہارے گلے میں خداوندی زنجیر ہوگا، اور اس تحریف قرآنی کا حساب پورا لیا جا دیگا، پہلے تم نے مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ میں من کو عام رکھا، جب کہا گیا کہ اس میں عورت بھی شامل ہے، کیا عورت کو نبوت مل سکتی ہے کیونکہ من عام ہے، تم اس کا کوئی جواب نہ دیسکے، اِدھر اُدھر کی باتیں بنانے لگ گئے، پھر جب یُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ سے اطاعت کو تم نے شرط نبوت بنایا، تو صحابہ کرام کی اطاعت کو مقدم اور بالنص قطعی ثابت کیا گیا، تو تم نے ایک اور بہانہ تراشا، کہ اُن میں ایک نبی آچکا تھا، جیسا کہ موسٰی علیہ السلام کی قوم میں ایک نبی آیا، ایسے ہی صحابہ کرام میں ایک نبی آگیا، بعد میں وہ خلافت کا وعدہ دئے گئے، وہ نبوت کے حقدار تھے، لیکن وکیل صاحب

marfat.com

۱۔ پہلے فرمایا مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ مِنْكُمْ۔ جو شخص تم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریگا، تو آگے فرمایا اَلْحَقَهُ اللّٰهُ بِالَّذِيْنَ تَقَدَّمَهُمْ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لاحق کرے گا اُن کو اللہ یعنے شامل کریگا (یعنی منکم کو) ان لوگوں کے ساتھ جو اُن سے پہلے گزر چکے ہیں، مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ سے یعنی امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے گذر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی اُمت، موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی اُمت، ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی اُمت وغیرہم، تو بِالَّذِيْنَ تَقَدَّمَهُمْ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نے تمہارے جعلی معنی کا رد کر دیا، فرمایا مَا سَبَقَ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ کے ساتھ ان کو معیت حاصل ہوگی۔

۲۔ پھر آگے راغب نے الحاق کی تفصیل کر دی، کہ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ میں انکی شمولیت کیسے ہوگی، اس کے متعلق بیان فرمایا، کہ اَلنَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ صیغۂ واحد فرمایا کہ نبی نبی کے ساتھ قیامت کو شامل ہوگا، یعنی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جنس نبی کے ساتھ ہونگے، جس کی تشریح مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ نے کر دی، قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیأ علیہم السلام کی معیت میں ہونگے، فرمایا کہ نبی نبی کی صف میں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ پہلی اُمتوں کے شہیدوں کی صف میں کھڑے ہونگے، حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالےٰ عنہما شہدائے سابقین کی صف میں کھڑے ہونگے، حضرت علی رضی اللہ تعالےٰ عنہ پہلے صالحین کی معیت میں ہونگے، یہ ثابت کرنا مقصود ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بناوٹی رسول نہیں ہیں، کہ ماسبق انبیاء علیہم السلام سے علیحدگی ہو، ایسے ہی باقی بھی صدیق شہید اور صالح مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جعلی خطابات ان کو حاصل نہیں، جو انہوں نے خود اپنے متعلق مرزا صاحب کی طرح تجویز کئے ہوں، ایسے نہیں، بلکہ خدا تعالےٰ کی طرف سے اُن کو ملے ہیں نص قطعیہ سے، اس لئے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیا علیہم السلام کی صف میں میدان حشر میں شامل ہونگے، اور ابوبکر صدیق سابق صدیقین کے ساتھ ہونگے، اور حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے شہداء کی معیت میں شامل ہونگے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالےٰ وجہہ صالحین میں حق سے شامل ہونگے۔

marfat.com

ہے، کہ قانون اجرائے نبوت بھی ہم نے نکالا ہے، خداوندی قانون نہیں۔ تو ہم نبوت کو جاری کرنے سے رکتے نہیں، اور جب ہماری پیدا کردہ نبوت ہے، تو ہم ہی جسے چاہیں نبی بنا سکتے ہیں، تو خدائی نبی قانون کے خلاف ہے، لہٰذا اسلام میں مقبول نہ ہوگا، مرزائیوں میں ہو، تو ہو۔

مرزائی ترجمہ کی تائید کا جواب

"مرزائی" حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے یہی معنی کئے ہیں، جو بیان ہو چکے،

وَقَوْلُهٗ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ تفسير لقوله صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .... وَالظَّاهِرُ اَنَّ قَوْلَهٗ مِنَ النَّبِيِّيْنَ تفسير الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ مِنْكُمْ اَلْحَقَهُ اللّٰهُ بِالَّذِيْنَ تَقَدَّمَهُمْ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الرَّاغِبُ مِمَّنْ اَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِرَقِ الْاَرْبَعِ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالثَّوَابِ النَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيْقُ بِالصِّدِّيْقِ وَالشَّهِيْدُ بِالشَّهِيْدِ وَالصَّالِحُ بِالصَّالِحِ وَاَجَازَ الرَّاغِبُ اَنْ يَّتَعَلَّقَ مِنَ النَّبِيِّيْنَ بِقَوْلِهٖ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ اي مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ (محيط)

یعنی خدا کا فرمان مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ یہ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر ہے، گویا تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریگا، اللہ اُن کو چار گروہوں میں کریگا، نبی کو نبی کے ساتھ صدیق کو صدیق کے ساتھ، شہید کو شہید کے ساتھ، صالح کو صالح کے ساتھ اور راغب نے جائز قرار دیا ہے اور ثابت ہوا کہ امام راغب کے نزدیک اس آیت کا وہی ترجمہ ہے جو بیان کیا ہے کہ اطاعت کنندہ نبوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، پاکٹ بک صـ۴۱۲۔

"محمد عمر" وکیل صاحب نے تفسیر کی عبارت کانٹ چھانٹ کر پیش فرمائی، لیکن اس میں بھی ان کا مقصد حل نہ ہو سکا۔ وکیل صاحب نے

marfat.com

ہے، اس کے معنی اگر کے ہوتے ہیں، مرزائی صاحب نے لَيَفْعَلَنَّ علہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کی مثال پیش کی جس سے فاعل کے فعل کی تاکید مقصود ہوتی ہے، لیکن جب نون ثقیلہ حرف شرط اِمَّا کے تحت واقع ہو، تو معنی مضارع کے نہیں رہ جاتے۔ اِمَّا میں مَا محض شرط کی تاکید کے لئے ہوتا ہے۔ یعنی مؤکد شرط ہے نہ فعل کا مؤکد۔ اور یہی مطلب بیضاوی د کتاب الصرف میں لکھا ہے۔

• ہٹ دھرمی کو خدا برباد کرے، ہٹ دھرمی سب سے بُری بلا ہے، جو کتاب الصرف اُردو کی کتاب کو بھی سمجھنے نہیں دیتی، لام مفتوح کو نون ثقیلہ کے ساتھ تو تاکید کے واسطے بیان کر دیا۔ لیکن نون ثقیلہ جب اِمَّا کے تحت واقع ہو۔ تو اس کا عمل بیان ہی نہیں کیا، کتنا دھوکہ ہے۔ اور اسی کو تفسیر بیضاوی والے نے نقل کیا ہے۔ ترجمہ چھوڑ گئے۔ اور اگلی بات کو نقل کر کے غلط بیانی سے کام لیا۔ اور وہ بھی اس آیت کے ماتحت نہیں، اِمَّا تَنْ حَبَنَّ کے ماتحت لکھا ہے۔ فَاِنْ تَيْتَضُنَاكَ یعنی اما بمعنی اِنْ حرف شرط کے معنی کئے ہیں، لیکن مرزائی تفسیر بیضاوی کو پیش کر کے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے معنی ضرور کرتا ہے۔ حالانکہ پیش کردہ عبارت کا مطلب واضح ہے، اِمَّا تَنْ هَبَنْ کے معنی ہیں کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں اور آگے بیضاوی نے جو عبارت لکھی ہے اس کے معنی صاف مرزائی کے خلاف ہیں۔ اِمَّا میں مَا زائدہ ہے اور جیسا کہ لام قسم جب داخل ہو نون ثقیلہ پر تو فعل کی تاکید کرتا ہے۔ ایسے ہی مَا زائدہ ہے۔ اس کے کوئی معنی مراد نہیں۔ اور نہ مَا کوئی عمل ہی کرتا ہے۔ بلکہ لام قسم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور شرط کا مؤکد ہونا شرط کو باطل نہیں ہونے دیتا، اِمَّا میں شرط کی تاکید کے لئے لایا جاوے اور مضارع کے معنی کو نہ بہنے دے۔ لیکن مرزائی شرط کو ڈکار سے ہی ہضم کر جائے اور اُلٹے فعل کو مؤکد سمجھے تو اس کو خدا ہی ہدایت دے۔ اب نفیر متنازعہ فیہا آیت اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ کے ماتحت مسلمانوں کی تفاسیر سے حوالہ دیتا ہے، کہ اِمَّا کے معنی اگر حرف شرط مراد ہیں، یا تاکید فعلی معنی ضرور ہیں۔

علہ (نوٹ):۔ خادم صاحب حیات مسیحؑ کے متعلق جب رب العزت نے فرمایا وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ تو اس وقت لَيُؤْمِنَنَّ میں لام تاکید مؤکد با نون ثقیلہ مضارع پر داخل ہو، تو زمانہ استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اس وقت کیوں اس قانون کو بھول گئے، اسوقت چونکہ حیات حضرت عیسٰی بن مریم علیہ السلام ثابت ہوتی تھی، اُس مقام پر مرزائی صاحب نے اپنا پاؤں لگنے ہی نہیں دیا، اور یہاں جو ماتحت حرف شرط ہے اس جگہ یہ قانون بھول گیا اور وہ یاد آیا۔ فافہم۔

marfat.com

ان میں کوئی شک نہیں۔

"**مرزائی**"۔ مولوی صاحب ان آیاتِ قرآنیہ کے حل سے تو ثابت ہوگیا، کہ نبوت کا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ مذکورہ آیت کی رُو سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع رسول بن سکتا ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، کہ اگر کوٹھی کا ملازم کوٹھی کی ملکیت کا مدعی ہو تو جھوٹا سمجھا جاویگا، ملازم مالک نہیں اور اگر مالک ہے، تو ملازم نہیں، یہ محال ہے کہ کوٹھی کا مالک بھی ہو اور کوٹھی کی ملازمت کا بھی مدعی بنے، لیکن ایک آیت قرآنی پیش کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوت ثابت ہے، اس کے متعلق بھی مجھے امید واثق ہے کہ آپ ضرور تسلی بخش جواب دینگے، سنیئے :-

یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (اعراف رکوع ۴)۔ اے بنی آدم (انسانو) البتہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرینگے تمہارے سامنے میری آئتیں، پس جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرینگے، اور اپنی اصلاح کرینگے، اُن کو کوئی غم اور ڈر نہ ہوگا۔ اِمَّا یَاْتِیَنَّ کا ترجمہ ہے، البتہ ضرور آئینگے، کیونکہ یاتین مضارع مؤکد بہ نون ثقیلہ ہے، جو مضارع میں تاکید مع خصوصیت زمانہ مستقبل کرتا ہے، جیسا کہ لَیَفْعَلَنَّ کے معنی ہیں، البتہ ضرور کریگا۔ ایسے ہی بیضاوی نے بھی اماان ھین کے ماتحت لکھا ہے، وما مزیدہ موکدۃ بمنزلۃ لام القسم فی استجلاب النون الموکدۃ۔ پس اس کے معنی ہوئے البتہ ضرور آوینگے رسل، پاکٹ بک صفحہ ۴۱۴۔

"**محمد عمر**"۔ زبان عربی وکیل صاحب کو دیکھ کر روتی ہے کہ مجھے آجتک ہندو نے پڑھا، عیسائی نے پڑھا، یہودی نے پڑھا، لیکن جتنا مجھے مرزائی نے لگاڑا ہے تمام کافر بھی مرزائی کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، جس شخص کو اِمَّا حرف شرط کا بھی علم نہ ہو، تو یہ وکیل مرزائیہ ہی کو زیبا ہے۔ وکیل صاحب کسی درس عربی میں تشریف لے جاکر بچوں میں بیٹھ کر پہلے صرف نحو پڑھیئے، پھر تمہیں عربی زبان کا علم ہوگا، تو تمہیں خود بخود سمجھ آجائیگی، کہ آیا مرزائی مذہب سے محض مسلمانوں کو دھوکا دینا ہی مقصد ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں۔ اِمَّا اصل میں اِنْ مَا سے مرکب ہے، اور یہ حرف شرط ہے۔ اِنْ حرف شرط اور ما ملغا یعنی زائد

marfat.com

وہ بلحاظ قانون نحو عربی صراحۃً غلط ہیں، کیونکہ یہ معنی لَیَفْعَلَنَّ کے ہیں، نہ اِمَّا یَاْتِیَنَّ کے۔
اب قرآن کریم سے اِمّا کی مثال دیکھ لیں، جو مضارع موکد بانون ثقیلہ پر داخل ہو، تو معنی شرط کے ہوتے ہیں۔

اِمّا کی تحقیق قرآن کریم سے

(۱) بقرہ	۴/۲	اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ مِّنِّیْ هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۰

اگر آوے تمہیں میری طرف سے ہدایت تو جس شخص نے میری ہدایت کی تابعداری کی تو اُن پر کوئی خوف نہیں۔ اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

(۲) انعام	۷/۸	وَاِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۰
(۳) انفال	۱۰/۷	فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۰
(۴) یونس	۱۱/۶	وَاِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَاِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ۔
(۵) بنی اسرائیل	۱۵/۳	اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ کِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا۔
(۶) مریم	۱۶/۲	فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِیْٓ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا۔
(۷) مومنون	۱۸/۶	اِمَّا تُرِیَنِّیْ مَا یُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِیْ فِی الْقَوْمِ الصّٰلِحِیْنَ ۰
(۸) حٰم سجدہ	۲۴/۵	وَاِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔
(۹) زخرف	۲۵/۴	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۰

marfat.com

اِمَّا کی تحقیق از تفاسیر

(۱) تفسیر جلالین ۱۰۲	یٰبَنِیْ اٰدَمَ اِمَّا بِنِیْہِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ شَرْطِیَّۃٌ فِیْ مَا زَائِدَۃٌ اس میں نون مدغم ہے، اِنْ شرطیہ ہے، مَا زائد ہے۔
(۲) تفسیر جامع البیان ۱۳۴	اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ اِمَّا حَرْفُ الشَّرْطِ وَمَا مَزِیْدَۃٌ لِتَاکِیْدِ مَعْنَی الشَّرْطِ۔ اِمَّا حرف شرط ہے۔ مَا زائد ہے۔ شرط کے معنی کی تاکید کیواسطے
(۳) تفسیر مدارک ۲/۴۰	(یٰبَنِیْ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ) ھی ان الشرطیۃ ضمت الیھا ما موکدۃ لمعنی الشرط۔ ان شرطیہ ہے، مَا موکدہ مشروط کے معنی کے لئے اس کے ساتھ ملایا گیا ہے
(۴) تفسیر خازن ۲/۱۸۶	(یٰبَنِیْ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ) ھِیَ اِنِ الشَّرْطِیَّۃُ ضُمَّتْ اِلَیْھَا مَا مُؤَکِّدَۃٌ بِمَعْنَی الشَّرْطِ وَجَزَاءُ ھٰذَا الشَّرْطِ ھُوَ الْفَاءُ۔
(۵) تفسیر معالم التنزیل ۲/۱۸۶	(اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ) ای اِنْ یَّاْتِیَکُمْ
(۶) تفسیر کبیر ۴/۲۹۹	وَقَوْلُہٗ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ ھی ان الشرطیۃ ضمت الیھا ما مؤکدۃ بمعنی الشرط ولذالک لزمت فعلیھا النون الثقیلۃ وجزاء ھذا الشرط ھو الفاء وما بعدہ

من الشرط والجزاء وھو قولہ فمن اتقٰی واصلح۔

سابقین مسلمانوں کی تفاسیر سے ثابت ہوا، کہ اِمَّا کے معنی صرف شرط کے ہیں۔ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ اگر آئیں تمہارے پاس رسل معنی صحیح ہیں، اور جو معنی وکیل صاحب نے کئے ہیں۔

marfat.com

علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کو خطاب فرمایا، فَاِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ مِّنِّیْ ھُدًی فَمَنْ تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے، تو جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کی تو ان پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ غم زدہ ہونگے، اس واقعہ کو بھی اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی قرآن کریم میں بیان فرمایا، لیکن کسی مسلمان نے آجتک یہ نہیں کہا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کہ یہ خطاب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بلکہ فرمان الٰہی مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ سے متعلق ہے، چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پیدا ہونی شروع ہوگئی، تو رب العزت نے ان کے ماں باپ کی طرح ان کو بھی خطاب فرمایا، یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ فَمَنِ اتَّقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، (تمہارے باپ چونکہ نبی اللہ تھے، ان کو براہ راست فَاِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ مِّنِّیْ ھُدًی سے خطاب کر کے نصیحت کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی اپنا ایک حکم جاری کرتا ہوں، کہ ہر ایک تو رسول بن نہیں سکتا، ہاں) اگر تمہارے پاس تم سے ہی بعض رسول آئیں اور وہ میری آیتیں تم پر بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور وہ صالح بن گیا، تو ان پر کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

تو اب اس خطاب الٰہی یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے خطاب شروع کرنا کوئی ایماندار اور صاحب انصاف نہیں کہہ سکتا اور پھر خداوند کریم نے بھی اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ حرف شرط سے خطاب فرمایا، کہ اگر تمہارے پاس آئیں بعض تم سے رسول تو اس اِمَّا حرف شرط نے ثابت کر دیا، اے اولادِ آدم علیہ السلام وہ وقت بھی تم پر آئیگا کہ نبوت کا دروازہ بند بھی ہو جائیگا، ورنہ رب العزت صیغۂ استمراری استعمال فرماتے، کَانَ یَاْتِیَنَّکُمْ کہ تمہارے پاس رسل ہمیشہ آتے رہیں گے، جب رب العزت نے ان کے لئے حرف شرط سے حرف شک استعمال فرمایا، کہ اگر آئیں تمہارے پاس رسل تو صاف ظاہر ہے کہ بفرمان الٰہی اگر نہ آئیں تو تم اپنی طرف سے نبوت کو جاری کر کے جعلی نبی نہ مقرر کر لینا، بلکہ میری نبوت کے اختتام کو تم ختم پر ہی یقین رکھنا، یہ ہے مطلب خداوندی جس کو وکیل صاحب نے ہیرا پھیری سے کام لیا،

marfat.com

(۱۰) ۲۴/۸ وَاِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِیْ نَعِدُھُمْ۔

تِلْکَ عَشَرَۃٌ کَامِلَۃٌ

ان تمام آیات میں اِمَّا مضارع مؤکد نون ثقیلہ پر داخل ہے۔ اور معنی حرف شرط کے "اگر" ہیں، ثابت ہوا، کہ مرزائی معنی ضرور آئیں گے، یہ نحو عربی و اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے غلط اور خود ساختہ ہیں، اور اِمَّا یاتِیَنَّ کے معنی اگر آئیں تمہارے پاس رسل معنی صحیح ہیں، اور یہ خطاب یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ سے اولاد آدم علیہ السلام کو ہے، یعنی اس خطاب کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہے، نہ کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر نص سے ثابت ہے۔

مرزائی۔ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو، یہ آیت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، یہ نہیں لکھا، کہ ہم نے گذشتہ زمانہ میں یہ کہا تھا، نیز اس آیت سے پہلے کئی مرتبہ یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ آیا ہے، اور اس میں سب جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے زمانہ کے لوگ مخاطب ہیں، جیسا کہ یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ہے، چنانچہ جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں، وَاَنَّہٗ خِطَابٌ لِاَھْلِ ذَالِکَ الزَّمَانِ وَلِکُلِّ مَنْ بَعْدَھُمْ۔ اور تفسیر حسینی میں لکھا ہے کہ یہ خطاب عام ہے، فخر الدین رازی اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں، وانما قال رسل وان کان خطابا للرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام وھو خاتم الانبیاء علیہ وعلیھم السلام واما قولہ یقصون علیکم ایتی فقیل تلک الایات من القراٰن ثم قسم اللہ تعالٰی حال الامۃ فقال فمن اتقی واصلح،

پاکٹ بک ص۱۵۰۔ اس نوٹ کا جواب ملاحظہ ہو۔

محمد عمر۔ مرزائی صاحب تدلی عقل بھی خدا کسی کو نہ عنایت فرماوے، خداوند تعالٰی خطاب فرماویں یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ سے اے آدم علیہ السلام کی اولاد، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو رب العزت نے حضرت آدم

marfat.com

ایمان ہے؟ ۔ اگر نہیں تو یہ بھی تمہارے لئے حجت نہیں ہو سکتا، اور اگر اِمّا کے معنی پر ایمان ہے، تو تمہارے معنی غلط ثابت ہوئے ۔ اور ہمارا مطلب صاف ظاہر ہے۔

دوسرا جواب متنازعہ فیہا آیت یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ کے ماتحت دکھاؤ، کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہو، کہ فائدہ خِطَابٌ لِاَھْلِ ذَالِکَ الزَّمَانِ کہ اس آیت میں اس زمانہ کے لوگوں کو خطاب ہے، جب متنازعہ فیہا آیت کے متعلق یہ تخصیص موجود نہیں، تو اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں اگر کوئی تخصیص کرے تو کرے ہمیں اس سے غرض نہیں، ہماری غرض تو یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ سے ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے یہ جملہ فرمایا نہیں، تو تم مرزائی مطلب کسی آیت کا ہو اور چسپاں کسی اور پر کرو۔ تو یہ مرزائی ہتھکنڈا ہے، جس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ متنازعہ فیہا آیت میں بنی آدم کو خطاب کر کے اِمّا حرف شرط سے مشروط کیا ہے، کہ اگر رُسل کو بھیجتا رہوں ۔ تو ایمان اُسی پر لاتے رہنا، جب رسالت و نبوت کو بند کر دوں، تو تم بھی رُک جانا، کسی غیر نبی کو اپنی طرف سے نبی نہ بنا بیٹھنا۔ چنانچہ رب العزت نے یٰٓاَیُّھَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا ۔ وَاِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِکُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ ۔ اور دیگر کئی آیتوں سے اس شک کو دُور کر کے شرط کو ختم کر دیا، کہ اب تم تمام کی طرف ایک ہی رسول کافی ہے، اب ان کے بعد اور کوئی رسول پیدا نہیں ہو گا، لیکن اسی واقعہ کی دوسری آیتوں میں بجائے حرف شرط کے کہیں خبر پیش فرمائی، مثلاً یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْاٰتِکُمْ وَرِیْشًا ۔ اور کہیں نہی کا حکم صادر فرمایا یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَیْکُمْ مِّنَ الْجَنَّۃِ۔ اور کہیں امر سے حکم جاری فرمایا، جیسا کہ اَقِیْمُوْا وُجُوْھَکُمْ ۔ وَیٰبَنِیْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، امر اور شرط کی تفریق کا بھی علم اگر مرزائی کو نہ ہو، تو یہ مرزا جی کا قصور ہے۔ لطف تب تھا، کہ اس مقام پر یٰبنی آدم کا خطاب فرما کر رب العزت حرف شرط سے جملہ شرطیہ فرماتے۔ اور پھر اس کا حکم قیامت تک جاری ہوتا، اور جملہ شرطیہ کے متنازعہ کو خبر یا نہی یا امر پر قیاس کرنا یہ تمہاری کم علمی پر دال ہو گا، جس پر تمہیں معذور سمجھا جاویگا، خداوند کریم

marfat.com

چنانچہ رب العزت نے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقع کو شروع فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنٰکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰکُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَۃِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِیْسَ - پھر شیطان کا اعلان اولاد آدم علیہ السلام کو بمقابلہ اخراج قَالَ فَبِمَآ اَغْوَیْتَنِیْ لَاَقْعُدَنَّ لَہُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْمَ ثُمَّ لَاٰتِیَنَّہُمْ مِّنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْہِمْ وَمِنْ خَلْفِہِمْ وَعَنْ اَیْمَانِہِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِہِمْ وَلَا تَجِدُ اَکْثَرَہُمْ شٰکِرِیْنَ بیان کیا گیا، لہذا رب العزت نے شیطان کے اس اعلان گمراہی کی روک کے لئے انبیاء کرام مقرر فرمائے اور اولاد آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَیْکُمْ مِّنَ الْجَنَّۃِ - چنانچہ اسی ہدایت کے اجراء کے واسطے جملہ معترضہ کے طور پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی بے حیائی سے روکنے کا ارشاد فرمایا۔ بعد ازاں پھر اولاد آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ میں نے تمہاری خاطر اس شیطانی روک کے لئے رسُل کو مقرر کر دیا ہے۔ اور اے اولاد آدم علیہ السلام شیطان کے اس اعلان کی حمایت نہ کرنا، بلکہ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ فَمَنِ اتَّقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ کا حکم صادر فرمایا، تو خداوند کریم نے یہ اعلان شیطان کے مقابلہ کے لئے اولاد آدم علیہ السلام کو اس کے اُس اعلان لَاُغْوِیَنَّہُمْ کے جواب میں سنایا، مرزائی اس واقعہ خداوندی کو دو ٹکڑے کر کے مطلب خداوندی کو فوت کرنا چاہتا ہے، کہ بیچ درمیان میں خداوند نے جملہ معترضہ کے طور پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیوں کر دیا، حالانکہ یہ قانون الٰہی ہے، کہ کلام نقل فرما دے، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور ما سبق کی توضیحاً ضرور بطور نصیحت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما دیتے ہیں، تو اس ضمنی عبارت سے جو بطور جملہ معترضہ بیان ہو، تو مرزائی مابعد کی کلام کو ماقبل سے علیحدہ سمجھے، تو یہ مرزائی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام قرآنی کلام کو بدلنے کے سخت خلاف ہے۔ پھر خُذُوْا زِیْنَتَکُمْ کے ماتحت علامہ سیوطی کے قول کو پیش کیا جاتا ہے۔

پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان واثق ہے تو اس نے اِمَّا کو حرف شرط لکھا ہے۔ تم نے اُس کے خلاف کیوں اپنے معنیٰ ضرور کر لئے، کیا اس پر تمہارا

maktabat.com

طرِ نہیں چاہیئے تھا اور جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اتقا اور صالحیت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو علامہ رازی کی عبارت نے بھی وکیل صاحب کا ساتھ نہ دیا۔ جس کو وکیل صاحب نے اُلٹ بیان فرمایا، یہ ہے وکیل صاحب کے نوٹ کا اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطلب، جس کو وکیل صاحب نے غلط بیان کر کے افترا کا ثبوت دیا، باقی رہا خُذُوا زِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، وکیل صاحب نے بڑے شد و مد سے مسجد کے عموم کو توڑنے کی کوشش فرمائی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْھِمْ مَسْجِدًا میں خداوند کریم نے لفظ مسجد کو عام مراد لیا ہے، کیونکہ اصحاب کہف کی کہف پر جب یہود نے مسجد بنوائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس اصطلاح قرآنی کے مقابلہ میں کسی کا قول مسموع نہ ہوگا، اور مسجد کا عموم ہی مراد لیا جاویگا۔ تفسیر کبیر کے مطلب کو نقیر پہلے بیان کر چکا ہے اس لئے پاکٹ بک ص ۴۱۹ کی عبارت کا جواب دوبارہ درج کرنیکی ضرورت نہیں،

"مرزائی"۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے اِیْتَانُ الرُّسُلِ اَمْرٌ جَائِزٌ غَیْرُ وَاجِبٍ رُسل کا آنا جائز ہے واجب نہیں۔

ثابت ہؤا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کا آنا جائز ہے، اگرچہ ضروری نہیں، کہ رسول ضرور ہی آئیں، بہرحال امکان نبوت کو تسلیم کر لیا گیا، پاکٹ بک ص ۴۱۹،

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب کا کتابوں کی عبارت کو کانٹ چھانٹ کر بیان کرنا بائیں ہاتھ کا کام ہے، اب تفسیر بیضاوی کی عبارت کو پیش کر کے اس کا مطلب عرض کرتا ہوں۔

شَرَطَ ذِکْرَہٗ بِحَرْفِ الشَّکِّ لِلتَّنْبِیْهِ عَلٰی اَنَّ اِیْتَانَ الرُّسُلِ اَمْرٌ جَائِزٌ غَیْرُ وَاجِبٍ کَمَا ظَنَّہٗ اَھْلُ التَّعْلِیْمِ۔ یعنی رسل کا آنا امر جائز ہے واجب نہیں، جیسا کہ اسے گمان کیا ہے روافض نے، یعنی جو روافض حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول مانتے ہیں، وہ اہل التعلیم کہلاتے ہیں، تو اہل تعلیم روافض کا عقیدہ ہے، کہ رُسل کا آنا امر جائز ہے واجب نہیں، یہ ہے علامہ بیضاوی کہ جس نے رافضیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ نہ کہ مسلمانوں کا اور نہ ہی اپنا عقیدہ لکھا ہے، جو مرزائی بن جائے خدا کا خوف تو اس کے دل سے اُٹھ جاتا ہے

marfat.com

تمہیں ہدایت کی توفیق بخشے، اور عبارت قرآنیہ سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کو بگاڑنے سے خدا ہر شخص کو محفوظ رکھے، تو ثابت ہوا، کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری آیت کو سمجھنا حقیقت ہے، کیونکہ امر یہ شرط نہیں، تمہارا شرط کو امر پر قیاس کرنا غلط ثابت ہوا۔

باقی رہا تمہارا بیان کرنا تفسیر کبیر کی عبارت کو چھانٹ کر، تو یہ تمہاری مرزائیات سے سمجھو نگا۔ پاکٹ بک میں تو کانٹ چھانٹ کر عبارت کو پیش کر دیا، لیکن کتاب سے تو تم کاٹ نہیں سکتے، تفسیر کبیر کا مطلب بھی عرض کرتا ہوں، علامہ رازی نے پہلے بیان فرمایا، اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ - ھی ان الشرطیۃ اس کو چھوڑ گئے کیونکہ مرزائی معنی کی جڑ کٹتی تھی، اور پھر جو علامہ رازی کی عبارت پیش کی، اس کا مطلب بھی اُلٹ بیان کیا، حالانکہ تمہاری پیش کردہ عبارت کا مطلب یہ ہے، کہ یہ فرمانِ الٰہی رُسُلٌ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حالانکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انبیا علیہم السلام کے ختم کرنیوالے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالےٰ نے امم ماضیہ کی سنت کے مطابق کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کہ رُسُلٌ مِّنْکُمْ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایسے رسول کا آنا محال تھا اُن کے اس قول کو اللہ تعالےٰ نے رد فرما دیا، اور علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ سے مراد قرآن کریم ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تشریف لاکر تم پر میری آیتیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں، "پڑھینگے نہیں" جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے، تو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا، کہ جو شخص متقی اور صالح ہوگیا تو قیامت میں اُسے کوئی ڈر نہیں، تو حقیقت یہ ہوئی کہ رُسل جمع سے علامہ رازی نے واحد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لئے اور یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ سے فعل واحد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ رازی نے مراد لیا، تو تمام آیت کا مطلب یہ ہوا، کہ اگر تمہارے پاس میرا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرا قرآن تلاوت فرمادے تو جو اس قرآن کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر ڈر گیا، اور نیک ہوگیا تو قیامت کا اُسے کوئی خوف نہیں، اور نہ اُسے عذاب الٰہی کا ڈر ہے، اور اگر نبوت کا اجراء ہوتا اور اطاعت میں نبوت ممکن ہوتی، تو فاجزائیہ کے تحت نتیجہ یہ بیان ہوتا، کہ اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میرے قرآن کی آیتیں پڑھیں، تو بجائے فَمَنِ اتَّقٰی وَاَصْلَحَ جو شخص متقی بنا اور نبی، ہوگیا تو اسے خوف و

marfat.com

بل چکا، بلچکا۔ اب بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا ٹکٹ ملنا میری طرف سے محال اور ناممکن ہے، وہ داوٹ کو گرفتار کیا جاوے گا۔

دوسرا جواب اس جملہ دعائیہ کے سب سے زیادہ واجب القبول مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پانچوں وقت دن میں تمام عمر دعا فرماتے رہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضےٰ وغیرہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اقتدا میں آمین بھی کہتے رہے ہیں، جب اُن کو مستجاب الدعوات کی طرف سے صدیقیت، شہادت اور صالحیت کا ہی درجہ ملا تو تم کیسے درجۂ نبوت کو حاصل کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا، کہ نبوت کسی شے نہیں۔ یا کہو کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اُن کے لئے دل سے کھوٹے تھے کہ خود تو نبوت لے لی اور جب اُن کو دلوانے کا وقت آیا تو ان کو صدیقیت، شہادت اور صالحیت میں اُلجھا دیا تو یہ بھی محال امر ہے، کیونکہ آپ کے اس امر کی صفائی رب العزت نے کر دی ہے، مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کھوٹ لائق ہی نہیں، اور یہ عقیدہ کفار کا تھا، کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کھوٹے تھے، جس کے جواب میں رب العزت نے یہ صفائی پیش کی۔ یا یہ کہو، کہ آپ دعا تو تمام صحابہ کرام کے لئے فرماتے رہے، اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے لئے بجان و دل اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کا وظیفہ دن رات پڑھتے رہے، لیکن خداوند کریم نے منظور نہیں کیا، محض مزاجی کا ہی گیا، تو یہ بھی محال، کیونکہ جن پر سات دفعہ اس کا نزول ہوا ہو، الکو تو رب العزت ٹھکرا دے اور ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد جس سے کوئی بات چیت ہی نہیں اُس کو دیدے یہ خلاف اصول قرآن ہے، اس کا وعدہ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وہ خدا کسی مومن کی دعا کو ٹھکراتا نہیں، موجود و مقرر ہے، بلکہ جن کو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ کی سند عطا کر دے، اور پھر ان سے اچھے رہتے کو باوجود طلب کرنے کے بھی عطا نہ کرے تو معاذ اللہ، معاذ اللہ خداوند کریم کا ذب ثابت ہوگا اور کذب باری محال، لہٰذا خداوند کریم سچا، اس کی کلام سچی، اس کا وعدہ سچا، اس کی آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سے نبوت کا استنباط کرنا اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ ہے۔

لہٰذا ثابت ہوا، کہ جملہ دعائیہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سے حصول نبوت کی ہوس غلط ہے، خلاف حکم خداوندی ہے، حد الٰہی سے تجاوز کرنا ہے۔

marfat.com

جو دل چاہے لکھے اور جو دل چاہے کہے کون پوچھنے والا ہے۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب اس آیت کے متعلق تو ثابت ہو چکا، کہ قرآنی اصطلاح کے مطابق یٰبَنِیْ آدَمَ سے اولاد آدم علیہ السلام کو انہی کے واقعہ میں حرف شرط سے بیان کیا گیا ہے، اور حرفِ شرط حرف شک آئے آئے نہ آئے نہ آئے، تو اس حرف شک سے ثابت ہو گیا، کہ خداوند کریم نے چونکہ نبوت بند کرنی تھی، اس لئے اِمَّا حرف شرط سے مشروط فرمایا، باقی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ملاحظہ ہو، اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، گویا ہم کو بھی وہ ہی نعمتیں عطا فرما، جو پہلے لوگوں کو تو نے عطا فرمائیں، اب سوال ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں کیا تھیں، قرآن مجید میں ہے۔ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا (مائدہ رکوع ۴)۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا، تو ثابت ہوا، کہ نبوۃ اور بادشاہت دو نعمتیں ہیں، جو خدا تعالےٰ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، اور انہی دونوں نعمتوں کے طلب کرنے کا خدا نے سورۃ فاتحہ میں اعلان کیا، لہٰذا امت محمدیہ میں نبوت ثابت ہوئی۔

"محمد عمر"۔ فقیر اس آیت سے تمہارے استدلال کو حل کر چکا ہے، تمہارے دوبارہ سوال کرنے کی وجہ سے پھر حل کر دیتا ہوں،

پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، آیت حکمی نہیں، لہٰذا دعا میں جو قابل قبول ہوتی ہے قبول کیجاتی ہے ورنہ نہیں، لہٰذا اس جملہ دعائیہ میں تم ہمارے سامنے یہ استدلال پیش نہیں کر سکتے، بلکہ خداوند کریم کو یہ حجت پیش کر سکتے ہو، کہ یا اللہ تیری پڑھائی ہوئی دعا سے ہم ملتجی ہیں، کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اُن میں تو نے نبوت کو بھی شامل کیا ہے، تو تو ہمیں منعمین سے پہلا درجہ بھی عطا کر، تو وہ تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے، کہ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تعلیم بھی میں ہی پڑھانیوالا ہوں، اور پہلے درجہ نبوت کی ٹکٹ بھی تو میں نے ہی بند کر دی ہے، صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کا ٹکٹ مل سکتا ہے، نبوت کا ٹکٹ جس کو

marfat.com

تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کے عہدۂ نبوت کو دست اندازی کرنیوالوں سے نہیں ہوں، اور یہی مطلب صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا ہے۔

زائی"۔ مولوی صاحب اس آیت کا مطلب خوب سمجھ لیا، اور وکیل صاحب کے دو پیچ کو بھی سمجھ گیا، کہ وہ کس حکم کو انہوں نے اُمتِ محمدیہ پر چسپاں کر دیا، حالانکہ اُن کے زمانہ میں نبوت کا دروازہ بند نہ تھا، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جس سے اجرائے نبوت ثابت ہے، يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (مومنون رکوع ۳)۔ اے رسولو، پاک کھانے کھاؤ اور نیک کام کرو، یہ جملہ ندائیہ ہے، جو حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رُسل بصیغۂ جمع کم از کم ایک سے زیادہ رسولوں کو چاہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے رسول تھے، آپ کے زمانہ میں بھی کوئی اور رسول نہ تھا۔ لہٰذا ماننا پڑیگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آئیں گے، ورنہ کیا خداوند وفات یافتہ رسولوں کو یہ حکم دے رہا ہے، کہ اٹھو اور پاک کھانے کھاؤ۔ اور نیک کام کرو۔ (پاکٹ بک صـ۴۲۰)۔

"**محمد عمر**"۔ وکیل صاحب کلامِ الٰہی کے سیاق و سباق دیکھنے سے عاری ہیں، مرزا صاحب نے جیسے بہکا دیا، آمَنَّا وَصَدَّقْنَا کہہ دیا۔ وکیل صاحب یہ کلام خداوندی ہے، اس نے حساب لینا ہے، مرزا صاحب حساب لینے والے نہیں ہیں، مرزائیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلامِ خداوندی کی اس آیت پیش کردہ کا ماقبل ملاحظہ فرماؤ، کہ ذکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا تمام انبیائے ماسبق کا، اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر اگر نہیں تو کلام خداوندی کے مطابق انبیائے ماسبق کے ذکر میں انبیائے ماسبق کے خطاب کو نقل فرما کر بیان فرمایا، کہ رُسل کا کھانا حلال طیّب ہوتا تھا، غیر کی ناجائز جائیداد بالجبر لینے کے لئے اپنے لڑکے کو متبنیٰ بنا کر ذوی الفروض کو محروم رکھنا یہ رُسل کی شان نہیں تھی اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اُن کے رزق کی صفت طیبات سے بیان فرمائی، ماقبل ملاحظہ ہو، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، آگے فرمایا، ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، پھر ابن مریم علیہ السلام

marfat.com

تیسرا جواب اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ جملہ دعائیہ عام ہے، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، خداوند کریم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کسی عورت کو ہی نبوت عطا فرما دیتے لیکن جب عورتوں کے لئے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کے علاوہ ایک حکم بِرِجَالًا نُّوْحِیْ اِلَیْھِمْ تخصیص موجود ہے، تو اس جملہ دعائیہ کے لئے منعمین من اللہ سے نبوت ختم ہونے کی کئی آیتیں مخصصہ موجود ہیں، جنکے انکار سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے۔

وکیل صاحب نے ایک اور ہوشیاری کی، فرمان موسوی یٰقَوْمِ اذْکُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَآءَ وَجَعَلَ فِیْکُمْ مُّلُوْکًا۔ اس آیت کی رُو سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو انعام خداوندی جتایا، لیکن وکیل صاحب نے بنی اسرائیلی انعام کو امت محمدیہ پر چسپاں کر دیا، حالانکہ اُن کے احکام اور اس امت کے احکام جداگانہ ہیں، اور لطف تب تھا، کہ وکیل صاحب کسی آیت سے امت محمدیہ کے حق میں ایسی آیت دکھاتے، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوتا، کہ اے میری قوم، یا اے میری امت خداوند کے انعام کو بھلانا نہیں تم میں وہ انبیا پیدا کریگا۔ جب ایسی کوئی آیت موجود نہیں، تو کلام موسوی سے اسرائیلی قوم کے واسطے ان کے انعامات کو جتانا پھر امت محمدیہ پر ان کو چسپاں کر کے مخلوق خدا کو دھوکا دینا یہ محض کا دیانی کید ہے جس کو مسلمان سمجھ چکے ہیں، اور نہ ہی خداوند کریم کا سرئہ مصطفویہ میں باڑہ موسوی ڈال سکتا ہے، پھر انعام الٰہی کو محض نبوت اور بادشاہت میں مقید کرنا یہ خاصہ وکیل صاحب کا ہی ہے، انعامات خداوندی مسلمانوں پر بے شمار ہیں، کہ لا تعد ولا تحصیٰ ہیں، جیسا کہ ارشاد الٰہی۔ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ لَا تُحْصُوْھَا سے ظاہر ہے، پھر اگر بفرض محال اس آیت سے چشم پوشی کرو گے، تو صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے انعامات الٰہیہ کا انکار لازم آئیگا، وکیل صاحب کو حافظ سے معذور سمجھو نگا۔

تو نتیجہ صاف ظاہر ہے، کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ سے دربار خداوندی میں بندہ ملتجی ہے، کہ خداوندا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے منعمین، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل کر دینا، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت کا خواستگار ہوں۔

marfat.com

والا یا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج اور منکر قرآن سمجھا جاتا ہے، لہذا ماننا پڑیگا، کہ اس آیت کریمہ سے اجرائے نبوت کا استنباط مرزائیہ غلط اور آیت قرآنیہ کو بے ربط کرنا ہے، اور اس یا ایھا الرسل جمع کے مصداق وہی انبیا اور رسل علیہ السلام ہی ہیں، جو اس مقام پر مذکور ہیں، اور قبل از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ وہ ایک زمانہ میں کئی کئی رسل علیہم السلام تشریف فرمائے ہے، اور انہی کو ہی موافق سیاق وسباق خداوندی خطاب ہے، باقی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طیبات کا حکم خداوندی تو وہ دوسرے مقام پر بھی مذکور ہے،

(۱) بقرہ ۵/۲ ۲/۲۱	یا ایھا الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم واشکروا للّٰہ۔
(۲) بقرہ ۵/۲ ۲/۲۱	یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلٰلا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔
(۳) مائدہ ۷/۱۲	فکلوا مما رزقکم اللّٰہ حلٰلا طیبا۔

بلکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے اختیار کُلّی بخشا ہے، جسے آپ چاہیں حلال طیب فرمادیں، اور جسکو چاہیں حرام فرمادیں، جیساکہ ارشاد الٰہی ہے جو زمانۂ موسیٰ علیہ السلام میں بطور تعریف مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا،

اعراف ۹/۱۹	ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے طیبات کو حلال فرمادینگے اور

خبیث اشیاء کو اُن کے لئے حرام کرینگے،

اور اسی لئے تمہاری پیش کردہ حدیث مسلم شریف میں بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کو بیان فرما کر اپنے حکم کو بعد میں دوبارہ ذکر فرمایا، وقال اللّٰہ تعالٰی یا ایھا الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم ورنہ وان اللّٰہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین کے ساتھ آیت کو چسپاں کرکے کلام کو تمام کیا جاتا، لیکن جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیا علیہم السلام کے حکم طیبات کے کھانے کا بیان فرما کر اپنے

marfat.com

کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ یٰاَیُّھَا الرُّسُلُ کُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا۔
اس مقام پر رب العزت نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انبیا علیہما السلام کا ذکر فرماتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام کا اس مقام پر ہی نہیں، اور رب العزت نے اسی مصلحت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطاب سے ماقبل ذکر نہیں فرمایا، تاکہ کوئی کج طبع یہ نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ کو خطاب ہو رہا ہے، اور بصیغۂ جمع ہے، لہٰذا رسالت کو کوئی جاری سمجھ بیٹھے، دکیل صاحب اگر آپ کو مرزائیت انصاف سے مانع ہو، تو کسی ہندو، سکھ، یا عیسائی کے سامنے ہی قرآن رکھ کر تسلی کر لو، کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیا علیہم السلام کا ذکر ہے، اس جگہ تمام مذکورہ آیات میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہی نہیں گیا اور نہ کوئی اس مقام پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہوا ہے، انبیائے ماسبق کا ہی ذکر ہے، اور انہی کے لئے ہی اس خطاب کا ذکر حکایۃً ہو رہا ہے، یٰاَیُّھَا الرُّسُلُ کُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا کہ اے ما سبق من الانبیاء طیب کھانا کھاؤ اور عمل صالح کرو، یہ خطاب ماسبق من الانبیاء کا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، جو ان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، باقی رہا تمہارا کہنا کہ یہ جملہ ندائیہ ہے، لہٰذا بعد کے آنے والوں کو خطاب ہے، جو حال اور استقبال پر دال ہے یہ غلط ہے، کیونکہ خداوند کریم سے کوئی شے ہی بعید نہیں، تو ندائے خداوندی کو ندائے انسانی پر قیاس کرنا یہ مرزائی قانون ہی ہے، تو بہر صورت فیصلہ اس امر پر ہوگا، کہ اس مقام پر ذکر کس کا مذکور ہے، جو مذکور ہو وہی مخاطب ہوگا، جب اس مقام پر قبل از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس عبارت خطابیہ کا تعلق بھی انہیں سے ہوگا، نہ کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اگر عقل انسانی کو بھی خدا پر قیاس کرو، تو بھی تمہارا استدلال غلط ہے، کیونکہ ندائی خطاب للعمل حال سے ہی متعلق ہوتا ہے، تو زمانۂ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی یا رسول تھا ہی نہیں، اور جمع کا اطلاق کم از تین پر ہوتا، تو معاذ اللہ خطاب خداوند تعالے غلط ثابت ہوگا، اور جو خطاب حال کے لئے غلط ہے، وہ استقبال کے لئے بطریق اولے غلط ثابت ہوگا، تو کلام خداوندی کو غلط تصور کرنے

marfat.com

ہے، جیساکہ آپ نے ارشاد فرمایا ؛ اِنَّ اللّٰہَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ بِمَا اَمَرَ بِہِ الْمُرْسَلِیْنَ کہ بے شک اللہ تعالٰی نے مومنوں کو یَا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ سے حکم دیا ہے جیساکہ زمانۂ گذشتہ میں اپنے رسولوں کو یَا اَیُّھَا الرُّسُلُ کُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا سے حکم فرمایا، کیونکہ اَمَرَ صیغۂ ماضی ہے، جو زمانۂ گذشتہ پر دال ہے، تو معلوم ہوا، کہ یہ خطاب ماسبق انبیا و رسل علیہم السلام کو ہے جو ظاہر نص سے ثابت ہے اور تمہارا اجرائے نبوت کا اس آیت میں اشارہ یا کنایہ بھی موجود نہیں، یہ تمہارا محض مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے، اور اس آیت کے متصل ہی چونکہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لئے تفسیر حسینی نے لکھا ہے ؛ یا ایھا الرسل خطاب با عیسٰی علیہ السلام است، بر سبیل تعظیم می فرماید،

"**مرزائی**" تفسیر اتقان میں ہے، کہ یا ایھا الرسل میں خطاب محض مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ملاحظہ ہو خِطَابُ الْوَاحِدِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ نَحْوُ یَا اَیُّھَا الرُّسُلُ کُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ پاکٹ بک صد ۴۲۲ ۔

"**محمد عمر**" اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ بھائی وکیل صاحب، آپ تو وکیل ہیں، تمہیں خبر ہونی چاہیئے کہ جو پہلی دفعہ چوری کرے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سزا دیجاتی ہے، کہ شاید بیچارہ بھوکا مرتا ہو تو تھوڑی سزا سے ہی درست ہو جائے، لیکن جب بار بار چوری سے پکڑا جائے اور چوری کا عادی ہو جائے تو اس کو نمبر دس میں پولیس درج کرلیتی ہے، اور جب کبھی اس علاقہ میں کوئی چوری ہو تو اس کو پہلے بلا کر پیٹا جاتا ہے، کہ چور تم ہو، یا مال دیدو یا دلوادو، تمہیں مال مسروقہ کی خبر ضرور ہے، ایسے ہی جب کسی حوالہ کی قطع و برید پر نظر پڑے تو فوراً مرزائیوں کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کہ یہ کام مرزائیہ کا ہی ہے، یا ان کے مشورہ سے ہوا ہے، جن میں شرعی نمبر دس کے مجرم خاص وکیل صاحب ہیں، کہ جو حوالہ دیکھو اس میں عبارت مسروقہ ضرور ہوتی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی وکیل صاحب چرا گئے، آئیے فقیر پوری عبارت نقل کرتا ہے،

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر مخاطبات الٰہیہ کے اقسام کو ذکر فرمایا ہے چنانچہ تیرھویں قسم بیان فرمائی، کہ اللہ تعالٰی قرآن کریم میں لفظ واحد استعمال فرماتے ہیں اور مراد جمع ہوتی ہے، جیساکہ یَا اَیُّھَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیْمِ ۝ ملاحظہ ہو،

marfat.com

حکم کو علیحدہ بیان فرمایا، تو ثابت ہوا، کہ یہ خطاب اس مقام پر پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام کا ہو رہا ہے۔ نہ کہ زمانۂ استقبال پر دال ہے، جیسا کہ تم نے قرآنی عبارت کے ربط کلامی کو ترک کر کے ایک جملے کو علیحدہ کر کے غلط مطلب بیان کرتے ہوئے مرزائیت کا نقشہ کھینچ دیا۔

یا ایہا الرسل کی تحقیق از تفسیر

ابن جریر ۱۱۳

حدثنی المثنی قال ثنا اسحٰق قال ثنا ہشام ابو عبد اللہ قال ثنا صباح قال ثنا عبد الرحمٰن بن زیاد عن ابی سیار السلمی قال ان اللہ جعل ادم و ذریتہ فی کفہ فقال یبنی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ثم نظر الی الرسل فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبت واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم ۔

ابو یسار سلمی سے روایت ہے کہ اس نے کہا بے شک اللہ تعالے نے آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اپنے دست قدرت میں کیا، پھر فرمایا کہ اے اولاد آدم علیہ السلام اگر تمہارے پاس تم سے رسل تشریف لادیں، تم پر میری آیتیں بیان کریں، تو جو شخص متقی ہو گیا اور نیک ہو گیا تو اُن پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ غم کھائینگے، پھر رب العزۃ نے تمام رسولوں کی طرف نظر فرمائی، تو فرمایا، اے رسولو، پاک اشیاء کھاؤ، اور عمل نیک کرو، جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو میں جاننے والا ہوں،

اس عبارت سے دو آیتوں کا مطلب واضح ہو گیا، اما یاتینکم رسل کہ یہ خطاب بھی یوم میثاق ہی تمام رسل کو اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔ یہ بھی اب کا واقعہ اور خطاب نہیں، جیسا کہ مرزائی بیان کرتے ہیں، اور پھر یوم میثاق ہی تمام رسل کو مخاطب ہو کر فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبت واعملوا صالحا۔ یہ دونوں خطاب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ یوم میثاق رب العزت نے فرمائے، اور تمہاری پیش کردہ ترمذی شریف کی حدیث میں بھی مرزائی مطلب کا رد ہے اور مسلمانوں کے مطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا

نبوت صراحتہً ثابت ہے، اُلٹ سمجھیں تو کونسی بڑی بات ہے،

"مرزائی"۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رُسل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کو شامل کر کے رُسل فرما دیا ہے، تو یہ محض خوش فہمی ہے، ایک کو سوا لاکھ کہنے کے مترادف ہے، جیسا کہ شیعہ لوگ اٰمنوا سے مراد حضرت علی کو مخاطب سمجھتے ہیں، قرآن کریم چونکہ قیامت تک ہے، اس لئے رُسل جمع آئندہ انبیاء پر بھی مستعمل ہوگا۔

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب اپنی تائید میں حوالہ پیش کرتے ہیں، جب مصنف کو اپنے خلاف پاتے ہیں، تو اس حوالہ کو اپنے خلاف ہونے کی بنا پر رَد فرما دیتے ہیں، جیسا کہ امام راغب کو اپنی تائید میں پیش کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن امام راغب کی عبارت میں صاف واضح ہے، کہ لفظ رُسل جمع ہے، لیکن مراد صرف مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ کے صحابۂ کرام کی شمولیت کے باعث لفظ جمع کہا گیا، آگے فرمایا جیسا کہ ۔مہلب و اَولادُہٗ المھالبہ یعنی اولاد مہلب کو مہالبہ کہا جاتا ہے، یہ تو مرزائی مطلب کے واضح طور پر خلاف ہے، کیونکہ تم مرزائی تو استقبال کے لئے لیتے ہو، کہ آنے والے رُسل کو خطاب ہے، امام راغب کی عبارت سے یہ دکھاؤ کہ آنے والے رُسل مراد ہیں، جو تمہارا عقیدہ ہے، جس کی تم دلیل پیش کر رہے ہو، وکیل صاحب کو مشکل یہ ہے، کہ جس کتاب کو چھوتے ہیں، وہی ان کے خلاف ہوتی ہے، مرزائی صاحب اگر تم ان حوالہ جات کو غلط سمجھتے ہو، کیونکہ یہ ختم نبوت کے مؤید ہیں، تو تم ان کو پیش ہی نہ کرو، پھر ان کو پیش کر کے ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ہماری دلیل ہو کر تمہارے خلاف بھگتتی ہے، تو سیدھی سادھی بات صرف قرآن کریم پر ہی کیوں نہیں ایمان لے آتے، کہ قرآن کریم میں رب العزت نے پہلے تمام انبیاء و رسل کا پے در پے ذکر فرماتے ہوئے حضرت عیسٰی علیہ السلام تک بیان کر کے انہی کے خطاب یَا اَیُّھَا الرُّسُل کو نقل فرمایا ہے، یہ خطاب انہی ماسبق رُسل کا ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یہاں ذکر ہے، اور نہ آپ اس خطاب سے مراد ہی ہیں، لیکن وکیل صاحب اگر قرآنی مطلب کا صاف اقرار کر لیں تو مرزائی مطلب نہیں بنتا، وکیل صاحب خدا سے ڈرو اور آیاتِ الٰہیہ کا اُلٹ نہ بیان کرو، تمہارے مرزا صاحب کی عبارتیں موجود ہیں، جس طرح چاہو اُلٹ پلٹ کر لو، لیکن قرآن اور حدیث

marfat.com

تفسیر اتقان مصری ۲/۵۵

اَلثَّالِثَ عَشَرَ خِطَابُ الْجَمْعِ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ نَحْوُ یٰاَیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ

اور آگے چودھویں قسم بیان فرمائی کہ خدا وند کریم قرآن کریم میں ایسے بھی خطاب فرماتے ہیں، کہ خطاب ایک کو ہو اور لفظ جمع مستعمل ہوتا ہے، جیساکہ یَا اَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ ہیں، تو اس آیت میں خطاب صرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور لفظ رُسل جمع کا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب عبارت عرض کرتا ہوں، صفحہ مذکورہ بالا پر یہی مذکور ہے،

اَلرَّابِعَ عَشَرَ خِطَابُ الْوَاحِدِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ نَحْوُ یٰاَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ اِلٰی قَوْلِهٖ فَذَرْهُمْ فِیْ غَمْرَتِهِمْ فَهُوَ خِطَابٌ لَهٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهٗ اِذْ لَا نَبِیَّ مَعَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ۔

چودھویں قسم ہے کہ مخاطب صرف ایک ہی ہے (اور ایک کو ہی مخاطب کیا گیا ہے) لفظ جمع کے ساتھ، جیساکہ یَا اَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ الخ، تو وہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو ہی ہے (اس میں کوئی اور شامل نہیں، کیونکہ آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔

تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جناب وکیل صاحب ختم نبوت کو ثابت کر دیا، کہ رُسل جمع ہے، لیکن مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی ہیں، کیونکہ آپ کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے،

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر خطاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، تو رسل کا مصداق بھی تو آپ کو ہی ثابت کیا ہے، باقی کسی نبی کو اس میں شامل کبھی نہیں کیا، اگر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پڑھ کر جس میں انہوں نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم ہونا ثابت فرمایا ہے۔ اور مرزائی عقیدہ کی اس عبارت نے جڑ کاٹ دی ہے، اب بھی مرزائی اس ختم نبوت کی دلیل سے اجرائے نبوت سمجھیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خاصہ شب پرہ کا ہی نہیں، بلکہ دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو دن کو رات سمجھتا ہے، جیساکہ وکیل صاحب قرآن کریم سے ختم نبوت کو صحیح سمجھ کر پھر اجرائے نبوت پر ہی اڑے ہوئے ہیں، تو اگر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد صحیحہ کو جس سے ختم

marfat.com

آیت کہاں سے شروع ہوئی، تم نے تمام آیت چھوڑ کر آخری جملہ لے لیا، مطلب نکلے نہ نکلے۔ آیت کا مطلب کچھ ہو لیکن تم ویسے ہی جھوٹ موٹ اپنی چلا دیتے ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بات کس کی ہے، سابقہ آیت سابقین انبیاء علیہم السلام کے حق میں تھی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کر دی، حالانکہ اس مقام پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تک نہ تھا، اب اس آیت میں ذکر ہے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تم اس کو عام کر کے اپنے مرزاجی کی نبوت نکالنا چاہتے ہو، بھلا ایسے جھوٹ موٹ سے نبوتیں ثابت ہوں، تو بس خیر ہو جائے۔ پوری آیت ملاحظہ ہو۔

احزاب ۲۲/۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلا اجازت نہ داخل ہو ؤ، مگر کھانے کے لئے اذن دیا جائے تو جاؤ۔ پھر بھی یہ خیال رکھنا) کھانا پکنے کے منتظر نہ رہنا، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھالو تو بیٹھے نہ رہو بلکہ اٹھ کر چلے جاؤ اور کسی بات سے جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، بے شک تمہارا یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالےٰ سچی بات کا لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو اُن سے پردے کے پیچھے سوال کرو۔ یہ تمہارے دلوں کے لئے اور اُن کے دلوں کے لئے زیادہ پاک رکھنے والا ہے اور تمہارے لئے لائق نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ اور نہ ہی تمہیں ہرگز لائق ہے، کہ آپ کی ازواج مطہرات کو آپ کے بعد بھی نکاح کرو، بلاشک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اگر تم نے اس کے متعلق کسی امر کو بھی ظاہر کیا، یا اس کو پوشیدہ

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کوئی انشاء اللہ پلٹنے نہ دیگا، تو ثابت ہؤا، کہ اس آیت میں مخاطبین رسل سابقہ ہی مراد ہیں، جن کا ذکر ہے، مرزائی صاحب نے محض قرآنی تکذیب پر ہی کمر باندھی ہوئی ہے۔ آپ کے پہلے رسولوں کا ذکر قرآن میں مذکور ہے، آپ کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی پیدائش کا ذکر ہے، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب ان حوالہ جات سے تو ثابت ہؤا کہ واقعی وکیل صاحب نے دیانت داری سے کام نہیں لیا، لیکن ایک اور آیت عرض کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوت ثابت ہوتا ہے، سنیئے!۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا۔ (احزاب رکوع ۷)۔ تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو اور نہ یہ مناسب ہے کہ تم رسول کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے شادی کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آپ کی بیویوں کے ساتھ کسی نے شادی نہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی ازواج مطہرات بھی فوت ہوگئیں، اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلۂ نبوت بند ہوگیا ہے، تو نہ کوئی نبی باقی اور نہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں زندہ رہیں گی، اور نہ اُن کے نکاح کا سوال ہی زیر بحث آئیگا، تو یہ حکم قیامت تک جاری ہے، اور ماننا پڑیگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے، اور قیامت تک کے انبیاء کی ازواج مطہرات ان کی وفات کے بعد بیوگی کی حالت میں ہی رہیں گی۔ (پاکٹ بک صہ ۴۲۳)

"محمد عمر"۔ چور اوئے۔ چور اوئے۔ چور اوئے۔

"مرزائی"۔ مولنا کیا ہؤا؟۔ کون ہے؟ کون ہے؟

"محمد عمر"۔ اچھا وکیل صاحب آپ ہیں،

"مرزائی"۔ جی ہاں!

"محمد عمر"۔ خیر۔ خیر۔ کوئی بات نہیں، میں نے سمجھا کوئی اور ہے، بھائی ہر وقت تم نے پیشہ ہی چوری کا اختیار کر لیا ہے، دن دہاڑے خدائی کلام کی چوری سے باز نہیں آتے، دیکھئے

marfat.com

تکلیف دو۔ لہٰذا ایسی آیات سے جس میں محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہو، اور تم بلاتعلق ہی اجرائے نبوت کا مسئلہ نکال لو، تو یہ اہل فہم وعقل کے نزدیک تمہاری تحریف قرآنی کو واضح کررہی ہے۔

"مرزائی"۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص نہیں، بلکہ عام ہے، کیونکہ اس میں اَلرَّسُوْلُ یا اَلنَّبِیُّ کا لفظ نہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں بلکہ یہاں رَسُوْلُ اللّٰہ کا لفظ ہے، بغیر اَلْ کے، اس واسطے اس کو عام سمجھا جائیگا، (رپاکٹ بک صلا ۴۲۴ ۔ نوٹ)۔

"محمد عمر"۔ سبحان اللہ وکیل صاحب کا نوٹ بھی کھوٹ ہی ہے، پہلا جواب تو یہ ہے، کہ آپنے فرمایا ہے کہ یہ آیت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص نہیں، حالانکہ فقیر پہلے عرض کرچکا ہے، کہ یہ جس کو تم آیت بنا رہے ہو، یہ آیت نہیں، بلکہ آیت کا جزو ہے، تو جس کا ذکر خاص آیت کی پہلی جزو میں ہے دوسری جزو میں بھی وہی مراد ہوسکتے ہیں جب تم خود تسلیم کرچکے ہو، کہ اَلنَّبِیُّ یا اَلرَّسُوْلُ سے مراد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، تو اس آیت کی پہلی جزو میں النَّبِیّ دو مقام پر موجود ہے، اب پہلے دوجگہ ایک ہی آیت میں تم خطاب النبی کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تسلیم کرو۔ اور اسی ایک ہی آیت کے آخری جزو میں رسول اللہ سے مراد عموم مراد لو تو کون ذی شعور اس کو تسلیم کریگا، سوائے مرزائیوں کے، کہ بس مرزا جی کہدیں بات صحیح ہو یا غلط سرجھکا دیا، دوسرا جواب قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ بغیر اَلْ کے رسول کے مصداق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زیادہ تو طوالت کی وجہ سے عرض نہیں کرتا، صرف اس سورت میں ہی تمہیں دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ ہو۔

(۱)	احزاب ۱۲/۲	وَاِذْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ہ
(۲)	〃 ۲۱/۳	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔
(۳)	〃 〃	لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

marfat.com

ہی خیال کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شئے کو (ظاہر باطن کو) خوب جاننے والا ہے۔

وکیل صاحب یہ ہے آیت پوری، اب غور طلب امر یہ ہے کہ یا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَدۡخُلُوا بُیُوۡتَ النَّبِیِّ کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہو، یہاں النبی سے کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اگر یہاں عام ہے، تو اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ میں بھی عام، کیونکہ یہ جملہ بھی آیت کی جزو ہے، جب النبیؐ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو مَا کَانَ لَکُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ آپ کے بیوت کے دخول سے ہی رد کا جا رہا ہے، اور اسی کو تکلیف مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، اور پھر لفظ رسول کو واحد استعمال کیا جا رہا ہے، رُسُل جمع کا لفظ مستعمل نہیں ہوا، اور یہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی بڑی بھاری دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ باقی انبیا علیہم السلام کو یٰمُوْسٰی یَا عِیْسٰی یَا اِبْرَاھِیْمُ اسمائے گرامی سے یاد فرماویں، کیونکہ اُن کے بعد انبیاء کرام پیدا ہونے تھے، لیکن مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مُحَمَّدُ اسم گرامی سے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یَا اَیُّھَا الرَّسُوْلُ یا یَا اَیُّھَا النَّبِیُّ سے خطاب فرمایا، کیونکہ یہ خطاب محض نبوت یا رسالت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دال ہے، کہ اور کوئی رسول نہ آپ کے زمانہ میں موجود اور نہ آپ کے بعد کوئی مخاطبت کے لائق ہے، ورنہ خطرہ التباس تھا، اسی واسطے یَا اَیُّھَا الرَّسُوْلُ یا اَیُّھَا النَّبِیُّ سے خطاب فرمایا، کہ آپ کے زمانہ میں یا آپ کے زمانہ کے بعد کوئی لائق مخاطبت ہے ہی نہیں جس سے التباس لازم آئے، لہٰذا اسی بنا پر کہ محض نبی یا رسول لفظ واحد کے خطاب کی اصطلاح و محاورۂ قرآنی محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی خاص ہے۔ جو بُیُوْتَ النَّبِیِّ میں پہلے معلوم ہو چکا، اسی وجہ سے کہ ذہن آپکی ذات کے سوائے کسی اور کی طرف منتقل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ماقبل اسی آیت میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے، اور آپ کے بیوت کا ہی ذکر ہے، تو اللہ رب العزۃ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ امر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ ہے، آپ تو اپنے متعلق سچی بات کہنے سے خاموش ہیں، لیکن خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو گوارہ نہیں فرماتے، خدائی حکم جاری ہو رہا ہے کہ ایسامت کرو۔ وَمَا کَانَ لَکُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ کہ تمہیں یہ لائق نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

marfat.com

اصلاح قرآنی ہے، کہ جب کسی نبی کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا خطاب ہو، تو مراد مذکورہ رسول ہوگا۔ اور اگر مطلقاً بلا اظہار اسم رسول اللہ و رسولہٗ، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول مستعمل ہوگا تو اس سے مراد محض مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، فقط۔ تم بیچارے مرزائی اصلاح قرآنی کو کیا سمجھو، مرزائی بیچارے بھی کیسے سادہ لوح ہیں، کہ وکیل صاحب کے استدلال مزانیہ کو بھی حجت بنالیں، سبحان اللہ، وکیل صاحب نے کیا عجب دلیل فرمائی، کہ اور مرزائیو! نبوت جاری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مومنین کو بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں، مرزائی بول اُٹھے، واہ وا، واہ وا۔ وکیل صاحب نے سچ فرمایا، بیچارے اتنا بھی فہم نہیں رکھتے کہ نبوت کا اجراء کہاں اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مومنین کو بلا اجازت داخل ہونے کی ممانعت کہاں؟ پھر وکیل صاحب ایسے بھولے میاں، فرماتے ہیں، کہ نبوت جاری نہ ہوتی، تو ازواج مطہرات کو بھی ساتھ فوت ہو جانا چاہیئے تھا، وکیل صاحب ازواج مطہرات کا بقا ہے، تب ہی تو باقی مومنین کو روکا گیا، کہ تم امتی ہو، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ کو تم نکاح نہیں کرسکتے، کیونکہ وہ ام المؤمنین ہے، اگر نبوت جاری ہوتی، تو اللہ تعالےٰ فرماتے کہ امتی آپ کی زوجہ مطہرہ کو عقد نکاح میں نہیں لاسکتا، البتہ کوئی نبی ہو تو وہ نکاح کرسکتا ہے، جب بائی تمام کے لئے آپ کے ازواج مطہرات کو وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ سے ماں کا خطاب دے دیا، تو ثابت ہوا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ باقی قیامت تک سب اُمتی ہی پیدا ہوں گے، نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا،

"مرزائی" - یہ تو سمجھ آگئی، کہ واقعی اس آیت کو اجرائے نبوت سے دُور کا بھی تعلق نہیں لیکن ایک آیت پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالےٰ نے نبوت بند کرنے والوں کو ڈانٹا ہے

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ نِ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۔ (مومن رکوع ۴)۔

کہ اس سے قبل تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کھلے نشان لے کر آئے۔ مگر تم ان کی تعلیم میں شک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، تو تم کہنے لگ گئے،

marfat.com

(۴)	احزاب	۲۱/۴	وَاِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ
(۵)	"	۲۲/۴	وَمَنْ یَّقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ
(۶)	"	"	وَاَطِعْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ
(۷)	"	۲۲/۵	وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَۃٍ اِذَا قَضَی اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَمْرًا اَنْ یَّکُوْنَ لَھُمُ الْخِیَرَۃُ مِنْ اَمْرِھِمْ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیْنًا

بلکہ رب العزت نے بغیر آل کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو آپ کے لئے ہی مخصوص فرمادیا، ملاحظہ ہو۔

(۸)	احزاب	۲۲/۵	مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ۔
(۹)	"	۲۲/۷	وَمَا کَانَ لَکُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰہِ
(۱۰)	"	"	اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ لَعَنَھُمُ اللّٰہُ
(۱۱)	"	۲۳/۷	وَمَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیْمًا

رَأَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا

کیوں جناب وکیل صاحب! اس ایک سورت میں متنازعہ فیہا آیت کے علاوہ گیارہ مقامات پر بغیر آل کے رسول اللہ و رسولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، تو آپ بارھویں مقام پر کیسے عام مراد لے سکتے ہو۔

marfat.com

وکیل صاحب خداوند تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بعد متواتر انبیاء علیہم السلام مبعوث فرماتا رہا ہمارا اسپر بھی ایمان ہے، کیونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انبیاء کرام محض کسی قوم یا کسی علاقہ یا کسی زمانہ کے لئے مقرر ہوتے تھے، اس لئے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی ضرورت تھی، تو رب العزۃ بھی ارسال کرتے رہے، ہمارا ایمان ہے۔ کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں، لیکن مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا مقرر فرمادیا، اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوسکتا، اگر اہل سنت وجماعت کی کسی کتاب سے دکھادو، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوّت کو بند مانتے ہو، تو بھی ہم اہل سنت وجماعت کہنے والے کو گمراہ کہتے ہیں، کسے باشد، کیونکہ خداوند کریم نے اس وقت نبوّت بند نہیں فرمائی تھی، اور نبوّت بند ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم کی نبوّت کا اقرار کیسے صحیح ہوسکتا تھا، حالانکہ یہ تمام سچے انبیاء علیہ السلام ہیں، خصوصًا ہم مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، یوسف علیہ السلام پر نبوت کو ختم کہنے والا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا۔ اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر صاف بلا عذر کافر ہے۔ عَلٰی هٰذَا الْقِیَاس۔ بحکم الٰہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، اجرائے نبوت کا قائل بھی حکم الٰہی کا منکر ہے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت خاتمہ پر ایمان نہ لانے والا بھی کافر ہے، باقی رہا تمہارا کہنا مَا یُقَالُ لَکَ اِلَّا مَا قَدْ قِیْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ تو یہ بھی ردِّ مرزائیہ میں کافی ہے، یعنی جیسا کہ آپ کے پہلے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل ہوئی، ایسے ہی آپ پر نازل ہے، تمہارا استدلال تب بن سکتا، جب آیت میں مذکور ہوتا اور مِنْ قَبْلِکَ کی بجائے مِنْ بَعْدِکَ ہوتا کہ آپ کو جیسا ہی کہا گیا ہے، ایسے ہی بعد میں انبیاء کو بھی کہا جاویگا، جب آپ کی وحی اور آپ سے پہلوں کی وحی کا ذکر ہوا، تو بعد کی کسی قسم کی وحی کا ذکر ہی نہیں، تو نبوّت جاری کیسے رہی معلوم ہوا کہ نبوّت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے، اور سابقہ قانون بھی بدل چکا ہے۔ کیونکہ فرمانِ الٰہی سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْکٰفِرُوْنَ۔ اللہ کی سنت ضرور اس کے بندوں میں گذرچکی، منکرین (ختم نبوت) یہاں گھاٹے میں رہے، اور اگر تم مرزائی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ قانون کے پابند ہو، تو تمہیں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت سے کیا تعلق؟ لہذا مصطفےٰ صلی اللہ

marfat.com

کہ اب خدا تعالیٰ اُن کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا، اسی طرح سے خدا تعالیٰ گمراہ قرار دیتا ہے، اُن لوگوں کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور (خدا کی آیات میں) شک کرتے ہیں، وہ لوگ آیاتِ الہٰی میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن کو کوئی دلیل عطا ہوئی ہو،

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے واقعات محض قصّہ کہانی کے طور پر بیان نہیں ہوتے، بلکہ عبرت کے لئے آتے ہیں، خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کا جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟۔ نیز یُضِلُّ اور یُجَادِلُوْنَ مضارع کے صیغے ہیں، جو مستقبل پر حاوی ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مَا یُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِیْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ (حٰم سجدہ ع ۵) ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جیسا کہ بتایا جاچکا ہے لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰہُ مِنْ بَعْدِہٖ رَسُوْلًا کہا گیا۔ وہی حکم اب بھی موجود ہے۔ (پاکٹ بک صـ۲۲۴)۔

"**محمد عمر**۔ خداوند کریم نے اس آیۂ کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے گمراہوں کی بات نقل فرمائی، کہ حَتّٰۤی اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰہُ مِنْۢ بَعْدِہٖ رَسُوْلًا ۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوگیا، تم نے کہا ہرگز نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو، یہ ٹھیک ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبی آنے کا منکر ہو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اُن کے بعد کئی رسول آئے، یہ آیت تو تم ہمیں تب سناؤ کہ جب ہم یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کے آنے کے منکر ہوں، بلکہ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا کے قانون سے انبیائے کرام پے در پے آتے رہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام کے آنے کا منکر گمراہ ہوا ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری رکھنے والا گمراہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اس لئے جاری مانتے ہو، کہ یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، وکیل صاحب پھر اس سے استدلال لیتے ہیں، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں، اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اجرائے نبوت کے نہ ماننے والے گمراہ ٹھہرائے گئے، سبحان اللہ!

بریں عقل و دانش ببا ید گریست

marfat.com

کَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا۔ اور یہ گمان کیا ماسبق کفار نے جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہ بھیجیگا۔ تو اس آیت سے ان کفار کا عقیدہ بیان کیا گیا جو سرے سے ارسال رُسل کے ہی منکر تھے، اسی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت کا انکار کیا۔ تو رب العزۃ نے فرمایا، کہ تمہارے ماسبق کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا، کہ خداوند کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیگا، اور اگر خدا نخواستہ تمہارے معنی کو ہی خلاف عادت کوئی غیر مسلم تسلیم کرلے تو بھی تمہارے استدلال کے خلاف ہے، کیونکہ امم ماضیہ میں نبوت صادقہ کا دروازہ کھلا تھا، تو جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت مطہرہ کا کفار نے انکار کیا، تو رب العزّت نے جواب دیا، کہ تمہارے ماضیین بھی ایسے ہی نبوت صادقہ کے منکر تھے، جیسا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کے اجراء کا تو اس میں کسی طرح بھی مسئلہ نہیں نکلتا۔ جس کو مرزائی کی عقل قدنی اجرائے نبوّت کا استدلال بنا رہی ہے، اور جیسا کہ اس آیت میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ذکر تک ہی نہیں، لیکن مرزائی مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے، ایسے ہی اس آیت کے ماتحت دو حوالے پیش کر کے اس آیت کو تقویت دی ہے، جو دونوں حوالوں کو اس آیت سے دُور کا تعلق بھی نہیں، اس آیت میں کفار کے عقیدے انکار نبوت کا ذکر ہے اور دو حوالے یہود و نصاریٰ کے بے تکے ہی جڑ دئے۔ حالانکہ یہاں یہود و نصاریٰ کا ذکر تک ہی نہیں، اور با وجود بے تکی اور بے ربط بات ہونے کے فقیر پھر بھی اس کا جواب عرض کر دیتا ہے، کہ یہود و نصاریٰ کا عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ انہوں نے تب کہا جب ان کے سامنے آخر النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پیش ہوئی، جیسا کہ تمہارے سامنے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوّۃ خاتمہ بارشاد الٰہی پیش کی جاوے تو تم مرزائی اجرائے نبوت کا ڈھکوسلہ اپنی طرف سے گھڑتے ہو اور افتراء علی اللہ کر کے نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو، ایسے ہی یہود بھی بلا دلیل و بلا ارشاد تو ریت افتراء علی اللہ سے کام لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ہی سلسلہ نام اکتفا کر کے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے جس کے متعلق ارشاد الٰہی ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد آیت وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى سے فرمایا

علیہ وسلم کے ماقبل نبوت کا دروازہ کھلا تھا، انبیا ورسل علیہم السلام پیدا ہوتے تھے، لیکن مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا قانون الٰہی مقرر ہو گیا، آپ کے سوا اور کسی کی نبوت نہیں چل سکتی اور مدعی نبوت کاذب و مفتری علی اللہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔

"**مرزائی**"۔ مولوی صاحب! ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوت ثابت ہوتا ہے، وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۰ (جن ع ۱)۔ بعض جن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر اپنی قوم کے پاس گئے تو جاکر کہنے لگے، تمہاری طرح انسانوں کا بھی یہی خیال تھا، کہ اب خدا تعالےٰ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، مگر (ایک اور نبی آگیا)۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو آپ سے قبل پہلے نبیوں کی امتیں یہی عقیدہ رکھتی تھیں، کہ نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو چکا ہے، مَا يُقَالُ لَكَ کے مطابق ضرور تھا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہی کہا جاتا، چنانچہ لکھا ہے، اِجْمَاعُ الْيَهُوْدِ اَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَ مُوْسٰى (مسلم الثبوت) اور رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ یہود و نصاریٰ کہتے تھے، کہ توریت و انجیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں شریعتیں کبھی منسوخ نہ ہوں گی، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، لہٰذا تمہارا عقیدہ بھی یہود و نصاریٰ والا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ (پاکٹ بک از صفحہ ۴۲۵ تا صفحہ ۴۲۶)۔

"**محمد عمر**"۔ مرزائی صاحب تمہاری پیش کردہ آیت تمہارے لئے کسی طرح بھی اجرائے نبوت کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اس آیت میں فعل بعث کو رب العزت نے استعمال فرمایا ہے، جو قرآن کریم میں دو معنی سے استعمال ہوا ہے، ایک معنی قیامت کو اٹھانے کے ہیں، کفار وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ کے تمہارے مرزائیوں کی طرح منکر ہیں، اس کے رد میں ارشاد ہوا، کہ وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا۔ اور یہ کہ گمان کیا انہوں نے جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ اٹھائیگا اللہ کسی کو بھی، تو ثابت ہوا، کہ اس آیت کریمہ میں منکرین قیامت کے عقیدہ کو واضح کیا گیا ہے، دوسرے معنی ارسال رسل کے تو کفار چونکہ بعثت انبیاء علیہم السلام کو ہرگز تسلیم ہی نہ کرتے تھے، تو اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ان کے اس عقیدہ کا اظہار فرمایا، کہ وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا

marfat.com

اے امّت مرزائیہ ایسی آیتیں پیش کر کے کہ جن کو اجرائے نبوت بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم دُور کا واسطہ بھی نہیں ——— مسلمانوں کو دھوکا دینا یا اپنی مرزائیت میں دنیاوی وبرزخی واخروی حالت کو برباد وخوار دیکھنا چاہتے ہو، خدا را خداوندی آیتوں پر افتراء کر کے دھوکا دینا اس کا بدلہ تمہیں دینا پڑیگا، اور خداوند کریم انشاء اللہ العزیز تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑینگے، تُوبُوْٓا اِلَی اللّٰہِ جَمِیْعًا۔

"مرزائی"۔ ایک آیت اجرائے نبوت کی اور عرض کرتا ہوں، جس سے ثابت ہے کہ پہلی امتیں اجرائے نبوت کو نہ تسلیم کر کے گمراہ ہوگئیں، جیسا کہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (صفت ع۲) کہ پہلی امتوں کی جب اکثریت گمراہ ہوگئی، تو ہم نے ان کی طرف نبی بھیجے، گویا جب کسی امت کا اکثر حصہ ہدایت کو چھوڑ دے تو خدا تعالےٰ کے انبیاء ان کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، تاکہ ان کو پھر صراط مستقیم پر چلائیں، چنانچہ دوسری جگہ مذکور ہے، فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ (بقرہ ع ۲۶)۔ ثابت ہوا کہ اختلاف وتفرقہ کا وجود ضرورت نبی کو ثابت کرتا ہے، تیسری جگہ ارشاد الٰہی ہے، وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا...... اور آپ کی آمد سے قبل یہ لوگ صریحًا گمراہی میں تھے، گویا جب گمراہی پھیل جائے، تو خدا تعالےٰ نبی بھیجتا ہے، چوتھی آیت سے ارشاد ہے، کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (روم ع ۵)۔ کہ خشکی تری میں فساد پھیل گیا یعنی عوام اور علماء یا غیر اہل کتاب میں یا اہل کتاب کی حالت خراب ہوگئی، تو نبی بھیجا گیا۔ تو ان چار آیتوں سے ثابت ہوا کہ جب دنیا میں گمراہی وتفرقے ہوجاتے ہیں، تو اسی وقت اللہ تعالےٰ نبی اور رسول کو مبعوث فرماتا ہے، جیسا کہ اس تفرقے کا ذکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کہ میری امت میں تہتر فرقے ہونگے، سب جہنمی ہونگے، سوائے ایک کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ اسلام کا محض نام ہی رہ جائیگا اور قرآن کی محض تحریر باقی رہ جائیگی، علماء شریر ہونگے، انہی سے فتنے اٹھینگے، اور انہی میں واپس لوٹیں گے، اب ان دو حدیثوں نے بھی تائید کردی کہ امت محمدیہ کا ۹۷½ فی صدی جہنمی ہونگے، لہٰذا یہ سب علامات ظاہر ہوگئیں، جو بعثت رسول کو مستلزم ہیں۔ پس

marfat.com

کہ اُن کا یہ عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، یہ اُن کا کہنا اللہ پر بہتان ہے، یہ اُن کی من گھڑت بات ہے، میں نے نہیں کہا، ذکر اس آیت کے متعلق ہو لیکن مرزائی صاحب نے اس آیت کے حکم کو خداوند پر بہتان لگایا، کہ اس آیت کے مصداق وَ اَنَّھُمْ ظَنُّوْا جو کفار کا عقیدہ ہے اس کے ساتھ بلا ربط متعلق کر دیا اور یہ نہ سمجھا کہ اگر کسی ذی شعور نے سوال کر دیا کہ جیسا کہ اللہ تعالےٰ نے یہود کو ڈانٹ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اللہ کے نہ آنے کو کہکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسے ہی نبوت جاری ہوتی تو اللہ تعالےٰ ضرور ایسے ہی ارشاد فرما دیتے، کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو بند سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ پر بہتان و افتراء سے کام لیتا ہے، جب ایسے نہیں فرمایا، بلکہ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا فرمایا، کہ اب تمام لوگوں کے لئے قیامت تک بشیر و نذیر رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، لہٰذا تمہارے پیش کردہ استدلال نے تو تمہارے خلاف کام کیا، کہ پہلے یہود نے خداوند کے فرمان کے مخالف ہو کر بشارت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے نبوت کو بند سمجھ کر منکر تو ریت بن گئے، جیسا کہ مرزائی ختم رسالت و نبوت کے احکام الٰہیہ کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر پھر نبوت جعلیہ مرزائیہ کو ثابت کرنے کے واسطے اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھتے ہوئے منکر قرآن بن گئے ہیں، جن کے متعلق صاف آیت قرآنیہ واضحہ ہے، جس آیت کے ماتحت امام رازی نے بیان فرمایا، اور خداوند کریم نے تمہارے اس اجرائے نبوت کے عقیدہ کی ٹھوک کر تردید فرمائی اور تمہارے اس افتراء کو افتراء یہود سے مشابہت تامہ ہے، جس کو رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور افتراء کرنے والوں پر ظلم کا فتویٰ دیا ہے، وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۔ اور بفرمان شما یہود ان دو شریعتوں کے نسخ و تغیر کے قائل نہ تھے، تم بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہو، اگر واقعی یہی عقیدہ ہے، تو تم بھی اپنے استدلال سے یہودی ثابت ہوئے اور اگر ان کے خلاف اس شریعت محمدیہ کے نسخ اور تغیر کے قائل ہو تو تم مرزائی پکے ثابت ہو گئے، اسلام کا شمہ بھی نصیب نہ ہوا، یہ ہے تمہارے استدلال ع ۹ صفحہ ۱۲۶ کا جواب جو تم نے بہتان سے کام لیا۔

طریقے کے طلبگار تھے، یعنی جیسا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام آتے رہے، اب بھی نبوّت جاری ہے، اور ہم سے رُسل آئیں تو ہم تم پر ایمان لائینگے، ورنہ انہیں تو رب العزت کی طرف سے صاف جواب ملا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کا باپ نہیں بنا گیا کہ آپ رسولوں اور نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، اگر رسالت و نبوّت جاری ہوتی، تو آپ کو جوان لڑکا نہ دیا جاتا، نبوّت اب کسی کو نہیں مل سکتی۔ اٰمِنُوْا اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ، ایمان لاؤ یا نہ؟ تو وہ لوگ اسی اجرائے نبوّت کی آس پر بے ایمان ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ نہ بدلا، تو اللہ تعالٰے نے اجرائے نبوّت کی آس پر ایسے آدمیوں کو ایمان نہیں عنایت فرمایا، بے ایمان ہی رہنے دیا، ایسے ہی اگر تم مرزائی بھی پہلے لوگوں کی سنّت کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوّت کے مکذّب ہی بنو گے، تو خدا تعالٰے تمہیں بھی ایمان نہ نصیب فرماوینگے، اور تمہارا دوسری آیت کو پیش کرنا بھی کج بحثی ہے، جس کو اجرائے نبوت فی رسالت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ اس میں بھی فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ پس بھیجا اللہ تعالٰے نے نبیوں کو تو اس میں بعث فعل ماضی ہے، جو زمانہ ماضی کے اصول کو ثابت کر رہا ہے، نہ کہ استقبال کا، تو رب العزت زمانہ ماضی کی بات فرماویں ——— اور مرزائی زمانۂ استقبال میں اس پر عامل ہو، تو زمانہ ماضی کے عذاب کا طلبگار رہے، جو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اصول اجرائے نبوت کی دلیل آپ کے ماقبل زمانہ کے قانون کو استدلال ٹھیراتا ہے یہ مرزائی کی سراسر تحریف قرآنی ہے۔

اور تمہارا تیسری آیت کے ٹکڑے کو پیش کر کے مطلب اُلٹنا یہ بھی مرزائی کو ہی زیبا ہے حالانکہ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔ مرزائی کے سراسر خلاف ہے اسی واسطے اس آیت کے ماقبل کو وکیل صاحب چھوڑ گئے ہیں، هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہ اللہ نے اَن پڑھوں میں ایسا رسول بھیجدیا، جو اُن پر قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، کتب اور دانائی سکھاتے ہیں، خواہ پہلے وہ ظاہراً گمراہی میں ہی ہوں۔ تمام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کا امکان ثابت ہے، پاکٹ بک از صفحہ ۴۲۶ تا صفحہ ۴۲۹۔

"محمد عمر" - مرزائی بیچارہ عقل سے اتنا کوسوں دُور اُفتادہ ہے، کہ جس کو مسلمانوں سے لڑتے ہوئے اتنا عرصہ گذر گیا لیکن آجتک یہ نہ سمجھ سکا کہ متنازعہ فیہا امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوّت کا ہے، لیکن وکیل صاحب کو چونکہ کوئی ایسی آیت قرآنی نہیں ملتی، جو بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوّت کو جاری رکھنے کو ثابت کرے۔ اب امم ماضیہ کے احکام کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، جیسا کہ اس آیت میں بھی آپ سے اوّلین کا ذکر ہے، تنازعہ بعد کا ہے، نقیر پہلے بیان کر چکا ہے، کہ پہلے طریقے گذر چکے ہیں، جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے۔

فتح ۲۶/۳ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا۝ اللہ کی سنّت ضرور گذر چکی۔ اور (اب موجودہ) اللہ کی سنّت نہیں بدل سکتی۔

اور کفار ایمان سے بے نصیب اسی عقیدہ سے رہے ہیں، جو تم مرزائیوں کا ہے' ملاحظہ ہو۔

کہف - ۵/۸ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰی وَیَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِیَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِیْنَ اَوْ یَاْتِیَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۝

اور نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں وہ جب ان کو ہدایت آئی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلوں کی سنّت آوے یا ان کے سامنے عذاب آوے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہؤا جو ربّ العزۃ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی، تو ان کو ایمان لانے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے کوئی چیز مانع نہ ہوئی، مگر ایک امر کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں کی سنّت کے ہم قائل ہیں۔ وہی سنّت یعنی اجرائے نبوۃ ہو، یا ان کے سامنے عذاب قائم ہو تب ایمان لائیں یا اپنے رب سے بخشش مانگیں، ورنہ نہیں تو صاف صراحتہً ثابت ہو گیا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی لوگ اسی وجہ سے بے ایمان ہو گئے، کہ پہلوں کے

marfat.com

سے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ سے آپ کے نافرمانوں کو رعایت مصطفائی ملی ہے کہ قیامت تک مہلت دی گئی، کہ کسی وقت تو کسی کو سمجھ آجائے، یہ گمراہی نہیں کہلاتی، گمراہی اُسے کہاجاتا ہے، کہ لوگوں سے رشد مفقود ہوجائے، اب رشد موجود ہے، اور قیامت تک رہیگی جیسا کہ تم نے خود ہی ص۲۷۸ پر حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا ہے، تَفْتَرِقُ اُمَّتِیْ عَلٰی ثَلَاثٍ وَّسَبْعِیْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً، کہ میری اُمت کے تہتر فرقے ہونگے، تمام ناری ہونگے، مگر ایک فرقہ میری اُمت کا جنتی ہوگا، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے ثابت ہؤا، کہ ایک فرقہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور وہ وہی ہے جس کو رب العزت نے واضح فرمایا ہے، وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ تو بعد از مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا بھی تفرقہ بازی ہو جائے، خواہ کتنے ہی تنخواہ دار مولوی مرزائی بنجائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر قیامت تک رشد مفقود نہ ہوگی، جو بفرمان الٰہی آیت مذکورہ قائم رہے گی، جسکی وضاحت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر بھی فرمادی، ملاحظہ ہو۔

ابن ماجہ ا

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِیْ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اُمت سے ایک نُصرت شدہ فرقہ ہمیشہ قائم رہے گا، نہ نقصان پہنچا دیگا، اُن کو، جو ان کو ذلیل کرے قیامت تک،

ابن ماجہ ا

عن ابی ھریرۃ قال ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِیْ قَوَّامَةٌ عَلٰی اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اُمت میں ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا، جو قائم رہے گا اللہ تعالٰے کے حکم پر، نہ نقصان پہنچا سکیگا اُن کو مخالف اُن کا،

اور تم خود بھی تسلیم کر چکے ہو، کہ ایک حصہ اُمت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر قائم رہے گا، تو جب بفرمان الٰہی اور بفرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حق پر

گمراہوں کو بفرمانِ الٰہی فلاسفری اور معلمی کی تعلیم تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل ہو جاتی ہے، اور لوگ اسی واسطے پاکیزہ ہو کر نکلتے ہیں، تو اس کے بعد اب کسی اور نبی کی آمد اس آیت سے کیسے ثابت ہوئی، ہاں البتہ گمراہی کفر وغیرہ کے بالمقابل مرزائیت ایک لاعلاج مرض ہے، اس کے لئے صاحب سیف کی ضرورت ہے، جو اُمّت محمدیہ میں تو محال ہے۔ البتہ عیسیٰ بن مریم ہی اپنی نقل کو توڑینگے، تو اس آیت سے اجرائے نبوت کا استدلال عقل مرزائی کو ہی سمجھ آتی ہوگی، ورنہ مومن کے لئے تو اس سے شانِ مصطفوی ہی ثابت ہو رہی ہے، جو گمراہ سے گمراہ ترین کو بھی ہدایت پر لاتی ہے۔ اسو اسطے مرزائی نے بھی تمام آیت کو چھوڑ کر آخری جملہ پڑھ دیا، باقی رہی یہ تمہاری پیش کردہ آیت ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مرزائی کی عجیب عقل ہے۔ کہ دریاؤں، جنگلوں میں فساد اُس وقت ظاہر ہؤا، لیکن نبوت کی اب ضرورت ہے، کسی عقلمند کو یہ مرزائی کی بات سُنائی جائے۔ تو غیر مذہب بھی مرزائی صاحب کی اس بات پر مذاق اڑائیگا، کہ فساد اس وقت ظاہر ہؤا، اور علاج کی اب ضرورت ہے، وکیل صاحب اسوقت فساد ظاہر ہؤا، تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے ہر شے کی اصلاح فرمادی گئی، اور پھر اس امر کی ضرورت نہیں، کہ جب آپ کے بعد بھی فساد رُونما ہو، تو نبی کی ہی ضرورت پڑے، بلکہ آپ کے بعد کے لئے فساد کے روک تھام کے لئے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ پھر فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کافی ہے، اس اُمّت کا ایک گروہ اُمتی ہی کافی ہے، اس امر کی ضرورت نہیں، کہ جب فساد ہو تب ہی نئے نبی کی ضرورت پڑے، کیونکہ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قیامت تک واضح ہو چکا، انبیاء علیہم السلام اسی وضاحت کے لئے ہی آتے ہیں، اور جب یہ وضاحت ہو چکی تو اب آپکے بعد فساد کا انسداد آپ کی اُمّت کا ایک گروہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور نبی کی ضرورت قطعاً نہیں رہی، اور یہ گمراہی گمراہی نہیں، جس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرکے دھوکا دیتے ہو، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کا علاج محض عذاب ہی ہے اور خداوند کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بر

یہودی اپنی اکثریت پر نازاں ہے، لیکن جب ان جماعت راشدین کے مقابلہ میں اپنی حقانیت پیش کرنے کے لئے مدِّ مقابل ہوا، تو سوا شکست کے اور غلبہ اسلام کے اُس نے کچھ نہ دیکھا، اسوقت بھی گئے گذرے زمانہ میں قوت میدانی میں مسلمان خداوندکریم کے فضل وکرم سے پیش پیش ہے، نہ کہ مرزائی واخوانہم، اس آمرین بالمعروف اور ناہین عن المنکر کی جماعت کا قیام قیامت تک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کتاب خداوندی جو ہر نقص سے مبّرا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سمجھنے کے واسطے ان کا تعلق بالواسط مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیوستہ ہے اور وہ تعلق قیامت تک قائم رہے گا، جو نہ لوٹ سکتا ہے اور نہ اس جماعت حقہ اسلامیہ کو خلا ہو سکتا ہے، اور نہ اس کو دنیا کی طاقتیں مفقود کر سکتی ہیں،

آل عمران ۴/۱۲ — لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔

یہ بھگانے والی کونسی جماعت ہے، یہ وہی جماعت حقہ ہے جس کا قیامت تک خلا محال ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ حکم الٰہی موجود ہے، اب اس جماعت کی موجودگی میں رشد کا عدم خلا، عدم بعثت انبیا کو مستلزم ہے، ما ب اسوقت خداوند کریم کے فضل وکرم سے اولیاء وانطاب واغیاث امت محمدیہ کے دربار میں معمور ہیں، شب وروز ذاکرین ذکر خداوندی میں سرشار ہیں، حاسد چونکہ خود گمراہ ہے اس لئے اس کو چار سو گمراہی ہی گمراہی نظر آتی ہے، مفاسدات ومکاشفات حسنیہ کا خود حامل ہو اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ کا مصداق ہے، جو امت محمدیہ حقہ مبلغہ آمرین بالمعروف وناہین عن المنکر کو معاذ اللہ گمراہ سمجھتا ہے، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ حالانکہ گمراہ خود، تو جس امت کو راشدانہ رویہ سے سندِ ہدایت رب العزت عطا فرماوے اور اُسپر دستخط مصطفویہ ثبت ہوں اس کو ایسا گروہ کہ جسکے بانی ومن معہٗ کو گمراہی کی سند خداوند کریم کی طرف سے موصول ہوچکی ہو گمراہ سمجھے تو روز روشن کو شب تیرہ کا رات کہنے کا مصداق ہے، تو اب اس جواب مفصلہ سے تمہاری پیش کردہ آیت جو ما سبق حکم کی حاملہ ہے واضح کیا گیا،

marfat.com

چلنے والوں کا گروہ اور ہدایت دینے والوں کا گروہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حامل بھی ہونگے، تو گمراہی کیسے رہی، قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ کا قیام بفضلہ تعالے قیامت تک رہا، تو انبیاء کی کیا ضرورت پیش آئی، جیسا کہ اب فرقہ مرزائیہ کو ہدایت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں، کتاب خداوندی اور احادیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرزائی بے خبر ہے، نہیں نہیں! مرزائی خوب اچھی طرح جانتا ہے، کہ اُمت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ تمام گمراہ فرقوں کو جس میں، مرزائی بھی شامل ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا معلن ہے، لیکن مرزائی داخواہم اگر تسلیم نہ کریں، تو لَآ اِکْرَاہَ فِی الدِّیْنِ کا قانون انبیا علیہم السلام اور اس طائفہ راشدہ محمدیہ کے لئے بھی یکساں ہے، تو تمہارا اُلٹ پلٹ کر کے آیتوں کو پیش کرنا کہ ہدایت مفقود ہے، فساد و گمراہی چھا چکی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں بشارتِ مصطفےٰ صلی اللہ پر ایما ہے اور جن حدیثوں کو تم اپنے استدلال کے لئے غلط پیش کر چکے ہو، وہ تمہارے ہی خلاف بھگتیں، ان سے ظاہر ہو گیا کہ امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طائفہ جس کی شان رب العزت نے تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سے بیان فرمادی، تو یہ ایک طائفہ قیامت تک دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے بجالاتا رہے گا، جس کی وجہ سے کسی نبی کی ضرورت نہیں، بھلا یہ تو فرمایئے کہ بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گمراہی رونما ہوئی، اگر نبی کی ضرورت ہوتی، تو رب العزۃ اس وقت آپ کے فوراً بعد نبی مبعوث فرما دیتا، لیکن اس وقت باوجود باطل کے سخت مقابلہ کے رب العزت نے نبی نہیں بھیجا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، اور بحکم الٰہی ایسا گروہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں موجود تھا جس نے باطل کو مٹا کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور ایسے فرقے کا قیام بفرمان الٰہی و بفرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے گا، تو ایسے فرقے کی موجودگی میں ہدایت کو مفقود نہیں کہہ سکتے، کیونکہ راشدین موجود ہیں، گمراہی کو غالب نہیں کہہ سکتے کیونکہ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ، ہر حال میں غلبہ اسلام کا ہی رہے گا، باطل مقابلہ میں آکر ہر وقت بغلیں جھانکتا ہی نظر آتا ہے، کیا مرزائی اس جماعت سے ناواقف ہے، جو کئی مرتبہ ان کے مقابلہ میں آیا اور دلائل باہرہ کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہوا، عیسائی

marfat.com

اٰیٰتِنَا الخ (سورۃ قصص ع ۶)، کہ خدا تعالےٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اُن میں کسی رسول کو معبوث نہ فرماوے، تاکہ (عذاب سے قبل) وہ اُن کو خدا تعالےٰ کی آیات پڑھ سنا لے۔ (اور انپر اتمام حجت ہو جائے) چنانچہ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى (طٰہٰ ع ۸)۔ کہ اگر ہم نبی کے ذریعے نشان دکھانے سے قبل ہی اُن پر عذاب نازل کر کے اُن کو ہلاک کر دیتے تو ضرور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا۔ تاکہ ہم اس رسول کی یوں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی پیروی کر لیتے، ان سب آیتوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلا، کہ خدا تعالےٰ نے اپنے انبیا بھیجنا ہے گا، چونکہ عذاب سے قبل نبی آتا ہے اور عذاب آئیگا تو نبی بھی آئیگا، پاکٹ بک صفحہ ۴۲۹ تا صفحہ ۴۳۰۔

"محمد عمر"۔ سبحان اللہ! مرزائی صاحب کی قرآن دانی کی بھی دنیا میں ایک ایسی مثال ہے کہ شاید اس طرح تو قرآن کریم کو ہندو سکھ نے بھی نہ بدلا ہوگا، مرزائی صاحب کے اس استدلال نے ثابت کر دیا کہ عذاب کا باعث نبی ہوتا ہے، حالانکہ نبی باعث رحمت ہوتا ہے یہ کہیں باعثِ لعنت نہیں مگر تم نے تو اپنے مرزا صاحب پر تمام انبیاء علیہم السلام کو قیاس کر لیا، کہ مرزا صاحب نے دعوای نبوّت کیا تو قادیان میں طاعون پھوٹی، تم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ عذاب کا سبب نبیوں کی آمد ہوتی ہے، تم نے غلط سمجھا ہے، اب تمہارے استدلال کا مفصل جواب عرض کرتا ہوں،

اصول الٰہی تھا، کہ جب کسی قوم میں کوئی صاحب ہدایت نہ رہ جاتا تو اُن کی ہدایت کے لئے نبی یا رسول بھیجا جاتا اور اس کی میعاد مقرر کی جاتی، کہ تم نے اتنا عرصہ رسالت و نبوّت سے تبلیغ کرنی ہے، جب وہ قوم اس میعاد کے اندر ایمان نہ لاتی بلکہ اُس رسول یا نبی کی مخالفت کرتے تو میعاد مقررہ گذرنے کے بعد اُن کی نافرمانی اور مخالفت کے سبب اُن کو چیلنج دیا جاتا کہ نبی یا رسول نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب تمہیں توبہ کی میعاد دی جاتی ہے، اگر اتنے عرصہ میں توبہ کر لو، تو بہتر ورنہ تم عذاب الٰہی میں گرفتار ہو جاؤ گے جب پھر بھی وہ اس میعاد میں تائب نہ ہوتے تو ان کو عذاب الٰہی برباد و فناہ کر دیتا، چنانچہ کسی کو تھوڑی میعاد ملتی کسی کو زیادہ، تمام انبیاء کرام سے نبوت و رسالت چونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ و

maktat.com

اور تمہاری پیش کردہ حدیثوں کا بھی مفصل جواب دیا گیا، کہ ایک گروہ امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق پر قائم اور دائم رہے گا، اور باطل کو مٹا کر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں شمولیت رکھے گا، اور جو ختم نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ میں غیر کو شریک ہونے کا مانع رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر نبوت کو ختم سمجھنا یہ محض ہمارے اس طائفہ پر ہی اکتفا نہیں ہؤا، بلکہ رب العزت نے آپ کے بعد کسی نبی اللہ کو کسی ملک یا کسی قوم سے پیدا ہی نہیں فرمایا، جس کو دنیا جانتی ہے۔ اگر کوئی جھوٹا مدعی بن بھی جاوے تو اس آئینہ نبوّت حقہ کو ملاحظہ فرما کر غیر مسلم بھی اس کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، یہ بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی معجزانہ دلیل ہے، حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شان اور خصوصاً مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اکابرین غیر مسلم بھی بغیر رشوت شہادت دے چکے ہیں، جو اولین و آخرین سے مخفی نہیں،

"مرزائی"۔ یہ تو ثابت ہو گیا، کہ گذشتہ آیتیں واقعی ماسبقت امتوں کا حکم بیان فرماتی ہیں، بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں بن سکتیں، لیکن میں ایک بعد کی ایسی آیت پیش کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوّت ثابت ہے،

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۔ (بنی اسرائیل)۔

کہ قیامت سے پہلے پہلے ہم ہر ایک بستی کو عذاب شدید میں مبتلا کرینگے اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے،

دوسری جگہ فرمایا:۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۔

کہ جب تک ہم نبی نہ بھیج لیں اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا کرتے (یعنی نبی بھیج کر اتمام حجت کر کے پھر سزا دیتے ہیں،

پھر فرمایا:۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ

marfat.com

قیامت کفر مصطفوی کی وجہ سے کوئی بستی عذاب سے پیچھے نہ چھوڑینگے، کیونکہ وَمَا کَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا ہم ایسے بلاجرم ان بستیوں کو ہلاک نہ کرینگے، بلکہ اُم القراٰی میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا، جوان پر قرآن پڑھتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے، اور ام القرای کے ایسے قرآن پڑھنے والے نبی کو چھوڑ کر غیروں کو قبول کر بیٹھے، اور یہ کیوں؟ کہ میرا قانون ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ہم کسی بستی کو نہیں ہلاک کرنیوالے مگر اُس کے رہنے والے ظالم ہونگے، تو ظلم نافرمانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس ہلاکت کا باعث نبی کی رسالت نہ ہوگی، بلکہ وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ فرمایا کہ اس کے رہنے والے ظالم ہونگے، اور ظلم اُم القرای کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، تو تمہارا کہنا کہ نیا نبی قرب قیامت کے عذاب کا سبب ہوگا، غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس کو تمہاری پیش کردہ آیت کے دوسرے جملے نے رد کردیا، کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ کہ اس قرب قیامت عذاب الٰہی کا سبب اُن کا ظلم ہوگا، اور اسوقت منکرین وتارک رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹ دی، جو کہتے ہیں کہ اس وقت عذاب کیوں ہوگا، اگر ہم تارک رسالت مصطفوی چھوٹے رہیں تو ابھی عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو ان کو جواب خداوندی ملا، کہ وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى۔ اس قرب قیامت کے عذاب سے پہلے اگر ہم ان کو ہلاک کردیں (تو ہم کرسکتے ہیں، ہمیں کوئی مانع نہیں، مگر) یہ لوگ قیامت کو عذر خواہاں ہونگے، کہ لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا، یا اللہ تو نے ہماری طرف قبل ازیں خواری کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، تو اُن کے اس عذر کو توڑنے کے لئے اور حجت تام کرنے کے لئے وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، سب سے اعلیٰ رسول جو لوگوں کو اکیلا ہی کفایت کرے بھیجدیا، کثرت رسل کی تکلیف ہی برداشت نہ کرنی پڑے، اور مہلت قیامت تک رکھدی، اور حکم جاری فرما دیا کہ اب اس كَآفَّةً لِّلنَّاسِ اور رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ رسول کو بھی اگر تم نے اتنے دراز عرصہ قیامت تک بھی تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

marfat.com

سلم کی زیادہ عرصہ تھی، اسواسطے اُن کو میعاد بھی اتنی لمبی عطا ہوئی، کہ اتنی مہلت اور کسی کو نہ ملی، چنانچہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا، خداوند کریم فرماتے ہیں، کہ ہم اپنے منکرین کفار کو بلا عذر عذاب میں گرفتار نہیں کرتے، ہم اُن کی طرف اپنے رسل بھیجتے ہیں، جب وہ کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کرتے تو بعداز عدم قبول اُن کو ہلاک کیا جاتا ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میعاد قیامت تک مقرر کی گئی، اور جو لوگ قیامت تک بھی نبوت و رسالت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا نہ کرینگے اور دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرینگے تو قرب قیامت اُن کو ہلاک کیا جاویگا، جس کے متعلق ارشاد الٰہی ہے، وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا وَكَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۔

یعنی قرب قیامت قبل قیامت تمام کفر ہی کفر ہو جائیگا، تو اس وقت ہم رسول بھیجنے کے قانون کو استعمال نہ کرینگے، کیونکہ قیامت قریب ہوگی، بلکہ اُن کفار کی بستیوں کو مع کفار تباہ و برباد کرینگے، یہ کسی اور نبی کی مخالفت کے سبب سے قرب قیامت عذاب الٰہی نازل ہوگا، یہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا باعث ہوگا، کیونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی موجودگی میں تو عذاب محال، جب قرب قیامت کفر ہی کفر رہجائیگا تو نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ پر عمل کیا جاویگا، اور اسی قرب قیامت ہلاکت کا سبب نافرمانی اور مخالفت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا، اور (یہ قرب قیامت بستیوں کی ہلاکت تب ہوگی) حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا ہ کہ جب ام القرای میں ایک رسول مبعوث ہوئے، اس جملہ کی تشریح مرزائی چھوڑ گیا، کیونکہ اس آیت سے بعثتِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی تھی، تو مرزائی کی اس پیش کردہ آیت نے ثابت کر دیا، کہ وہ قرب قیامت عذاب الٰہی کے نزول کا سبب ام القرٰی کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت ہے۔ اور ام القرٰی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور نبوت کا مقام مقرر کیا گیا ہے، جس کا شاہد لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا جملہ قرآنی ہے، اور اسی انذار کی مخالفت کرنے والوں کے متعلق ہی فرمایا، کہ وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، کہ ہم قبل

marfat.com

کر دینا ہوتا ہے۔

جس قدر شریعت ناقص ہوگی اُسی قدر انسان کا خدا کے ساتھ ناقص تعلق قائم کرائیگی، اور جتنی وہ کامل ہوگی اتنا ہی وہ تعلق بھی جو انسان کا خدا کے ساتھ قائم کرائے گی، کامل ہوگا۔ اب قرآن مجید مکمل شریعت ہے، اس لئے ثابت ہؤا، کہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بھی کامل پیدا کرتی ہے، اور سب سے کامل تعلق جو ایک انسان کا خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ نبوت ہے، اگر کہو کہ قرآن کسی انسان کو نبوت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتا، تو دوسرے لفظوں میں یہ ماننا پڑیگا، کہ قرآن مجید کامل نہیں ہے، بلکہ ناقص شریعت ہے، اور یہ باطل ہے، اور جو مستلزم باطل ہو، وہ بھی باطل ہے، لہذا تمہارا خیال باطل ہے، کہ قرآن نبوت کے مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ پاکٹ بک از صف ۴۳ تا ص ۴۳۱۔

"محمد عمر"۔ ایک مثال مشہور ہے کہ جو کسی سے دھوکا کرے تو اس کو کہا جاتا ہے، کہ اس نے چار سو بیس (۴۲۰) کی ہے، لیکن مرزائی صاحب آٹھ سو چالیس (۸۴۰) ہی کرتے ہیں، اور ٹھہرتے ہی نہیں، قرآن کریم کی آیت ختم نبوّت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر قادیانی نے ایسا داؤ کھیلا، کہ قرآن کامل شریعت ہے، اگر درجہ نبوّت پر نہ پہنچائے، تو معاذاللہ قرآن ناقص ثابت ہوگا، لیکن یہ نہ سوچا، کہ قرآن کریم خود بخود نازل ہؤا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ سب مخلوق شاہد ہے کہ قرآن مجید محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہؤا ہے، جب قرآن کریم کو تم کامل تسلیم کر چکے ہو، کہ قرآن کریم کامل ہے تو جس پر قرآن نازل ہؤا، اُس کے کمال کا کیوں انکار؟ کمال کا حقدار بھی کامل ہوتا ہے اب تمہاری عبارت کا پورا جواب عرض کرتا ہوں،

وکیل صاحب نے آیت کا ایک جملہ فرما دیا، اور دوسرا اور تیسرا جملہ چھوڑ گئے، خیر وکیل صاحب تھے، یہ سہواً ایسا ہو گیا ہے، عمداً نہیں، کیونکہ دانا آدمی سے ایسی توقع مشکل ہے، لیکن مطلب براری بھی بڑی بلا ہے، میں تو وکیل صاحب سے اس کے متعلق بدظنی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کسی کے ایما سے لغزش کھا گئے ہوں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آیئے وکیل صاحب نقیر آپ کی توجہ پوری آیت کیطرف مبذول کراتا ہے۔ اگر آپ پوری آیت سمجھ لیں گے تو ان شاء اللہ آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائیگا، کیونکہ جب کسی کی ضروریات پوری حاصل ہو جائیں تو وہ بھی پورا ہو جاتا

maktabah.com

کی زد میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

یہ ہے مطلب آیات فرقانیہ کا جس کو تم نے بگاڑ کر لوگوں کے سامنے اپنی پاکٹ بک صفحہ ۴۴۳ میں پیش کیا، اور قطع و برید اور پس و پیش کر کے اور عبارت قرآنیہ کو چھپا بگاڑ کر خدائی کلام کے خلاف زور لگایا، جس کو فقیر نے پوری آیات سامنے رکھ کر مسلمانوں کو قرآن کریم کا مطلب پیش کیا، خداوند مجھے اس کا ثواب جمیل عطا فرمادے اور تم مرزائیوں کو توفیق ہدایت عنایت فرمائے اور قرآن کریم کے ردّ و بدل کرنے سے توبہ کی توفیق دے۔

ایسی آیت واضحہ جس سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہو، تم اس کو بھی اجرائے نبوت پر اُلٹا دیتے ہو، مطلب بنے یا نہ، خدا سے ڈرو، اس آیت کریمہ سے بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ قرب قیامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو عذاب الٰہی سے ہلاک کیا جاویگا اور منکرین کو نبوت کی تبلیغ کے آخری وقت میں عدم اقرار سے سزا میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بعد اور قبل از قیامت کوئی کسی اور نبوّت کا اظہار د افشا ہوتا تو آپ کے منکرین کو قبل از نبوّت ثانوی سزا دیکر فارغ کیا جاتا جب نہیں اور قرب قیامت مصطفوی منکر گرفت میں آئیگا، تو ثابت ہوا، کہ اَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ کے مطابق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے مابین کسی نبی یا رسول کا پیدا ہونا محال ہے، تو ختم نبوت کی ایسی واضح آیت کو پس پُشت ڈال کر اور اس کو پس و پیش کر کے قطع و برید سے کام لے کر مسلمانوں کو دھوکا دینا یہ بھی کذب صین ہے، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ۝

"مرزائی" - اب تو مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی وکیل صاحب نے آیت نمبر (الف) کا تعلق جو نمبر (ج) سے تھا، واضح نہیں کیا، اور چشم پوشی سے کام لیا، نمبر (ج) کے معنی بھی صحیح نہیں بیان کئے، اگر ان دونوں آیتوں کو متعلق کیا جاوے تو واقعی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے مابین کسی رسول پیدا ہونے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن ایک اور آیت عرض کرتا ہوں، جس سے اجرائے نبوت اشارۃً نکلتی ہے، سنیئے:-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ آج کے دن تمہارا دین کامل کر دیا گیا ہے، گویا قرآن شریف کو مکمل شریعت قرار دیا ہے، شریعت کا کام دنیا میں انسان کا خدا کے ساتھ تعلق قائم

marfat.com

اب اگر تم قرآن کریم کو تو کامل تسلیم کرو۔ اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے خواہشمند ہو کر نبوت کو جاری سمجھو، تو تم مرزائی اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ کے منکر ثابت ہوئے، کیونکہ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ کا تم نے انکار کر دیا، جب دونوں سے محروم رہے تو وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا کے انعام سے بھی ناکام ثابت ہوئے، لہٰذا ثابت ہؤا، کہ اگر اجرائے نبوت کو بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سمجھو گے تو بموجب اس آیت قرآن کریم کے بھی منکر ہو گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے روگردانی کر کے اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ اجرائے نبوت سے تم نے قرآن و شارع و اسلام تینوں کا انکار کر دیا۔

"مرزائی"۔ میرے شکوک بفضلہ رفع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیا، کہ واقعی اگر نبوت کو جاری سمجھا جاوے، تو شان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق لازم آتا ہے، اور اس میں ایمان جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان اسی میں صحیح رہ سکتا ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت کو ختم سمجھا جاوے۔ لیکن ایک عرض باقی ہے وہ شک رفع ہو جائے بس میرا ایمان تو درست ہو جائے، سنیئے۔

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ۔ (آل عمران ع ۹)۔ جب اللہ تعالےٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا جاوے، پھر تمہارے پاس ہمارا رسول آوے تو تم اُس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء پر واجب ہے، کہ وہ ہر رسول پر ایمان لائیں، جو اُن کی اپنی نبوۃ کا مصدق ہو، اب سوال یہ ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا یا نہیں، قرآن مجید میں ہے، وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ (احزاب ع ۱)۔ کہ ہم نے جب نبیوں سے عہد لیا تو آپ سے بھی عہد لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح و ابراہیم علیہم السلام سے بھی یہی عہد لیا، اگر آپ کے بعد نبوت بند تھی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لینا چاہیئے تھا، مگر آپ سے بھی اس عہد کا لینا امکان نبوت کی

ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا، آپنے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ پڑھ کر تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا تو پڑھ دیا، لیکن ساتھ ہی اس کی دلیل جو اللہ تعالےٰ نے بیان فرمائی، کہ دین کیوں مکمل ہے؟ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ میں نے تم پر اپنی نعمت (نبوّت) پوری کر دی ہے، اسلئے ثابت ہؤا کہ دین مکمل کیوں ہے؟ چونکہ نبوت کاملہ ہے، تو جب قرآن کے بعد کسی کتاب اللہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مکمل کتاب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبوّت تامہ ہے، یہ تو کہدیا، کہ شریعت جس قدر ناقص ہوگی تو اسی قدر وہ خدا کے ساتھ انسان کا ناقص تعلق قائم کرائیگی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ شارع کامل ہوگا تو اسپر شریعت کاملہ نازل ہوگی، اگر شارع ناقص ہوتا تو شریعت کا بھی کچھ حصہ نازل کیا جاتا، اور کچھ حصہ دوسروں کے لئے محفوظ کیا جاتا، جب شریعت کو مکمل نازل کر دیا گیا، تو ثابت ہؤا کہ اب شارع بھی اور کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کریم نازل ہؤا ہے نہ کہ قرآن کریم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں، تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔

قرآن صفت نبوّت ہے، نبوت قرآن کی صفت نہیں، جب صفت کاملہ ہے، قرآن کریم تو ذات مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوّت بطریق اولیٰ اکمل ثابت ہوئی، اور خداوند کریم سے تعلق کامل لگانے والی نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ نبوت ہوتی ہے، یعنی مخلوق کا تعلق خالق سے نبی علیہ السلام کا کام ہے، اگر نبوت کاملہ ہے تو تعلق باللہ کامل ہوگا، اگر تعلق ناقص ہے، تو نبوت کے ناقص ہونے پر دال ہے اور اس تعلق کو ناقص یا کامل کی تفریق کے لئے قرآن کریم نازل ہؤا، تاکہ کامل کتاب خدا تک پہنچنے والوں کے کمال کو ثابت کر کے نبوۃ کے تامہ ہونے کا ثبوت دے، اور اگر واسطہ کامل کسی اور کو واسطہ بنا دے تو واسطہ کامل بھی ناقص ثابت ہوگا، کیونکہ جس کو کامل نے اپنے کمال سے واسطہ تیار کیا ہے وہ ناقص ہے یا کامل، اگر ناقص ہے تو پھر بھی صانع کے کمال میں نقص لازم آیا۔ کمال کمال نہ رہا، اگر کمال تیار کیا ہے واسطہ واسطہ نہ رہا، یعنی نبوّت عطاءِ الٰہی نہ رہی بلکہ ذاتی ثابت ہوئی اور یہ خلاف اسلام ہے، لہذا ثابت ہؤا، کہ رب العزۃ نے نبوۃ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تامہ بنا کر اس کی شہادت قرآن مجید کلام تامہ سے مکمل ثابت کر دی

marfat.com

لیا گیا، اُن کا ذکر مِنكَ سے پہلے کیا گیا، کہ آپ اپنے بوجہ وزارت اعلیٰ کو اُٹھانے کا حلفیہ بیان پہلے دیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے آپ کی افضلیت اور نبی الانبیاءؑ ہونے کا پہلے وعدہ لیا گیا ہے، جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی اپنی ذات کا حلفیہ بیان بنا بر افضلیت مقدمًا لیا گیا تو بعد ازاں پھر باقی انبیا علیہم السلام سے بھی مِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ سے اُن کے اپنے عہدے کا حلف وفاداری لیا گیا، ورنہ جیسا کہ تم نے ہیرا پھیری سے کام لیا ہے، ایسے ہی معنے کئے جاویں، تو اس کے مطلب میں یہ خرابی لازم آئیگی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ یہ صراحۃً غلط ہے، تو جو مطلب فقیر نے عرض کیا ہے وہ عین مطابق آیت قرآنی اور ترجمہ لفظی ہے جس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں، اور نہ ہی خدا کے فضل وکرم سے قطع وبرید ہے۔ جیسا کہ تم نے کیا ہے، تو یہ وعدہ میثاق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پاک کا اُن سے ہی لیا گیا، اور بعد ازاں باقی انبیا علیہم السلام کی اپنی ذات کے متعلق اُنسے وعدہ لیا گیا، یہ وعدہ اس ماسبق وعدہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیٰحدہ ہے واقع بھی دو ہیں اور علیٰحدہ علیٰحدہ ہیں، تم نے دونوں کو ایک کر کے دھوکا دیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ۔

بحث امکان نبوّت از روئے احادیث کے جوابات

"مرزائیؒ" حق بات یہ ہے کہ قرآنی تحقیق سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت ختم ہی ثابت ہوگئی ہے، لیکن ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، جس سے امکان نبوّت ثابت ہوتا ہے، کہ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا۔ کہ اگر یہ (میرا لڑکا ابراہیمؑ) زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، وفات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ ۹ھ میں ہوئی، اور آیت خاتم النبیین سنہ ۵ھ میں نازل ہوئی، گویا آیت خاتم النبیین کے نزول کے چار سال بعد، حضور فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، گویا حضور کے

marfat.com

دلیل ہے، پاکٹ بک از ص ۴۳۱ تا ص ۴۳۲۔

"محمد عمر"۔ اس آیت کے متعلق فقیر پہلے پوری تحقیق کر چکا ہے کہ رب العزت نے یوم میثاق ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ کے مطابق یہ وعدہ تمام انبیاء علیہم السلام سے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا، کیونکہ آپ ہی سب کے بعد آنیوالے ہیں اور مصدّق ہی سب کے آخر میں ہوتا ہے، اور جو مصدق کے بعد آئے وہ مصدق نہیں کہلائیگا، بلکہ غیر مصدقہ غیر معتبر سمجھا جائیگا۔ باقی رہا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ ہر نبی سے اس کی اپنی ذات کے متعلق بھی عہد لیا گیا، صحیح ہے، یعنی ہر نبی کو جو کچھ دیا گیا اس کے متعلق اس کی ذات سے بھی وعدہ لیا گیا کہ تمہیں جو کچھ عنایت ہوا تم اس کی تصدیق کرو۔ کہ مجھے یہ انعام منظور ہے، کیونکہ اُن کو جو کچھ ملا، وہ بطفیل لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ، یعنی ایمان بر رسالت نامہ مصطفویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہؤا، تو ان سے اُن کی ذات کے اس انعام کا بھی حلفیہ بیان لیا گیا، کہ تمہیں بھی یہ منظور ہے یا نہیں، تو سب نے منظور کر کے دستخط ثبت کر دئے، جن کا ذکر مِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ سے کیا۔ جیسا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کے مصدق بننے کا اقرار لیا گیا۔ جیسا کہ تمام وزراء سے وزیر اعظم کی وفاداری کا حلفیہ بیان لیا جاتا ہے، ایسے ہی وزیر اعظم سے بھی حلف وفاداری لیا جاتا ہے۔ کہ تم بھی گورنمنٹ کے وفادار رہنا، اسی کا ذکر اس آیت مذکورہ بالا میں ہے، وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ یعنی جب لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام انبیا علیہم السلام سے حلف وفاداری لیا گیا، تو بعد میں آپ سے بھی آپ کے وفادار رہنے کا اقرار لیا گیا، آپ تو سب سے بالا تھے، اس لئے آپ کے متعلق سب انبیاء علیہم السلام سے حلف وفاداری لیا گیا، اب اگر بقول تمہارے آپ سے حلف وفاداری کسی اور نبی کے لئے لیا گیا، تو جس کے متعلق حلف وفاداری لیا گیا اُس کا اُنسے اوّل ہونا ضرور ہے، اگر اوّل نہیں تو تمہارا حلف لینے کا اصول غلط، کیونکہ تمام انبیا علیہم السلام سے اُن کے بہتر کے متعلق حلف لیا گیا، اور اس آیت میں یہ بھی ذکر نہیں ہے، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے انبیاءٔ علیہم السلام سے وعدہ لیا گیا، یہ تمہاری اختراع ہے، نہ کہ آیت میں سے نکلتا ہے، نہ امام رازی کا یہ فرمان ہے بلکہ محض مرزائیات سے ہے، اس لئے جن کے متعلق پہلے وعدہ

marfat.com

وقال احمد ضعیف۔ وقال بخاری سکتوا عنه۔ وقال
س متروک الحدیث ومن مناکیر ابی شیبه۔

تهذیب التهذیب ۱/۱۴۴

قال احمد ویحییٰ وابوداؤد ضعیف وقال یمی
الضالیس بثقة وقال البخاری سکتوا عنه وقال
الترمذی منکر الحدیث وقال النسائی والدولابی
متروک الحدیث وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث
سکتوا عنه وترکوا حدیثه وقال الجوزجانی
ساقط وقال صالح حزرة ضعیف لایکتب حدیثه
وقال ابوعلی النیساپوری لیس بالقوی وقال الاحوص
الغلابی وممن روی عنه شعبة من الضعفاء ابوشیبه
وقال معاذ ابن معاذ العنبری کتبت الی شعبة وهو
ببغداد اسأله عن ابی شیبه القاضی اروی عنه نکتب
الی لاتروعنه فانه رجل مذموم۔ وکذبه شعبة
فی قصة۔ وقال ابن سعد کان ضعیفا فی الحدیث وقال
الدارقطنی ضعیف وقال ابن مبارک ارم به وقال ابو
طالب عن احمد منکر الحدیث۔

وجہ تضعیف

روای عن الحکم احادیث مناکیر۔

حکم سے اس نے بہت منکر حدیثیں بیان کی ہیں،

وکیل صاحب خدارا انصاف فرمایئے کہ جس کو سترہ محدثین نے جھوٹا اور متروک الحدیث لکھا ہے، اور محدثین لکھیں کہ حکم سے یہ بہت منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت بھی حکم سے ہی ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی منکر ثابت ہوئی، لیکن تم ایسی بات کو اور ایسے راوی کو ہی کیوں نہ پسند کرو،

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز

maktabah.com

نزدیک اس کا نبی نہ بننا اس کی وجہ موت ہے، نہ انقطاع نبوت کے باعث، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مطلب یہ سمجھتے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، تو آپ فرماتے لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَمَا كَانَ نَبِيًّا لِاَنِّیْ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، اس حدیث کا مطلب ہے کہ نبوت تو مل سکتی ہے مگر ابراہیم چونکہ فوت ہوگیا ہے۔ اس لئے انہیں نبوت نہیں مل سکی۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ بی۔ اے کی ڈگری تو مل سکتی ہے لیکن اس کی موت اس کے حصول میں مانع ہوئی، ایسے ہی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو مل سکتی ہے مگر ابراہیم چونکہ فوت ہو گیا ہے۔ اس لئے انہیں نہیں مل سکی، پاکٹ بک صد ۴۳۲ تا صد ۴۳۸۔

"**محمد عمر**"۔ یہ حدیث جس سے غلط استدلال کرتے ہو، اس حدیث کے راوی ہی جھوٹے ہیں، لہٰذا حدیث بھی موضوع ثابت ہوئی، کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث بھی تمام کتب احادیث سے وہ چنی جو جھوٹی، پنجابی مثال مشہور ہے رکالر والے پر الیوں رہا پدے نے) قادیانی مذہب کے جھوٹے ہونے کی اس سے اور زیادہ کیا دلیل ہوگی، کہ جب بھی استدلال تلاش کرینگے چن کر جھوٹا، کیونکہ صحیح استدلال اس مذہب میں کسی مسئلہ شرعیہ پر ہے ہی نہیں، محض کذب پر ہی اس مذہب کی بنیاد ہے، جیسا کہ مشتے از خروار، اس حدیث کو بھی ملاحظہ کر لو، پھر اس کو توڑ موڑ کر بہتیرا اسید ھا کرنے کی کوشش کرینگے، لیکن جس حدیث کو اجماع محدثین نے جھوٹی کہہ دیا ہو، کیونکہ اس کے راوی جھوٹے ہیں، تو اس کو آج مرفوع صحیح کون ثابت کر سکتا ہے، پہلے اس کی سند ملاحظہ ہو۔

ابن ماجہ ۱۱۰	حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا داؤد بن شبیب حدثنا ابراهیم بن عثمان حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم۔

اس حدیث میں ایک راوی ابراہیم بن عثمان ہے، جس کو محدثین نے عجیب عجیب خطابات دئے ہیں، کذاب۔ منکر الحدیث۔ متروک الحدیث وغیرہم ملاحظہ ہو،

میزان الاعتدال ۴۴	**ابراہیم بن عثمان** كَذَّبَهُ شُعْبَةُ۔ اس کو شعبہ نے جھوٹا کہا ہے۔

marfat.com

وسلم کا مسئلہ جو اسلام میں شان عظیم رکھتا ہے، ماقبل ملاحظہ ہو صفحہ ۱۴۱ پھر مرزائی نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر آپ اِنّی خاتم النبیین فرما دیتے تو نبوت ختم ہی مراد ہوتی، معلوم ہوا کہ مرزائی خاتم النبیین کے معنی سمجھ کر ایمان نہیں لاتا، پاکٹ بک صفحہ ۴۳۳۔

"مرزائی" ۔ اور پھر علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہ یہ خَاتَمَ النَّبِیّٖن کے قول کے متناقض نہیں، فَلَا یُنَاقِضُ قَوْلُهٗ خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ اِذِ الْمَعْنٰی اَنَّهٗ لَا یَأْتِیْ نَبِیٌّ بَعْدَهٗ یَنْسَخُ مِلَّتَهٗ وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ اُمَّتِهٖ ۔

"محمد عمر" ۔ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے جو آخر میں دو جملے بیان فرمائے ہیں، اس نے مرزائیت کے بخیے اُدھیڑ دیئے، اَنَّهٗ لَا یَأْتِیْ نَبِیٌّ بَعْدَهٗ یَنْسَخُ مِلَّتَهٗ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، کیونکہ (نبی کے آنے سے) دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ و سلم منسوخ ہو جاتا ہے، اور آپ کی اُمت سے نبی نہیں ہو سکتا۔

کیوں جناب ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ آپ کی اُمت سے نبی آ ہی نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو کہ آسکتا ہے، هٰذَا بَوْنٌ بَعِیْدٌ، یعنی بنی اسرائیل کا پرانا نبی آ جائے تو آجائے وہ پہلے کا ہے، لیکن ساتھ ہی تمہاری مرزائیت کا بھی رد کر دیا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے نہیں آسکتا، یعنی اگر کوئی بجز عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نبوت کا مدعی بنے، تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے خارج ہو جائیگا، لہذا ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے تو مرزائیوں کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے ہی خارج کر دیا، وکیل صاحب علی قاری رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر کے خود اپنا طمانچہ اپنے ہی منہ پر مار بیٹھے تمہارے مرزا صاحب نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نقل بننے کی تو جلدی فرمائی، لیکن بقول علامہ قاری رحمتہ اللہ علیہ اس بات سے بھول گئے کہ دعوای پہلے یہودیت کا کرتے پھر عیسیٰ مسیح بننے کا دعوای کرتے، کیونکہ موضوعات کبیر کی عبارت ملا علی قاری رحمتہ اللہ کی عبارت وَلَمْ یَکُنْ مِنْ اُمَّتِهٖ کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہونگے اس اصل کو چھوڑ کر صفت کی نقل سوجھی۔

"مرزائی" ۔ وَبَیَّنَ الحافظ السیوطی اَنَّهٗ صَحَّ عن انس رضی اللہ تعالےٰ عنه اَنَّهٗ سُئِلَ النبیّ صلی اللہ علیه وسلم عن ابنه ابراھیم قال لا اَدْرِی رحمة اللہ علی ابراھیم لَوْ عَاشَ لَکَانَ صدّیقا نبیًّا۔ رواہ ابن عساکر عن جابر (فتوی حدیثیہ)۔

marfat.com

حکم بن عتیبہ جو تمہاری روایت کے راوی ہیں، ملاحظہ ہو۔

حکم بن عتیبہ

میزان الاعتدال ۲۷۰/۱	حکم بن عتیبہ بن نعاس کوفی ذکرہٗ ابن ابی حاتم وبیض له مجھول وقال ابن الجوزی انما قال ابو حاتم ھو مجھول۔

وجہ تضعیف

لِاَنَّہٗ لَیْسَ یَرْوِیْ الْحَدِیْث

تھذیب التھذیب ۴۳۳/۲	حکم بن عتیبہ کان فیہ تشیع قال ابن حبان کان یدلیس۔ قال ابو حاتم مجھول لانہ لا یروی الحدیث۔

ثابت ہوا، کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور اگر نبوت جاری تھی اور بقول تمہارے آپ کے صاحبزادے کو نبوت ملنی تھی، تو آپ کے لاڈلے نواسے موجود تھے، جو آپ کے شانہ مبارک پر سواری کرتے، اور اگر نماز فرض میں کندھوں پر آ بیٹھتے تو آپ کو سر نہ اٹھانے کا ارشاد الٰہی ہو جاتا، لہٰذا ان کو ہی نبوت مل جاتی، ان کو بھی اسی بنا پر نہ ملی، کہ نبوت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھی، تو آپ کے صاحبزادے کی فوتیدگی بھی ختم نبوت کی بنا پر ہی یقیناً ثابت ہوئی۔

"مرزائی"۔ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے اس روایت کو لکھا ہے، کہ اس کی تین سندیں ہیں، بعض بعض کو قوی کرتی ہیں، پاکٹ بک صـ ۴۳۳

"محمد عمر"۔ موضوعات کبیر صـ ۵۸ میں لکھا ہے، قَالَ النَّوَوِیُّ فِیْ تَھْذِیْبِہٖ ھٰذَا الْحَدِیْثُ بَاطِلٌ۔ نودی نے کہا ہے اپنی تہذیب میں کہ یہ حدیث سرے سے باطل ہی ہے۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! اس کو کیسے مٹاؤ گے اور علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی موضوعات میں درج کرنا بھی تمہارے لئے صحت حدیث پر دلیل ہو، ختم نبوت مصطفٰے صلی اللہ علیہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم باقی رہتا تو نبی ہوتا، لیکن نہیں باقی رہا، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے آخری نبی ہیں،

کیوں جناب مرزائی صاحب! اب تو تمہاری منہ مانگی مراد مل گئی، جس طرح کی عبارت تم چاہتے تھے، وَلٰکِنْ لَمْ یَبْقَ لِاَنَّ نَبِیَّکُمْ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ۔ اور لیکن نہیں باقی رہے، کیونکہ تمہارے نبی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، اب تو تم ہی اس روایت کے بیان کنندہ ہو، اور روایت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہے، اگر اس سے روگردانی کرو، تو محال نہیں،، کیونکہ آپ کو مرزائیت مجبور کر رہی ہے، لَیْسَ عَلَی الْاَعْمٰی حَرَجٌ سے معذور سمجھو نگا، فقیر تو یہی کہیگا کہ اے مرزائیو! خداوند تعالیٰ تمہیں مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اکتفا کرنے کی توفیق عنایت فرماوے، پنجابی مثال مشہور ہے۔

(خاوند اپنے تو علیحدہ پرائے توڑ نہیں نبھدے)

"مرزائی"۔ تاریخ ابن عساکر نے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی ہے۔ اور ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع لکھی ہے۔ (فتاوٰی حدیثیہ)۔ پاکٹ بک صہ ۴۳۹ تا صہ ۴۴۔

"محمد عمر"۔ فقیر اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہے، کہ فتاوٰی حدیثیہ صہ ۱۲۵ پر یہ دونوں حدیثیں بیان کر کے علامہ ابن حجر ہیثمی رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ ابن عساکر نے کہا ہے، کہ اس حدیث کے رواۃ قوی نہیں، صرف نمبر پورے کرتے ہو؟ جب ایک دفعہ تم نے ذکر کیا، فقیر نے جواب دیدیا، پھر دوبارہ اس کا ذکر کرنا محض تم اپنے مرزائیہ کو نمبر گنواتے ہو۔ اور لَوْعَاشَ اِبْرَاهِیْمُ لَکَانَ نَبِیًّا سے بھی کسی طرح اجرائے نبوّت ثابت نہیں، بلکہ ختم نبوت ظاہر ہے، اس کے معنی ہیں، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ اس کے معنی تم مرزائی کرتے ہو، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو بھی ہوتا، نہ وہ زندہ رہا نہ نبی بنا، اس سے اجرائے نبوت حاصل کرتے ہو، حالانکہ یہ معنی قطعاً غلط ہیں، قابل غور یہ امر ہے، کہ یہ کلام مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمائی اس بات کو تم مرزائی بھی تسلیم کرتے ہو، کہ جب مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے

تم نے کہا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت جھوٹی ہے، لہذا اب تمہارے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوع پیش کرتا ہوں، جسکو حافظ سیوطی نے بھی تسلیم کرلیا، کہ ابراہیم اگر زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے، پاکٹ بک ص ۴۳۴ تا ص ۴۳۵۔

"محمد عمر"۔ یہ حدیث تینوں طرق سے مروی ہے، موضوع بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ جیساکہ فقیر تحقیق رواۃ سے ثابت کرچکا ہے، باقی رہا تمہارا اس حدیث بے سند کی فتوای حدیثیہ سے پیش کرنا تو اس کے رجال رواۃ سے ما فوق حضرت انس رضی اللہ عنہ خود لَا اَدْرِیْ سے روایت میں شک سے عدم حفظ کا اقرار فرما رہے ہیں، اب تم گریبان میں منہ ڈالو کہ احادیث صحیحہ مرفوعہ اور قرآن کریم کی آیات صریحہ ختم نبوت کے مقابلہ میں ایسی شکی حدیث پیش کرنا کیا حجت ہوسکتی ہے، اور پھر فتوای حدیثیہ کے ص ۱۲۵ پر جہاں یہ عبارت مذکور ہے آگے اس جملہ کو وکیل صاحب مطلب برآری کیواسطے سہواً لکھنا بھول گئے ہیں، وَقَالَ نَبِیْہٖ مَنْ نَبِیٍّ بِالْقَوِیِّ اور ابن عساکر نے کہا ہے کہ اس حدیث کا راوی قوی نہیں، کیوں جناب؟ مرزائی صاحب کچی دلیل کو قرآن کریم و احادیث صحیحہ معتبرہ کے مقابلہ میں اپنی کچی دلیل موضوعہ مردودہ کو بنیرہ ادھر اُدھر سے پوچھ کر پیش کرتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ جس کتاب سے اس کا حوالہ دیتے ہو وہی اس کو ضعیف کہدیتا ہے، اس عبارت کو چھپاتے بھی ہیں، لیکن عبارت کو کتاب سے کیسے چاٹ لیا جائے، تینوں طرق کی سندوں کا علم تو مرزائیوں کو بھی نہیں، کسی کی بات نقل کی، جس کی نقل کی اُس نے ان تینوں کو ضعیف کہدیا،

"مرزائی"۔ اس روایت میں گو کوئی کاذب بھی ہیں، لیکن آخیر راوی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جنکے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا معتزلی انکار کرتا ہے، پاکٹ بک ص ۴۳۸۔

"محمد عمر"۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک روایت پہنچے تو ہی اُن کی روایت کہلائیگی، جب ان کی طرف روایت کو منسوب کرنے والے ہی جھوٹے ہیں، تو وہ انکی روایت کیسے کہلاسکتی ہے، اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جسکو تم نے بھی اپنی پاکٹ ص ۴۳۸ پر بیان کیا ہے، کہ قَالَ لَوْ بَقِیَ اِبْرَاھِیْمُ ابْنُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَکَانَ نَبِیًّا وَلٰکِنْ لَمْ یَبْقَ لِاَنَّ نَبِیَّکُمْ آخِرُ الْاَنْبِیَاءِ

marfat.com

اس سے بھی ثابت ہؤا، کہ عمر ابن خطاب رض کا نبی نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کو بند ثابت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت بند ہے، اس لئے عمر رض نبی نہیں، اگر نبوت جاری ہوتی اور میرے بعد نبوت ممکن ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالےٰ عنہ نبی ہوتے۔

لَوْلَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ۔

اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نہ ہوتے تو عمر رض ہلاک ہو جاتا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالےٰ عنہ کی عدم ہلاکت حضرت علی رضی اللہ تعالےٰ عنہ کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے۔

ثابت ہؤا، کہ لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِیْمُ لَكَانَ نَبِیًّا۔ بھی بقانون عربی ومحاورہ عربی از روئے قرآن واحادیث انتفاء ثانی اوّل کو مستفی کر رہا ہے۔ یعنی چونکہ نبوت بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند ہے۔ اسواسطے ہی آپ کا صاحبزادہ ابراہیم زندہ نہیں رہا۔

تو اس جھوٹے راویوں والی حدیث موضوعہ سے بھی تمہارا مطلب نہیں بن سکتا، اگر تم عربی تو ابنِ کو سمجھو، اور محض لا کا کوئی علاج نہیں، لاعلاج مرض ہے، جس سے مرزائیت منصف ہے۔ اور قانون معانی کی رُو سے بھی تمہارے معانی غلط ہیں، کیونکہ قانونِ علم معانی ہے، اِنَّ التَّعْلِیْقَ بِالْمُحَالِ یَسْتَلْزِمُ الْمُحَالَ اور اس کی مثال قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔

۱- لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا۔

۲- لَوْ كَانَ فِیْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا۔

اس سے بھی ثابت ہؤا، کہ نبوت بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم محال ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کا زندہ رہنا بھی محال ہے۔ یہ ہے تمہاری پاکٹ بک صفحہ ۴۹ کی عبارت کا جواب۔

اور فتوی حدیثیہ کا جواب اور عرض کرتا ہوں، کہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی حدیثیہ کے صفحہ ۲۸ پر حیات ونزول مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دلائل پیش کئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کو علیحدہ ثابت کیا ہے، جو تمہارے عقیدہ کے

ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کی وجہ خاص بیان فرمائی، نہ کہ نبوت کے مسئلہ کا اختلاف تھا، تب یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ تم نے دھوکا دیا ہے، حقیقت یہ ہے، کہ یہ فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم صاحبزادے کی فوتیدگی کی علت ہے، کہ ابراہیم کو خداوند کریم نے اسلئے فوت کیا، کہ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، تو ابراہیم کی زندگی نبوت کو چاہتی تھی، اور اس کی موت نبوت کو ختم ہونا ثابت کررہی ہے، اور مرزائی بے چارہ تو عربی قوانین سے اتنا بے بہرہ ہے، کہ بہائم بھی مرزائی کی عربی کلام پر مضحکہ کررہے ہیں ملاحظہ ہو۔

شرح جامی ۳۷۶

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا - فَاِنَّ لَوْ هٰهُنَا تَدُلُّ عَلٰى لُزُوْمِ الْفَسَادِ لِتَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ وَ عَلٰى اَنَّ الْفَسَادَ مُنْتَفٍ فَيُعْلَمُ مِنْ ذَالِكَ اِنْتِفَاءُ التَّعَدُّدِ -

پس تحقیق لَوْ اس جگہ معبودوں کے متعدد ہونے کی صورت میں فساد کے لزوم پر دلالت کرتا ہے اور ضرور فساد منتفی ہونیکی وجہ معبودوں کا متعدد ہونا منتفی ہے۔ ایسے ہی لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا میں لَوْ ثابت کررہا ہے۔ کہ ابراہیم کے زندہ رہنے سے نبوت جاری رہتی، کیونکہ وہ نبی ہوتے، تو نبوت کے بند ہونے کی وجہ سے یعنی بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے انتفاء کے سبب انتفاءِ ابراہیم ہے، یعنی وفات ابراہیم کا تحقق ہے، تم مرزائی عربی عبارت کو خواہ کیسے بھی الٹ پلٹ کرو، عربی قانون تمہیں جھوٹا کردیتا ہے، جیسا کہ یہاں قانون لَوْ نے تمہاری تمام کوشش باطلہ باطل کردی، ایسے ہی اس کی مثال اور ملاحظہ ہو،

ترمذی شریف ۲/۲۰۹ مستدرک ۳/۸۵ تاریخ الخلفاء ۸۴

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ خَطَّابِ -

اگر میرے بعد نبی ہوسکتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔

وَاَخْرَجَهُ اِبْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عُمَرَ

marfat.com

نام سے ہی ادباً پکارا، یہ آپ نے اپنی امت کو ادب سکھایا ہے، کہ حضرت عیسےٰ علیہ السلام تمہاری خدمت کے لئے ہی تشریف لا دینگے۔ لیکن تمہارا حق ہے کہ تم اُن کا ادب کرو، گو وہ اپنی نبوت کی اشاعت کے لئے تشریف نہ لا دینگے، یہ ہے جواب تمہارے اس اعتراض کا جو تم نے اپنے خلاف حیات و نزول عیسٰی بن مریم کی حدیث کو جس کے تم منکر ہو، استہزاءً پیش کی، نہ کہ ایمان لانے کے لئے، اور نہ تمہارا اس پر ایمان ہی ہے، اور فقیر نے پھر بھی اس کا جواب تمہیں عرض کر دیا، کیونکہ ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام سابقہ نبی اللہ ہونگے، لیکن وہ اپنی نبوت کی اشاعت کے لئے یا نبوت خود کے اقرار کے لئے نہ تشریف لائینگے، بلکہ اپنے جھوٹے مدعیوں کو بزور تلوار درست کرنے کے لئے تشریف لا دینگے، جیسا کہ فقیر پہلے عرض کر چکا ہے۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ اَبُوْبَکْرٍ خَیْرُ النَّاسِ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ نَبِیٌّ۔ ابوبکر سب انسانوں سے بہتر ہیں، ہاں اگر کوئی نبی انسانوں میں سے ہو، تو اس سے بہتر نہیں، اگر کوئی انسانوں میں سے نبی نہ ہوتا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استثنا فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ نَبِیٌّ کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی آمد کا امکان ہے۔

نوٹ:۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ "نَبِیٌّ" حدیث مذکورہ بالا میں کَانَ یَکُوْنُ کی خبر واقع نہیں، کہ یہ خیال کیا جا سکے کہ حضرت ابوبکر رض کی نبوت کی نفی مقصود ہے، اگر کَانَ کی خبر ہوتا، تو نبیٌّ کی بجائے نَبِیًّا ہونا چاہیئے تھا، پاکٹ بک ص۱۴۷ تا ۱۴۸

"محمد عمر"۔ سبحان اللہ! مرزائی صاحب دیانتداری بھی اسی کا نام ہے، کہ بھولے مسلمانوں کی آنکھوں میں خوب دھول ڈالتے ہو، جب پہلے از روئے قرآنی آیات و احادیث صحیح حضرت عیسٰی علیہ السلام کا نزول من السماء قرب قیامت ثابت ہو چکا، کہ دین مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لائینگے، اپنے دین کی اشاعت سے وہ پہلے فارغ ہو چکے ہیں، جیسا کہ ارشاد مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کر دیتا ہوں،

marfat.com

بالکل خلاف ہے۔ لہذا تمہارے لئے یہ بھی حجت نہیں ہو سکتا۔

"مرزائی" - ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَ اَصْحَابُهٗ۔ آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا گیا ہے، پہلا مسیح نوت ہو چکا، جو آنیوالے مسیح کے حُلیے سے مختلف ہے، لہذا یہ آنیوالا بخاری کی حدیث اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اس اُمت سے نبی ہونا تھا، پاکٹ بک صفحہ ۴۴ ۔

"محمد عمر" - مرزائی صاحب کی آنکھوں میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے تو سہی، لیکن مرزائیت ایمان لانے سے مانع ہے وکیل صاحب نے اب جس حدیث کا ٹکڑا پڑھ دیا ہے، فَيَرْغَبُ، پس رغبت کریگا۔ کب؟ قرب قیامت بعد از نزول من السماء، يَرْغَبُ صیغہ مضارع ہے، جو استقبال پر دال ہے،

وکیل صاحب! پہلے یہ تو فرمائیے کہ يَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ میں يَرْغَبُ کے فاعل پر نظر مرزائیت تو جالگی، لیکن يَرْغَبُ کو کیوں چھوڑ گئے، کہ حضرت عیسےٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول من السماء ثابت ہونا تھا؟ اس لئے اور اس حدیث کے ما قبل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ، ملاحظہ ہو مسلم شریف ۲/۲ ۔

کیوں جی مرزائی صاحب! اب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حیات و نزول من السماء مان گئے ہو؟ يَرْغَبُ خود تم اپنے اقرار کئے پر قائم تو نہ رہو گے اور نہ ہی ایمان لاؤگے اِلّا ماشاءاللہ۔ مگر فقیر اس کے فاعل کا تمہیں جواب عرض کر دیتا ہے، کہ جیسا کہ گورنر صاحب ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کو گورنر صاحب ہی کہا جاتا ہے، ایسا ہی اگر کوئی کپتان ریٹائر ہو جائے تو اس کو کپتان صاحب کے ہی نام سے ادباً پکارا جاتا ہے، اگر اسی کپتان یا گورنر کو عارضی کسی چھوٹی ڈیوٹی پر سرکار مقرر کرے تو بھی اس کو باقی لوگ کپتان صاحب یا گورنر صاحب کے نام سے ہی ادباً پکاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی نبوت کا زمانہ پورا کر چکے ہیں، اب آپنے اُمت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی ڈیوٹی کے لئے دوبارہ تشریف لانا ہے، جو اپنے اپنی اُمت کے کارندے کو اسی سابقہ نبی اللہ کے

ابتداء سے انتہا تک سب لوگوں سے بہتر ہونگے، اِلاَّ اَنْ یَکُوْنَ نَبِیٌّ۔ مگر یہ کہ جو نبی ہو یعنی تمام انبیاء سے نیچے اور باقی سب لوگوں سے بہتر ہونگے۔

"مرزائی"۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تکون النبوۃ فیکم ماشاء اللہ ...... ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ماشاء اللہ ..... ثم تکون ملکا عاضا فتکون ماشاء اللہ ..... ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوۃ۔ (رواہ احمد، بیہقی، مشکوٰۃ)۔

تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی، اور وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی منہاج نبوت پر۔

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں دوبارہ منہاج نبوت پر خلافت ہوگی، جس طرح ابتداء اسلام میں منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ منہاج نبوت پر خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ہوئی تھی، تو لازم آیا کہ آخری زمانہ میں بھی نبی ہو جس کی وفات پر دوبارہ خلافت شروع ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مندرجہ بالا حدیث مشکوٰۃ میں بین السطور میں لکھا ہے۔

الظاہر ان المراد بہ زمن عیسیٰ علیہ السلام والمہدی،

ظاہر ہے کہ منہاج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہونے کا زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہوگا۔ یاکٹ بک صلاہا۔

"محمدعمر"۔ مرزائی پیچ تو مشہور ہے۔ لیکن دیکھنے سے حقیقت کھل کر صدق وکذب کا اندازہ صحیح لگایا جاسکتا ہے، دکیل صاحب تو اتنے حواس باختہ ہوگئے ہیں، کہ حدیث پاک کے معانی بھی پس وپیش کر دیئے ہیں، خیر۔ مرزائی صاحب سے توقع یہ تھی، کہ شاید تکون النبوۃ فیکم ماشاء اللہ سے اجرائے نبوت ہی مراد لیتا، لیکن چونکہ اس کی شرح میں دوسری حدیثیں موجود ہیں، اس لئے اس کا داؤ یہاں نہ چلا، تسلیم کرلیا گیا کہ اس میں چونکہ خطاب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہے، تو ان میں نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہو سکتی ہے، اور کوئی نئی نبوت نہیں، لیکن جب اس کا جواب آیا، تو مرزائی حدیث کے اس جملے کو

marfat.com

کنز العمال ۷ ۱۹۹ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ عَلٰى مِلَّتِهٖ، اِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا عَدْلًا فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ (طبرانی عن عبد اللہ بن مغفل)۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاوینگے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہونگے، اور آپ کے دین پر ہونگے، اور آپ کے دین کے سند یافتہ امام ہونگے حاکم ہونگے، عادل ہونگے، پھر دجال کو قتل کرینگے، (طبرانی کا جواب طبرانی سے ہی دیا گیا) تو بفرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام وحاکم نزب قیامت آسمان سے نزول فرما دینگے، لیکن سابق انبیاء میں سے ہی تو ہونگے جس کا انکار نہیں، جس کو تم بھی پہلے اپنی پاکٹ بک کے اسی صفحہ ۲۴۰ پر تسلیم کرچکے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ فَيَبْعَثُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهٗ۔ تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اُمت کا امام تسلیم کرتے ہوئے اُن کی نبوت کا بھی انکار نہیں فرمایا، بلکہ ان کی نبوت کو بھی اپنی نظروں میں حقیر نہیں سمجھا، اور یہی سبق اپنی اُمت کو دیا، کہ دیکھو ایسا نہ ہو، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ سب لوگوں سے یعنی میری اُمت کے لوگوں سے جو قیامت تک محض میری اُمت ہی اُمت ہے، اس میں کوئی نبی نہیں، سب سے بہتر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ ہیں، لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاوینگے اور وہ بھی میرے دین کے ہی عامل ہونگے، اُنسے بہتر نہیں ہونگے۔

یہی مطلب ہے، اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيٌّ۔ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ اس اُمت کے لوگوں سے بہتر تو ہونگے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اُن سے بہتر ہوں گے۔

جواب ۲۔ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ دنیا سے بہتر ہونگے، یہ قیامت کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لفظ النّاس سب سابقین وآخرین کو شامل ہے، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ سب لوگوں سے دن قیامت کے بہتر ہونگے، مگر جو نبی ہوگا، اس سے کم درجہ رکھیں گے۔ کیونکہ خیریت اور افضلیت کا ثبوت مرکھ و مر کے لئے قیامت کے دن تو اظہر من الشمس ہوگا۔

تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ بروز قیامت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالےٰ عنہ

marfat.com

ہاں مرزائیات سے ہی سہی، اور یہ نہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد اللہ تعالےٰ نبوت کو اُٹھا لیگا، اور میرے خلفاء کی خلافت راشدہ کے بعد خلافت بھی اُٹھا لیگا، اور پھر فرمایا کہ قرب قیامت پھر خلافت نبوت مصطفوی کے اصولوں پر قائم ہوگی، اگر اسوقت قرب قیامت ضرورت نبوت ہوتی، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ خلافت نبوت کے اصولوں پر قائم ہوگی، آپ فرما دیتے، کہ پھر نبوت بھی نئے نبی کے پیدا ہونے سے اشاعت پکڑیگی، لیکن شکر خداوندی ہے کہ وکیل صاحب بین السطور کے حاشیہ کو ہی تسلیم کر گئے، کہ وہ قرب قیامت زمانہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، کوئی نیا نبی نہ ہوگا، تو ثابت ہوا، کہ وکیل صاحب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اُمت میں کسی نئے نبی کے قائل نہیں، لیکن مرزائیت انکی زبان سے زبردستی نکلوا رہی ہے۔

یہ مذکورہ دلائل محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور اپنی اُمت مرزائیہ کو خوش کرنے کے لئے ایک ڈھکوسلہ تھا، جس کو آخر میں آکر تسلیم کر گئے ہو کہ اُمت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بعد نبوت کو اللہ تعالےٰ نے اُٹھا لیا ہے البتہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بطور بادشاہ عادل آسمان سے تشریف لاوینگے اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی وہ زمانہ ہوگا، شکر ہے

کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

وکیل صاحب! خدا تعالےٰ آپ کو اس تمہاری پیش کردہ آخری حدیث کے مضمون کے مطابق کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو اُٹھا لیا ہے پر ایمان صحیح رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام کے آسمان سے تشریف لانے کی بھی علمیت دے اور امام مہدی علیہ السلام جو مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ شریف کو روانہ ہونگے، اور عرب کے بادشاہ ہونگے، اُن پر بھی ایمان لانے کی عقیدتمندی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنَ ۝

وکیل صاحب تم نے تو یار ادھر اُدھر کی باتیں گھڑ کر اجرائے نبوت کے مضمون کو ٹالا ہے، جو تمہاری پاکٹ بک کے صہ۴۳۲ سے تا صہ۴۴۱ پر واضح ہے۔

اب فقیر تمہیں بفضلہ تعالےٰ تمام کتب احادیث سے بلا مبالغہ دبلانا دیل و بغیر

marfat.com

چھوڑ گیا، جہاں نکتے لگائے گئے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ ثم یرفعھا اللہ تعالیٰ پھر اللہ نبوت کو ہی اٹھالیگا۔ تو اس جملے نے مرزائی عقیدہ کے اجرائے نبوت کی جڑ کاٹ کر رکھدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوستو میں جب تک تم میں موجود ہوں، نبوت اللہ کی مشیت سے موجود ہے، میرے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھالے گا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟۔ اس جملے کو حدیث سے ہضم کر گئے تھے۔ پاکٹ بک میں تو چھپا گئے لیکن کتاب مشکوٰۃ شریف سے کیسے چاٹ لوگے؟ سبحان اللہ! مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا جملہ ارشاد فرمادیا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو ہی اٹھالیگا، پھر فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت کے اصولوں پر قائم رہے گی، بمشیت الٰہی۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ یَرْفَعُھَا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ خلافت نبوت کے اصولوں والی کو بھی اٹھالیگا۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ اگر نبوت جاری ہی رہتی جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے تو آپ نے کیوں فرمایا، کہ میرے بعد اللہ نبوت کو اٹھالے گا، پھر زمانہ خلافت راشدہ کا بمشیت الٰہی شروع ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھالیگا، تو نبوت کا اجرا کیسے رہا؟ خیر تم آخیر میں یہاں اس امر کو تسلیم کر گئے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ممکن نہیں ہے۔ تب ہی حدیث کو بیان فرمایا اور اس پر معترض بھی نہیں ہوئے، تسلیم کر کے آخیر میں پھر ایک گندھی چھینٹ ڈالدی، فرماتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت اپنے زمانہ میں نبوت کو بند کردیا لیکن آخیر زمانے میں لازم ہے کہ نبی ہو، جس کی وفات پر دوبارہ خلافت شروع ہو اور پھر تسلیم بھی کرلیا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا زمانہ ہے۔ پہلے تو مرزائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور امام مہدی کو ایک تسلیم کرتا تھا، لیکن یہاں غلطی سے دو وجود تسلیم کر گیا، تعجب کی بات ہے کہ چونکہ نبی اول کو بلا فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرچکے ہیں، اسواسطے فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات بھی اور نئی گڑھ لیتے ہیں، بھلا یہ تو فرماؤ کہ تم کہتے ہو کہ لازم آیا کہ آخری زمانہ میں بھی نبی ہو، یہ کس عبارت حدیث سے نکالا ہے؟

marfat.com

پیش کرنی! تم بھی پیش کرتے ہو، کبھی کسی طرح اُلٹ پلٹ کرتے ہو، کبھی کسی طرح ہیرا پھیری کر کے کہتے ہو کیوں جی ختم نبوت ثابت ہوئی یا نہ ؟ واضح حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے پر ایمان لادے، کہ آپ کے بعد اور کوئی قطعًا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

"مرزائی"۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں سَیَکُوْنُ فِیْ اُمَّتِیْ خُلَفَاءَ جو صاف بتا رہے ہیں، کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کا زمانہ مُراد لیا ہے یعنی میرے معًا بعد خلفا ہونگے، اور معًا بعد کوئی نبی نہ ہو گا، پاکٹ بک صفحہ ۵۰۳۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب کا دماغ مرزائیت مسخ کر چکی ہے، بس اپنے مرزائیوں کو خوش کرنا جانتے ہیں کہ مرزائی کہدیں کہ واہ وا واہ حدیث شریف کو خوب اُڑایا، لیکن کسی قلیل عربی خواندہ کے سامنے بیان کرو، تو میزان الصرف پڑھنے والا بھی وکیل صاحب کی بات پر ہنسیگا۔

وکیل صاحب! "س" داخل ہوا یَکُوْنُ پر جس کا وقوع ہے فِیْ اُمَّتِیْ خُلَفَاءَ پر، خلیفے تو ٹھیک عنقریب ہی ہونگے، لیکن وَ اِنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کو "س" سے کیا تعلق، س مضارع پر یا ماضی پر داخل ہوتا ہے تو معنی قریب کے دیتا ہے، لیکن اِنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ پر س کو کیسے داخل کرو گے اور قریب کے معنی کیسے لوگے اور دوسری علمیت وکیل صاحب کی یہ کہ س داخل ہو آخر جملے پر اور شامل کر لیں ماقبل کو بھی، ہاں بھائی قادیان جو جاتا ہے اُلٹا ہو کر ہی آتا ہے تمہارے اختیار نہیں، گاڑی کا انجن جاتا سیدھا تھا اور جب واپس آتا تو اُلٹا ہوتا، بھلا وکیل صاحب اُلٹے عطف کیوں نہ ڈالیں، خواہ تعلق ہو یا نہ ہو، وکیل صاحب کچھ تو سوچتے، کسی نے ٹھیک کہا ہے ؎

پائے کج را موزہ مے باید ست کج

"مرزائی"۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ قاعدہ تھا، کہ ان میں ہر نبی بادشاہ ہوتا تھا، جب کوئی نبی ہوتا تو اس کا جانشین بھی بادشاہ نبی ہوتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت میں بادشاہت اور نبوت جمع نہیں ہو گی، چنانچہ دیکھ لو ابو بکر، عمر، عثمان، علی بادشاہ (خلیفے) تو ہوئے مگر نبی نہ تھے

marfat.com

ردو بدل مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہونیکی احادیث صحیحہ پیش کرتا ہے امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ ان کو بلا تعصب مرزائیت گوش گذار فرماؤ گے، وَعَلَی اللّٰہِ تَوَکَّلْتُ وَاِلَیْہِ اُنِیْبُ۔

محمد عمر

اَدِلّہِ ختمِ نبوّت برمُصطفٰے صَلَّی اللہ عَلَیہِ وَسَلّم از احادیث

(۱) بخاری شریف ۱/۴۹۱ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن فرات القزاز قال سَمِعْتُ اَبَاحَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ اَبَاھُرَیْرَۃَ خَمْسَ سِنِیْنَ فَسَمِعْتُہٗ یُحَدِّثُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ کَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِیْلَ تَسُوْسُھُمُ الْاَنْبِیَاءُ کُلَّمَا ھَلَکَ نَبِیٌّ خَلَفَہٗ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ لَانَبِیَّ بَعْدِیْ وَسَیَکُوْنُ خُلَفَاءُ۔

فرات القزاز نے کہا کہ میں نے ابوحزم سے سُنا، کہا اُس نے کہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ کی مجلس میں پانچ سال بیٹھا، تو میں نے اس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پاس پے درپے انبیا علیہم السلام تشریف لائے، جب بھی نبی ہلاک ہؤا، اس کا جانشین اور نبی ہوگیا، اور شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلیفے ہونگے،

کیوں جناب مرزائی صاحب! بخاری شریف کی حدیث اور فرمان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واضح ہے، کہ آپنے ارشاد فرمایا، کہ بنو اسرائیل میں یکے بعد دیگرے متواتر انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خلیفے ہونگے اور یہ حدیث اگر کسی عیسائی کے سامنے بھی بیان کیجاوے تو وہ بھی اس کے معانی صحیح سمجھ لیگا لیکن تمہیں مرزائیت اتنی مانع بنی ہوئی ہے، کہ عمل تو بجائے خود مطلب بھی صحیح نہیں سمجھنے دیتی، اسے کہا جاتا ہے کہ مطابق موضوع بات

marfat.com

مسیح موعود کو مسلم کی حدیث میں نبی اللہ کر کے پکارا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے، کہ یہ حدیث صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کے درمیانی زمانے کے لئے ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ نَازِلٌ۔ موجود ہے، بخاری کے الفاظ بھی یہی ہیں، پاکٹ بک صہ ۵۰۳ تا صہ ۵۰۴۔

محمد عمر:۔ حدیث صحیح مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے لئے کتنے حیلے گھڑتے ہو، سیدھا ہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اس حدیث کے قائل نہیں، بہانے نبالنے کا کیا مطلب تم نے کہدیا کہ اس حدیث سے یہ نکالنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں یہ غلط ہے، یہ ہم نکال رہے ہیں یا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاویل فرما رہے ہیں۔

اے مسلمانو! مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کہلانے والو سن لو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسا صاف ہے، کہ بنو اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام یکے بعد دیگرے آتے رہے ہیں، لیکن میری اُمت میں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، مرزائی سے جب کوئی تاویل نہ چل سکی تو صاف کہدیا کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے اور کہنے والا کون ہے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلط بھی آپکے فرمان کو ہی کہدیا، مرزا صاحب کی اطاعت میں مرزائی نے فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں ٹھکرا دیا، اس سے زیادہ واضح اور کیا انکار ہو سکتا ہے، پھر جب تنگ آگئے تو ایک حدیث حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے متعلق پڑھ دی، جس کو مرزائی بھی صحیح سمجھتا ہے، لیکن اسپر مرزائی ایمان نہیں لاتا، اس کا بھی منکر ہے، ایک حدیث کا انکاری اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث پیش کر دی، کہ میں صرف اس کا ہی منکر نہیں، بلکہ اس دوسری حدیث کا بھی منکر ہوں، یک نہ شد دو شد۔

بھلا مرزائی صاحب! تم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ نَازِلٌ پڑھ دی، کیا اسپر تمہارا ایمان ہے، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اُترنے والے ہیں، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اس فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے اجرائے نبوۃ اور تمہارا

maarfat.com

اور جو نبی ہوا (یعنی مسیح موعود) وہ بادشاہ نہ ہوا، پاکٹ بک صد ۵۰۳۔

"محمد عمر" ۔ وکیل صاحب! یہ حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتی، آپ کے دماغ میں مرزا صاحب کی بات ہی جلدی آسکتی ہے، کیونکہ آپ کو تا زبانی مٹی لگ چکی ہے، مدینے والے کی کلام کو سمجھنے کے لئے ایمان کی ضرورت ہے، مرزا نبوت کو بالائے طاق رکھ کر اگر آپ سمجھیں گے تو انشاء اللہ تعالٰی ضرور سمجھ آئیگی، جب تک برتن صاف نہ ہو، اُس میں طیب چیز کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔

"مرزائی" ۔ نہیں آپ بیان فرمائیے، شاید خداوند تعالٰے سمجھ عطا کرے، کوئی بڑی بات نہیں۔

"محمد عمر" ۔ اچھا تم جو مرزا صاحب کی نبوت کو سچا کرنے کے لئے حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلتے ہو، تمہارے سمجھنے کی مرضی کب ہوسکتی ہے، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے صاف اور واضح الفاظ ہیں، کَانَتْ بَنُوْا سْرَائِیْلَ تَسُوْسُھُمُ الْاَنْبِیَاءُ کہ بنو اسرائیل کی طرف انبیا کرام متواتر آتے تھے، ان میں ان کی بادشاہت کا ذکر کہیں ہے ہی نہیں، پھر آگے فرمایا کہ کُلَّمَا ھَلَکَ نَبِیٌّ خَلَفَہٗ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ جب ایک نبی ہلاک ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آجاتا، اور میرے بعد (میری اُمت میں یہ اصول ختم ہے) بلکہ میری اُمت کی شان یہ ہے کہ میرے بعد نبی کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں، یہاں یہ عبارت کہاں موجود ہے کہ بادشاہت اور نبوت اکٹھے نہیں ہوسکتے، یہ اپنی طرف سے عبارتیں ٹھونس کر مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہو۔ اور مرزا جی کی رضا کے طالب ہو، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کو بڑھا کر اور اُلٹ بیان کرنے والو! یاد رکھو میدان حشر میں اور قبر میں بھی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی تمہارے گلے میں ہوگی اور تم مجرمانہ حیثیت سے اس مقدمہ میں پیش کئے جاؤ گے تو تمہیں اس حدیث کی سمجھ آئے گی، کہ ہائے میں نے فلاں حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو اُلٹا بیان کر کے کیوں جھٹلایا تو اس وقت کا پچھتانا کام نہ آئیگا۔

"مرزائی" ۔ واقعی یہ تو وکیل صاحب نے حدیث میں زیادتی سے کام لیا ہے۔ لیکن ایک اور عرض کرتا ہوں، کہ اس حدیث سے یہ نکالنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، قطعاً غلط ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنیوالے

marfat.com

کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنیٰ دَاراً اَکْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَۃٍ فَجَعَلَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَهَا وَیَتَعَجَّبُوْنَ یَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَۃِ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیا کی مثال ایسے ہے، جیسا کہ کسی نے گھر تعمیر کیا تو اس کو مکمل کر دیا اور سجا بھی دیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور متعجب ہو کر کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں نہیں پُر کی گئی۔ (یعنی خالی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟)۔

(۳) بخاری شریف $\frac{1}{501}$ مسلم شریف $\frac{2}{248}$ بیہقی شریف $\frac{9}{5}$

حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسمٰعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ھریرۃ اَنَّ رَسُوْلَ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِنَّ مَثَلِیْ وَمَثَلَ الْاَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِیْ کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنیٰ بَیْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَۃٍ مِنْ زَاوِیَۃٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَیَتَعَجَّبُوْنَ لَهٗ وَیَقُوْلُوْنَ ھَلَّا وُضِعَتْ ھٰذِهِ اللَّبِنَۃُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَۃُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیا علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص نے مکان تعمیر کیا تو بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو لوگ اس میں آتے جاتے ہیں، اور اس کے لئے تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس اینٹ کی جگہ کیوں نہیں بنا رکھی گئی، (خالی کیوں چھوڑی گئی)، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں (وہی) ایک اینٹ ہوں، اور میں ہی تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔

"مرزائی" - خاتم النبیین کو تم نے پڑھا ہے خاتِمُ النَّبِیّٖن جس کے معنی ہیں کہ میں تمام نبیوں کو مہر لگانیوالا ہوں۔

marfat.com

مرزاجی کی نبوت کی جڑ کاٹ دی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اُترنے والے ہیں، تم وَاِنَّہٗ نَازِلٌ کے بھی منکر اور آپکا فرمان کہ لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ نَبِیٌّ کے بھی منکر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کے پہلے ہی اپنی طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جعلی نبی بنا بیٹھے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث شریف مذکورہ بالا میں صاف فرما دیا، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تم نے صاف انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے، دیکھو ہمارا غلام احمد مرزا نبی جعلی آگیا ہے، دوسری حدیث میں آپنے فرمایا کہ ایسے میری حدیثوں کو ٹھکرانے والوں کو درست کرنے کے لئے آخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، تم نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، تم نے کس حدیث کا اقرار کیا؟ تم مرزائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے، جس پر تمہارا ایمان ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح اور سچا ثابت ہوا، جو آپ نے مذکورہ بالا حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، جیسا کہ پہلے بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں، کیونکہ میرے بعد کسی نبی کا مقام خالی نہیں، تمام مقامات انبیاء علیہم السلام پورے ہو چکے ہیں، اب اُن کا میرے بعد آسمان سے اُترنا میری ختم نبوت میں فرق نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ اپنی نبوت کی ڈیوٹی ختم کر چکے ہیں، اب اُن کا میری اُمت میں داخل ہونا اُن کے اجر سابقہ کو ضائع نہیں کر سکتا، اور میرے اُمتی بننے سے میری نبوت کے ختم ہونے میں مخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ یہاں اپنی نبوت کو لے کر نہ آئیں گے، وہ محض ختم نبوت کو توڑنے والے اور جھوٹے مسیحوں کو درست کرنے کے لئے تشریف لاوینگے. جس سے اُمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوبالا ہوگی، اور دشمن ذلیل ہوگا. اس نبوت کے تکمیل شدہ مکان کو توڑنے والو اس مکان کو تو تم توڑ نہیں سکو گے، یہ مکان مکمل ہو چکا اور مکمل ہی رہے گا، جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

(۲) بخاری شریف ۱/۵۰۱	حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن میناء عن جابر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلِیْ وَمَثَلُ الْاَنْبِیَاءِ

marfat.com

کے مقام کو پُر فرما دیا، اب دوسرے کسی نبی کے لئے کوئی جگہ خالی نہیں، پہلے ہی پُر ہو چکی ہے، اسی بنا پر آپ تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ثابت ہوئے اور یہی مطلب فرمان الٰہی وَ لٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ کا ہے جکی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب! میں تو تب سر خم کرونگا، جب یہ الفاظ کسی حدیث سے دکھا دو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عمارت کو یا اس اینٹ کی جگہ کو پُورا کر دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک اینٹ کے سجانے میں کوئی پچر کی جگہ خالی رہ گئی ہو،

"محمد عمر"۔ دوست! جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور میں وہی ایک اینٹ ہوں، تو پچر کی جگہ کونسی خالی رہی، اچھا اگر زیادہ اسی امر کا اصرار کرتے ہو، تو تمہیں ایسے الفاظ ہی دکھا دیتا ہوں،

"مرزائی"۔ کسی حدیث کے الفاظ ہوں، شارح وغیرہ کے الفاظ میں تسلیم نہ کرونگا۔

"محمد عمر"۔ بھائی جب تم نے تاویل کرنی ہو، تو تم جھوٹ موٹ ہی کہ دیتے ہو کہ فلاں کتاب کے بین السطور میں لکھا ہے، وہ بھی تمہارے لئے حجت ہو اور اگر میں کسی محدث کی شرح پیش کروں تو تم کہتے ہو کہ میں تسلیم نہیں کرونگا۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب اگر میں ایسی چیز پیش کرتا ہوں، تب ہی تو تم آج مجھے ذلیل کر رہے ہو، اور اسلام کے علمبردار بھی تو تم ہی بنے ہوئے ہو، آج کسی حدیث سے نکال کر دکھاؤ، ورنہ میں کہونگا، کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، ورنہ دکھاؤ، کہ مکان پورا ہو گیا، یہ دکھاؤ جو تم نے زیادتی لگائی ہے۔

"محمد عمر"۔ آؤ بھائی اگر تم اسی پر مصر ہو تو دکھا دیتا ہوں، ایمان لانا یا نہ؟

(۴) مسند امام احمد حنبل ۳/۹

حدثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثنا ابو معاویہ ثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلِیْ وَمَثَلُ النَّبِیِّیْنَ مِنْ قَبْلِیْ کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰی دَارًا فَاَتَمَّھَا اِلَّا لَبِنَۃً وَّاحِدَۃً فَجِئْتُ اَنَا وَ اَتْمَمْتُ تِلْکَ اللَّبِنَۃَ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مثال اور میرے پہلے تمام نبیوں کی مثال ایسے آدمی کی ہے، جس نے مکان تیار کیا تو سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے تمام مکان مکمل کر دیا

marfat.com

"محمد عمر"۔ اس حدیث میں تمہارا خاتَمَ النبیین پڑھنا غلط ہے، کیونکہ اگر خاتَمَ النبیین ہوتا تو نبی بَیِّنًا نہ فرماتے، کیونکہ اینٹوں پر مہر لگائی جاتی ہے تو اینٹیں تیار ہونے سے قبل ہوتی ہے، اور اگر کہو کہ مکان پر مُہر تو ختم نبوت کا مطلب حل ہو گیا، کہ انبیاء علیہم السلام سے مکان تیار ہو چکا، اب کتبے والی اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ اینٹ ہمیشہ تعبیر کنندہ ہی آخیر وقت پر چسپاں کرتا ہے، جب مکان تیار ہو جاتا ہے، اور جب وہ اینٹ بھی تیار ہو جائے تو اب مکان میں کسی اینٹ یا کسی باقی تیاری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، شاید مکان کے باہر کسی صاحب مکان کے لئے ٹٹی کی ضرورت ہو، تو اس کی ضرورت کے لئے کسی اینٹ کو لگانے کے لئے آپ کو کسی نے فرما دیا ہو، تو اسلام اس سے بے خبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکان کی ایسی مثال ارشاد فرما دی، کہ جس سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت کو ختم نہ تسلیم کیا جائے تو ایمان جاتا ہے، اَنَا اللَّبِنَۃُ وَ اَنَا خَاتِمُ النَّبِیّٖن کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، جس سے مکان انبیاء علیہم السلام پورا ہو چکا اور میں ہی تمام نبیوں کے ختم کرنیوالا ہوں۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب! تم نے حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادتی سے کام لیا ہے، یہ الفاظ حدیث شریف میں کہاں ہیں، کہ مکان انبیاء کو میں نے پُورا کر دیا، یہ بات تم نے اپنی طرف سے لگا دی ہے، جو شرعاً کفر ہے۔

"محمد عمر"۔ سبحان اللہ معلوم ہوا، کہ مرزائی صاحب بھی اس حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن عمداً مُنہ چھپائے پھرتا ہے، ھَلَّا وُضِعَتْ ھٰذِہٖ اللَّبِنَۃُ کا کیا مطلب ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے ایک مکان تعمیر ہو چکا ہے۔ مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور میں وہی اینٹ ہوں، تو اس ایک اینٹ کے جڑنے سے یعنی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ مکان مکمل ہوا یا نہ؟ جب حضور تشریف لائے تو مکان مکمل ہونیکے بعد آپ نے فرمایا کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِیّٖن میں خاتم النبیین ہوں (میں ہوں تمام نبیوں کا ختم کرنیوالا) کیونکہ مکان تعمیر ہو چکا، جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ جگہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پُر کر دی، اب اس مکان انبیاء علیہم السلام میں اور جگہ خالی ہی نہیں، تو تم عمارت نبوت کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمارت ابھی نامکمل ہے؟ اس لئے نبوّت جاری ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اینٹ

marfat.com

صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا سمجھو گے، وقت قریب آنیوالا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائیگا تو فقیر نے از روئے احادیث تمہاری ہر طرح کی تسلی کردی، اور ختم نبوّت بر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صریحہ پیش کردیں۔ اور ملاحظہ ہو۔

(۶) بخاری شریف ۲/۱۰۳۵

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزھری حدثنی سعید بن المسیب ان ابا ھریرۃ قال سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَمْ یَبْقَ مِنَ النُّبُوَّۃِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْیَا الصَّالِحَۃُ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا، فرماتے تھے کہ نبوّت ختم ہوگئی، سوائے مبشرات کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کہ مبشرات کیا ہیں، فرمایا اچھی خوابیں اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوا، کہ نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگئی، اب نبوت کا مدعی محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، آپ نے فرمایا۔ اچھی خوابیں آسکتی ہیں۔

(۷) مسلم شریف ۲/۲۴۸

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال ثنا عفان قال ثنا سلیم بن حیان قال حدثنا سعید بن میناء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَثَلِیْ وَمَثَلُ الْاَنْبِیَاءِ کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰی دَارًا فَاَتَمَّھَا وَاَکْمَلَھَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَۃٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَدْخُلُوْنَھَا وَیَتَعَجَّبُوْنَ مِنْھَا وَیَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَۃِ جِئْتُ وَخَتَمْتُ الْاَنْبِیَاءَ۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ سے روایت ہے، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپنے فرمایا میری اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسے ہے، جیسے کہ کسی نے مکان تیار کیا، تو سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے اُس نے اس کو پورا اور مکمل کر دیا، تو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس خالی جگہ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں نہیں پوری کی گئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اینٹ کی جگہ میں آیا ہوں،

marfat.com

تو میں آیا اور اس اینٹ کی جگہ کو میں نے پورا کر دیا،

کیوں جناب! اب تو تمہاری مرضی کے مطابق اَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا ہے، امید ہے کہ اب تمہیں کسی پچر کی گنجائش نظر نہ آئیگی۔

"**مرزائی**" ۔ اگر تم ہی پچر کی گنجائش سمجھو تو؟

"**محمد عمر**" ۔ تم نے اس اینٹ کی جگہ پُر کرنیکا مطالبہ کیا وہ تمہاری مرضی کے مطابق پورا ہوا یا نہ؟

"**مرزائی**" ۔ یہ تو مطالبہ پورا ہو گیا من وعن، لیکن تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پچر لگاتے ہو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا وہ گمراہی نہیں، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمارت انبیاء میں نئی پچر لگا کر اسلام سے خارج ہوتے ہیں تو تم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرانی پچر لگا کر اسلام سے خارج ہو۔

"**محمد عمر**" ۔ نہیں ہرگز نہیں، عمارت انبیا علیہم السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مکمل کر دیا، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہونگے، جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالےٰ مذکور ہوگا، اس لئے آپ نے پہلے فرما دیا، حدیث شریف مذکورہ بالا ملاحظہ ہو، مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ قَبْلِيْ میری مثال اور میرے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال، تو آپ نے اپنے بعد کے کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا، کہ بعد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں، باقی رہا تمہارا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ تو مِنْ قَبْلِيْ میں شامل ہو گئے، ان کی اینٹ تو مکان انبیا علیہم السلام میں لگ چکی، اب اُن کا تشریف لانا نہ نبوت کی اشاعت کے لئے ہے، اور نہ ہی وہ بعد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بلکہ آپ پہلے کے پیدا شدہ، پہلے کے نبی، اُن کی کوئی نئی نبوۃ نہیں، کہ تمہارا اعتراض لازم آئے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ تعالےٰ فرماتے ہیں، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کر دیا، تو مرزائی اعتراض کرے کہ غلط ہے، تو ایمان سے خارج ہے، کیونکہ امتحان کے لئے اور ایمانوں کی پڑتال کے لئے خداوند کریم ایسے کرہی دیتے ہیں، تاکہ مومن اور کافر میں تمیز ہو جائے، لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کب تک احادیث صحیحہ معتبرہ کا انکار کروگے اور مرزا صاحب کی بات کو قرآن وحدیث اور رسالت مصطفےٰ

marfat.com

سفیانان وجماعت، ۲۱ شاگردوں کے علاوہ اور بھی اس کے شاگرد ہیں، اس کی تائید کرنے والے حضرات سنیئے:۔

عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے صفائی کے گواہان

(۱)۔ قال صالح بن احمد عن ابیہ ثقۃ مستقیم الحدیث۔
(۲)۔ قال ابن معین وابوزرعۃ وابوحاتم ومحمد بن سعد والنسائی ثقۃ زاد ابن سعید کثیر الحدیث۔ (۷) قال العجلی ثقۃ (۸) قال اللیث عن ربیعہ حدثنی عبد اللہ بن دینار وکان من صالحی التابعین صدوقا دیناً (۹)۔ ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔

کیوں جناب؟ یہ ہے عبداللہ بن دینار اور وہی ہے کتاب تہذیب التہذیب جس نے تمہارے پردے فاش کردئے، اور عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا اور ان کی شان بیان کردی، اب ابوصالح خوزی کے متعلق سُن لیجئے۔ تمہارا بھی یہ مسلمہ قانون ہے کہ جس کی وجہ جرح ثابت نہ ہو اس کی جرح ناقابل قبول ہے، اور اس کے متعلق ابوزرعہ لکھتے ہیں، قال ابوزرعۃ لا باس بہ، اس کی حدیث میں کوئی ڈر نہیں، اور یہ بھی تم نے غلط لکھا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف لکھا ہے بلکہ تہذیب التہذیب میں $\frac{12}{131}$ میں علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے، کہ قال ابن الدورقی عن ابن معین ضعیف، ابن دورقی نے کہا ہے کہ ابوصالح کی روایت ابن معین سے بیان کرے تو ضعیف ہے، ورنہ نہیں۔ اور ان دونوں حدیثوں میں ابوصالح روایت کرتے ہیں، ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ، سے اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالےٰ عنہ، سے، لہٰذا تمہاری جرح غلط ثابت ہوئی، اور حدیثیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ومبراۃ من کل جرح علی رغم انف عدو ثابت ہوئیں اور مرزائی علی الاعلان منکر احادیث جھوٹا ثابت ہؤا، اب اور حدیثیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق ملاحظہ ہوں۔

"مرزائی"۔ مولوی صاحب اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا جاوے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے، کہ آپ نے ایک اینٹ کی جگہ پُر کردی، حالانکہ لولاک لماخلقت الافلاک آپ کی شان ہے، اور اس سے جو مفہوم مولوی بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ اس سے شریعت

maktabah.com

اور تمام نبیوں کو ختم کر دیا........ وہ اینٹ کی خالی جگہ پُر ہو گئی)۔

"مرزائی" - ان حدیثوں میں زہیر بن محمد ضعیف ہے اور دوسری سند میں عبد اللہ بن دینار اور ابو صالح خوزی ضعیف ہیں، پاکٹ بک ص۵۰۷ تا ۵۰۸۔

"محمد عمر" - فقیر کی پیش کردہ حدیثوں سے کسی حدیث میں بھی زہیر نہیں ہے، لہٰذا صحیح ثابت ہوئیں، اور تمہارا کہنا غلط ثابت ہوا، اور حدیث ع۲ میں بھی تمہاری پیش کردہ راوی میں سے کوئی بھی نہیں، لہٰذا صحیح ثابت ہوئیں، اور تم منکر حدیث ثابت ہوئے، باقی رہا تمہارا کہنا کہ عبد اللہ بن دینار العدوی مولی ابن عمر مخدوش ہے، یہ تم نے جھوٹ سے کام لیا ہے، آئیے رجال حدیث کی تحقیق کریں، تم بیچارے اپنے مرزاجی کی روایت جس کو گنڈا سنگھ اور شرن پت اور ملاوامل روایت کریں، معتبر سمجھو۔ لیکن صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا قدر جانو، ہمارے بزرگوں کی شان ہم سے سنیئے:-

عبد اللہ بن دینار العدوی ابو عبد الرحمٰن المدنی مولی ابن عمر

(عبد اللہ بن دینار کے اساتذہ جن سے روایت بیان کرتے ہیں)۔

تہذیب التہذیب ۵ / ۲۰۱

(۱) - ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۲) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۳) سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۴) - نافع القرشی مولی ابن عمر (۵) - ابی صالح السمان وغیرہم۔

عبد اللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کے شاگردان رضؓ

(۱) - ابنہ عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۲) - مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۳) - سلیمان بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۴) - شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ (۵) - صفوان بن سلیم رضؓ (۶) - عبد العزیز بن الماجشون رضؓ (۷) - عبد العزیز بن مسلم القسملی رضؓ (۸) - عبید اللہ بن عمر رضؓ (۹) - محمد بن سوقہ رضؓ (۱۰) ابن عجلان رضؓ (۱۱) - موسیٰ بن عقبہ رضؓ (۱۲) - ورقا بن عمر رضؓ (۱۳) - یحییٰ بن سعید رضؓ (۱۴) یزید بن عبد اللہ بن الہاد رضؓ (۱۵) - ربیعہ بن ابی عبد الرحمٰن (۱۶) - الولید بن الولید المدنی (۱۷) اسمٰعیل بن جعفر رضؓ (۱۸) عبد اللہ بن المثنیٰ بن عبد اللہ بن انس رضؓ (۱۹) سہیل بن ابی صالح (۲۰) و (۲۱)

marfat.com

ذکر ہی کہاں ہے، مَثَلِی وَمَثَلُ الْاَنْبِیَاءِ کا ذکر ہے، لیکن مرزائی کو اس طرف تو مرزا جی حائل ہیں، چلے گئے لولاک لما خلقت الافلاک کی طرف۔

جس کا اصل ہی کچھ نہیں اور جو نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہونے کی واضح دلیل ہے، کو ٹھکرا کر حدیث صریحہ کا منکر کہلاوے، بلکہ خدا وند ہر مومن کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل فرمان پر ایمان لانے کی توفیق دے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم تھا۔ کہ مجھ پر نبوت ختم ہونے کی حدیثوں کو کئی ٹھکرا دینگے، آپ نے مکان کی مثال دیکر نبوت ختم ہونے کو سمجھا دیا، تاکہ ختم نبوت کی حقیقت ہر مومن پر واضح ہو جائے۔

(۸) مسلم شریف ۱/۴۴۶

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاِنِّیْ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ وَاِنَّ مَسْجِدِیْ آخِرُ الْمَسَاجِدِ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میں تمام نبیوں کا آخیر ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی آخری ہے۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں سب نبیوں کے آخیر ہوں اور میری مسجد بھی آخری ہے، اس کے بعد میری کوئی مسجد نہ بنے گی، کیونکہ مجھے کوئی موقع نہ ملیگا۔

"مرزائی"۔ مسجدی آخر المساجد ثابت کرتی ہے، کہ آخر الانبیاء کے معنی بھی محض یہی ہونگے، کہ کوئی شریعت والا نبی نہ ہوگا، اور کیا آپ کی مسجد کے بعد کوئی مسجد تعمیر نہ ہوگی، پاکٹ بک صد ۵۱۲۔

"محمد عمر"۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اَنَا آخِرُ الْاَنْبِیَاءِ میں سب نبیوں کے آخر ہوں، ہمیں تو آپ کی کلام پر یقین ہے، مرزائی کو یقین آئے یا نہ؟ اتنے واضح الفاظ جس کو مرزائی کی تاویل بھی پھیر نہیں سکتی، باقی رہا مسجدی آخر المساجد، تو یہ بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، آپ نے اس کے بعد کوئی مسجد تعمیر نہیں فرمائی، مساجد انبیاء علیہم السلام سے آپ کی مسجد آخری ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میری مسجد آخر مساجد انبیا علیہم السلام ہے، کیونکہ جب آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں تو مسجد نبوی اور کیسے بن سکتی ہے؟ اب اس میں تشریعی نبی یا غیر تشریعی کی تشریح تو نہ کلام مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تخصیص موجود ہے، اور نہ ہم ایسی تخصیص کر کے ایمان

کا محل مراد ہے، پہلے انبیاء ضرورت کے مطابق احکام شریعت لاتے رہے، اور اس محل کا سامان جمع ہوتا رہا، چونکہ پہلی شریعتیں ناقص تھیں یہ مکان مکمل نہ ہو سکا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی شریعت نے مکان کو مکمل کر دیا، جو سامان پہلے جمع شدہ تھا یعنی پہلی کتابیں بھی اس میں شامل ہیں، فیہا کتب قیمۃ، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی اینٹ سے تعبیر کیا، پاکٹ بک ص۵۰۸ تا ص۵۰۹۔

"محمد عمر" وکیل صاحب! مرزائیوں کو نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر خیر آیا اور تمہیں گولی لگی، فوراً کلام مصطفےٰ کو اُلٹنے کی کوشش میں لگ جاتے ہو، اب اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَثَلِیْ وَمَثَلُ الانبیاء میری مثال اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال، لیکن مرزائی اس سے علی الاعلان دن دہاڑے روگردانی کر رہا ہے۔ کہ یہاں انبیاء سے مراد اُن کی شریعتیں ہیں، کچھ تو شرم چاہیئے، تحریف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، غیر مسلمان کا ذکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو چھوڑ کر تمہاری تحریف کی طرف نہیں جا سکتا، اور تمہارا یہ مطلب بیان کرنا سراسر جھوٹ ہے، جو عبارت سے نہ اشارتاً نہ کنایتہً نکلتا ہی نہیں، باقی رہا تمہاری عقل مکان انبیا علیہم السلام کی، اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی اینٹ بنایا جاوے، تو یہ آپ ہتک ہے یہ بھی مرزائی عقل میں معانی پھیرنا ہتک نہیں اور یہ ہتک ہے، حالانکہ مکان میں ایک اینٹ کی کسر رہ جائے، جہاں نام کندہ ہوتا ہے، جب تک کہ وہ موسومہ کتبہ والی اینٹ نہ لگے، تمام مکان ہی ناقص رہتا ہے، اور اس میں آبادی ہی نہیں شمار کی جاتی، اور نہ ہی روشنی ہوتی ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ کتبہ والی لگی تو انبیا علیہم السلام کے انبیاء ہونے کی تصدیق ہوئی، جیسا کہ جب تک کتبہ نہ لگے، مالک مکان کی تصدیق ملکیت مشکل ہوتی ہے، شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب کتبہ لگ جائے تو بلا شہادت مالک مکان کی ملکیت اس کتبہ کے سبب ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کی نبوت دنیا کے سامنے دلائل کی محتاج رہی، آپ کے تشریف لانے پر ایک کتبہ والی اینٹ لگ گئی، اب دلائل کی احتیاج دور ہو گئی، جب مکان مکمل اور مصدقہ ہو چکا، اب اس مکان کی ایک اینٹ کا دخیل چور سمجھا جائیگا، اور گرفتار ہو کر لائق سزا ہوگا، اور یہاں زمین و آسمان کا

(۱۱) مسلم شریف ۲/۲۶۱

حدثنی حرملة بن یحییٰ قال انا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ...... انا العاقب الذی لیس بعده احد

فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عاقب ہوں۔ جسکے بعد کوئی نبی نہیں۔
ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہؤا، کہ عاقب اسی کو کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔
لہذا بخاری ومسلم کی ان تینوں حدیثوں سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقب ہونا ثابت ہؤا اور عاقب کلام مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تابعین اور تبع تابعین تک یہی ثابت ہؤا، کہ عاقب وہ ہے کہ جسکے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

لغت عاقب

مجمع بحار الانوار ۲/۲۴۴

وفی اسمائه صلی الله علیه وسلم العاقب وهو اٰخر الانبیاء۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ میں عاقب ہے اور عاقب تمام نبیوں کے آخری نبی کو کہتے ہیں۔

(۱۲) مسلم شریف ۲/۲۶۱

حدثنا اسحٰق بن ابراهیم الحنظلی قال انا جریر عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابی عبیدة عن ابی موسی الاشعری قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی۔
آپنے فرمایا میں تعریف کیا گیا ہوں اور بہت تعریف کرنیوالا ہوں اور آخیر آنے والا ہوں، قال النووی وهو بمعنی عاقب۔
"مرزائی"۔ علامہ ابن الانباری نے اس کے معنی متبع للنبیین کئے ہیں، پاکٹ بک صد ۵۱۴

marfat.com

کو ضائع کرنے کے قائل ہیں، لہٰذا اس حدیث مسلم شریف سے **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کا آخری ہونا ثابت ہوا، اور نبوت کو جاری **سمجھنے** والے منکر **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے، اس کے علاوہ **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی اور صحیح حدیث ملاحظہ ہو، جسکے رجال بھی صحیح و ثقہ ہیں،

(۹) بخاری شریف
ج ۲ / ۲۲ ۵

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول

اِنَّ لِیْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَنَا اَحْمَدُ وَ اَنَا الْمَاحِیْ الَّذِیْ یَمْحُو اللّٰہُ بِیَ الْکُفْرَ وَ اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِیْ یُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰی قَدَمِیَّ وَ اَنَا الْعَاقِبُ ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے کئی نام ہیں، میں تعریف شدہ ہوں، اور میں بہت تعریف کرنے والا ہوں، اور میں ایسا مٹانے والا ہوں، کہ میرے سبب کفر مٹیگا اور میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگ اکٹھے کئے جاوینگے اور میں پیچھے آنیوالا ہوں۔

اب اس حدیث بخاری شریف نے ثابت کر دیا، کہ **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یعنی سب نبیوں سے پیچھے آنیوالا ہوں،

"مرزائی"۔ عاقب کے معنی محض پیچھے آنیوالے کے ہیں، سب نبیوں کے پیچھے آنے والے تم نے کہاں سے لگالئے؟

"محمد عمر"۔ حدیث بخاری شریف سے **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقب ہونا، تو ثابت ہو گیا، اب اس کی شرح **مصطفےٰ** صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ان شاء اللہ کرونگا۔

(۱۰) مسلم شریف
ج ۲ / ۲۶۱

حدثنی عبد الملک بن شعیب بن اللیث قال حدثنی ابی عن جدی قال حدثنی عقیل قال وثنا عبد بن حمید قال انا شعیب کلہم عن الزہری بھذا الاسناد وفی حدیث معمر قال قلت الزہری وما العاقب قال الذی لَیْسَ بَعْدَہٗ نَبِیٌّ ۔

marfat.com

عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ، سے روایت ہے، کہا اس نے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالٰی عنہ، سے روایت کی ہے، کہا اُس نے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالٰی عنہ، سے سنا ہے فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ وحی سے ہر بات اخذ کرتے تھے، اور اس کے بعد بے شک وحی ضرور منقطع ہو چکی،

کیوں جناب مرزائی صاحب! ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بھی اسی پر تھا، کہ بعد از مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم وحی منقطع ہو گئی، تم مرزائیوں نے اجرائے نبوت کا مسئلہ کہاں سے نکال لیا، توبہ کرلو، وقت ہے، اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم سمجھو، اور یہی کافی ہے، مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان سُن لیجئے۔ آمنوا اولا تجنوا!

(۱۷) مستدرک ۴/۳۹۱

حدثنا عبد الواحد بن زیاد ثنا المختار بن فلفل عن انس رضی اللہ تعالٰی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبِیَّ۔

(۱۸) ترمذی شریف ۲/۵۱
کنز العمال ۸/۳۲

حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد نا المختار بن الفلفل نا انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبِیَّ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ، سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک رسالت اور نبوت ضرور بند ہو گئی ہے، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔

"مرزائی"۔ تمہاری پیش کردہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، لہٰذا حجت نہیں ہو سکتیں، پاکٹ بک صفحہ ۵۱۵

"محمد عمر"۔ بہت اچھا وکیل صاحب رواۃ کی تحقیق کتب اسماء رجال سے کر لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں، ہمیں تو منظور ہے، تم کو بات خواہ بُری ہی محسوس ہو، چنانچہ ترمذی شریف کی سند کے تمام راویوں کی تحقیق عرض کر دیتا ہوں، اس میں مستدرک کے راویوں کا ذکر بھی

marfat.com

"محمد عمر" - اخباری نووی سے معتبر نہیں ہے، علامہ نووی محدثین کا مسلمہ شارح ہے۔ اخباری محدث نہیں ہے، لہذا علامہ نووی کے مقابلہ میں غیر معتبر ہے۔

(۱۳) ترمذی شریف ۲/۱۰۷

حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی ناسفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اَنَا الْعَاقِبُ الَّذِیْ لَیْسَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ ھٰذا حدیث حسنٌ صحیحٌ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخیر آنیوالا ہوں، ایسا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱۴) استیعاب ۱/۲۱

قال الزبیر حدثنی عمی مصعب بن عبد اللہ قال حدثنی ابی عبد اللہ بن مصعب قال رویت عن ہشام بن عروۃ الصفیہ بنت عبد المطلب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد انا احمد اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِیْ خُتِمَ اللہُ بِیَ النُّبُوَّۃَ وَ اَنَا الْعَاقِبُ نَلَیْسَ بَعْدِی النَّبِیُّ وَ اَنَا المقفیٰ بعد الانبیاء کُلُّھُمْ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برگزیدہ ہوں، میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں، میں ختم کرنیوالا ہوں، میرے ساتھ نبوت ختم کی گئی، اور میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد کا پچھلا ہوں۔

(۱۵) کنز العمال ۶/۳۴

اِنَّ الرِّسَالَۃَ وَ النُّبُوَّۃَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبُوَّۃَ۔

بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہوگئی ہے۔

(صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا)

(۱۶) کنز العمال ۳/۱۴۷

عن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود قال سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ خَطَّابٍ یَقُوْلُ اِنَّ نَاسًا کَانُوْا یُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْیِ فِیْ عَھْدِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاِنَّ الْوَحْیَ قَدِ انْقَطَعَ۔

marfat.com

الطرابلسی فقال ثقۃ ۔ وقال ابن عبد البر یقال انہ لم یکن فی وقتہ انصح منہ ولا ابصر باللغۃ ...... وتفقہ للشافعی وکان نبیلا ثقۃ ماموناً۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہیں حسن بن محمد جن کو تم نے معاذاللہ ضعیف کہدیا، حالانکہ بڑے اماموں نے ثقہ تسلیم کرلیا ہے۔

"مرزائی" ۔ میزان الاعتدال میں اس کو ضعیف لکھا ہے۔

"محمد عمر" ۔ میزان الاعتدال صـ ۲۴۲ دیکھو، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی روایتیں مرفوع ہوتی ہیں، اور آگے لکھتا ہے، قَالَ الْخَطِیْبُ ذَکَرْتُہٗ لِلْبَرْقَانِیْ فَوَثَّقَہٗ۔

خطیب نے کہا ہے کہ میں نے برقانی سے اس کا ذکر کیا، تو اس نے اس کو ثقہ کہا ہے، اور تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے۔ کہ جس کی وجہ ضعیف نہ ہو، وہ ضعیف نہیں کہلا سکتا، ورنہ اس کی وجہ ضعف بیان کرو، اب عفان بن مسلم کے متعلق سنیئے۔

عفان بن مسلم بن عبداللہ الصفار

تہذیب التہذیب ۲۳۰/۷

عفان بن مسلم بن عبد اللہ الصفار ابو عثمان بصری۔

عفان بن مسلم کے اساتذۂ حدیث

روی عن داؤد بن ابی الفرات وعبد اللہ بن بکر المزنی وصخر بن جویریۃ وشعبۃ ووھیب بن خالد وھمام بن یحیی وسلیم بن حبان وابان العطار والاسود بن شیبان والحمادین وابی عوانۃ وعبد الوارث بن سعید وعبد الواحد بن زیاد وغیرھم۔

---

marfat.com

آجائے گا، ملاحظہ ہو۔

حسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی

تقریب التہذیب ۹۰	الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی ابو علی البغدادی صاحب الشافعی وقد شارکہ فی الطبقۃ الثانیۃ من شیوخہ

ثقۃ من العاشرۃ۔

تہذیب التہذیب ۲/۳۱۸ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی ابو علی البغدادی۔

حسن بن محمد کے اساتذۂ حدیث

روی عن ابن عیینہ[1] وابی معاویہ[2] وعبیدۃ بن حمید[3] و ابن ابی عدی[4] ومروان ابن معاویۃ[5] ووکیع[6] وعبد الوہاب الخفاف[7] ویزید بن ہارون[8] وعبد الوہاب الثقفی[9] وسعید بن سلیمان الواسطی[10] وابن علیہ[11] وشبابہ[12] والشافعی[13] و محمد بن عبد اللہ الانصاری[14] اور بہت سی جماعت سے بھی روایت لیتے ہیں۔

حسن بن محمد کے صفائی کے گواہ

وقال النسائی ثقۃ[1]۔ قال الشافعی[2] انت سید ہذہ القریۃ۔ وذکرہ ابن حبان[3] فی الثقات وقال کان راویا للشافعی وقال ابن المنادی[4] کان احد الثقات وکذا قال ابن مخلد[5] وقال ابن ابی حاتم[6] کتبت عنہ مع ابی وہو ثقۃ وسئل عن ابی فقال صدوق وقال ابو عمر الصدفی[7] فی سؤالات العقیلی عنہ فقال ثقۃ من الثقات المشہور لم یتکلم فیہ احد بشیء قال وسالت عنہ اباعلی صالح بن عبد اللہ[8]

marfat.com

عفان اثبت من حبان وقال الاجری قلت لابی داؤد بلغک عن عفان انه
انه یکتب وهب بن جریر فقال حدثنی عباس العنبری سمعت
علیا یقول ابو نعیم و عفان صدوقا...... وقال یعقوب بن شیبة سمعت یحیی
بن معین یقول اصحٰب الحدیث خمسة مالک وابن جریج والثوری و
شعبة وعفان وقال الدوری سمعت ابن معین یقول کان عفان اثبت من
زید بن الحباب..... قال خلف بن سالم ما رئیت احدا یحسن الحدیث
الا رجلین بهز و عفان...... وقال ابو حاتم ثقة امام متقن...... وقال
ابن عدی عفان اشهر واصدق واوثق من ان یقال فیه شیئ وقال
ابن سعد کان ثقة کثیر الحدیث ثبتا حجة وقال ابن خراش
ثقة من خیار المسلمین وقال ابن قانع ثقة مامون وذکرہ ابن حبان
فی الثقات۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ جس کو ایسے جلیل القدر ائمہ کرام ثقہ جانیں، اگر تم نہ جانو تو میلے میں چکی راہوں کو کون پوچھتا ہے،

"مرزائی"۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، پاکٹ بک ص ۵۱۵۔

"محمد عمر"۔ آئیے تمہیں میزان الاعتدال کی سیر کرا دیتے ہیں،

عفان بن مسلم الصفار الحافظ الثبت الذی یقول فیه یحیی القطان وما ادراک ما یحیی القطان اذا وافقنی عفان لا ابالی من خالفنی۔	میزان الاعتدال ۲ ۲۰۲

عفان کے متعلق علامہ ذہبی کا خیال

قلت عفان اجل واحفظ من سلیمان وهو نظیرہ وکلام النظراء
والاقران...... قلت هذا یدل علی ان عفان کان متثبتا مع بطاءة
سیر وهو من مشائخ الاسلام والائمة الاعلام قال فیه العجلی
ثبت صاحب سنة...... وقال ابو حاتم عفان ثقة متقن متین۔

marfat.com

عفان بن مسلم کے شاگرد حدیث

روی عنه البخاری [1] وروی هو والباقون عنه بواسطة اسحق بن منصور [2]
وابی قدامة سرخسی [3] ومحمد بن عبد الرحیم البزار [4] وحجاج [5]
بن الشاعر وابو خیثمه [6] والحسن بن علی الحلال [7] وابو بکر بن ابی شیبة [8]
وعبد الله الدارمی [9] وعمر [10] والناقد [11] والفضل بن سهل [12] وعمر [13]
بن علی ومحمد بن اسحق الصنعانی [14] وابو بکر بن ابی عتاب الایمن [15] و
محمد بن حاتم بن میمون [16] وابو موسی هارون الحمال [17] واحمد بن حنبل [18]
والحسن بن محمد زعفرانی [19] وعثمن بن ابی شیبة [20] ویزید بن خالد الرملی [21]
وعبد بن حمید [22] وبندار [23] وابراهیم الجوزجانی [24] واحمد بن [25]
سلیمان الرهاوی واسحق بن راهویه [26] واسحق بن یعقوب [البغدادی] [27]
والحسن بن اسحق المروزی [28] والحسین بن عیسی البسطامی [29] وابو داؤد الحرانی [30] و
عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسی [31] وعثمان خرزاد [32] وعمر بن [33]
منصور والفضل بن العباس الحلبی [34] وهلال بن العلاء [35] وعبد الرحمن [36]
بن عبد الله الجزری ومحمد بن یحیی الذهلی [37] وممن روی عنه
ایضا احمد بن صالح المصری [38] وعلی بن المدینی [39] وقتیبه بن سعید [40]
ومحمد بن عبد الله بن نمیر [41] ومحمد بن سعد [42] وابو کریب [43] و
ابراهیم بن دیزیل [44] وابو مسعود [45] وجعفر الطیالسی [46] وجعفر الصائغ [47]
والحسن بن سلام السواق [48] وحنبل بن اسحق [49] وابو زرعة [50] وابو حاتم [51]
وابو زرعة الدمشقی [52] وعلی بن عبد العزیز البغوی [53] والحارث بن [54]
ابی اسامة وابراهیم الحربی [55] واسحق بن الحسن الحربی [56] وآخرون۔

عفان بن مسلم کی صفائی کے گواہان

وقال العجلی [1] عفان بصری ثقة ثبت صاحب سنة وقال یحیی بن [2]
سعید کان عفان اضبط القوم للحدیث وقال الآجری [3] عن ابی داؤد

marfat.com

وراسحق بن سرابی اسرائیل واخرون اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں
جس راوی کے ایسے بڑے بڑے ائمہ حدیث شاگرد ہوں، تو مرزائی کی نظر اس کو ضعیف نہ دیکھے تو اور کون ضعیف کہے،

عبدالواحد کی صفائی کے گواہان

قال عثمان الدارمی ابوعوانہ وعبد الواحد ثقة وقال صالح بن احمد عن علی بن المدینی سمعت یحییٰ بن سعید یقول ما رئیت عبد الواحد بن زیاد یطلب حدیثا قط بالبصرۃ ولا بالکوفة ...... وقال ابوزرعه وابوحاتم ثقة وقال النسائی لیس به باس ..... قال ابوداؤد ثقة ..... وقال العجلی بصری ثقة حسن الحدیث وقال دارقطنی ثقة مامون وذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال ابن عبد البر اجمعوا لاخلاف بینهم ان عبد الواحد بن زیاد ثقة ثبت وقال ابن قطان الفاسی ثقة لم یعتل علیه تادح۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ جس شخص کے ایسے بڑے بڑے اساتذہ اور اتنے سرکردہ شاگرد ہوں اور جماعت محدثین کی زبردست جماعت جس کے صفائی کے گواہ ہوں، اس کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے۔

"مرزائی"۔ میزان الاعتدال میں یحییٰ بن سعید نے اس کو کہا ہے لیس بشئی۔ پاکٹ بک صہ ۵۱۵

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! آگے کیوں نہیں پڑھتے وقال احمد وغیرہ ثقة ...... وروی عثمان ایضا عن یحیی ثقة وقال لیس به باس۔

اب چوتھے راوی مختار بن فلفل کے متعلق ملاحظہ ہو۔

مختار بن فلفل

تہذیب التہذیب ۱۰/۶۸ المختار بن فلفل المخزومی مولی عمر بن حریث

کیوں جناب مرزائی صاحب! دیکھا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو اجل اور احفظ من سلیمان بیان کیا ہے اور اس کو مشائخ الاسلام اور ائمہ اعلام سے شمار کیا ہے،

"مرزائی" - علامہ ذہبی نے اس کو لکھا ہے کہ ابو خیثمہ نے کہا ہے کہ انکرنا عفان پاکٹ بک صـ ۵۱۵ -

"محمد عمر" - یہ مرزائیات سے ہے، آیئے اس کی اصل عبارت لکھ دیتا ہوں، قد قال ابو خیثمہ انکرنا عفان قبل موتہ بایام تلت ھذا التغیر ھو تغیر مرض الموت وما ضرہ لانہ ما حدث فیہ بخطأ -

کیوں جناب! ببینست مرزائیات شما آنچہ پوشیدہ می دارید -

اب تیسرے راوی عبدالواحد بن زیاد کے متعلق سن لیجئے :-

عبدالواحد بن زیاد کے اساتذہ

روی عن (۱) ابی اسحق الشیبانی و (۲) عاصم الاحول و (۳) الاعمش و (۴) ابی مالک الاشجعی و (۵) یزید ابن ابی بردۃ و (۶) ایوب بن عائذ و (۷) اسمعیل بن سمیع و (۸) الحسن بن عبید اللہ و (۹) حبیب بن ابی عمرۃ و (۱۰) الجریری و (۱۱) صالح بن صالح بن حی و (۱۲) طلحہ بن یحیٰ بن طلحہ و (۱۳) عبد اللہ بن عبد اللہ بن الاصم و (۱۴) ابی العمیس و (۱۵) عثمان بن حکیم الانصاری و (۱۶) عمارۃ بن القعقاع و (۱۷) عمر بن میمون ابن مہران و (۱۸) العلا بن المسیب و (۱۹) کلیب بن وائل و (۲۰) محمد بن ابی اسمٰعیل و ابی فروہ (۲۱) مسلم بن سالم الجہنی و (۲۲) یزید بن کیسان و معمر و (۲۳) جماعۃ اور بہت سی جماعت سے اس نے روایت کی ہے -

عبدالواحد کے شاگردان

وعنہ (۱) ابن مہدی و (۲) عفان و (۳) عارم و (۴) معلی ابن اسد و (۵) یونس بن محمد و (۶) موسیٰ بن اسماعیل و (۷) قیس بن حفص و (۸) حرمی بن حفص و (۹) ابو بکر بن ابی الاسود و (۱۰) یحییٰ بن یحییٰ النیساپوری و (۱۱) الحسن بن الربیع البورانی و (۱۲) ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری و (۱۳) قتیبہ بن سعید و (۱۴) ابن ابی شوارب و

marfat.com

التشریح لکھا ہے۔

محمد عمر۔ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کسی اُمتی کی زیادتی کو جو حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متضاد ہو قبول نہیں کر سکتے۔ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا جواب انشاء اللہ تعالیٰ اقوال بزرگان کے جواب میں مذکور ہوگا، ملاحظہ فرمالیں، یہاں حدیث واضحہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں فقیر کسی کے قول کو معتبر نہیں سمجھتا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور فلا رسول بعدی ولا نبی بھی ان دونوں حدیثوں کی رُو سے نبوت اور رسالت بعد از مصطفےٰ منقطع ثابت ہوئی،

(۱۹) مسند امام احمد حنبل ۳/۳۳۸

حدثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثنا شاذان اسود بن عامر ثنا شریک عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللہ قال لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَّخْلُفَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قَالَ لَہٗ عَلِیٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِیَّ اِذَا خَلَفْتَنِیْ قَالَ فَقَالَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ اَوْ لَا يَكُوْنُ بَعْدِیْ نَبِیٌّ۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ سے روایت ہے کہا اُس نے جب ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ پر چھوڑ جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے فرمایا، کہ لوگ میرے متعلق کیا کہینگے، جب آپ مجھے چھوڑ جاوینگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اے علی رضی اللہ تعالےٰ عنہ کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو میری طرف سے قائم مقام ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ہو جائے مگر شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یا نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی،

کیوں جناب؟ کتنی واضح دلیل ہے، جس نے تمہارے عقیدے اجرائے نبوّت کی جڑ کاٹ دی،

(۲۰) کنز العمال ۸/۳۳

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت گئی اور خوابیں رہ گئیں

مختار بن فلفل کے اساتذہ حدیث

روی عن انس وابراهیم التیمی وعمر بن عبد العزیز والحسن البصری وطلق بن حبیب ۔

مختار بن فلفل کے شاگردان حدیث

وعنه ابنه بکر[1] وزائدة[2] والثوری[3] ومنصور بن ابی الاسود[4] وعبد الله[5] بن ادریس وعبد الواحد[6] بن زیاد وجریر[7] وعلی بن مسهر[8] ومحمد[9] بن فضیل وآخرون، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔

مختار بن فلفل کی صفائی کے گواہان

قال عبد الله[1] ابن احمد سألت ابی عنه فقال ما اعلم الا خیرا وقال غیره عن احمد[2] ثقة وکذا قال ابن معین[3] وابو حاتم[4] والعجلی[5] ومحمد بن عبد الله بن عمار[6] والنسائی[7] وقال ابو حاتم ایضا شیخ کوفی ...... وقال ابو داؤد[8] لیس به باس وقال داؤد بن عمر[9] عن ابن ادریس کان یحدث وعیناه تدمعان ذکره[10] ابن حبان[11] فی الثقات وقال ابو بکر البزار[12] صالح الحدیث ..... قال یعقوب[13] بن سفیان ثقة[14]۔

مرزائی صاحب! جن رواۃ کو تم نے ضعیف لکھا ہے، ان کو فقیر نے کتب اسماء رجال سے ثقات ثابت کر دیا، اور یہ دونوں حدیثیں مسلمانوں کے لئے حجت ہیں، تو ثابت ہوا کہ دونوں حدیثیں پیش کردہ میں فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبِیَّ صحیح ہے، کہ رسالت اور نبوت ضرور بند ہو چکی اور بعد از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں اور نہ کوئی نبی ہے اور ختم نبوت کا منکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔

"مرزائی" - محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان النبوۃ التی انقطعت هی نبوۃ

marfat.com

(۲۴) بخاری شریف
۲/۱۰۳۵

حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا ذات یوم فقال یاصباحاہ فاجتمعت الیہ قریش قالوا مالک قال ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یصبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی قالوا بلی قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فقال ابولہب تبا لک الھذا جمعتنا فانزل اللہ تبت یدا ابی لہب وتب۔

ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، آپنے فرمایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پر چڑھے تو آپنے فرمایا، یَاصَبَاحَاہُ تو تمام قریش اکٹھے ہوگئے انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپنے فرمایا، تم بتاؤ، کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں، کہ دشمن تم پر صبح کو حملہ کر رہا ہے، یا شام کو، کیا تم میری تصدیق نہ کرو گے، تمام نے عرض کیا، ہاں، آپنے فرمایا، تو بے شک صرف میں ہی تمہارے لئے قیامت تک نذیر ہوں، تو ابولہب نے کہا تَبًّا لَکَ۔ کیا تو نے ہمیں اس لئے جمع کیا ہے، تو اللہ تعالٰی نے تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَھَبٍ وَّتَبَّ اس کے حق میں نازل فرمائی،

تو اس حدیث شریف سے ثابت ہوا، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تمام قریش کو اکٹھا کر کے قیامت تک اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، تو اس ختم نبوت کے اعلان کو سن کر ابولہب نے تبالک کہا، تو رب العزت نے تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَھَبٍ وَّتَبَّ سے جواب دیا، معلوم ہوا، کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، اس کے لیے خداوند تعالٰی کی طرف سے تب ابولہبی یعنی ہلاکت تیار ہے، کیونکہ قیامت تک مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اور قیامت کو بھی یہی نتیجہ ثابت ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۲۵) ترمذی شریف
۲/۶۶

میدان حشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسٰی علیہ السلام تک باری باری مجرمین شفاعت کے لئے حاضر ہونگے،

marfat.com

(۲۱) کنز العمال ۵/۳۴	ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِیْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت گئی تو میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔
(۲۲) کنز العمال ۸/۳۳	لَا یَبْقٰی بَعْدِیْ مِنَ النُّبُوَّةِ شَیْءٌ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْیَا الصَّالِحَةِ۔ سوائے اچھی خوابوں کے میرے بعد نبوت ذرہ بھر باقی نہیں رہی۔
(۲۳) دلائل النبوۃ ۱/ مشکوٰۃ ۵۱۳	حدثنا ابو عمر محمد بن احمد بن حمدان ثنا الحسن ابن سفیان ثنا حرملة بن یحیٰی قال ثنا عبد اللہ بن وھب حدثنی معاویہ بن صالح عن سعید بن سوید عن عبد الاعلی بن

ھلال السلمی عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنِّیْ عِنْدَ اللّٰهِ مَکْتُوْبٌ لَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِیْ طِیْنَتِهٖ۔

عرباض بن ساریہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، حالانکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھ رہے تھے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم از ابتدائے آفرینش تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے لکھے جا چکے ہیں۔ اور یوم میثاق بھی فیصلہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کرنے کا ہوا، جیسا کہ ماقبل ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم آیت قرآنیہ سے واضح ہو چکا، اور اب حدیث مذکورہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہوا، اور دنیا میں بھی آپ کی تشریف آوری کے بعد نبوت بند ہو چکی، جیسا کہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ سے واضح ہو چکا، اور تا قیامت تک اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ہے، اسی کا اعلان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

marfat.com

(۲۶) ترمذی شریف ۱/۱۸۸

حدثنا علی بن حجر ثنا اسمٰعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمٰن عن ابیہ عن ابی ھریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال .... اُرْسِلْتُ اِلَی الْخَلْقِ کَافَّۃً وَّخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّوْنَ ھٰذا حدیث حسن صحیح ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ...... میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے ساتھ تمام انبیا علیہم السلام ختم کئے گئے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے ۔

کیوں جناب وکیل صاحب! اس حدیث شریف میں بھی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واضح الفاظ ہیں، کہ میں تمام مخلوق کی طرف اکیلا ہی رسول ہوں، اور فرمایا، کہ تمام انبیاء علیہم السلام میرے ساتھ ختم کئے گئے ہیں۔

(۲۷) مشکوٰۃ شریف ۵۱۴

عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِیْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَلَا فَخْرَ (رواہ الدارمی)۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ، سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، اور فخر نہیں کرتا، اور میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، اور فخر نہیں کرتا۔

(۲۸) بیہقی شریف ۹/۵

اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد المقری ابنا الحسن بن محمد بن اسحٰق ثنا یوسف بن یعقوب ثنا ابو الربیع ثنا اسمٰعیل بن جعفر ثنا العلا بن عبد الرحمٰن عن ابیہ عن ابی ھریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ..... اُرْسِلْتُ اِلَی الْخَلْقِ کَافَّۃً وَّخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّوْنَ ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام خلق کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں اور میرے ساتھ تمام انبیاء ختم کئے گئے ہیں،

(۲۹) ابن ماجہ ۳۰۲

(۱) حدثنا ھناد بن السری وابو ھشام الرفاعی محمد بن یزید قال ثنا ابو بکر بن عیاش ثنا حصین عن ابی صالح

marfat.com

تو آخر حضرت عیسٰی علیہ السلام اِذْهَبُوْا اِلٰی مُحَمَّدٍ صلی اللّٰہ عَلَیْہِ وسلم فرما دینگے۔ فیاتون محمداً صلی اللّٰہ علیہ وسلم تو لوگ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونگے، فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ تو عرض کرینگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کرنیوالے یعنی دنیا میں آپ نے نبیوں کو ختم کردیا، اور آج ہم سرکردہ تمام سابقین انبیاء کے دروازوں سے خالی ہاتھ آئے ہیں، اب آپ آخری نبی ہیں، آخر آپ کے در دولت پر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کی بدولت رب العزت آپ کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والوں اور اس کا اقرار کرنے والوں کو نوراً غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ کا حکم جاری فرمادینگے، تو جو دنیا میں مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم نہیں سمجھتے، بلکہ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، اُن کی زبان سے قیامت تک کے دن بھی ختم نبوت کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے عذاب الٰہی میں گرفتار ہونگے، دنیا میں جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرکے خالی از ایمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور قیامت کو بھی اسی ختم نبوت کی انکار کی وجہ سے شفاعتِ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہینگے، اور اجرائے نبوت کے قائلین کو مرزا صاحب نہ سنبھال سکینگے اور اس طرف مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم اُسدن سربسجود ہو کر فرمادینگے، یَا رَبِّ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ تو آپ کی دعا شفاعت اپنی اُمت کے لئے ہوگی، اگر آپ کی اُمت میں کوئی نبی ہوتا، تو قیامت کے دن آپ فرماتے یَا رَبِّ اُمَّتِيْ وَ نَبِيِّيْ اے رب میری اُمت کو بخش اور میری اُمت کے نبی کو بھی، کیونکہ مرزائیوں کے نزدیک نبی بھی جرم کرسکتا ہے، تو اس کو بھی شفاعت کی ضرورت ہوئی، تو ایسا شخص جس نے آپ کی اُمت میں دعوائے نبوت کا کیا ہوگا، وہ یا رب اُمتی فرمان مصطفوی سے خارج ہوگا، اور شفاعت سے محروم رہیگا، جنکا نبی مارا مارا پھرتا ہوگا اُس کی اُمت کا کیا حال ہوگا، اب بھی وقت ہے۔

اے اُمت مرزائیہ! مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، ورنہ تمہیں کوئی پوچھنے والا دستگیر نہ ہوگا، اجرائے نبوت کا مسئلہ نکال کر مرزاجی کی اقتدا میں کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو، ؎:- باز آ و باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ۔

marfat.com

بھتیجے کو تکلیف درد ہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی، اور آپ نے وضو فرمایا، تو میں نے آپ کے وضو کا جھوٹا پانی پیا، تو میں آپ کی پشت مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا، تو میں نے دیکھا آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر تھی ۔ ثابت ہوا کہ یہ مہر خداوندی جو آپکو باقی انبیا علیہم السلام سے ممتاز عطا ہوئی ختم نبوت کی مہر تھی،

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیِ نبوت دجال ہے۔

(۳۱) (ا) بخاری شریف ۲/۱۰۵۴

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد عن عبد الرحمٰن عن ابی ھریرۃ ۔

(ب) بخاری شریف ۱/۵۰۹

حدثنا عبد اللہ بن محمد انا عبد الرزاق انا معمر عن ھمام عن ابی ھریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ......

لاتقومُ الساعۃُ حتّٰی یُبْعَثُ دَجَّالُوْنَ کَذَّابُوْنَ قریبًا من ثلثین کلھم یزعم انہ رسول اللہ ۔

(ج) مسلم شریف ۲/۳۹۷

حدثنی زھیر بن حرب واسحق بن منصور قال اسحق انا وقال زھیرنا عبد الرحمٰن ھو ابن مھدی عن مالک عن ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امثلہ ۔

(۳۲) (الف) ابوداؤد ۲/۲۳۳

حدثنا سلیمان بن حرب ومحمد بن عیسی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی اسماء عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(ب) ترمذی شریف ۲/۴۵

حدثنا قتیبۃ نا حماد بن زید عن ایوب

marfat.com

عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَۃ، کَھَاتَیْنِ وَجَمَعَ بَیْنَ اِصْبَعَیْہِ۔

(ب) - حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ وابی التیاح سمعا انسًا ان النبیّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَۃُ کَھَاتَیْنِ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ سے روایت ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا گیا ہوں میں اور قیامت (ان دو انگلیوں کی طرح) اور آپ نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا،

ثابت ہوا، کہ جیسا دو انگلیوں کے درمیان تیسری چیز کوئی دخیل نہیں، اور اگر کوئی چھانگلی زاید پھوٹ پڑے، تو اس کو اپریشن سے برابر کیا جاتا ہے، ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں،

دوسری روایت بھی یہی حضرت انس رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ سے روایت کی گئی ہے،

مُصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت ختم ہونے کا خدائی فیصلہ

(۳۰) بخاری شریف $\frac{۱}{۵۰۱}$ (الف)

حدثنا محمد بن عبد اللہ ثنا حاتم عن الجعید قال سمعت السائب بن یزید قال ذھبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یارسول اللہ اُنَّ ابن اُختِیْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِیْ وَدَعَالِیْ بِالْبَرْکَۃِ وَ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِہٖ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَھْرِہٖ فَنَظَرْتُ اِلٰی خَاتَمٍ بَیْنَ کَتِفَیْہِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَۃِ قَالَ ابْنُ عُبَیْدِ اللّٰہِ الْحَجَلَۃُ مِنْ حَجَلِ الْفَرَسِ الَّذِیْ بَیْنَ عَیْنَیْہِ۔

مسلم شریف $\frac{۲}{۲۵۹}$ (ب) ترمذی شریف $\frac{۲}{۲۰۵}$

حدثنا قتیبۃ بن سعید و محمد بن عباد قالا ثنا حاتم وھو ابن اسمعیل عن الجعد بن عبد الرحمٰن قَالَ سَمِعْتُ سَائِبَ بْنِ یَزِیْدَ مِثْلَہٗ۔

سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو خالہ نے عرض کیا کہ حضور میرے

marfat.com

کیوں جناب ؟ یہ ہیں ابوالزناد کے سولہ اساتذہ ، جن سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں ، اب بھی تم کہو کہ یہ ضعیف ہے ، تو تمہارا دماغ اور ایمان ضعیف ہے ۔

اَبُوالزِّنادکے شاگرد

تہذیب التہذیب ۵/۲۰۴

و عنہ ابناہ عبدالرحمٰن[۱] و ابو[۲] القاسم و صالح بن کیسان[۳] و ابن ابی[۴] ملیکہ و ھما اکبر منہ و الاعمش[۵] و عبیداللہ بن عمر[۶] و ابن عجلان و ھشام بن عروۃ[۷] و شعیب بن[۸] ابی حمزۃ و ابن اسحٰق[۹] و موسیٰ بن عقبہ[۱۰] و سعید ابن ابی ھلال[۱۱] و زائدۃ بن قدامہ[۱۲] و ثور بن یزید الدیلی[۱۳] و مالک[۱۴] و محمد بن عبداللہ ابن حسن بن حسن[۱۵] و ورقا بن عمرو[۱۶] و السفیانان[۱۷ تا ۱۸] وغیرھم ۔

کیوں جی مرزائی صاحب ؟ اٹھارہ جلیل القدر جس کے شاگردانِ حدیث ہوں تم ان کی روایت کو غیر مستند سمجھتے ہو ، تو تم سے خدا سمجھے ۔

اَبُوالزِّنادکے صفائی کے گواہان

تہذیب التہذیب ۵/۲۰۴

قال عبداللہ ابن احمد[۱] عن ابیہ ثقۃ و قال حرب[۲] عن احمد کان سفیان یسمیہ امیرالمومنین و قال ابن ابی مریم[۳] عن ابن معین ثقۃ حجۃ و قال ابن المدینی[۴] لم یکن بالمدینۃ بعد کبار التابعین اعلم منہ و من ابن شھاب و یحیی ابن سعید و بکیر بن الاشج و قال العجلی[۵] مدنی تابعی ثقۃ سمع من انس و قال ابوحاتم[۶] ثقۃ فقیۃ صالح الحدیث صاحب السنۃ و ھو ممن تقوم بہ الحجۃ اذا روی من الثقات و قال البخاری اصح اسانید ابی ھریرۃ ابوالزناد عن الاعرج عن ابی

marfat.com

عن ابی قلابة عن ابی اسماء عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم...... سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلٰثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وھذا حدیث حسن صحیح۔

"مرزائی" - بخاری کی حدیث قابل اسناد نہیں، کیونکہ اس میں ابو الیمان نے بطریق شعیب وابوالزناد نقل کیا ہے، ابو الزناد کے متعلق ربیعہ کا قول ہے۔ کہ لَیْسَ بِثِقَةٍ وَلَا رَضِیٌّ لہذا یہ روایت قابل اسناد نہ رہی، پاکٹ بک صفحہ ۵۰۴۔

"محمد عمر" - تم بیچارے مرزائی رجال احادیث کی قدر کیا جانو، آئیے تمہیں اس کی توثیق متقدمین نقاد رجال سے کرا دیں۔

ابُو الزّناد

تقریب التہذیب ۱۹۸

عبد اللہ بن ذکوان قرشی ابو عبد الرحمن المدنی المعروف بابی الزناد ثِقَةٌ فَقِیْہٌ۔

عبداللہ بن ذکوان القرشی کے اساتذہ جن سے یہ روایت کرتے ہیں

تہذیب التہذیب ۵/۲۰۳

روی عن انس [1] وعائشہ بنت سعد [2] وابی [3] امامة ابن سهل بن حنیف [4] وسعید بن المسیب وابی سلمة بن عبد الرحمن [5]

وابان بن عثمان [6] ابن عفان وخارجة بن زید بن ثابت [7] وعبید بن حنین [8]

وعروة [9] بن الزبیر . علی بن حسین [10] وعمر بن عثمان [11] والاعرج [12]

وعبید اللہ بن عبد اللہ [13] بن عتبة ومحمد بن حمزة [14] بن عمرو

الاسلمی وغیرهم وروی عن ابن عمر [15] وعمرو بن ابی سلمة [16] ابن

عبد الاسد۔

marfat.com

"مرزائی" - ترمذی شریف کی حدیث میں اس کے رواۃ سے ابو قلابہ راوی ہے وہ مدلس ہے، لہذا یہ حدیث قابل اعتبار نہ رہی، پاکٹ بک صفحہ ۵۰۴۔

"محمد عمر" - تم مرزائی بیچارے رُوات حدیث کو کیا سمجھو؟ آیئے فقیر وضاحت کرتا ہے،

میزانُ الاعتدال ۲/۳۹ — عبد اللہ بن زید ابو قلابہ الجرمی امام شہیر من علماء التابعین ثقۃ۔

تہذیب التہذیب ۵/۲۲۵ — الجرمی البصری احد الاعلام۔

ابو قلابہ کے اساتذہ

روی عن ثابت بن الضحاک الانصاری وسمرۃ بن جندب والی زید عمرو بن اخطب وعمرو بن سلمہ الجرمی ومالک بن حویرث وزینب بنت ام سلمہ وانس بن مالک الانصاری وانس بن مالک الکعبی،

ابو قلابہ کے تابعین سے اساتذہ

تہذیب التہذیب ۵/۲۲۵ — ابو المہلب الجرمی، وہو عمہ ومعاذۃ العدویہ وزہدم بن مضرب الجرمی وعبد اللہ بن یزید رضیع عائشۃ وعمر بن بجدان وابی اسماء الرحبی وابی الملیح ابن اسامۃ وغیرہم۔

ابو قلابہ کے شاگردان

تہذیب التہذیب ۵/۲۲۵ — وعنہ ایوب وخالد الحذاء

هريرة وقال الليث عن عبد ربه بن سعيد رئيت ابي الزناد،
دخل مسجد النبی صلی الله علیه وسلم ومعه من الاتباع مثل
مامع السلطان وقال ابو يوسف عن ابی حنيفه قدمت المدينة
فاتيت اباالزناد رأيت ربيعه فاذالناس على ربيعه والبوالزناد افقه
الرجلين نقلت له انت افقه وكذا قال ابن سعد كان ثقة و
كثيرالحديث نصيحا بصيرا بالعربية عالما عاقلا......
قلت وقال النسائی والعجلی والساجی والبوجعفر الطبری كان ثقة
وقال ابن حبان فی الثقات كان فقيها صاحب كتاب وقال ابن عدی
احاديثه مستقيمة كلها.

کیوں جناب! جس کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا جائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوالزناد کی حدیث، جب ابوزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ہو، تو تمام اسناد سے یہ سند اصح شمار ہوگی اور مسلم شریف کے صفحہ مذکور پر ایسے ہی ہے تو یہ حدیث اصح الاسانید ثابت ہوئی، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری سمجھنے والا منکر ختم نبوت حدیث اصح الاسانید عند البخاری کا منکر ہے، اور ابن عدی فرماویں کہ ابوالزناد کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، جس کا مرزائی منکر ہے، اس کے علاوہ ان اسانید میں ایسی سند بھی ہے، جو مرزائی کی جرح سے خالی ہے، لہٰذا بفرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والا منکر ختم نبوت اور دجّال ہے، کذاب اشر ہے۔

میزان الاعتدال ۲/۳۶

ابو الزناد الامام الثبت قال ابن معين وغيره ثقة
حجة...... قال كان سفيان يسمى اباالزناد امير المؤمنين
فی الحديث...... وقال البخاری اصح احاديث ابوهريرة

ابوالزناد عن الاعرج عنه (اور یہ حدیث بھی ابوالزناد عن الاعرج عن ابی ھریرہ ہے) قال يحيىٰ ثقة حجة۔

"مرزائی"۔ اس روایت کو ابو الیمان نے شعیب سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابوالیمان نے شعیب سے ایک روایت بھی نہیں لی، پاکٹ بک صفحہ ۵۰۔

"محمد عمر"۔ یہ مرزائیات سے ہے۔ فقط۔

marfat.com

عن ابی قلابۃ عن ابی اسماء عن ثوبان تو ابو قلابہ روایت اسماء سے کرتے ہیں، اور وہ اس کے زمانہ میں موجود تھے، فقیر نے ماقبل ابو قلابہ کے تابعین اساتذہ میں اس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب سے ثابت کیا ہے۔

جوان کے ... میں موجود ہے، کہ ابی اسماء الرحبی ابو قلابہ کے اساتذہ سے ہے تو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت بلا واسطہ ابو اسماء کے نہیں بیان فرمائی، بلکہ وہ فرماتے ہیں، کہ میں نے اپنے استاد ابو اسماء سے یہ روایت سنی ہے اور میرے استاد ابو اسماء نے ثوبان سے لی ہے۔

لہٰذا ثابت ہوا کہ اس روایت میں تو تدلیس نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وکیل صاحب کو راوی کی تدلیس کا علم ہی نہیں، اگر علم ہوتا تو اس حدیث میں ان کو مدلس نہ کہتے اور پھر ایسے بڑے امام فقیہ قاضی القضاۃ کی مرفوع روایت کو بلا تحقیق تدلیس کا بہتان لگا کر ٹھکرا دینا یہ شیوۂ مرزائیت ہی ہے، اور تہذیب التہذیب ۲/۱۳۱ پر ملاحظہ فرمالیں کہ لکھا ہے، وعنہ ابو اسماء الرحبی ثوبان سے روایت کرتے ہیں، صحیح ہے۔

"مرزائی"۔ اس ترمذی کی روایت میں ثوبان راوی ناقابل اعتبار ہے، پاکٹ بک صفحہ ۵۰۴۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! غلط کہہ رہے ہو، ثوبان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تمہارے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب کے اصحابی شرن پت، ملا وامل ثقات سے ہیں، ان کی روایت قابل حجت ہے۔ لیکن مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین صحابی جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہیں، وہ مرزائی کے نزدیک حجت نہیں بن سکتے ہیں۔

تہذیب التہذیب ۲/۱۳۱	ثوبان - ابو عبد الرحمٰن الہاشمی مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فاعتقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان کو فرمایا فَاَنْتَ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ تو ہمارے اہل بیت سے ہے، فثبت ولم یزل معہ فی سفرہ وحضرہ۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنہ ابو اسماء الرحبی۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! یہ ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی، آزاد شدہ

والورجاء سلمان مولی ابی قلابہ، یحییٰ بن ابی کثیر و اشعث بن عبدالرحمٰن الجرمی و عاصم الاحول، غیلان ابن جریر

ابو قلابہ کی صفائی کے گواہان

تھذیب التھذیب ۵/۲۲۵

ذکرہ ابن سعد فی الطبقۃ الثانیۃ من اھل البصرۃ وقال کان ثقۃ کثیر الحدیث وکان دیوانہ باالشام وقال مسلم ایضا وکان ابوقلابہ من العجم لکان مؤبذان یعنی قاضی القضاۃ وقال ابن سیرین ذاك اخی حقا وقال ابن عون ...... ابو قلابہ انشاء اللہ ثقۃ رجل صالح وقال ایوب کان واللہ من لفقھاء ذوی الالباب ماادرکت بھذا المصر رجلا کان اعلم باالقضاء من ابی قلابہ......

وقال العجلی بصری تابعی ثقۃ ...... وقال ابن خراش ثقۃ۔

کیوں جناب مرزائی صاحب! ایوب تو فرماتے ہیں کہ ذوی الالباب فقہا سے ہیں، ایسا آدمی لائق میں نے قضا میں دیکھا ہی نہیں، باقی رہا تمہارا کہنا کہ مدلس ہے۔ تو اس کا جواب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ص۲۲۶ پر دیا ہے۔ وَلَا یُعْرَفُ لَهٗ تَدْلِیْسٌ کہ اس کی تدلیس معلوم ہی نہیں،

ثابت ہؤا، کہ یہ ابوقلابہ روایت کو صحیح اور مرفوع ہی بیان کرتے ہیں، تدلیس ان کی ثابت نہیں،

لہذا یہ تمہارا کہنا کہ ابوقلابہ مدلس ہے اس کی تدلیس ثابت نہ ہونے کی وجہ سے روایت متنازعہ فیہا صحیح اور حجت ثابت ہوئی، اب فقیر تمہارے اس شک کو بھی رفع کر دیتا ہے، سنیئے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَان کہ ابوقلابہ نے ثوبان مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں اور ترمذی شریف کی اس روایت میں بھی ابوقلابہ کا یہ دعوٰی نہیں، کہ میں نے ثوبان سے سنا ہے، اگر یہ فرمادیتے، تو اس روایت کو تدلیس کی بناء پر تم حجت نہ پکڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اُن کے زمانہ میں ہی نہ تھے، اور جب انہوں نے یہ دعوٰی نہیں کیا، بلکہ روایت کی سند یوں بیان کی ہے کہ

marfat.com

گئی ہے۔ ابوبکر بن زنجویہ سمعت عبد الرزاق یقول الرافضی کافر۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ جو شخص رافضی کو کافر سمجھے، پھر وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے۔

تہذیب التہذیب ۶/۳۱۱

قال ابوزرعہ الدمشقی عبد الرزاق احد من ثبت حدیثہ..... قال عباس الدوری عن ابن معین کان عبد الرزاق اثبت فی حدیث معمر ...... وقال ابوحاتم یکتب حدیثہ و یحتج بہ وذکرہ ابن حبان فی الثقات... وقال الاحری..... عبد الرزاق ثقۃ۔

اب معمر کے متعلق سنیئے:۔

معمر بن راشد

میزان الاعتدال ۳/۱۸۸

معمر بن راشد ابوعروۃ احد الاعلام الثقات۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ معمر بن راشد مشہور ثقات سے ہیں، وقال عبد الرزاق کتبت عن معمر عشرۃ الاف اور معمر ثابت سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہوگی، اور یہ ثابت سے نہیں، لہذا ضعیف نہ ہوئی، صحیح ثابت ہوئی اور ابن حجر نے ہمام بن منبہ کو اس کے اساتذہ سے صحیح شمار کیا ہے، ملاحظہ ہو۔

اساتذہ حدیث معمر

تہذیب التہذیب ۱۰/۲۴۳

وروی عن ثابت البنانی وقتادہ والزہری وعاصم الاحول وایوب والجعد ابی عثمان وزید ابن اسلم وصالح بن کیسان وعبد اللہ

maktabah.org

غلام، جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروحضر میں رہے ہے، اور آپ سے روایات بھی کرتے ہیں، لیکن مرزائی کے نزدیک ایسے اصحابی بھی قابل حجت نہیں ہیں، مرزا جی کو خدا ہدایت دے، اور ابو اسماء الرحبی نے بھی اس سے روایتیں بیان کی ہیں، جو مہیشہ کرے۔

"مرزائی"۔ ترمذی شریف کے دوسرے طریقے میں عبدالرزاق بن ہمام اور معمر راشدی دو راوی ضعیف ہیں، اور دونوں شیعہ تھے، پاکٹ بک ص ۵۰۵۔

"محمد عمر"۔ بھئی مرزائی صاحب! خداوند کریم تم کو ہدایت دے، تاکہ تم مخلوقِ خدا کو دھوکہ دینے سے باز رہو، نفیر ان دونوں کے متعلق کتب اسماء رجال سے عرض کرتا ہے۔

عبدالرزاق ابن ہمام

میزان الاعتدال ۲/۱۲۶

عبد الرزاق بن همام ...... احد الاعلام الثقات .... صنف الجامع الكبير وهو خزانة العلم

...... قال ابو زرعة الدمشقي قلت لاحمد بن حنبل كان يحفظ حديث معمر قال نعم قيل له فمن اثبت في ابن جريج عبد الرزاق او البرساني قال عبد الرزاق ...... وقال البخاري ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو اصح۔

باقی رہا تمہارا کہنا کہ یہ شیعہ تھا، اس بات کو علامہ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے غلط ثابت کیا ہے، ملاحظہ ہو، آگے فرماتے ہیں،

میزان الاعتدال ۲/۲۲۷

قال ...... عبد الله بن احمد سألت ابي عبد الرزاق يفرط في التشيع قال اما انا فلم اسمع منه في هذا شيئاً۔

عبداللہ ابن احمد نے اپنے باپ احمد سے عبدالرزاق کے متعلق سوال کیا، کہ کیا وہ شیعیت میں بڑھا ہوا ہے، تو عبداللہ کے باپ احمد نے جواب دیا، کہ میں نے اس کی شیعیت کے متعلق کچھ نہیں سُنا،

کیوں جی مرزائی صاحب؟ بیٹا زیادہ معتبر ہے یا باپ؟ اور پھر اُن کی صفائی دی

"محمد عمر"۔ فقیر اس کے متعلق بھی تحقیق عرض کر دیتا ہے۔

سلیمان بن حرب

تقریب التہذیب ۱۵۶	سلیمان بن حرب الازدی الواشحی البصری القاضی بمکۃ ثقۃ امام حافظ۔
تہذیب التہذیب ۴/۱۷۸	سلیمان بن حرب ..... سکن مکہ وکان قاضیا

اساتذۂ احادیث سلیمان

روی عن شعبہ[1] ومحمد بن طلحہ بن مصرف[2] ووھیب بن[3] خالد وحوشب بن عقیل[4] والحمادین[5] ویزید بن ابراھیم[6] ویزید بن ابراھیم التستری[7] وجریر ابن حازم[8] وسلام[9] بن ابی مطیع وبسطام بن حریث[10] ومبارک بن نضلہ[11] وغیرھم۔

شاگردان حدیث سلیمان

وعنہ البخاری وابوداؤد وروی لہ الباقون بواسطۃ ابی بکر بن ابی شیبہ وابی داؤد وسلیمان بن معبد السنجی واحمد بن سعید الدارمی واسحٰق بن راھویہ والحسن بن علی الخلال وعلی بن نصر الجھضمی وعمرو بن علی الفلاس واحمد بن ابراھیم الدورقی وھارون بن عبد اللہ الحمال وابراھیم جوزجانی والجراح بن مخلد وحجاج الشاعر والحسین بن محمد البلخی والدارمی وعبدہ وعمر بن منصور النسائی و یعقوب بن السفیان ویحیٰی بن موسیٰ خت ومحمد بن یحییٰ

marfat.com

الحدانی واسماعیل ابن اُمیہ وثمامہ بن عبد اللہ بن انس و بهز بن حکیم وسماک ابن الفضل وعبد اللہ بن عثمان بن خثیم وعبد اللہ بن عمر العمری ویحیی بن ابی کثیر وھمام ابن منبہ و ہشام بن عروہ ومحمد بن المنکدر وعمرو بن دینار وعطاء الخراسانی وعبد الکریم الجزری وآخرین۔

معمر کے شاگردان احادیث

یحیی بن کثیر وابو اسحٰق السبیعی وایوب وعمرو بن دینار وھم من شیوخہ وسعید بن ابی عروبہ وابان العطار وابن جریج وعمران القطان وهشام الدستوائی وسلام بن ابی مطیع وشعبہ والثوری وھم من اقرانہ وابن عیینہ وابن مبارک وعبد الاعلی بن عبد الاعلی وعیسی بن یونس ومعتمر بن سلیمان و یزید بن زریع وعبد المجید بن ابی رواد وعبد الواحد بن زیاد وابن علیہ وابو سفیان معمری ومحمد بن جعفر غندر وعبد الرزاق وهشام بن یوسف ومحمد بن ثور وعبد اللہ بن معاذ ومحمد بن کثیر الصنعانیون وآخرون۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ معمر جن کا شیخ حدیث ہے اگر اس کو شیعہ کہو گے تو یہ تمام جماعتِ ائمہ کو شیعہ کہنا پڑے گا، اور ان کو شیعہ کہنے والا الاخود مرزائی!

معمر کے صفائی کے گواہان

قال یعقوب بن شیبہ معمر ثقہ وصالح ثبت عن الزہری و قال النسائی ثقہ مامون وذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال کان فقیہاً حافظاً متقناً ورعا۔

"مرزائی"۔ ابو داؤد کی روایت میں بھی ابو قلابہ اور ثوبان ہیں، ان کے متعلق تو تسلی ہو گئی، باقی اس میں دو راوی سلیمان بن حرب اور محمد بن عیسیٰ ضعیف ہیں، پاکٹ بک ۵۰۵،

marfat.com

محمد بن عیسیٰ

اساتذہ محمد بن عیسیٰ بغدادی

تہذیب التہذیب
۹
۳۹۲

روی عن مالک[۱] وحماد بن زید[۲] وابن ابی ذئب[۳] وعبد الوارث بن سعید[۴] وعبد السلام بن حرب[۵] وعبد اللہ بن جعفر المخرمی[۶] وعتاب بن بشیر[۷] وعبد الرحمٰن بن ابی الموال[۸] وعتبہ بن عبد الواحد[۹] وابی عوانہ[۱۰] وھیشم[۱۱] ومعتمر بن سلیمان[۱۲] ویزید بن زریع[۱۳] وابی غسان محمد بن مطرف[۱۴] وملازم بن عمر[۱۵] ومروان بن معاویہ[۱۶] ویوسف بن یعقوب الماجشون[۱۷] وحبان بن ابراھیم الکرمانی[۱۸] واسمٰعیل بن عیاش[۱۹] واسمٰعیل بن علیۃ[۲۰] وابن المبارک[۲۱] وعبد المومن بن عبد السدوسی[۲۲] وعباد بن عباد[۲۳] وعباد بن العوام[۲۴] وغیرھم۔

محمد بن عیسیٰ کے شاگردان حدیث

روی عنہ البخاری تعلیقا وابو داؤد وروی الترمذی فی الشمائل والنسائی وابن ماجہ لہٗ بواسطۃ عبد اللہ بن عبد الرحمٰن الدارمی ومحمد بن یحیی الذھلی وسھل بن صالح الانطاکی وابی الازھر احمد بن الازھر وابراھیم بن یعقوب الجوزجانی ومحمد بن عبد الرحمٰن بن الاشعث ومحمد بن ھامر الانطاکی وعمر بن منصور النسائی وابوحاتم والحسن بن علی الخلال وموسیٰ بن سعید الدندانی وموسیٰ بن سھل الرملی وعبد الکریم بن الھیشم الدیرعاقولی وطالب بن قرۃ الاذنی

marfat.com

الذھلی وحدث عنہ یحیی القطان وعثمان بن ابی شیبہ و احمد بن محمد بن حنبل والبوزرعۃ وابوحاتم والقاضی اسمٰعیل بن اسحٰق بن اسماعیل بن حماد بن زید واخوہ حماد بن اسحٰق وابن عمۃ القاضی یوسف بن یعقوب بن اسمٰعیل ومحمد بن ایوب بن الضریس والحارث بن ابی اسامہ وابومسلم الکجی وجماعۃ اخرھم۔

سلیمان بن حرب کی صفائی کے گواہان

قال ابوحاتم امام من الائمۃ کان لایدلس ویتکلم فی الرجال وفی الفقہ ...... وقد ظھر من حدیثہ نحو من عشرۃ الاف حدیث ومارأیت فی یدہٖ کتابا۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سلیمان بن حرب کے متعلق

وَقُلْتُ ھُوَ ثِقَۃٌ حَافِظٌ لِلْحَدِیْثِ عَاقِلٌ فِیْ نِھَایَۃِ السِّتْرِ وَالصِّیَانَۃِ۔

وَقَالَ یَعْقُوْب بن شیبہ حدثنا سلیمان بن حرب وکان ثقۃ ثبتا صاحب حفظ وقال النسائی ثقۃ مامون وقال ابن خراش کان ثقۃ کثیر الحدیث ...... وذکرہٗ ابن حبان فی الثقات وقال ابن قانع ثقۃ مامون وقال صاحب الزھری روی عنہ البخاری مائۃ وسبعۃ عشرین حدیثا۔

اب محمد بن عیسٰی بغدادی کے متعلق سنیئے۔

marfat.com

حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونیکے ارشادات مصطفیٰ		مرزائی
(۱) بخاری شریف ۱/۴۹۱	تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ۔	غلط ہوگا۔
(۲) بخاری شریف ۱/۵۰۱	اَنَا اللَّبِنَةُ اَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ۔	جھوٹ ہوگا۔
(۳) مسلم شریف ۱/۲۴۶	نَاِنِّيْ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ	ابھی تسلی نہیں ہوئی۔
(۴) بخاری شریف ۲/۷۴۷	وَاَنَا الْعَاقِبُ	تم نے معنی غلط کئے ہونگے،
(۵) ترمذی شریف ۲/۵۱ مستدرک ۴/۳۹۱	اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ۔	شاید جھوٹ ہے۔
(۶) کنز العمال ۸/۳۴	ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ	ابھی نبوت جاری ہے،

marfat.com

وابنه جعفر بن محمد بن عيسىٰ وابن اخيه محمد بن يوسف بن عيسىٰ بن الطباع واحمد بن خليد الحلبي واحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الطوطي واخرون۔

محمد بن عیسیٰ کی صفائی کے گواہان

تهذيب التهذيب ۹ / ۳۹۵

وقال ابو داؤد محمد بن عيسىٰ كان يتفقه وكان يحفظ نحوا من اربعين الف حديث۔

وقال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات۔

باقی رہا ابو داؤد کا کہنا رُبَّمَا يُدَلِّسُ تو بسا اوقات روایت میں تدلیس کرتے ہیں، تو تم اس روایت پر تب اعتراض کر سکتے ہو، جب ثابت کرو کہ اس روایت میں محمد بن عیسیٰ حماد بن زید سے جو یہاں اس کے استاد سند میں مذکور ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، جب ان کے اساتذہ سے ۲ میں حماد بن زید مذکور ہیں، جس سے وہ اس روایت کو ذکر فرما رہے ہیں، تو اس روایت میں تمہارا تدلیس کا ذکر کرنا علم حدیث و اصولہ و رجال حدیث سے بے خبری کا اظہار کرنا ہے۔

رواۃ کی تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یہ روایت باسناد مذکورہ بالا صحیح ہے اور بفرمان نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مدعی دجال ہے، کذاب ہے۔

"مرزائی"۔ کمال الاکمال میں لکھا ہے، کہ تیس دجال آچکے ہیں، جو تاریخ سے ثابت ہے۔ لہٰذا اب مرزا صاحب کو ان کے نبوت کے دعویٰ پر دجال کذاب کہنا غلط ہے۔ پاکٹ بک ص ۵۰۶۔

"محمد عمر"۔ حدیث صحیح کے مقابلہ میں کسی تاریخ یا کسی عالم کی کلام کو ہم معتبر نہیں سمجھتے، لہٰذا تمہارا یہ کہنا بالکل فضول ہے، اور لغو و بے ہودہ ہے۔

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کے متعلق کئی الفاظوں اور اصطلاحوں میں بیان فرمایا، لیکن مرزائی کی سمجھ اس سے قاصر رہی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو غلط سمجھ رہا ہے۔

marfat.com

تمام مُحدّثین کا بھی یہی عقیدہ تھا

کہ

مُصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت ختم ہے

امام مسلمؒ کا عقیدہ

(۱) مسلم شریف ۲/۲۴۸ پر باب مقرر فرما دیا، ذِکرُ کَونِہٖ صلی اللہ علیہ وسلم خَاتِمُ النَّبِیِّینَ اور اس کے ماتحت حدیثیں فرمانِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرمائیں، کہ آپ نے فرمایا جِئتُ فَخَتَمتُ الاَنبِیَاءَ، میں آیا اور تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کر دیا، اب کسی کی نبوت نہیں چل سکتی، اور لَیسَ بَعدَہٗ نَبِیٌّ عَاقِبٌ کے معنی ثابت کر دیے۔

امام بخاریؒ کا عقیدہ

(۲) بخاری شریف ۲/۱۰۵۳، ۱/۵۰۹ میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مدعی کو دجال اور کذاب احادیث صحیحہ سے ثابت فرمایا ہے اور باب خاتم النبیین مقرر فرمایا۔

marfat.com

(۷) کنز العمال ۳۴	فَلَا یَبْقٰی بَعْدِیْ مِنَ النُّبُوَّۃِ شَیْئٌ	مجھے یقین نہیں، کیونکہ مرزا صاحب کی نبوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔
(۸) دلائل النبوۃ ۱/۹ و مشکوٰۃ ۵/۱۳	اِنِّیْ عِنْدَ اللّٰہِ مَکْتُوْبٌ لَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ	اس میں تاویل کی گنجائش ہو سکتی ہے
(۹) ۔ ابوداؤد ۲/۲۳۴	اَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ	مرزا صاحب کے کلام کو فوقیت ہے
(۱۰)	اَنَا الْمُقَفّٰی بَعْدَ الْاَنْبِیَاءِ	ہمارے لئے حجت نہیں،

تِلْکَ عَشَرَۃٌ کَامِلَۃٌ

مُصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات شریف پر نبوت ختم ہونے کا مسئلہ مختلف اصلاحات استعمال فرما کر مومنین کو سمجھا دیا، لیکن مرزائی نے آپ کے ہر ایک جملہ کو جھٹلایا اور یقین و ایمان نہ لایا، اچھا قیامت کے دن پچھتائیگا اور نفیر بفضلہ تعالےٰ راستہ ہدایت دکھانے کا درگاہ رب العالمین سے اُس کے محبوب رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین کے طفیل اجرِ عظیم پاوے گا۔

وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیْنَ۔

---

marfat.com

ابو نعیمؒ کا عقیدہ

(۷) - ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوۃ میں ص۱/۹ پر حدیث نقل فرمائی ہے، جس سے ثابت کیا ہے کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے قبل ہی خاتم النبیین مقرر ہو چکے تھے۔

ابن عبد البر کا عقیدہ

(۸) - ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب کے ص۱/۱۳ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے دلائل از روئے احادیث صحیحہ اَنَا الْخَاتِمُ الَّذِیْ خَتَمَ بِیَ النُّبُوَّۃَ وَ اَنَا الْعَاقِبُ فَلَیْسَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ وَ اَنَا الْمُقَفّٰی بَعْدَ الْاَنْبِیَآءِ بیان فرمائے اور اجرائے نبوت کے متعلق کوئی اشارہ تک نہیں فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے، کہ ابن عبد البرؒ کا مذہب بھی ختم نبوت پر ہی تھا۔

ابن حجر فتح الباری شارح بخاری کا عقیدہ

(۹) - فتح الباری ۱۲/۳۱۴ — وَاِنَّ اللّٰہَ خَتَمَ بِہِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اَکْمَلَ بِہٖ شَرَائِعَ الدِّیْنَ۔

اور بے شک اللہ تعالٰے نے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رسولوں کو ختم کر دیا اور آپ کے ساتھ ہی دین کو مکمل کر دیا۔

معلوم ہوا، کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ختم نبوت پر ہی تھا،

marfat.com

ابو داؤد کا عقیدہ

(۳) ۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صہ ۲/۲۲۲ پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مدعی کو دجال اور کذاب ثابت کیا ہے۔

امام ترمذیؒ کا عقیدہ

(۴) ۔ امام ترمذیؒ نے ترمذی شریف میں صہ ۲/۵۱ پر باب ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مقرر فرما کر اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَا نَبِیَّ کی حدیث نقل فرما کر اجرائے نبوت کا رد کیا، جس سے ثابت ہوا، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی تھا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صہ ۲/۴۵ پر بھی از روئے احادیث صحیحہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو دجال اور کذاب ثابت کیا ہے۔

امام بیہقیؒ کا عقیدہ

(۵) ۔ امام بیہقیؒ نے بھی صہ ۹/۱۸۱ پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مدعی کو دجال اور کذاب ثابت کیا ہے۔

شیخ علاؤ الدینؒ کا عقیدہ

(۶) ۔ صاحب کنز العمال شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ کی حدیثیں نقل فرمائیں اور اجرائے نبوت کی ایک حدیث یا قول بیان نہیں فرمایا، جس سے ثابت ہوا، کہ انکا عقیدہ بھی ختم نبوت پر [illegible]

marfat.com

سے یہی ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،

علامہ زرقانیؒ کا بھی ختم نبوت پر عقیدہ تھا

(۱۲)۔ زرقانی ۵/۲۶۷

(ومنھا انہ خاتم الانبیاء والمرسلین) کما قال تعالیٰ و لکن رسول اللہ وخاتم النبیین (ای اٰخرھم الذی ختمھم اوختموا بہ علی قراءۃ عاصم بالفتح وروی احمد والترمذی والحاکم باسناد صحیح عن انس مرفوعا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولانبی قیل من لانبی بعدہ یکون اشفق علی امتہ وھو کوالد لولد لیس لہ غیرہ ولا یقدح نزول عیسیٰ علیہ السلام بعدہ لانہ یکون علی دینہ مع ان المراد انہ اٰخر من نبئ۔

ترجمہ پہلے گذر چکا ہے، صرف ایک جملہ علامہ زرقانی نے فرمایا ہے، جو قابل غور ہے، وھو کوالد لولد لیس لہ غیرہ کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح ہیں اپنے بیٹے کے لئے، جیسا کہ بیٹے کے لئے باپ ایک ہے، ایسے ہی آپ اب ایک ہی نبی ہیں، کیونکہ پہلے نبوت جاری تھی، اب ختم ہو چکی۔

تمام مفسرین اسلام کا عقیدہ ختم نبوۃ پر تھا

(۱)۔ تفسیر ابن جریر ۲۲/۱۱

ولکنہ رسول اللہ وخاتم النبیین الذی ختم النبوۃ وطبع علیھا فلا تفتح لاحد بعدہ الیٰ قیام الساعۃ۔

اور لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں۔

maktabah.org

امام قسطلانی رح شارح بخاری کا عقیدہ

(۱۰) قسطلانی ۶/۲۱

(اَنَا الْعَاقِبُ) لِاَنَّہٗ جَاءَ عَقْبَ الْاَنْبِیَاءِ فَلَیْسَ بَعْدَہٗ نَبِیٌّ۔

علامہ قسطلانی رح فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرماتے ہوئے اَنَا الْعَاقِبُ کی تشریح فرماتے ہیں، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب اس لئے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے پیچھے تشریف لائے ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور علامہ قسطلانی دوسرے مقام پر بیان فرماتے ہیں،

(۱۱) قسطلانی ۶/۲۱

(بَابُ خَاتِمِ النَّبِیّٖن) اَیْ اٰخِرُھُمُ الَّذِیْ خَتَمَھُمْ اَوْ خُتِمُوْا بِہٖ وَقِیْلَ مَنْ لَّا نَبِیَّ بَعْدَہٗ .... وَلَا یَقْدَحُ فِیْہِ نُزُوْلُ عیسی علیہ السلام بَعْدَہٗ لِاَنَّہٗ اِذَا نَزَلَ یَکُوْنُ عَلٰی دِیْنِہٖ مَعَ اَنَّ الْمُرَادَ اَنَّہٗ اٰخِرُ مَنْ نُبِّیَ۔

امام قسطلانی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ باب خاتم النبیین کے تحت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی تمام انبیا علیہم السلام کا آخری نبی جس نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کردیا ہے۔ یا تمام انبیاء علیہم السلام مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اور بعض نے خاتم النبیین معنی بیان کئے ہیں وہ شخص جس کے بعد نبی نہ ہو، (ثابت ہوا کہ جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اُس کو آپ کے بعد نبوت کو ختم تسلیم کرنا پڑے گا اور جو آپ پر نبوت کو ختم نہیں سمجھتا اور اجرائے نبوت کا قائل ہے وہ خاتم النبیین کا منکر ہے اور پھر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا مخالف نہیں کیونکہ جب اُتریں گے تو آپ کے دین پر ہی تشریف فرما ہونگے، اپنی نبوت کے مبلغ نہ ہونگے) باوجودیکہ مراد خاتم النبیین

marfat.com

اٰخِرُھُمْ یَعْنِیْ لَا یُنَبَّأُ اَحَدٌ بَعْدَہٗ وَعِیْسٰی مِمَّنْ نُبِّیَٔ قَبْلَہٗ وَحِیْنَ یَنْزِلُ یَنْزِلُ عَامِلًا شَرِیْعَۃَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَاَنَّہٗ بَعْضُ اُمَّتِہٖ

(اور خاتم النبیین) تاء کی فتح کے ساتھ عاصم کی قراءت ہے، یعنی مہر لگانیوالے کے یعنی سب کے آخیر یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اور عیسیٰ اس شخص سے ہے جو آپ کے پہلے نبی ہو چکے۔ اور جب اتریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عامل ہونگے، گویا کہ وہ آپ کے امتی ہیں۔

(۵) تفسیر خازن ۵/۲۱۸

(وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ) خَتَمَ اللّٰہُ بِہِ النُّبُوَّۃَ فَلَا نُبُوَّۃَ بَعْدَہٗ اَیْ وَلَا مَعَہٗ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ یُرِیْدُ لَوْ لَمْ اَخْتِمْ بِہِ النَّبِیّٖنَ لَجَعَلْتُ لَہٗ ابْنًا وَیَکُوْنُ بَعْدَہٗ نَبِیًّا وَعَنْہُ اِنَّ اللّٰہَ لَمَّا حَکَمَ اَنْ لَّا نَبِیَّ بَعْدَہٗ لَمْ یُعْطِہٖ وَلَدًا ذَکَرًا یَصِیْرُ رَجُلًا (وَکَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا) اَیْ دَخَلَ فِیْ عِلْمِہٖ اَنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ۔

(وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ) اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کو ختم کیا، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، کہ اگر میں آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم نہ کرتا تو آپ کے لئے بیٹا بناتا، اور آپ کے بعد نبی ہوتا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے روایت ہے، آپنے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جب حکم کیا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، (اس لئے) آپ کو لڑکا مذکر عطا نہیں فرمایا، جو آدمی بالغ ہوتا (اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے) یعنی اللہ کے علم میں (یہ بھی) داخل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے بعد تمام حدیثیں ختم نبوت کی بیان فرمائیں، جس سے ثابت ہوا، کہ ان کا عقیدہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہی تھا،

(۶) تفسیر کشاف ۳/۲۳۹

(وَ) کَانَ (خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ) یَعْنِیْ اَنَّہٗ لَوْ کَانَ لَہٗ وَلَدٌ بَالِغٌ مَبْلَغَ الرِّجَالِ لَکَانَ نَبِیًّا وَلَمْ یَکُنْ ھُوَ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ کَمَا یُرْوٰی اَنَّہٗ قَالَ فِیْ اِبْرَاھِیْمَ حِیْنَ تُوُفِّیَ لَوْ عَاشَ لَکَانَ نَبِیًّا۔ ...... (فَاِنْ قُلْتَ) کَیْفَ کَانَ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ وَعِیْسٰی یَنْزِلُ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قُلْتُ مَعْنٰی کَوْنِہٖ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ اَنَّہٗ لَا یُنَبَّأُ اَحَدٌ بَعْدَہٗ وَعِیْسٰی

marfat.com

کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، اور تمام پر آپ نے مہر لگا دی، پھر کسی کے لئے قیامت تک نہیں کھل سکتی۔

(۲) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱۱ حدثنا بشر قال ثنا یزید قال ثنا سعید عن قتادة .... وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ اَیْ اٰخِرُهُمْ۔

اور لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، یعنی تمام کے آخر میں

تفسیر ابن جریر ۲۲/۱۱ تَقْرَءُ ذٰلِكَ قُرَّاءُ الْاَمْصَارِ سِوَى الْحَسَنِ وَعَاصِمٍ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ خَتَمَ النَّبِيّٖنَ۔

اور تاء کے کسرہ کے ساتھ ہے، سوائے حسن و عاصم کے تمام شہروں کے قراء نے اس کو خَاتِمَ النَّبِيّٖنَ پڑھا ہے، کہ آپ تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں،

(۳) تفسیر کبیر ۶/۷۸۶ (وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ النَّبِيَّ الَّذِیْ یَكُوْنُ بَعْدَهٗ نَبِیٌّ اِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ النَّصِيْحَةِ وَ الْبَيَانِ يَسْتَدْرِكُهٗ مَنْ يَّاْتِیْ بَعْدَهٗ وَاَمَّا مَنْ لَّا نَبِیَّ بَعْدَهٗ یَكُوْنُ اَشْفَقَ عَلٰى اُمَّتِهٖ وَاَهْدٰى لَهُمْ وَاَجْدٰى اِذْ هُوَ كَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الَّذِیْ لَيْسَ لَهٗ غَيْرُهٗ مِنْ اَحَدٍ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا يَعْنِیْ عِلْمُهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ دَخَلَ فِيْهِ اَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ۔

(اور آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں) اور یہ اس لئے کہ ایسا نبی جس کے بعد اور کوئی نبی ہو اگر (پہلا نبی) نصیحت اور بیان سے کچھ چھوڑ جائے تو اس کے بعد کا نبی اس کو لے لیتا ہے اور لیکن ایسا شخص جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو تو ایسا نبی اپنی اُمت پر زیادہ مہربان ہوتا ہے اور ان کے لیے زیادہ ہادی ہوتا ہے، اور زیادہ سخی ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ ایسے والد کی مانند ہے جس کا بیٹا اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، اور اللہ کا فرمان (اللہ تعالےٰ ہر شے کو جاننے والا ہے) یعنی اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اس میں (یہ بھی) داخل ہو گیا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں،

(۴) تفسیر مدارک ۳/۲۳۷ (وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) بِفَتْحِ التَّاءِ عَاصِمٌ بِمَعْنٰى طَابِعٍ اَیْ

شَیْءٍ عَلِیْمًا مِنْہُ بِاَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ۔

(۱۰) تفسیر ابن کثیر ۷۹۳ھ

(وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ) فَھٰذِہِ الْاٰیَۃُ نَصٌّ فِیْ اَنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ وَاِذَا کَانَ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ فَلَا رَسُوْلَ بِالطَّرِیْقِ الْاَوْلٰی

تو یہ آیت نص ہے اس امر میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو رسول بطریق اولے نہ ہو سکیگا۔

پھر آگے علامہ ابن کثیر ۷۹۳ھ میں رقم طراز ہیں:-

وَقَدْ اَخْبَرَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی فِیْ کِتَابِہٖ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی السُّنَّۃِ الْمُتَوَاتِرَۃِ عَنْہُ اَنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ لِیَعْلَمُوْا اَنَّ کُلَّ مَنِ ادَّعٰی ھٰذَا الْمَقَامَ بَعْدَہٗ فَھُوَ کَذَّابٌ اَفَّاکٌ دَجَّالٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَلَوْ تَحَرَّقَ وَشَعْبَذَ وَاَتٰی بِاَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّیْرَنْجِیَاتِ فَکُلُّھَا مُحَالٌ وَضَلَالٌ عِنْدَ اُولِی الْاَلْبَابِ کَمَا اَجْرَی اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَلٰی یَدِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِیِّ بِالْیَمَنِ وَمُسَیْلَمَۃَ الْکَذَّابِ بِالْیَمَامَۃِ مِنَ الْاَحْوَالِ الْفَاسِدَۃِ وَالْاَقْوَالِ الْبَارِدَۃِ مَا عَلِمَ کُلُّ ذِیْ لُبٍّ وَفَھْمٍ وَحِجًی اَنَّھُمَا کَاذِبَانِ ضَالَّانِ لَعَنَھُمَا اللّٰہُ وَکَذٰلِکَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ حَتّٰی یَخْتَمُوْا بِالْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ۔

اور ضرور خبر دی اللہ تعالے نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے احادیث متواترہ میں جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو اس مقام (نبوت) کا آپ کے بعد دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، بڑا بہتانی ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کن ہے، خواہ آگ جلاکر دکھائے اور شعبدہ بازی کرے اور مختلف اقسام کے جادو طلاسم اور نیرنجیات دکھائے، پس یہ تمام مشکلات ...... گمراہی ہے، عقلمندوں کے نزدیک، جیسا کہ اللہ تعالے نے اسود عنسی کے ہاتھوں یمن میں ظاہر فرمائے اور یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں احوال ناسدہ، اقوال باردہ جاری فرمائے، جو ہر ایک عقل و فہم والا معلوم نہیں کر سکتا، اور میرے نزدیک دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں،

marfat.com

مِمَّنْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ وَحِيْنَ يَنْزِلُ كَانَ عَلٰى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ مُصَلِّيًا اِلٰى قِبْلَتِهٖ كَاَنَّهُ بَعْضُ اُمَّتِهٖ۔

یعنی آپ کا اگر کوئی لڑکا آدمیوں کی عمر کا بالغ ہوتا تو نبی ہوتا، اور رہا نہیں، (کیونکہ آپ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے ابراہیم کی وفات کے وقت فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، (چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لئے زندہ نہیں رہا) پس اگر تو سوال کرے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء کیسے ہوئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخیر زمانے میں اُتریں گے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کے معنی یہ ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے شخص ہیں جو آپ کے پہلے نبی ہو چکے، اور جب اتریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے اُتریں گے اور آپ کے قبلہ کی طرف نماز پڑھینگے گویا کہ آپ کی اُمت کے ایک فرد ہیں،

(۷) تفسیر معالم التنزیل ۵/۲۱۸

(وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) خَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النُّبُوَّةَ وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٍ خَاتَمَ بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى الْاِسْمِ اَيْ اٰخِرُهُمْ وَقَرَأَ الْاٰخَرُوْنَ بِكَسْرِ التَّاءِ عَلَى الْفَاعِلِ لِاَنَّهُ خَتَمَ بِهِ النَّبِيّٖنَ فَهُوَ خَاتِمُهُمْ لَوْ لَمْ اَخْتِمْ بِهِ النَّبِيّٖنَ لَجَعَلْتُ لَهُ اِبْنًا يَكُوْنُ بَعْدَهُ نَبِيًّا۔

وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا حَكَمَ اَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لَمْ يُعْطِهٖ وَلَدًا ذَكَرًا يَصِيْرُ رَجُلًا۔

اس کا ترجمہ بیان ہو چکا ہے۔

(۸)۔ تفسیر ابن عباس ۲۶۲

(وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) خَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النَّبِيّٖنَ قَبْلَهُ وَلَا يَكُوْنُ نَبِيٌّ بَعْدَهُ۔

(وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کو جو آپ کے پہلے تھے ختم کر دیا، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

(۹)۔ تفسیر جلالین ۲۶۶

(وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) ...... وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ كَاٰلَةِ الْخَتْمِ اَيْ بِهٖ خُتِمُوْا (وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ

marfat.com

آپ مرزائی صاحب ہیں تمام دنیا کے مرزائیوں کو

چیلنج کرتا ہوں

کہ کوئی مرزائی اگر قرآن کریم کے محاورہ میں کسی مقام پر بلاتخصیص خاتم کے معنی افضل کے مستقل ہوں دکھا دے، تو اس مرزائی کو انشاء اللہ العزیز مبلغات

ایکہزار روپیہ 1000 نقد انعام

پیش کرونگا، کیونکہ آیت خداوندی کے محاورہ کا استدلال دوسری آیت سے ہی ہو سکتا ہے، یہ بے مقدم آیت استدلال میں پیش ہو سکتی ہے، جب آیت خداوندی میں ختم کا استعمال "لبس" پر یعنی نقط کا کام دیتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، تو تم اجراء کے معنی کیسے لے سکتے ہو۔

(۱)۔ بقرہ	١/١	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
(۲)۔ انعام	۵/۷	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ۔
(۳)۔ جاثیہ	۲۵/۳	وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ
(۴)۔ یٰس		اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ۔

ان آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ جو شے ختم ہو جائے، اس پر ہی ختم کا استعمال قرآن کریم میں ہوا ہے، اجراء کے معنی کسی آیت سے ثابت نہیں، اب خاتم بفتح تاء ختم کرنے والا متقدمین مفسرین سے ملاحظہ فرمائیے۔

marfat.com

گمراہ ہیں، دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اور اسی طرح قیامت تک کے ہر مدعی نبوۃ پر خدا کی لعنت ہو، حتیٰ کہ (ایسے جھوٹے نبی) مسیح دجال کے زمانہ میں ختم کئے جاوینگے،

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ یہ ہے معتبر مفسرین کا عقیدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبوت کے مدعی کو کذاب، افاک دجال کے خطابات سے نوازتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر لعنت خدائی کا تحفہ ارسال فرماتے ہیں، اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت اور اجرائے نبوت کے قائلین اور عاملین خداوند کریم کی طرف سے سچے ہیں یا جھوٹے اور کلام خداوندی کا نتیجہ جو اکابرین مفسرین نے سمجھا اور لکھا ہے اور جن جن خطابات سے نوازا ہے مرزا صاحب اور تم اس میں شمولیت رکھتے ہو یا نہیں، اگر رکھتے ہو تو باز آجاؤ اور اگر نہیں تو کیسے تم مرزائی اجرائے نبوت کا مسئلہ امت محمدیہ میں گردہ رہے ہو یہ کس مفسر نے سمجھا ہے؟ تمام مفسرین ختم نبوت کے قائل ہیں تو تم مرزائیوں کو بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی اجماع امت کا عقیدہ رکھنا چاہیئے۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

"مرزائی" ۔ خاتم النبیین فرمان خداوندی کی تشریح پر تم نے بڑا زور دیا ہے، حالانکہ خاتم بفتحہ تا کا ترجمہ ختم کرنیوالا نہیں ہو سکتا، البتہ اسم فاعل بکسرتاء کے معنی ختم کرنیوالے ہو سکتے ہیں، اور خاتَم بفتحہ تا جس کے معنی ما یختم بہ ہونگے، یعنی جس سے مہر لگائی جاوے، عربی زبان میں خاتَم بفتحہ تاء جب کسی جمع کے صیغے کی طرف مضاف ہو، مثلاً خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم الاکابر و خاتم المحدثین وغیرہ ہو تو اس کے معنی ہمیشہ بعد میں آنیوالے سے افضل کے ہوتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ کسی عربی زبان کے محاورہ میں کسی جگہ خاتَم باضافت جمع کے معنی بند کرنے کے ہوں، لسان العرب و تاج العروس کا حوالہ نہ ہو پاکٹ بک صـ۴۵۱ تا صـ۴۵۲۔

انقطاع نبوت کی تردید مرزائی کے جوابات

"محمد عمر" ۔ مرزائی صاحب تم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لسان العرب و تاج العروس سے حوالہ خاتم النبیین کے معنی کا نہ دکھانا، باقی کسی عربی محاورہ یا لغت سے دکھاؤ،

marfat.com

موجود ہے۔ یا ہمیں قرآن سے ہی خاتم بمعنی ختم دکھا دو۔ مرزائی کو بھی یقین ہے کہ خاتم ختم کے معنی قرآن کریم میں ختم کرنے کے ہی آتے ہیں، دوسرے نہیں، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع قرآن کریم کی اصطلاح سے اعراض کا سبق دیتی ہے۔ اس لئے مرزائی اس کا طلبگار ہی نہیں۔ لسان العرب و تاج العروس عربی زبان کی مشہور لغتوں سے مرزائی کا گریز کرنا بھی خاتم کے معنی ختم ثابت کر رہا ہے

آؤ مرزائیو! قرآن کریم سے منہ نہ پھیرو، اور اجرائے نبوت کے پیدا کردہ مسئلہ کو چھوڑ کر ختم نبوت کے قرآنی قانون کے پابند ہو جاؤ۔

"مرزائی"۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو خاتم المہاجرین ہے، جیسا کہ میں خاتم النبیین ہوں، کیا حضرت عباسؓ پر ہجرت ختم ہو گئی، پاکٹ بک از صـ ۴۵۲ تا صـ ۴۵۳۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! ایسی کچی بات قرآنی آیت کے مقابلہ میں، تمہارے اس استدلال سے ہی ثابت ہوا، کہ تمہارے پاس خاتم بمعنی افضلیت قرآنی دلیل موجود نہیں، ورنہ تم ضرور بیان کرتے۔ باقی رہا تمہارا قرآنی آیت خاتم النبیین بمعنی ختم اور آخری نبی کو ٹھکرانا اور اس کے مقابلہ میں تمہارے مقصد کے مطابق کوئی قرآنی آیت امدادی نہیں ہو سکتی، تمہاری مرزائیت کے لئے ضرب عربی ہے، آخیر تنگ آ کر ایک تابعی کے قول سے قرآنی آیت کو ٹھکرانے کی کوشش کی اور دھوکا دیا کہ یہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،

مرزائی صاحب! مسلمان بیدار ہے۔ وہ تمہارے ان ہتھکنڈوں کو خوب جانتا ہے، بن دیکھے کبھی اعتبار نہیں کرتا، جو تم نے کنز العمال کی حدیث سے استدلال کیا ہے یہ اسلام میں قرآنی آیات صریحہ و احادیث صحیحہ مرفوعہ کے مقابلہ میں حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تمہاری پیش کردہ کنز العمال کی حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں، بلکہ تابعی آپ سے روایت کرتا ہے، اس روایت میں صحابی کا نام و نشان نہیں، دیکھو صاحب کنز العمال نے خود اقرار کیا ہے، جو تم نے چشم پوشی سے کام لیا ہے، اس کے آخیر میں لکھا ہے، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ مُرْسَلاً یعنی یہ روایت ابن شہاب سے مروی ہے کسی صحابی نے یہ روایت بیان نہیں کی، جس حدیث کا علم صحابی کو نہیں اگر تابعی ہی صرف کہہ دے تو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عباسؓ مہاجرین مکہ میں سے سب سے آخر تشریف لائے اسلئے وہ خاتم المہاجرین ٹھہرے کیونکہ ان کے بعد کوئی مہاجر مکہ سے آیا ہی نہیں،

marfat.com

خاتم بمعنی آخر از تفاسیر

(۵) تفسیر مدارک ۳/۲۳۴ — (وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ) بِفَتْحِ التَّاءِ عَاصِمٌ بِمَعْنَى طَابَعٍ أَيْ آخِرُهُمْ۔

(۶) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱۲ — وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ أَيْ آخِرُهُمْ

(۷) تفسیر معالم التنزیل ۵/۲۱۸ — وَقَرَءَ ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ خَاتَمَ بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى الاسم أَيْ آخِرُهُمْ۔

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ اب تو تمہاری مُنہ مانگی مراد مل گئی، خَاتَمَ بفتح التاء بمعنی الْآخر کے مشہور مفسرین کی کتب سے ثابت ہو گئے، اب تم ایمان لاؤ، یا نہ لاؤ، خداوند کریم تم کو انصاف کی نظر سے ایمان درست کرنے کی توفیق عنایت فرمادے۔

خاتم بمعنی آخری از لغات

قاموس ۴/۱۰۲ — وَالشَّيْئَ خَتْمًا أَبْلَغَ آخِرَهُ۔
اور شئی ختم ہو گئی، (یعنی) آخر کو پہنچ گئی۔

اور سوائے دو کے باقی تمام قراء کے نزدیک خَاتِم بکسر التاء ہے جو بر ناشیت کے لئے خاتم ہے ایمان لاؤ یا نہ! باقی رہا تمہارا کہنا خاتم الشعراء اور خاتم العلماء تو یہ استعمال حقیقتاً نہیں بلکہ مبالغہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، حقیقی معنی میں نہیں، اور تمام کلام خداوندی میں مبالغہ کا نام و نشان نہیں اور نہ ہی یہ معنی قرآن کریم میں مستعمل ہے جو تم نے گھڑ لئے ہیں ... علاوہ ہیں، لہذا تمہارا مرزائیوں کا انسانی مبالغے کو کلام پر خداوندی کلام کو قیاس کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دینا قرآن کریم کی صاف تکذیب کرنا ہے۔ پھر اپنے مرزائیوں کو خوش کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ عربی محاورہ پیش کرو، بغیر ہزاروں محاورے عربی کے ایسے ہی جن میں خاتم بمعنی ختم ہو، پیش کر سکتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح کی تائید پہلے قرآنی آیت سے لازمی ہے، جس سے مرزائی کو گریز ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت خاتم بمعنی افضلیت

marfat.com

اجرائے نبوت کی اور اقرار کر رہا ہوں ختم نبوت کا، تمہاری اس تحریر سے ثابت ہوا، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ قبل از ابتداء انسانیت ہی ہو چکا، جس سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ انسان کی انسانیت کا دارومدار ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے پر ہے، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے وہ انسانیت سے مستثنیٰ ہے، چہ جائیکہ اسلام کا داعی بنے، پھر مرزائی صاحب نے اعتراض کو تو خوب گھڑایا، لیکن عبارت حدیث کو نہ دیکھا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنِّیْ مَکْتُوْبٌ عِنْدَ اللّٰہِ خَاتَمُ النَّبِیّٖنَ میں قبل از آفرینش آدم علیہ السلام اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، یعنی خداوند کریم کے ہاں قبل از آفرینش حضرت آدم علیہ السلام میرے آخری نبی ہونیکا فیصلہ درج ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری نبوت کا اجراء اس وقت سے ہے، کجا فیصلہ ختم کجا اس کا اجراء؟ مرزائی صاحب کو عربی سمجھنے کی اتنی لیاقت بھی نہیں، کہ فرمانِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّیْ مَکْتُوْبٌ عِنْدَ اللّٰہِ کے مطالب کو بھی سمجھ سکے۔ جو ایک میزان الصرف پڑھنے والا مبتدی بھی اس کا مطلب یہ نہیں بیان کر سکتا، جو مرزائی صاحب نے تحریف حدیث سے کام لیا ہے، تو تمہاری اس پیش کردہ حدیث شریف سے ہی خدائی فیصلہ ثابت ہوا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ابتدائے آفرینش سے قبل ہی فیصلہ شدہ ہے، جو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور خاتم الانبیاء علیہم السلام ہونے کے خلاف عقیدہ اجرائے نبوت رکھے تو وہ خداوند کریم کے ابتدائی فیصلہ خلق کے متعلق کا منکر ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی منکر ہے، وہ قرآن کریم کا مومن بنے تو کوئی ذی شعور کب تسلیم کر سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا، کہ مرزائی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین،

"مرزائی" - نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا ھِجْرَۃَ بَعْدَ الْفَتْحِ، کیا آپ کے بعد ہجرت بند ہو گئی، اگر نہیں تو لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ میں مخصص نہیں، ایک خاص نبوت مراد ہے۔ پاکٹ بک صفحہ ۲۵۴ -

"محمد عمر" - مرزائی صاحب! ہجرت کو نبوت پر قیاس کرتے ہیں، ہجرت کے کئی اقسام ہیں، ایک ہجرت ہے مخلوق سے خالق کی طرف، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

پھر اگر تم مرزائی اس حدیث سے معنی خاتم کے افضل مراد لوگے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالےٰ عنہ افضل المہاجرین ہیں اور مہاجرین میں حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو تمہارا مطلب یہ ہوگا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، چہ جائیکہ آپ سے کئی افضل امت محمدیہ میں موجود ہیں، اس سے تمہارے معنی افضل مراد لینا غلط ثابت ہوئے، حدیث بھی غلط معنی بھی غلط۔

"مرزائی"۔ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو، تو معنی افضلیت کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں معنی افضلیت کے ہی ہو سکتے ہیں، پاکٹ بک صہ ۴۵۳۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! جو بات کرتے ہو ٹیڑھی ہی کرتے ہو، بھلا یہ تو بتلاؤ، کہ یہ قانون کس نحوی کا ہے، یا کس عربی نے لکھا ہے، ایسی بات کہ جس کا سر پاؤں ہی نہ ہو۔ وہ مرزائیوں سے سُن لو، جب نبوت انہونی ہے تو بات بھی تو انہونی کیوں نہ ہو، ایسی بے تکی اور بغیر حوالہ جات بات تحریر کرنی اپنے منہ پر خود طمانچہ مارنے کے مترادف ہے۔ یہ ہے تمہاری نوٹ بک کے جواب کا جواب الجواب۔

"مرزائی"۔ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان ادم لمنجدل بین الماء والطین

جب آپ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے خاتم النبیین تھے، تو آپ کے بعد انبیا علیہم السلام کا تشریف لانا محال ہوتا، حالانکہ ایک لاکھ سے زائد آپ کے بعد انبیا تشریف لاچکے، جب آپ آدم علیہ السلام سے پہلے خاتم النبیین تھے تو آپ کے بعد انبیا تشریف لاتے رہے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق لازم نہ آیا، تو اب بھی اگر آجائیں تو خاتم النبیین کا انکار نہیں ہو سکتا، اور ثابت ہوا، کہ خاتم بمعنی افضل ہیں، ختم کرنے کے نہیں، پاکٹ بک صہ ۴۵۴۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب ہر بات میں دھوکے سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے اختیار کی بات نہیں، یہ ان کی کم علمی کا سبب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزائی صاحب کو مرزائیت بھی حائل ہے، جو صداقت کی راہ سے روکتی ہے، اور حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی، اور مرزائی صاحب کو اتنی ہوش بھی نہیں کہ جو دلیل پیش کرتا ہوں

میں داخل ہونے کی طاقت نہ ہو گی، تو مطلب یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت کرنا ختم ہو گیا۔

تو بعد الفتح ظرفیۃ خصوصی نے ہجرت کے عموم کو بدل کر مخصوص بنا دیا، چنانچہ بعد الفتح کی قید نے بوقت لاھجرۃ بعد الفتح ارشاد فرمانے نے اس ہجرت کی نفی بھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اِنّی مھاجرٌ الیٰ ربّی فرمایا تھا، چہ جائیکہ آپ کے بعد کی ہی نفی ہو، تو لائے نفی جنس سے ہجرت منظروف کی اس جنس کی ہی نفی ہوئی، جس کی تخصیص میں شارح علیہ السلام نے بعد الفتح ظرف سے مخصوص فرمادی، یہی مطلب ہے تفسیر کبیر کا، اور لا نبی بعدی میں صفت نبوت مطلقہ نے جو آپ کی ذات بابرکات کو مستلزم ہوئی جس کا کوئی قرینہ مخصص موجود نہیں تمام جنس نبوت کی نفی فرمادی جس کا اجرا لم پہلے موجود تھا، اور نبوت کے کئی اقسام نہیں بلکہ نبوت ایک ہی ہے، جس کی نفی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مطلقاً فرمادی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرکے ارشاد فرمایا کہ اب مکہ فتح ہو چکا، ہماری ہجرت جو ہونی تھی ہو چکی، اب یہ ہماری آخری ہجرت تھی، اب اس کے بعد ہماری کوئی ہجرت نہیں، اور یہ آپ کا فرمان سچا ہی رہا، پھر آپ کا غلبہ ہی رہا، باقی زندگی میں آپ کو دوبارہ ہجرت کا موقعہ نہیں پہنچا، لہذا آپ کا فرمان لاھجرۃ بعد الفتح کہ فتح مکہ کے بعد (اب ہماری) ہجرت نہ ہو گی۔

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ان مہاجرین کو سنائی ہے، جن کی شان اللہ تعالےٰ نے اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُھَاجِرِیْنَ سے بیان فرمائی، تو آپ نے ان کو فرمایا، کہ بس تم ہجرت کر چکے، اب تمہاری ہجرت یہاں سے یعنی مکہ سے نہ ہو سکیگی،

تیسرا جواب یہ ہے، کہ یہ خبر احاد ہے اس مضمون کی اور کوئی روایت مؤیدہ نہیں، احادیث متواترہ و مؤیدہ بآیات قرآنی کے مقابلہ میں ایک خبر احاد سے مجموعہ قرآنی آیات و احادیث صحیحہ متواترہ کا انکار کرنا قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔

چوتھا جواب یہ ہے، کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، اس کی کوئی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے ہی نہیں، تو باسند متواترہ حدیثوں کے مقابلہ میں یہ قابل قبول

فرمایا اِنِّیْ مُھَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ، دوسری قسم فَالَّذِیْنَ ھَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِھِمْ یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، یا ایک مدّت سے دوسری مدّت کی طرف، پھر اس ہجرت بلدی کی کوئی نفی نہیں ہیں جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

بخاری شریف
۱

علقمہ بن وقاص اللیثی یَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَلَی الْمِنْبَرِ یَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم یَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰی فَمَنْ کَانَ ھِجْرَتُہٗ اِلٰی دُنْیَا یُصِیْبُھَا اَوْ اِلَی امْرَءَۃٍ یَنْکِحُھَا فَھِجْرَتُہٗ اِلٰی مَا ھَاجَرَ اِلَیْہِ۔

علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالےٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالےٰ عنہ سے سُنا، آپ منبر پر چڑھ کر فرماتے تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا فرماتے تھے، اور کوئی بات نہیں عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، اور کوئی بات نہیں، آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی، تو جس شخص کی ہجرت طلب دنیا کے لئے ہے اس کو مل جاتی ہے یا عورت کے لئے ہجرت کرتا ہے تو (اس کو نکاح کر لیتا ہے) پھر اس کی ہجرت جس لئے اس نے ہجرت کی۔

ثابت ہؤا کہ ہجرت کے کئی اقسام ہیں اور نبوت سوائے ایک کے اور کوئی قسم ہے ہی نہیں، تو جب لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ فرمایا گیا تو سوا نبوت خداوندی کے اور کسی طرف ذہن منتقل ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ نبوت ایک ہی ہے، باقی بروزی وغیرہ اختراع مرزائیت ہے، اور جب لَا ھِجْرَۃَ کہا گیا تو ذہن اس کی تیوداتِ اقسامی کا منتظر ہوتا ہے کہ خبر نہیں کونسی ہجرت کی نفی مراد ہو جب ساتھ ہی ارشاد ہؤا بَعْدَ الْفَتْحِ، تو ثابت ہؤا، کہ اس مقام پر فتح مکہ کی قید سے مقید کرنا ہجرت کی نفی ہوئی ہے، کہ مکہ پہلے دار الکفر بنتا رہا ہے، لیکن جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اب کعبہ سے بدل کر بُت خانہ نہیں بن سکتا، اب یہاں کوئی یہودی یا نصرانی یا ہندو سکھ عیسائی مکہ پر قابض نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ دجّال قرب قیامت آئیگا تو اس کو بھی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ

maqtat.com

طرف سے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، اَنَا خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ تو ثابت ہوا کہ خداوند کریم کا نبی آپ کے بعد نہیں ہو سکتا، آپ تمام انبیا علیہم السلام کے ختم کرنیوالے ہیں، کیونکہ نبوت مِنْ دُوْنِ اللہ نہیں ہو سکتی، اور جب آپنے ارشاد فرمایا وَاَنْتَ یَا عَلِیُّ خَاتِمُ الْاَوْصِیَاءِ ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مُوْصیٰ لَہٗ علی المرتضیٰ کے بعد کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت بندے کی طرف ہے، اور اس عبارت میں سوائے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کا ذکر نہیں، جسکے موصیٰ لہٗ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہوئے تو ہر صورت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم موصی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ موصیٰ لہٗ ہوئے۔ تو واقعی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری موصیٰ لہٗ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہٗ کے بعد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موصیٰ لہٗ نہ ہوا۔ اور یہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت ہوئی۔ کیونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ثابت ہوئے، اور مرزائی صاحب نے ایک اور عجیب اقرار کرلیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بکسر تاء سے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، تسلیم کرلیا۔ جیسا کہ آپنے فرمادیا کہ خداوند کریم کی طرف سے تمام انبیاء اللہ کا ختم کرنیوالا ہوں، اور تو اے علی رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ میری طرف سے میری موصیٰ لہم کو ختم کرنیوالا ہے، میرے بعد کوئی نبی اللہ نہ ہو سکے گا اور تیرے بعد میرا موصیٰ لہٗ کوئی نہ ہوگا،

اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالےٰ عنہ کو آپ خاتم الاوصیاء کا خطاب نہ فرماتے، بلکہ اُن کو اَنْتَ بَابُ اَنْبِیَاءِ اُمَّتِیْ سے نوازتے، تاکہ آپ کی اُمت میں تمہارے عقیدہ کے مطابق اُمتی نبی ہونے کا دروازہ کھل جاتا، آپ کی اُمت میں چونکہ نبوت کا دروازہ بند تھا، اس لئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہٗ کو خاتم الاوصیاء کے لقب سے ملقب فرمایا، جیسا کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی ناممکن تھی، تو آپنے اپنی ذات کے واسطے ختم الانبیاءؑ سے نبوت کو بند ثابت فرمایا، تو تمہاری پیش کردہ حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر نبوت ختم ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اجرائے نبوت کی، جیسا کہ تم نے سمجھا ہے۔

"مرزائی" - فتوحات مکیہ کے ٹائیٹل پیج پر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم الاولیاءؒ لکھا ہے اور دیوبندی مرثیے پر مولوی رشید احمد گنگوہی کو بھی خاتم الاولیاء لکھا ہے۔ لہذا

marfat.com

نہیں ہوسکتی۔

پانچواں جواب یہ ہے، کہ ہجرت کی نفی پر نبوت کی نفی کو قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ نبوت اصل ہے، ہجرت فرع ہے، اصل کے قیام کے مقابلہ میں فرع کا اختراع کرنا بون بعید رکھتا ہے،

چھٹا جواب یہ ہے، کہ نبوت وہبی ہے اور ہجرت کسبی، نبی بننا اپنے ارادے سے نہیں، اور نہ نبوت اپنا ذاتی فعل ہے۔ اور ہجرت بندے کا اپنا ذاتی فعل ہے، مومن کے اپنے ارادے پر موقوف ہے، محتاج اجتہاد ہے، نبوت خداوندی نہ بندے کے اپنے ارادے پر موقوف نہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، نہ خطاب ذاتی ہے، بلکہ ارادہ خداوندی پر موقوف ہے۔ تو رب العزۃ کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرما کر غیر کے لئے اپنے ارادے اجرائے نبوت کو بند کر لینا یہ خداوند کا عالمین میں بندے سے خطاب نبوت کے لئے دست بردار ہونا ہے، اب ہجرت مخصوصہ کے حکم خاص پر نبوت کے حکم امتناعی کو توڑنا یہ خداوندی حکمرانی میں بغاوت ہے،

ساتواں جواب یہ ہے، کہ ہجرت کے اجراء پر مرزائیوں کا اجرائے نبوت کو قیاس کرنا یہ ثابت کرتا ہے۔ مرزائی امت محمدیہ سے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ نقائص دینی کی وجہ سے جیسا مہاجر انتقال مکانی کرتا ہے، ایسے ہی مرزائی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نقائص دینی کی بنا پر خارج ہو کر نبوت مرزائیہ میں داخل ہوا ہے۔ یعنی دین محمدی سے ہجرت کر کے دین مرزائیہ میں شامل ہے اور غیر مصدقہ دین کو قبول کر چکا ہے، لہذا مرزائی کے اس قیاس سے ثابت ہوا کہ مرزائی اسلام میں داخل نہیں،

"مرزائی"۔ کنوز الحقائق میں ایک حدیث منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَ اَنْتَ یَا عَلِیُّ خَاتَمُ الْاَوْصِیَاءِ۔ اگر حضرت علی رض کے بعد وصی ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ کے بعد نبی بھی آ سکتا ہے، پاکٹ بک صـ ۲۵۵۔

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی تاویل کی گنجائش تو نہیں رہی، اب آپ کے دوسرے زمانوں سے ہیرا پھیری کر کے قرآن اور حدیث کی تکذیب کرنا ہے، اور عوام کالانعام کو دھوکا دینا ہے،

مرزائی صاحب نبوت خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور وصیت بندے کی۔

marfat.com

ہوتی ہے، لہذا عقل انسان کی تمام غلطیوں سے افضل ثابت ہوئی، جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے آخری ہیں، اور آپ اس حدیث سے تمام کے افضل بھی ہیں، لہذا عقل بھی بحیثیت آخری ہونے کے افضل ثابت ہوئی، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخری شئے کو افضلیت لازم ثابت کیا ہے نہ کہ خاتم کے معنی ہی افضل کئے ہیں، اگر خاتم الشی کے معنی آخر الشیٔ ہی نہ سمجھوگے تو خاتم الشی کی افضلیت ہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ خاتم الشیٔ افضل الشیٔ ہے۔ اس لئے اس پر شئے کا اختتام ہوا ہے۔

تو ثابت ہوا، کہ مرزائی صاحب نے علامہ رازی کی عبارت کو لکھ کر غلط بیانی سے کام لیا ہے بلکہ علامہ رازی رحمۃ اللہ نے واضح کر دیا کہ خاتم الشی افضل الشیٔ ہونے کو مستلزم ہے، نہ کہ خاتم کے معنی افضل ہیں، بلکہ ختم کرنے والے کے ہیں، کیونکہ اگر خاتم کے معنی ختم کرنے کے نہ لئے جاویں گے تو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاتم افضل ہی نہ رہے گا،

یہ ہے علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطلب، جیسا کہ اُن کی عبارت سے بھی صاف واضح ہے، وَالْخَاتِمُ یَجِبُ اَنْ یَّکُوْنَ اَفْضَلُ۔ خاتم کے لئے واجب ہے کہ افضل ہو، نہ یہ کہ خاتم کے معنی افضل ہیں۔ جو تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی خَاتَمْ بمعنی ختم کرنے کے ثابت ہوئے، نہ افضل کے، جسکو تم نے غلط بیان کیا ہے۔

"مرزائی"۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم کے معنی احسن الانبیاء لکھا ہے رد پاکٹ بک ۱۹۹

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب! علامہ زرقانی نے فیصلہ فرما دیا لِاَنَّہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ جَمَالُ الْاَنْبِیَاءِ کَالْخَاتَمِ الَّذِیْ یَتَجَمَّلُ بِہٖ کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثل نگینے کے ہیں، یعنی جیسا کہ نگینہ انگوٹھی کو زیبا بنا دیتا ہے، ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انبیا علیہم السلام کو مزین فرما دیا ہے، اس عبارت زرقانی نے تو عبارۃً اجرائے نبوت کا خاتمہ کر دیا، پھر تم اس کو پیش کرتے ہوئے شرماتے نہیں، قیمتی نگینہ مہیا پہلے کیا جاتا ہے، انگوٹھی بعد میں تیار کی جاتی ہے، اور انگوٹھی، انگوٹھی تب کہلاتی ہے، جب تار کے دو سروں کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک کیا جاتا ہے، قبل از ملانے کے اس کو انگوٹھی نہیں کہا جاتا، بعد

marfat.com

خاتم بمعنی افضل ثابت ہؤا، پاکٹ بک ص۴۵۵ -

"**محمد عمر**" - ایسی بے تکی باتیں میرے سامنے نہ بناؤ، ہمارے لئے یہ حجت نہیں، نہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور نہ احادیث ہیں، نہ اس پر اجماع امت محمدیہ ہے، یہ مبالغے کی باتیں ہیں. اگر اپنے اُستاد کو کوئی چاند کہہ دیگا، تو وہ چاند نہ بن جائیگا، بلکہ چاند اصلی چاند ہی رہے گا، جو ہر روز طلوع ہوتا ہے. ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور نہ یہ ہمارے ذمہ کی باتیں ہیں، یہ مبالغے کی باتیں ہیں، جو اکابرین کے لئے لوگ کہا کرتے ہیں، خدائی کلام ایسے مبالغے سے مبرّا ہے،

"**مرزائی**" - پھر تو تمہارے نزدیک ہماری پاکٹ بک کی ایسی باتیں جو از ص۴۵۵ تا ص۴۵۸ ہیں. بے سود ثابت ہوئیں،

"**محمد عمر**" - ضرور، ایسی باتیں پیش ہی نہ کرو، یہ تو تم اپنے مرزائیوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھ دیا کرو. ہمارے سامنے تو خداوند کریم یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محدثین متقدمین کا عقیدہ پیش کرو، مولویوں کی باتیں تم نے بھلی پوچھیں، اگر ان کے متعلق بات کرنی ہو، تو یہ ثابت کرو، کہ جنکے تم حوالجات پیش کرتے ہو، ان کا عقیدہ کیا اجرائے نبوت تھا؟ جس کا عقیدہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونیکا ہے، وہ امت محمدیہ میں شامل ہے ورنہ نہیں، خواہ کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو یا مرزائی ہو یا وہابی ہو، ٹائیٹل پیجوں کی باتیں اور شاعروں کی باتیں مرزائیوں کو مبارک ہوں. سطحی باتیں سطحی مذاہب کے سطحی آدمیوں کے لئے حجت ہوتی ہیں. اسلام قرآن اور حدیث صحیح کے مقابلہ میں اُن کو لغو سمجھتا ہے.

"**مرزائی**" - علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہ عقل انسان چار خلطوں کی خاتم ہے اور خاتم کے لئے ضروری ہے کہ افضل ہو، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ خاتم النبیین ہونے کے سب سے افضل ہیں، پاکٹ بک ص۴۵۸ -

"**محمد عمر**" - مرزائی صاحب. بیچارے اِدھر اُدھر بہتیرے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. لیکن ان کا کوئی چارہ چلتا نہیں، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے کہ خاتم بمعنی افضل ہیں، جھوٹ گھڑتے وقت سوچنا چاہیئے، کہ اگر کوئی بینا دیکھ لیگا تو کیا کہے گا؟

علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے، جس پر کسی شے کا خاتمہ ہو، تو اس شے کا افضل ہونا واجب ہے، چنانچہ انسان کی آخری مخلط عقل ہے، اور آخری شے زیادہ افضل

marfat.com

بلکہ خاتم کے یہ معنی ہیں، کہ خداوند تعالیٰ نے بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صنعت نبوت سے دست بردار ہو گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صانع نبوت ہے، اب وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر نبوت کی صنعت سے دست بردار ہو گیا ہے، اب کسی کو نبی نہیں بنائیگا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تمہارا اجرائے نبوت کے مسئلے کو ختم کر دیا، اگر ہوش و حواس درست ہوں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان ہو، تو اجرائے نبوت کا کبھی نام نہ لو، اور سنیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے فرماتے ہیں ؎

در کشاد ختمہا تو خاتمی
در جہاں روح بخشا حاتمی

ابتداء کو بھی آپ نے ختم کیا آپ سے پہلے کسی کی ابتداء نہیں، اور خاتموں کو بھی آپ نے ہی ختم فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،

"مرزائی"۔ تفسیر حسینی المعروف بہ تفسیر قادری میں لکھتے ہیں، عین الاجوبہ میں لکھا ہے، کہ ہر نوشتہ کی صحت مہر کے سبب سے ہے، اور حق تعالیٰ نے پیغمبر کو مہر کہا، تاکہ لوگ جان لیں، کہ محبت الٰہی کے دعوٰی کی تصحیح آپ کی متابعت ہی سے کر سکتے ہیں، لہٰذا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے نہیں ہو سکتے، (پاکٹ بک صـ ۴۶۶)

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب بیچارے کو اتنا علم بھی نہیں، کہ تفسیر حسینی کونسی ہے اور تفسیر قادری کونسی ہے، وکیل صاحب تفسیر حسینی فارسی ہے، اُس کے ترجمے کا نام تفسیر قادری ہے، وکیل صاحب نے ایسے دھوکے سے کام لیا، کہ ابتداء تفسیر سے چشم پوشی فرمائی، اور کسی کے قول کو نقل کر دیا، یہ قول عین الاجوبہ سے نقل کیا ہے، نہ کہ اس کا قول ہے، جس میں مصنف نے آیت کا ترجمہ بیان نہیں کیا۔ بلکہ ایک **احتمال بیان** کیا ہے، اور قرآن میں انسانی احتمال استدلال کو باطل نہیں کر سکتا۔ اور جو قرآن کی آیت کے استدلال صریح کو کسی انسانی احتمال سے باطل سمجھے، وہ منکر قرآن ہے، آیئے! اب تفسیر حسینی کی اصل عبارت عرض کرتا ہوں، جس کو تم عمداً چھوڑ گئے ہو، اسی آیت کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں،

تفسیر حسینی ۶۷۷ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، و مہر پیغمبراں یعنی بدو مہر کردہ شد در نبوت و پیغمبری بدو ختم کردہ اند و خاتم بمعنی آخر نیز ہست، یعنی او ست آخر انبیا بنور ظہور چنانچہ اول ایشاں بود بہ ظہور نمود، وَكَانَ اللّٰهُ و ہست خدائے تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بہر چیزے دانا،

marfat.com

کسی اور کے گھسنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور انگوٹھی کا اتمام تب ہوتا ہے اور خوبصورت تب ہوتی ہے، جب دونوں سروں کے جوڑ پر نگینہ لگایا جائے اور نگینہ تب ہی لگایا جاتا ہے جب انگوٹھی کا اتمام مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی رب العزت نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت پہلے فرمائی، اور انبیاء کرام کو جو بمنزلہ انگوٹھی کے ہیں، تیار فرمایا، جب انگوٹھی تیار ہو چکی یعنی تمام انبیاء قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے قانون سے گذر چکے تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بمنزلہ نگینے کے ہیں، آپ کو سب کے آخر بالا رکھ دیا، اب انگوٹھی مکمل ہو چکی، اس میں کسی اور نبی کی گنجائش نہ رہی، اس سیدھی اور بین مثال کو بھی اگر تم مرزائی نہ سمجھ سکو، پھر تمہیں یہی کہونگا، کہ تمہیں خداوند کریم صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرماویں، یہ ہے مطلب زرقانی کا، اور تم نے بھی اقرار کیا، کہ علامہ زرقانی نے اما بالکسر بھی لکھا ہے، جس کے معنی لکھے ہیں، فَمَعْنَاہُ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ تو اس کے معنی ہیں، سب نبیوں کے آخری جب علامہ زرقانی پر تمہیں اعتبار ہے تو ان کے فرمان پر مرزائیوں کو اعتماد کیوں نہیں، یہ بھی تو علامہ زرقانی کا ارشاد ہے، اور علامہ زرقانی کا عقیدہ انشاء اللہ تعالےٰ آگے عرض کرونگا،

"مرزائی" - مولنا محمد قاسم صاحب دیوبندی اجرائے نبوت کے قائل تھے، (پاکٹ بک از ص۴۵۹ تا ص۴۶۵)

"محمد عمر" - باپ کی شہادت بیٹے کے لئے کسی مذہب میں بھی قابل قبول نہیں،

"مرزائی" - مولنا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ختم بمعنی افضل لیا ہے، اس لئے اس کے معنی ختم کرنے کے نہیں ہو سکتے، سنیئے ؎

بہر ایں خاتم شد است او کہ بجود
مثل اونے بود نے خواہند بود
چونکہ در صنعت برد استاد دست
نے تو گوئی ختم صنعت بر تو است (پاکٹ بک ص۴۶۶)

"محمد عمر" - مرزائی صاحب بھی بیچارے سادہ لوح ہی ہیں، جیسے کسی مرزائی ملاں نے ورغلایا، اسی کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ مُرغ بیچارہ دانے کی ہوس میں پھنس ہی جاتا ہے، مولنا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے مذکورہ شعروں سے دوسرے شعر میں پہلے شعر کے مطلب کو واضح کر دیا ہے، تاکہ کوئی کج طبع اُلٹ نہ سمجھ لے، خاتم النبیین کے معنی فرماتے ہیں، کہ خاتم کے معنی تو یہ نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالےٰ نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کاریگری ختم کر دی

marfat.com

فِی الْحَلَالِ اور حضرت عیسٰی علیہ السلام نے اپنے رفع الی السماء کے پہلے نکاح نہ کیا تھا، تو آسمان سے اُترنے کے بعد حلال میں زیادتی فرمائینگے، یعنی نکاح کرینگے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت عیسٰی علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کے بعد اُن کی زیادتی حلال کا ذکر فرما گئے ہوئے اُن کے نکاح کرنے کا ثبوت دیا اور یہ بھی ثابت کیا، کہ ان کے رفع الی السماء سے قبل انہوں نے نکاح نہ کیا تھا، حیات عیسٰی ناصری علیہ الصلوٰۃ والسلام ثابت کرکے مرزائی عقیدہ وفات مسیح کی بیخ کنی کردی، جس کی تائید میں آگے ایک قول نقل کیا ہے، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ تم مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے ختم کرنیوالا عقیدہ رکھو۔ اس میں شک کروگے تو مومن نہیں، اور باوجود اس کے یہ عقیدہ نہ رکھو، اور نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نازل بھی نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عیسٰی علیہ السلام سابقہ نبی قرب قیامت تشریف لادینگے، چونکہ اُن کی نبوت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ ہے، اس لئے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیا ہونے میں بھی فرق لازم نہیں آسکتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اپنے قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی ہونا بھی ثابت کیا ہے، اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نزول من السماء کے عقیدہ کو بھی جزو اسلام قرار دیا ہے، ورنہ اگر تمہارا مرزائیو کا مطلب یہی جو تم رسالوں، ٹریکٹوں اور کتابوں میں صرف لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ قول کو بیان کرکے دھوکہ دیتے ہو، مراد لیا جاوے تو یہ قول بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ قائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یعنی سب نبیوں کا آخری بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کے متضاد جملہ بعدہٗ بھی کہہ دیتا ہے، کہ یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس متضاد بات کو مرزائی ہی کہہ سکتا ہے، کہ کسی ذی شعور کی یہ شان نہیں، تو بیان کنندہ نے اس اپنے بیان کو مختصر بیان کیا ہے اور محض قُوْلُوْا اَنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ کہ کر مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کو ثابت فرمایا، اور لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کہہ کر وفات عیسٰی علیہ السلام کے عقیدہ رکھنے سے مسلمانوں کو روکا، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم سمجھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ اب حضرت عیسٰی علیہ السلام جن کو آپ سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ کے نزول من السماء کا بھی انکار نہ کردو، یہ قول تو حیات عیسٰی علیہ السلام کو بھی ثابت کررہا ہے، اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کو بھی ثابت کررہا ہے، لیکن مرزائی اس مجمل صحیح جملے کو نصف پڑھکر اُلٹ بیان کرکے دھوکا دے رہا ہے، جیسا کہ وکیل صاحب

marfat.com

پس میداند کہ کیست سزاوار آنکہ نبوت بروختم شود اور خاتم النبیین آپ تمام پیغمبروں کی مہر ہیں، اور نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مہر شدہ ہوئی (اگر آپ تشریف نہ لاتے توکسی گذشتہ نبی کی نبوت مہر شدہ نہ ہوتی) اور آپ کے ساتھ ہی پیغمبری ختم کی گئی، اور خاتم کے معنی آخر بھی ہیں، یعنی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور تمام انبیا علیہم السلام کے آخر میں ظہور ہوا، یعنی آپ آخرالانبیاء ہیں، جیسا کہ آپ کے ظہور کا نور محض سب انبیا علیہم السلام سے پہلے روشن ہوا، اور اللہ تعالےٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے) کہ کون اس لائق ہے، کہ اُس پر نبوت ختم ہو،

کیوں جناب؟ یہ ہے تفسیر حسینی، جس نے خاتم النبیین کے معنی کو موافق مقصد الٰہی بیان کرکے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت فرمایا، جس کا مرزائی منکر ہے، اور دائو پیچ کرکے غلط بیانی سے کام لیتا ہے،

"مرزائی"۔ مجمع بحارالانوار میں خاتم کے ماتحت لکھا ہے، قُوْلُوْا اَنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَلَاتَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ ۔ اور ایسے ہی درمنثور میں بھی لکھا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے، کہ لا نبی بعدی نزول عیسٰی علیہ السلام کے منافی نہیں، کیونکہ اس سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ایسا نبی نہیں جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، (پاکٹ بک صہ ۲۶۸)

"محمد عمر"۔ معلوم ہوتا ہے کہ وکیل صاحب عدالت کی چھٹی ملتے وقت عین بارہ بجے پاکٹ بک احمدیہ تحریر فرماتے رہے ہیں، لغت کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اور اتنا ہوش بھی نہیں کہ یہ جملہ کس لفظ کے ماتحت ہے، وکیل صاحب یہ لفظ زَیْدٌ کے ماتحت لکھا ہے، جو حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نزول من السماء کی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، یَزِیْدُ فِی الْحَلَالِ، تو شیخ محمد طاہر صاحب اپنی کتاب مجمع البحار میں مادہ زید کے ماتحت لفظ یَزِیْدُ فِی الْحَلَالِ کی شرح فرماتے ہیں، کہ اَیْ یَزِیْدُ فِیْ حَلَالِ نَفْسِہٖ، عیسٰی علیہ السلام جب قرب قیامت آسمان سے تشریف لائینگے تو اپنے نفس کے لئے حلال شے کو زیادہ فرمادینگے، یعنی بعض حلال اشیاء کو جو اپنی ماسبق زندگی میں استعمال نہیں فرمایا قرب قیامت بعد از نزول من السماء ایسی بعض حلال اشیاء کو آپ استعمال فرمائینگے، آگے حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل فرمایا، کہ یَتَزَوَّجُ نکاح کرینگے وَیُوْلَدُ لَہٗ اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر فرمایا وَکَانَ لَمْ یَتَزَوَّجْ قَبْلَ رَفْعِہٖ اِلَی السَّمَاءِ فَزَادَ بَعْدَ الْھُبُوْطِ

جھگڑے کو نہ سمجھتے ہوئے دھوکے میں پھنس رہے ہیں، مصنف کے پورے کلام کو نہ کوئی دیکھتا ہے، اور نہ ہی مرزائی کے اس فریب سے بچتا ہے، یہ ہے مرزائی صاحب کی محض فریب دہی،

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

دوسرا جواب:۔ اتنی اکثریت احادیث صحیح مرفوعہ سے رُوگردانی کرنا اور ایک قول غیر معتبر کو جس کی سند بھی موجود نہیں، معتبر سمجھنا اصول اسلامی کے خلاف ہے،

تیسرا جواب:۔ تمہارا ایمان صاحب مجمع البحار پر ہے، تو اسی تکملہ کی اسی عبارت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، بِأَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُوْلَدَ لَهُ وَكَانَ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَزَادَ بَعْدَ الْهُبُوْطِ فِي الْحَلَالِ فَحِيْنَئِذٍ يُؤْمِنُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُتَيَقِّنِ بِأَنَّهُ بَشَرٌ، کیا تمہارا ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء پر ہے؟ یہ عبارت تمہاری پیش کردہ عبارت کے متصل ہی پہلے ہے، یہ عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آسمان سے تشریف لانے کو ثابت کر رہی ہے، اور حیات مسیح اور ان کے آسمان سے تشریف لانے کی تائید میں ہی اس تمہاری پیش کردہ عبارت کو بیان کیا گیا ہے، پہلی عبارت کو تم کھا گئے اور حیات مسیح کی مؤیدہ عبارت کو پیش کر دیا اور اصل کا انکار کر دیا، تمہارا مرزائیوں کا اگر اس مؤیدہ عبارت حیات مسیح علیہ السلام لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ پر ایمان ہے، تو ضروری ہے، کہ اس کے ماقبل اس کی اصل عبارت پر جو حیات مسیح علیہ السلام ناصری ثابت کر رہی ہے، اس پر بھی ایمان بطریق اولیٰ ہونا چاہیئے، اور اگر تمہارا حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں، تو اس نصف عبارت کو پیش کرنا اور نصف عبارت کا انکار کرنا یہ محض دھوکا دہی ہے،

"مرزائی" ۔ مجمع البحار میں مذکور ہے، اُوْتِيْتُ خَوَاتِمَهُ اى القرآن خُتِمَتْ بِهِ الكتاب السماوية وهو حجة على سائرها ومصدق لها ۔ کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح قرآن بھی خاتم الکتاب ہے، ان معنوں میں کہ وہ سب کتابوں کی مصدق ہے، پاکٹ بک ص ۴۷۶،

"محمد عمر" ۔ مرزائی صاحب تو ایسے سادہ لوح ہیں، کہ کبھی اپنا طمانچہ اپنے ہی منہ پر کھانے کے لئے خود تیار کر دیتے ہیں، جب منہ کے نزدیک پہنچتا ہے تو پھر ہوش آتی ہے، کہ اوہ ۔ ہو ۔ یہ تو میرا ہی طمانچہ میرے ہی منہ پر رسید ہوا، تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر بھلا قریب جا کر کب رُکتا ہے، قریب جا کر تو ایسا ناڑے لگتا ہے، کہ اتنا قریب سے بھی نہیں بنتا، مرزائی صاحب نے مجمع البحار کی عبارت

marfat.com

نے کیا، سمجھتے ہیں، کہ یہ حیاتِ مسیح علیہ السلام کے لئے ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں، کہ خاتم کے تحت مذکور ہے۔ اسی لئے حکومت نے آدھ گھنٹہ گھڑیاں آگے کر دی ہیں، کہ بارہ بجے ہی کیسکے بارہ نہ بجیں، یہ قول لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل نہیں کیا گیا، بلکہ حیاتِ عیسٰی علیہ السلام کی تائید کرتے ہوئے لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ پر لَا تَقُوْلُوْا کو داخل کیا ہے، نہ کہ حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کا لَا تَقُوْلُوْا کہہ کر انکار کیا ہے، جس سے مرزائی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، فرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ ہیں لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدس پر نبوت ختم کرنے کے لئے فرمایا، اور صاحب مجمع البحار نے جس کا قول نقل کیا اس نے بحیثیت حدیث مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قُوْلُوْا خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ کہہ کر ہی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی بات کو ختم کر دیا، اور چونکہ مقصد بیان کنندہ کا حیات مسیح کا اثبات تھا، اس لئے حیاتِ عیسٰی علیہ السلام کو لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ سے ثابت کر دیا، اور اگر قائل حیات عیسٰی علیہ السلام کے استدلال میں صرف لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ پر ہی اکتفا کرتا، تو اس سے صاف اجرائے نبوت ظاہر ہوتا، کوئی صاحب ایمان ہی اس کے مقصد کو صحیح سمجھتا، اس شک اجرائے نبوت کو دور کرنے کے لئے اس نے حیاتِ مسیح کے ذکر میں لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کے ذکر کرنے سے پہلے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا اعلان قُوْلُوْا اَنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ سے کر دیا، کہ میرے لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ حیاتِ عیسٰی علیہ السلام ثابت کرنے اور وفات عیسوی کے قائل کو رد کرنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ شخص اس جملے کا قائل اجرائے نبوت کا قائل ہے، بلکہ اس جملے کو کہنے سے پہلے ہی اپنا عقیدہ واضح کر دیتا ہوں، کہ قُوْلُوْا اَنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ کہ حیاتِ عیسٰی علیہ السلام کا قائل مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا منکر نہ بنے، بلکہ حیاتِ عیسٰی علیہ السلام کے قائلو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم بھی سمجھنا اور اجرائے نبوت کے قائل نہ بن جانا حالانکہ مرزائی ان دونوں قولوں کا منکر ہے، حیاتِ عیسٰی علیہ السلام کا بھی اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا بھی، اور مرزائی کا پیش کردہ قول مجمع البحار میں منسوب بہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ان دونوں مسائل حیات عیسوی اور مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم ثابت کر رہا ہے، لیکن لطف یہ ہے، کہ مرزائی ان دونوں صحیح اقوال کو الٹ بیان کرکے دھوکہ دے کر اپنی تائید میں اجرائے نبوت کے لئے پیش کر رہا ہے، اور کئی سادہ لوح مسلمان بھی مرزائی کے اس

marfat.com

کو سمجھ کرامت مصطفوی کو غنیمت سمجھیں اور شامل ہو جائیں،

"مرزائی"۔ خاتم کے معنی انگوٹھی کے ہوتے ہیں، پاکٹ بک صـ ۴۷۸،

"محمد عمر"۔ اس کی تحقیق زرقانی کے جواب میں پہلے ملاحظہ فرمالیں،

"مرزائی"۔ فتوحات مکیہ میں خاتم الاولیاء میں لکھا ہے، کہ مجذوب خاتم الاولیاء کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے،

"محمد عمر"۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ مبالغے کی باتیں استعمال میں آتی ہیں، قرآن اور حدیث میں مبالغہ نہیں، اس لئے یہ حجت نہیں ہو سکتا،

دوسرا جواب:۔ ولایت کو نبوت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ جس کو رب العزت نبوت عطا فرماتے ہیں، اس سے نبوت کا خلا محال اور ولی ولایت سے محروم ہو سکتا ہے،

(لفظ ختم اور محاورہ اہل عرب)

"مرزائی"۔ مولوی صاحب قرآن اور احادیث صحیحہ سے تو خاتم النبیین کے معنی ثابت ہو گئے کہ واقعی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا اب ہی صحیح خاتم النبیین تسلیم کر سکتا ہے، جب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم ہونے کا یقین رکھے اور یہ بھی یقین رکھے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور نہ خداوند کی طرف سے آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا وعدہ دیا گیا ہے، بلکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہونے کا حکم ثابت ہو گیا، اسی لئے خاتم النبیین کا خطاب صرف مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اگر افضل کے معنی سے استعمال کیا گیا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں، جو اپنے زمانے کے انبیا علیہم السلام سے افضل تھے، اللہ تعالےٰ ان کے لحاظ سے فضیلت سے انکو ضرور اس لفظ خاتم النبیین سے نوازتے، جب افضل الافضلین پیغمبروں پر اللہ تعالےٰ نے یہ افضلیت کا کلمہ خاتم النبیین استعمال نہیں فرمایا اور محض رسول الرسل نبی الانبیاء سب سے آخری نبی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی استعمال فرمایا، تو ثابت ہوا، کہ اس کے معنی آخری نبی ہونے کے ہی ہیں، جو کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے معنی . . . یہی فرمائے ہیں، مفسرین نے اس کے معنی آخری نبی سمجھے، اور محدثین نے بھی اس کے معنی یہی سمجھے، اور صاحب لغات عربیہ نے بھی اس کے معنی یہی سمجھے، یہ تو میری سمجھ میں بخوبی آگیا، لیکن ایک شک باقی ہے، وہ یہ کہ خاتم کے معنی افضل تب ہوتے ہیں،

marfat.com

کی کہ جس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اُوْتِیْتُ جَوَامِعُ الْکَلِمِ وَ خَوَاتِمُہٗ سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَخَوَاتِمُہٗ کا مطلب یہ ہے، (اب تمہاری عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں) یعنی قرآن دیا گیا ہوں، قرآن کے ساتھ کتب سماویہ ختم کی گئی ہیں، اور وہ قرآن تمام کتب سماویہ پر حجت ہے، اور وہ تمام کتب سماویہ کیواسطے مصدق ہے، اب دریافت طلب امر یہ ہے، کہ قرآن کے بعد کوئی کتب سماوی نازل ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو قرآن کریم کا صاف انکار لازم آیا، جس کا فیصلہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ سے ہوچکا ہے، کہ اب دین مکمل ہوچکا لہذا بعد ازیں کسی کتاب سماوی کی ضرورت نہیں، تو پہلی شق کا اثبات لازم آیا، کہ کتاب سماوی کا نازل ہونا محال اور اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ نے نبوت کا اتمام کردیا، اب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا بننا محال، اور مرزائی صاحب نے خود تسلیم کرلیا کہ قرآن بھی خاتم الکتب السماویہ ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خداوند کریم ایسا بے نیاز ہے کہ منکر کے منہ اور قلم سے بھی کبھی سچی بات نکلوا ہی دیتا ہے، پھر سوجھ آئی، کہ اوہ - ہو - کہنا، اس مضمون میں" یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، حالانکہ صاف عبارت ہے، وَمُصَدِّقٌ لَّھَا اور قرآن تمام کتب سماویہ کا مصدق ہے، تو مرزائی صاحب نے خود اپنی زبانی ہی ثابت کردیا، جیساکہ قرآن مجید خاتم کتب سماویہ ہے اس کے بعد کوئی کتاب سماوی نازل نہیں ہوسکتی، ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین بایں معنی ہیں کہ آپکے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا، پھر مرزائی صاحب نے مجمع البحار کی ایک چوری بھی کی جو مجمع البحار کے اسی صفحہ پر درج ہے،

مجمع البحار ۱/۳۲۹ خاتم النبوۃ بکسر تاءٍ اَیْ فَاعِلُ الْخَتْمِ وَھُوَ الْاِتْمَامُ وَبِفَتْحِھَا بِمَعْنٰی طَابَعٌ اَیْ شَیْءٌ یَدُلُّ عَلٰی اَنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ، خاتم النبوۃ تاء کی کسرہ کے ساتھ یعنی ختم کرنے والا اور وہ بھی پورے کرنے کے معنی ہیں اور خاتَم تاء کی فتح کے ساتھ بمعنی طبع کرنیوالا یعنی ایسی شے جو اس بات پر دلالت کرے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا، یہ ہے مرزائی صاحب مجمع البحار کی عبارت جو یہ سرقہ تمہارے ہی گھر سے نکلا، امید ہے کہ انشاء اللہ تعالےٰ اب مرزائی خاتم بفتح تاء کا صحیح ترجمہ اپنی پیش کردہ کتاب سے سن کر ضرور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت ختم ہونے کا عقیدہ بنالیگا، خدا تعالےٰ تعصب کا خاتمہ کرے، تعصب دنیا سے ختم ہو، تاکہ ختم کے منکر کفر کو ختم کرکے اجرائے نبوت کی نئی بدعت کو چھوڑکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم سمجھیں، اور خاتم النبیین کے صحیح مطلب قرآنی

marfat.com

تمہارا مقرر کردہ قانون کہ خاتم باضافت جمع افضل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، یہ قانون کسی عربی لغت یا کسی نحوی کا مقرر کردہ نہیں، بلکہ ایک ذہنی ساخت کی اختراع ہے، جس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور خداوند کریم کا جملہ خاتم النبیین اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّوْنَ ہر حالت اور ہر وقت صحیح ہے، کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی تمام نبیوں کو ختم کیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور تمہارا پیش کردہ عربی مذکورہ محاورہ ہمارا مؤید اور تمہارے مرزائیوں کے مخالف ثابت ہوا، فتدبر۔

لفظ ختم اور قرآن مجید

"مرزائی"۔ واقعی جو ہم نے محاورۂ عرب پیش کیا ہے، وہ باضافت جمع نہیں، لیکن تم جو خاتم النبیین کی تائید میں پیش کرتے ہو، وہ لفظ ختم ہے، بحث خاص طور پر لفظ خاتم پر ہے، ختم پر بحث نہیں، اور ختم سے مراد بھی مطلق بند نہیں، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے، کہ دوزخی قیامت کے دن زبان سے بات نہ کر سکیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے، کہ انسانی جسم میں زبان کو جو حیثیت حاصل ہے، وہ تمام اعضا اور جوارح کی نمائندہ ہونے کی ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف انسان کے سر میں ہو، تو اس کا اظہار بھی زبان ہی کرتی ہے، تو بظاہر خیال ہو سکتا تھا، کہ ممکن ہے قیامت کے دن بھی صرف زبان ہی اپنے علاوہ دوسرے اعضا کے گناہ بیان کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ہر عضو اپنے گناہ خود بھی بیان کریگا، ہاتھ اپنے گناہ بیان کریں گے، پاؤں اپنی بدیاں گنا جینگے، لیکن سوال یہ ہے، کہ بد زبانی غیبت وغیرہ جن کا ارتکاب خود زبان سے ہوا ہو گا، وہ کون بیان کریگا؟ کیا ہاتھ بتائینگے یا پاؤں، ظاہر ہے کہ زبان اپنے گناہ خود بتائیگی، پس قیامت کے دن دوزخی کا منہ بند ہونا ثابت نہ ہوا، بلکہ دوزخی کا بولنا اور اس کا منہ کھلا رہنا ثابت ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس معلوم ہوا، کہ باوجود دوزخیوں کے منہ پر مہر لگ جانے کے دوزخی باتیں کرینگے،

چنانچہ دوسری آیت میں ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا پس اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ والی آیت میں ختم کے معنی ہرگز بکلی بند کرنے کے نہیں، پاکٹ بک از صا۱۷ تا صـ۱۷۳

marfat.com

جب خاتم صیغۂ جمع کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال محاورۂ عرب سے عرض کرتا ہوں، دیکھئے یزید بن معاویہ کے متعلق کتاب الفخری میں لکھا ہے، قَالُوا بُدِئَ الشِّعْرُ بِمَلِكٍ وَخُتِمَ بِمَلِكٍ کہ شعر بادشاہ ہی سے شروع ہوا اور بادشاہ کے ساتھ ہی ختم ہوا، اس عبارت سے معلوم ہوا، کہ یزید اپنے زمانے کے بہترین شاعر سے افضل ثابت ہوا، اور ابن خلکان نے مبرد اور ابو العباس کے متعلق لکھا ہے، قَدْ خُتِمَ بِهِمَا تَارِيخُ الْأُدَبَاءِ، اس کا مطلب تو یہی ہے، کہ یہ دونوں اپنے زمانے کے بہترین ادیب تھے، پاکٹ بک از ص۱۷۰ تا ص۱۷۱،

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب ایسے سادہ لوح ہیں، کہ دعوٰی کیا ہے کہ خاتم جب صیغۂ جمع پر مضاف ہو، تو معنی افضل کے ہوتے ہیں، مرزائی صاحب کے اپنے دعوٰی میں کاذب ہونے کی دلیل مرزائی صاحب کے اپنے ارشاد سے ہی ثابت ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کہ قرآنی آیت کی تائید قرآنی آیت سے ہی ہونی چاہیئے تھی، جب قرآنی ایک آیت بھی اپنی تائید میں پیش نہیں کر سکے، تو اپنے دعوٰی خاتم بمعنی افضل ہونے میں کاذب ثابت ہوئے،

دوسرا کذب یہ ہے، کہ دعوٰی تو کیا ہے کہ خاتم جب صیغۂ جمع کی طرف مضاف ہو، تو معنی افضل کے ہوتے ہیں، دو غیر معروف مثالیں پیش کیں، دونوں میں خاتم باضافت جمع موجود نہیں،

تیسرا کذب یہ ہے، کہ پہلے ابن طقطقی کے مقصد کو بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، بھلا مرزائی صاحب یہ تو بتلائیے۔

مصنف نے کہا ہے، بُدِئَ الشِّعْرُ بِمَلِكٍ وَخُتِمَ بِمَلِكٍ، یہاں ختم کے معنی افضل ہونے کے تو تم نے کر لئے، لیکن یہ نہ سوچا، کہ بُدِئَ کے معنی کیا ہوں گے کچھ تو سوچ کر بات کیا کرو، اگر ختم کے ختم ہونے کے نہ کرو گے تو کلام مصنف اِبْتِدَا غلط ثابت ہو گا، مرزائیوں جیسے عقلمندوں کے لئے مصنف نے ختم کے مقابلے میں پہلے اِبْتِدَا کا ذکر فرما دیا، تاکہ کوئی ختم کے معنی نہ بگاڑے، باقی رہا تمہارا کہنا کہ شاعری اس پر ختم نہیں، تو یہ مصنف نے اپنے علم کی قوت شاعری کی ابتدا اور انتہا بیان کی ہے، نہ کہ حقیقت، یہ عبارت خدائی کلام نہیں، یہ ایک انسان کی انتہا عقل و علم کا ذکر ہے، خدائی علم کا فیصلہ نہیں، ایسے ہی دوسری مثال کو قیاس کر لیں،

لہٰذا تمہاری ان پیش کردہ دونوں مثالوں سے بھی ثابت ہوا، کہ ختم بمعنی آخری ہی ہیں اور

marfat.com

کے بولنے کی طاقت عنایت فرما دینگے، جس سے زبان کو انکار کا موقعہ ہی نہ ملیگا، کیونکہ حیثیت کذائیہ دنیا میں زبان فی الفم کو انکار کا امکان ہو سکتا ہے، نہ کہ بغیر فم و بغیر حرکت و بغیر صوت فمی کے زبان کو قوت گویائی رب العزت عنایت فرمائے تو پھر اس میں شائبہ کذب ہو، بلکہ حیثیت زبان بغیر کسی آلہ گویائی کے یوں صاف صاف شہادت صادقہ منکر پر دیگی، جیسا کہ ہاتھ اور پاؤں بغیر آلہ جات گویائی کے شہادت دینگے، یہی مطلب ہے، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ کا، اور جو تم نے مطلب بیان کیا ہے، اس سے نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ کی صاف تکذیب لازم آتی ہے، اور صراحتہً أَفْوَاهِهِمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ کو بغیر تفریق لفظی و معنوی قرآن کریم کو پس پشت ڈالنا ہے، اور یہی مذکورہ بالا آیت قرآنی کا مطلب وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا کے ہیں اور ایسے ہی منکرین کے کان اور آنکھیں بھی بغیر آلۂ کلامی بول کر شہادت دینگے، ارشاد الٰہی ہے حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ اور کسی کی شہادت پر یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں پر منکر کو اعتراض نہ ہوگا، محض اپنے چمڑے کو اپنے خلاف شہادت دینے سے معترض ہوگا، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا تم نے ہم پر کیوں شہادت دی، تو چمڑا جواب دیگا، أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ بلایا ہم کو اللہ تعالٰے نے جس نے ہر شی کو قوت گویائی بخشی، ثابت ہوا منکرین کا ہر عضو بغیر آلۂ فمی و لسانی اسپر بھگتے گا، اور بوقت اُن کے بیان دینے کے موجودہ کلام کنندہ لسان فی الفم پر اللہ تعالٰے مہر لگا دیگی، تاکہ عذر اور انکار کا اُس کو موقعہ ہی نہ ملے، اور تم مرزائی اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ کے معنی صـ۲۷۲ پر یہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے، کہ "انسانی جسم میں زبان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ تمام اعضا اور جوارح کی نمائندہ ہونیکی ہے"۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ قرآنی آیت کو اور اپنے اس بیان کردہ مطلب کو کسی ہندو یا سکھ یا عیسائی عربی دان کے سامنے رکھو، وہ تمہیں ایک مسخرا سمجھے گا، کم از کم ایسی بات تو کہا کرو، کہ جس کا کچھ تعلق تو عبارت کے ساتھ ہو:

اے اُمتِ مرزائیہ! تمہارے انصاف پر ہی چھوڑتا ہوں، کہ تم ہی وکیل صاحب کی اس تشریح اور عبارت قرآنی کو ملاحظہ فرماؤ، کہ ان کا کوئی ربط ہے؟ اگر ہے تو تمہیں مرزائیت حائل ہے، اگر نہیں تو سوچو کہ تمہارے مذہب میں کس بیدردی کے ساتھ قرآن کریم کا مطلب غلط بیان کیا جا رہا ہے، اور وکیل صاحب کا کلام چونکہ عبارت قرآنی سے بے ربط ہے اس واسطے پھر اس اپنے مطلب کی دوبارہ تشریح فرماتے ہیں، جو پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہے، فرماتے ہیں،

marfat.com

"محمد عمر" - وکیل صاحب قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں، جس کا مرزائی منکر نہ ہو، مرزائی اپنے مطلب کی خاطر قرآن پاک کی ہر آیت کو ٹھکراتا ہے، تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی ایک ایک آیت مرزائیوں کی دامنگیر ہو کہ یا اللہ! یہ قوم مرزائی ہے، جس نے اپنے ہر مطلب کے لئے میرا انکار کیا، قرآن کریم کی صاف آیت ہے، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥ قیامت کے دن کا واقعہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، کہ کفار کے مونہوں پر ہم مہر لگا دینگے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کرینگے اور جو جو انہوں نے عمل کیا ہے اُن کے پاؤں گواہی دینگے،

تعامل انسانی یہ ہے، کہ انسان اگر ہاتھوں سے کوئی چیز چُرائے یا کوئی اور ظلم کرے، اور پاؤں سے کہیں چل کر جائے، اور کوئی ظلم کرے، بعد ازیں جب اس سے دریافت کیا جائے کہ تم نے پاؤں سے وہاں جا کر ہاتھ سے چوری کی، یا کسی مرزائی سے کہا جائے، کہ تم نے ربوہ پہنچ کر فلاں کتاب ہاتھ سے چُرائی تو مرزائی یا کوئی مسئول عنہٗ فوراً منہ سے انکار کر دیتا ہے، کہ نہ جی، میں نے تو چوری نہیں کی، منکر مُونہہ سے ہی انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالے قیامت کے دن مُونہہ پر مہر لگا دینگے تاکہ انکار نہ کر سکے، اور پاؤں جو کلام سے صامت ہیں، اُن کو قوتِ گویائی عطا کریگا، وہ بغیر مُونہہ لگنے کے بات کرینگے، انسان کا مُونہہ بغیر زبان بات نہیں کر سکتا، اور زبان بغیر مُونہہ کے بول نہیں سکتی، تو اللہ تعالے نے نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ فرمایا نَخْتِمُ عَلٰى لِسَانِهِمْ نہیں فرمایا، کیونکہ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ کا مطلب یہی ہے، کہ یہ مونہہ بحرکتِ زبان نہ بول سکے گا، مونہہ بحکمتِ الٰہی صوت پیدا کرتا ہے اور زبان اُس میں متحرک ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو رب العزت جھوٹ کے انسداد کے لئے مونہہ میں زبان کا حرکت کرنا قطعاً بند کر دیگا، اور مونہہ سے قوتِ صوتی بند ہو جائیگی، یہ ہیں معنی نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ کے، بایں صورت مُنہ کا کلام کرنا قطعاً بند ہو جائیگا، تاکہ انکار کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے، اگر آیت کے یہ معنی نہ کئے جائیں، تو قرآن کریم کے معنی اُلٹ جائینگے، اور جو دنیا میں زبان نے اس مونہہ کے صوت میں متحرک ہو کر جھوٹ بولا ہو گا، یا غیبت کی ہو گی، یا قرآن کریم کے معانی بدلے ہونگے۔ تو اس حیثیت کذائیہ سے جس طرح دنیا میں وہ گویا ہوتی تھی، خداوند کریم بولنے کی طاقت نہ بخشینگے، کیونکہ اگر پھر ویسے ہی طاقت دی تو پھر اُسی عیب کی طرف راغب ہو گا، اس لئے زبان سے حساب لینے کے لئے محض زبان کی جمعیت کو ہی بغیر مونہہ صوت اور تحرک فی الفم

marfat.com

جواب دیتی ہے کہ بیٹیا روٹی ختم ہے، آخیر ایسے بچے کو ماں دو تین طمانچے رسید کر دیتی ہے، کہ تجھے سمجھ نہیں آتی، میں کہہ رہی ہوں، کہ روٹی ختم ہے۔ اب کہاں سے لاؤں؟

ثابت ہوا، کہ یہ عربی لفظ ختم استعمال میں ایسا بدیہی ہوچکا ہے، کہ بچہ بھی بلا نظر و کسب اور بلا مرتب کرنے امور معلومہ کے لفظ ختم کو سمجھ لیتا ہے، تو ختم کے معنی نہ سمجھنے والا بداہت کا منکر ہے، چہ جائیکہ ختم کے معنی اُلٹ بیان کرے، اگر محاورے میں ختم آجائے تو مرزائی معنی صحیح ختم ہی سمجھے، لیکن جب شان مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب العزت ختم کا لفظ بیان فرمادیں، تو مرزائی فوراً انکار کر دیتا ہے یا تاویل کر دیتا ہے،

"مرزائی"۔ واقعی وکیل صاحب نے یہ مطلب اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ کا بیان کرکے قرآن کریم پر ظلم کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہمارے نزدیک اور بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالےٰ قیامت کے دن زبان پر تصدیق اور سچائی کی مہر لگا دیگا، پس وہ سچ سچ بیان کر دیگی، اور جو کچھ وہ اپنے خلاف کہیگی، اُس کی تصدیق کرنے کے لئے ہر ایک عضو اپنے اپنے کردہ گناہوں کا اقبال کریگا، اس طرح الٰہی مہر کی تصدیق ہو جائے گی، اس کی تائید میں حدیث پیش کرتا ہوں،

اَلدَّانَابِیْرُ وَالدَّ رَاهِمُ خَوَاتِیْمُ اللّٰهِ فِیْ اَرْضِهٖ فَمَنْ جَاءَ بِخَاتَمِ مَوْلَاهُ قُضِیَتْ حَاجَتُهٗ۔

دوسری حدیث آمِیْنَ خَاتَمُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ عَلٰی لِسَانِ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ ...... مَعْنَاہُ طَابَعُ اللّٰهِ عَلٰی عِبَادِہٖ،

ثابت ہوا، کہ آمین اللہ کے بندوں پر مہر ہے، اور زبان پر مہر لگادی جائیگی، یعنی اُس کو جھوٹ بولنے سے محفوظ کیا جاویگا، پاکٹ بک از ص ۴۷۳ تا ص ۴۷۴،

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب بیچارے اپنے مرزائیت کے پردے میں ایسے ملبوس ہیں، کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت کو اپنی تاویلوں سے ٹھکراتے ہیں، کہ مرزا غلام احمد صاحب کی بات صحیح ہو جائے، اُن کی بات نہ بگڑنے پائے، قرآن کریم خواہ کتنا ہی بگاڑنا پڑے، اور خصوصاً مرزائی صاحب کو تو قرآن بگاڑ کر بیان کرنے کا تاویان سے سٹیفکیٹ مل چکا ہے، اب یہ قرآن کریم کو صحیح بیان نہیں کر سکتا، اب فرماتے ہیں، کہ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ چونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کرنے کو ثابت کرتا ہے، اور یہ بات مرزا صاحب کے خلاف پڑتی ہے۔ لہذا اس کے معانی بھی بدلنے کی کوشش کی، ایسا نہ ہو کہ خاتم النبیین کی

marfat.com

"یعنی اگر کوئی تکلیف انسان کے سر میں ہو، تو اس کا اظہار بھی زبان کرتی ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں میں کوئی خرابی ہو، تو وہ بھی زبان ہی بتاتی ہے، تو بظاہر خیال ہو سکتا تھا، کہ ممکن ہے قیامت کے دن بھی صرف زبان ہی اپنے علاوہ دوسرے اعضا کے گناہ بیان کردیگی۔

اب اے اُمت مرزائیہ! تمہیں تمہارے پاپا کے قادیانی کی قسم ذرا عقل انسانی کو حاضر کر کے خدائی کلام اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ کے ساتھ تمہارے وکیل صاحب کی اس آیت کے متعلق شرح الشرح خط کشیدہ کوئی دُور کا تعلق بھی رکھتی ہے؟ اور تمہیں ماننا پڑیگا، کہ نہیں، پھر تم خود سوچو، کہ قرآن مجید کے مطلب کو اس ظلم عظیم سے ایک امت علیحدہ قائم کرنا تو یہ اُمتِ مرزائیہ کو ہی زیبا ہے، نیفر کی نظر جب وکیل صاحب کی اس قرآن دانی پر پڑتی ہے، تو شرم آتی ہے کہ ایسی بات کو دیکھ کر کافر بھی بھینبیاں اُڑائیگا، کہ خادم صاحب جیسے عربی دان کی ضرورت لاہور کے چڑیا گھر میں خاص طور پر ہے، کہ اللہ تعالے فرمادیں کہ قیامت کو ہم اُن کے مونہوں پر مہر لگا دینگے اور مرزائی اس کا مطلب یہ سمجھے کہ زبان کو دوسرے اعضاؤں کے عیوبات بیان کرنے کی زیادہ قوۃ حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ! اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ کو بیان کر کے خداوند کریم نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار فرمایا ہے، کہ زبان منہ میں گویا ہے، لیکن میری قدرت یہ ہے، قیامت کو زبان بند ہو جائے گی، اور ہاتھ پاؤں، چمڑا، آنکھیں کان وغیرہم جو کلام سے عاری ہیں، یہ تمام میری قدرت سے بغیر مُنہ ہونے کے گویا ہونگے، اگر مُنہ کے بند ہونے کا اور باقی اعضا کے کلام کرنے کا اقرار نہ کیا جائے، تو قدرتِ خداوندی کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے، جس کو رب العزت نے پر زور ارشاد فرمایا ہے،

باقی رہا تمہارا کہنا، کہ خاص طور پر لفظِ خاتم پر بحث ہے، تو پہلے اپنے گریبان میں مُنہ ڈال کر دیکھو کہ جو تم نے امثلہ عرب کے محاورہ کی پیش کی ہیں، ان میں لفظ خاتم مذکور ہے، جب نہیں اور پھر بھی ختم سے ختم ہونا ہی ثابت ہو رہا ہے، اور تم مرزائی پھر بھی ایمان نہ لاؤ، تو یہ مرزائیوں کی مرضی،

مرزائی صاحب! تم تو دوسرے بچوں سے بھی گزر گئے، بچہ ماں سے روٹی مانگتا ہے، کہ اماں جی روٹی دے، اگر اس کے پاس روٹی نہ ہو، کہ ماں بچے کو ایک ہی دفعہ کہدے کہ بیٹا روٹی ختم ہے، تو لائق بیٹا فوراً خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں بلا تشریح آجاتا ہے، کہ روٹی ختم ہے، اور جو ڈھیٹ بچہ ہو، وہ باوجود سمجھنے کے بھی مطالبہ کر دیتا ہے تو ماں اس کو دو تین دفعہ

marfat.com

بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ہ کے بیان الٰہی نے افواہ کفار کی صفت کلامیہ کو مطلقاً بند فرما دیا، اس میں کوئی غیر اللہ یہ تخصیص اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، کہ خداوند تعالٰے کلام صادقہ پر مہر لگا دینگے یا کاذبہ پر،

اور دوسرا یہ بھی ثابت کر دیا کہ جس پر مہر لگائی جاتی ہے، اس سے وہ صفت جس کا پہلے اجرا تھا، اب بند ہو گئی ہے، اسی لئے اس سے اس صفت مختومہ کو ختم کر کے دوسری جس چیز کی وہ صفت عطا کی گئی، ساتھ ہی ذکر فرما دیا، کہ شئ مختومہ سے کوئی سقیم الفہم یہ نہ مراد لے لے، کہ جس پر مہر لگ جائے، اس میں اس ختم لگانے سے صفت کا اجراء ہو جاتا ہے، جیسا کہ مرزائی کافر کے مونہہ پر صدق کی مہر لگا کر صدق کا اجراء سمجھ بیٹھا ہے، نہیں نہیں! مرزائی صاحب جس پر مہر لگ جائے شے مختومہ یا صفت مختومہ کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی لئے جس شے سے مثلاً مونہہ سے جس صفت کو ختم کیا گیا، اُس کا بھی ذکر کیا اور اس کی دلیل دی، کہ جس میں وہ صفت ثابت فرمائی اس کا بھی ذکر فرمایا، مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ، تو ثابت ہوا، کہ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ سے تم نے جو سچائی کی مہر مراد لی ہے، اور اس کا اجراء مراد لیا ہے دونوں ہی غلط ہیں، جو وَتُکَلِّمُنَآ اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ نے واضح کر دیا،

دوسری شق کی مثال کہ مختوم علیہا سے جس صفت کو ختم کیا گیا اُس کو بیان کیا جائے، مثلاً

جاثیہ ۲۵/۳ خَتَمَ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ہ

اللہ تعالٰے نے فرمایا کہ کافر کے سمع پر اللہ تعالٰے نے مہر لگا دی اور اس کے دل پر مہر لگا دی اس کے بعد ان کی جس صفت پر مہر لگائی بیان فرما دی فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ کہ اللہ کے علاوہ کون ہے، جو ہدایت دے، تو ثابت ہوا، کہ کفار کے سمع کی صفت ہدایت پر اللہ تعالٰے نے مہر لگا دی؛ ہر بات کو سنتے ہیں، لیکن ان کے جرائم عظیمہ کثیرہ کی پہلی سزا اُن کو رب العزت کی طرف سے یہ ہے، کہ اُن کے سمع ہدایت پر اللہ تعالٰے نے مہر لگا دی ہے، اب کوئی اُن کو ہدایت نہیں دے سکتا، ایسے ہی اس کے دل پر بھی مُہر الٰہی لگ چکی ہے، اور دل سے صفت ہدایت بند ہو چکی، اُن کا دل ہر چیز قبول کریگا، لیکن ہدایت الٰہی سے محروم ہے، کیونکہ خداوند

marfat.com

نائید ہو جائے، فرماتے ہیں، کہ اس کے معانی ہمارے نزدیک یوں بھی ممکن ہیں، یعنی یہ بیان کردہ معانی عبارت سے متعلق نہیں، لیکن مرزائیہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، کیسے؟

یوں! کہ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ سے مراد یہ لی جائے، کہ اللہ تعالےٰ قیامت کے دن کفار کے مونہہ پر صدق کی مہر لگا دینگے،

مرزائی صاحب! تم مسلمانوں کو کسی طرح دھوکا نہیں دے سکتے، اللہ تعالےٰ نے جس مقام پر ختم کا استعمال فرمایا ساتھ ہی ماقبل یا مابعد مختوم علیہم کی جس صفت پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت فرمائی، اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ایسا نہ ہو، کوئی کج فہم مختوم علیہم کی کوئی اور صفت اپنی طرف سے مقرر کرلے، یا مختوم علیہ کی جس صفت پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیا، اُس کے ساتھ ہی اس مختوم علیہ والی مختومہ صفت کو واضح فرما دیا جو اُن میں وہ صفت پہلے معدوم ہوتی ہے، تاکہ دشمن کو ثابت ہو جائے، کہ مختوم علیہ سے مہر لگا کر اس صفت کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو صفت عطا کی جاتی ہے، حالانکہ قبل از ختم مختوم علیہ میں یہ صفت موجود تھی، اب اس کے مقابلہ میں جس کو وہ صفت عطا کی جاتی ہے، اس کا ذکر کرنا مختوم علیہ سے اس صفت کے اجراء کو ختم کرنے کی دلیل قاطع ہوتی ہے، شق اول کی مثال قرآن پاک سے ملاحظہ فرمایئے،

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓی اَفْوَاهِهِمْ (اللہ تعالےٰ قیامت کو فرما دینگے) آج دن ہم کفاروں کے مونہوں پر مہر لگا دینگے،

اب مختوم علیہا تفصیل کی محتاج تھی، کہ مونہہ کے جسم پر مہر لگے تاکہ خوبرو معلوم ہو، یا اس کی کسی صفت پر مہر ہو گی، تو رب العزت نے اس ابہام کو دور کرنے کے لئے مختوم علیہا کی مختومہ خصوصیت کی دلیل بیان کرنے کے لئے مختوم علیہا سے ختم کر کے جس صفت کو بند فرمایا ہے اور اس کے مقابلہ میں جس میں وہ صفت پہلے معدوم تھی، اس میں اس صفت کا اثبات کر کے مذکورہ مختوم علیہا کی مختومہ صفت کی دلیل فرمائی،

فرمایا: وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ کہ جب ہم کفار کے مونہوں پر مہر لگا دینگے تو اُن کے مونہوں کو جو آلۂ کلام بنایا ہوا ہے، وہ ان کی قوۃ متکلمہ والی صفت بند ہو جائے گی، کیونکہ اس سے وہ صفت چھین کر ہاتھوں اور پاؤں کو دے دی جاویگی، جو ان کے ہاتھ پاؤں بلا اسباب کلام کرینگے، تو وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

marfat.com

کر کے اس پر ختم کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً وَختمنا به النبیین مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا علیہم السلام کے ختم کرنے والے ہیں، تو یہاں انبیا علیہم السلام کے اسماء کا ذکر کر کے مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو انکا خاتم مقرر فرمایا، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرما کر ثابت کر دیا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا علیہم السلام کے من حیث النبوۃ خاتم ہیں، اب کوئی بھی من حیث النبوۃ نہیں آسکتا، اور نہ ہی کوئی اب مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت بن سکتا ہے، کیونکہ جب ماسبق کی نبوت کو آپنے ختم کر دیا تو آئندہ کون مدعی ہو سکتا ہے، اگر کوئی دعوٰی نبوت کرے تو وہ آیت وَخاتم النبیین کا منکر ہے، کیونکہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب العزت نے باقی انبیا علیہم السلام سے ممتاز صفت ختم عطا فرمائی ہے، مرزائی اس کا منکر ہے، اور بیک وقت تین جرموں کا مرتکب ہو رہا ہے

ایک خداوند کریم کی صفت عطا کردہ ختم نبوت کا انکار،

دوسرے آیت خاتم النبیین کو اپنی مرضی کے مطابق صحیح معنی بگاڑ کر غلط معنی کر کے قرآنی معنی کی تحریف کرتا ہے، اور اس کی تائید میں کتنی بھی قرآنی آیتیں ہوں پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور

تیسرا جرم یہ کہ ان غلط تاویلات کی تبلیغ کر کے امت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو منکر قرآن کریم بناتا ہے، منکر قرآن کریم صرف ایک ہی جرم میں گرفتار ہے، لیکن مرزائی ہر ایک مسئلہ میں تین تین جرموں میں گرفتار ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، خداوند کریم فرماوے کہ ہم کفار کے مونہوں پر مہر سکوت لگا دینگے، لیکن مرزائی کو فرمانِ خداوندی پر اعتماد نہیں، مرزائی کہتا ہے، نہیں نہیں، مونہہ پر مہر لگانے سے کلام صدق کی زباندانی مراد ہے، مرزائی صاحب گرنتھ کی صحیح ترجمانی کرینگے، بید کو صحیح بیان کرینگے، بائیبل کو صحیح بیان کرینگے، لیکن مرزائی صاحب کے سامنے جب قرآن کریم آجائے، تو اس میں سوائے مخالفت کے ایک آیت بھی موافق نہیں، آخر راز کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اور کسی مذہب کی کتاب میں مرزاجی کا رد ایسا موجود نہیں اور قرآن کریم تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ نے مرزاجی کے ایک ایک بہتان کا پردہ فاش کیا ہے، اس لئے وہ گوارہ نہیں، سوائے اس کے کہ مخالفت کی جائے، ایسے ہی آیت خاتم النبیین کے اتنے معانی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی مؤیدہ آیتوں کو ٹھکراتا ہے۔

marfat.com

کریم نے اُس کے دل کی صفت ہدایت پر مہر لگا دی اب وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، تو فَمَنۡ یَّھۡدِیۡہِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰہِ نے خَتَمَ عَلٰی سَمۡعِہٖ وَقَلۡبِہٖ کے ابہام کو دُور کر دیا، اب خَتَمَ عَلٰی سَمۡعِہٖ سے کوئی منافق یہ معنی مراد نہیں لے سکتا، کہ یہاں مہر سے مراد یہ ہے کہ کانوں میں اللہ تعالےٰ گول گول مہر کی طرح بالیاں ڈال دیگا، تاکہ خوبصورتی ظاہر کریں، عَلٰی قَلۡبِہٖ سے یہ مراد نہیں لے سکتا، کہ یہاں مرزائیت کی روشنی کا اجرا کھل رہا ہے، بلکہ فَمَنۡ یَّھۡدِیۡہِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰہِ نے واضح کر دیا، کہ خَتَمَ عَلٰی سَمۡعِہٖ وَقَلۡبِہٖ سے مراد ہدایت کا خاتمہ مقصود ہے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بات مرزائی سامع کو مؤثر ہو، لیکن ختم الٰہی لگنے سے مرزائی سامع کلام خداوندی اور حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی بات نہیں سُنیگا، ایسے ہی جس کے دل پر اللہ تعالےٰ نے مہر لگا دی ہے، اس کے قلب میں مرزائیت مؤثر ہو، تو ہو، لیکن بوجہ ختم الٰہی کے لگ جانے کے اس کے دل میں قرآن اور حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کی تائید میں فرمایا: مَنۡ یُّضۡلِلِ اللّٰہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ وَیَذَرُھُمۡ فِیۡ طُغۡیَانِہِمۡ یَعۡمَھُوۡنَ کفار اپنی سرکشی میں چونکہ اندھے ہوتے ہیں تو خداوند کریم اُن کی سرکشی میں ہی اُن کو ترک کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر گمراہ ہونے کا صحیح فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور جس کو خداوند کریم گمراہ ثابت کر دیں اس کو کوئی ہدایت پر ثابت نہیں کر سکتا اور ایسی حالت میں مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی بھی اگر کوئی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالےٰ اُس کے دل پر مہر ضلالت چسپاں کر دیتے ہیں، جب خداوند کریم کی طرف سے مہر ضلالت ثبت ہو جائے، تو وہ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ کے معنون ثابت ہو جاتے ہیں، اُنہی کے حق میں یہ ارشاد خداوندی ہے، خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوۡبِہِمۡ،

اگر ایسے لوگوں پر مہر بے ایمانی پوری نہیں لگی، تو تم اُن کو ایمان دار کہا کرو، اور کہہ بھی لو تو مرزائیوں سے کچھ بعید ہے، کیونکہ ؎

"کند ہم جنس باہم جنس پرواز"

تیسری صورت یہ ہے کہ ختم کے معنی شئے کی کسی صفت کو ختم کرنا مقصود ہو اور صفت مذکور نہ ہو، تو اس شئے کا ذاتی نام نہیں لیا جاتا، بلکہ محض اس مختومہ صفاتی نام سے ہی موسوم

marfat.com

مرزائی کو جب احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ قبر میں نکیرین حساب کے لئے آتے ہیں، تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر فیصلہ ہوتا ہے، تو مرزائی نے نکیرین کا قبور میں اہلِ قبور سے حساب لینے سے ہی انکار کر دیا، اور جب سنا کہ میدانِ حشر میں بھی سب لوگ آخیر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی پناہ گزین ہونگے، تو حشر کا ہی انکار کر دیا، مرزائی کو قرآن کریم کا دریغ نہیں، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ خاتمیت کا قدر نہیں، اگر قدر دان ہے تو صرف ایک مرزاجی ہی کا۔ اگر مرزاجی دن کو رات کہدیں تو مرزائی بھی رات کہنے کو تیار ہے اگر رات کو دن کہدیں تو دن ماننے کو تیار ہے، قلبِ مرزائی میں یہ کبھی کھٹکا ہی نہیں کہ امت مرزائیہ کی ہیرا پھیری کے مقابلے میں چودہ سو سال کی اتنی بڑی اُمَّتِ مُحَمَّدِیَہ سے علیٰحدہ ہو رہا ہوں اور قرآن کریم یا احادیث مصطفویہ کو چودہ سو سال اُمّتِ محمدیہ نے نہیں سمجھا، جو آج مرزائی بیان کر رہا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، کہ یہ کوئی علیٰحدہ اختراع ہے، جو جہنم کے گڑھے میں لے جا رہی ہے،

باقی رہا تمہارا کہنا، کہ آمین مومن بندے کی زبان پر مہر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لئے دلیل اور اجرائے نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ آمین دعا کے آخیر میں کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، کہ اللہ تعالےٰ نے بندے کی زبان پہ آمین کی مہر لگا دی ہے، کہ دعا کے آخیر میں یہ کہا جاوے، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی شرح موجود ہے،

جامع صغیر اَوْجِبْ اَنْ خَتَمَ بِآمِیْن

اپنے لئے یہ واجب کرلے کہ آمین کے ساتھ دعا ختم کی جائے،

کیوں جناب؟ یہاں ختم کے معنی مراد ہیں یا اجراء کے، اس کو کہتے ہیں ایمانداری کی بات ثابت ہوا، کہ آمین سے دعا کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیئے، ورنہ قانونِ خداوندی کا خلاف ہوگا، اور پھر آگے آمین ایک جنت کا درجہ بھی بتایا گیا ہے، ختم کے ساتھ اس کو تعلق ہماری تائید میں ہے، کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو اللہ تعالےٰ دعا کے آخر میں آمین کہنے والے کو جنت کا درجہ آمین پر مہر لگا دیتے ہیں، کہ بس اب یہ تیرا ہو گیا، تو یہاں بس کے معنی میں آیا ہے، تو یہاں خاتم بھی تمہارے خلاف ثابت ہوا اور ختم کے معنی جو تم حفاظتِ الٰہی کے کرتے ہو، یہ قطعاً بے بنیاد ہیں، جس کا عبارت سے کوئی مطلب نہیں،

marfat.com

آخر کیوں؟ اس آیت پاک میں مرزائی کیوں اتنی ہیرا پھیری کر رہا ہے، کیوں ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اس آیت سے گریز کرتا ہے؟

اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، کہ یہ آیت مرزاجی کی نبوت کو اسلام میں گھسنے نہیں دیتی، اور پھر وکیل صاحب ایسے سادہ لوح ہیں، کہ ایسی حدیث جو مرزائیت کا خاتمہ کر رہی ہے، اس کو اپنی تائید اجرائے نبوت میں پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلدَّنَانِیْرُ وَالدَّرَاهِمُ خَوَاتِیْمُ اللّٰهِ فِیْ اَرْضِهٖ فَمَنْ جَآءَ بِخَاتَمِ مَوْلَاهُ قُضِیَتْ حَاجَتُهٗ۔ زمین میں دینار اور دراہم اللہ تعالے کی مہریں ہیں، پس جو شخص اپنے آقا کی مہر لے کر آتا ہے اُس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے،

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ دراہم اور دنانیر بھی خدائی مہر شدہ ہوتے ہیں، تو جو شخص کسی حاجت کے لئے بازار جائے، مثلاً کوئی چیز خریدنے کے لئے جائے تو جس بادشاہ کی حکومت میں سودا لینے کے لئے جاتا ہے، تو دراہم اور دنانیر اس حکومت کے مختومہ ہیں، تو وہ اپنی حاجت پوری کر کے آئیگا، یعنی مطلوبہ شے خرید کر لادیگا، ورنہ ناکام واپس ہوگا، جیسا کہ مثلاً حکومت پاکستان میں اگر کوئی پاکستانی سودا لینا چاہے، تو پاکستانی مختومہ سکّہ یا نوٹ ہی دیگا، تو سودا ملیگا، ورنہ ناکام واپس ہوگا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حکومت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم میں کھرا سکّہ یعنی اپنی جان ومال جو مختوم بمُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ ہونگے، خدا کے ہاں پیش کریگا، تو اس کو خداوند کریم کی طرف سے ایمان وہدایت ملیگا ورنہ جو حکومت مُحَمَّدٌ مصطفٰے صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ اپنے جان ومال کو مختوم بنبوۃ تادہانی خداوند کریم کے ہاں پیش کریگا، تو اُس کو خداوند کریم کی طرف سے ایمان وہدایت نہ مل سکیگا، کیونکہ جیسے ہندوستانی یا جاپانی سکّہ پاکستان میں نہیں چل سکتا ایسے ہی دربار الٰہی میں اب قیامت تک جو مُحَمَّدٌ ﷺ مختومہ جان ومال پیش کریگا، تو اس کے بدلے دنیا میں ایمان وہدایت ملیگی ورنہ نہیں، اور اسی محمدی مختومہ وجود کے پاس جب قبر میں نکیرین حساب کے لئے پہنچیں گے تو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم کی علامت پر ہی سفارش فرماوینگے اور میدان محشر میں اس سکہ کی قدر ہوگی،

marfat.com

چونکہ تمہارے دل کی قوت ایمانی پر رب العزت نے مہر لگادی ہے، ایمان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی، قرآن کی آیت کا مطلب صاف ہو، لیکن تمہارے دل پر اس کا اثر کبھی نہ ہوگا، خواہ کتنا ہی سمجھاؤ، یہی خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ کا مطلب ہے، لیکن خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ کے معنی رب العزت نے قوت ایمانی ختم کرنے کے لئے لَا یُؤْمِنُوْنَ سے بیان فرمائے ہیں، بجناب مرزائیت و بختم ایمان کبھی نہیں سمجھے گا، اور غلط کہنے سے کبھی باز نہ آئیگا، اور اگر تمہارے دل پر مہر خداوندی نہیں تو بھلا اس آیت کے مطابق صحیح مطلب پر ایمان لاکر دکھاؤ تو سہی، معلوم ہو جائیگا، کہ تمہارے دل پر مہر ہے؟ یا نہیں، یہ ہے تمہارے دلائل کا جواب۔

اب (ب) کا جواب عرض کرتا ہوں، جنکے متعلق رب العزت نے نص بیان فرمائی ہے، کہ خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ مثلاً ابوجہل، ابولہب وعقبہ وغیرہم تھے، تو وہ ہرگز ایمان نہ لائے، تو فرمانِ الٰہی خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ صادق ہوا، باقی ہم کسی کے متعلق خصوصیت سے خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ نہیں کہہ سکتے، خداوند کریم جس کے متعلق فرمائے وہ واقعی ایمان سے محروم ہی مرتا ہے،

(ج) کا جواب ملاحظہ ہو، کفر تو ان کے دلوں میں پہلے ہی کفر ہے، وہاں دخول کا سوال ہی کیا، اگر کفر نہ ہوتا تو مہر کیوں لگتی، مہر لگنے کی وجہ سے دخول ایمان محال ہے، تو جیسا کہ کفار کے دلوں پر مہر لگ جائے تو دخول ایمان محال ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، اب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی محال ہے، اور بموجب حکم قرآنی مدعی کا ذب سمجھا جائیگا، اور اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والا منحرف قرآن ثابت ہوا، اس کے دل کی قوتِ ایمانی پر رب العزت نے مہر ثبت فرمادی ہے، وہ لَا یُؤْمِنُوْنَ کا معنون ہو چکا، تمہارا یہ مراد لینا کہ اس کے گند پر مہر لگی رہی نکلتا ہے، از روئے آیت قرآنی ثابت ہوا، تو فقیر نے جتنی قرآنی آیات ختم کے متعلق پیش کیں، ان سب سے ختم کرنا ہی ثابت ہوا اور تم ایک آیتِ قرآنی ثابت نہیں کر سکتے، کہ جس میں ختم کے معنی اجراء کے ہوں، اگر ختم کے معنی اجراء کے ہو جائیں تو ختم، ختم ہی نہیں، کیونکہ ختم اور اجراء دونوں کلمے متضاد ہیں، اور ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور اجتماعِ نقیضین محال، ہاں مرزائیہ سے توقع ممکن ہے، کہ دن کے معنی رات کردے، تو اس کے ساتھی ضرور شاباش کا نعرہ بلند کرینگے ؎

قلم بھی اُٹھا اور تلوار ہم سے رہیگا یہ بازو ہی غالب ہمارا

marfat.com

"مرزائی"۔ خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ کہ اللہ تعالٰے نے کافروں کے دل پر مہر لگادی، تو اس کے معنی اگر بند کئے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، کہ

(۱) ۔ کافروں کی حرکتِ قلبی بند ہوگئی، حالانکہ یہ غلط ہے،

(ب) ۔ کیا ان کافروں میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا،

(ج) ۔ اگر یہ معنی کرو کہ کافروں کے دلوں میں ایمان کی کوئی بات داخل نہیں ہوتی، تو پھر سوال یہ ہے، کہ کفر کی بات اُن کے دلوں میں داخل ہوتی ہے کہ نہیں، جب ہوتی ہے، تو پھر بھی ختم کے معنی پورے بند ہونے کے نہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نبی نہیں آسکتا، آپ کی تائید کے لئے آسکتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، کہ کافروں کے گندے اور قابلِ نفرت ہونے پر مہر تصدیق ثبت کردی، قلم ہی اُٹھے گا نہ تلوار اُن سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، پاکٹ بک از صـ ۴۷۵ تا صـ ۴۷۶ ،

"محمد عمر"۔ مرزائی صاحب کی قرآن دانی کوشش کر تو اُلو بیچارے بھی ہنستے ہونگے، کیونکہ فقیر پہلے قرآنی محاورے کو عرض کرچکا ہے، کہ ختم کا لفظ جس پر مستعمل ہوتا ہے، اس کی جس صفت پر ختم مراد ہوتی ہے، شئے کی اس صفتِ مختومہ کا ذکر ماقبل یا مابعد ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس مذکورہ آیت خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ تو اس میں ابہام تھا، کہ قلب کی حیثیت پر مہر لگتی ہے، یا قلب کے خون پر، یا قلب کے فہم پر، تو اللہ تعالٰے کو علم تھا کہ مرزائی پیدا ہونگے، جو میری آیات کو بگاڑ کر بیان کرینگے، اس لئے رب العزت نے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَیْہِمْ ءَاَنْذَرْتَہُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ پہلے فرمادیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یکساں ہے، بے ایمان ہی رہیں گے، آگے فرمایا خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ، ثابت ہوا، کہ انکار دائمی کے سبب اللہ تعالٰے نے اُن کے دلوں پر مہر لگادی کہ اب اُن کے دلوں پر ایمان مؤثر نہیں ہوسکتا، تو لَا یُؤْمِنُوْنَ کے ذکر نے اُن کے دلوں کو قوۃ ایمانی پر مہر لگانے کی تخصیص فرمادی، اب اس کے علاوہ کوئی کج طبع خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ کی تخصیص ایمانی کو دوسری طرف نہیں لے جاسکتا، جیسا کہ تم مرزائی حرکتِ قلب مراد لے رہے ہو، تم نے اس مثال کو سمجھا ہو، تو اپنے گریبان میں ہی منہ ڈال کر ملاحظہ فرمالو، تمہیں اس آیتِ کریمہ کا معنون نظر آجائیگا، کہ مرزائیہ کے دل میں ہر بات آسکتی ہے، لیکن

marfat.com

بہائم نے بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی شہادت دی

(۱) البدایہ والنہایہ ۶/۱۵۱

خصائص کبریٰ ۲/۶۴

اخبرنا ابوالحسن احمد بن حمدان السحری حدثنا عمر بن محمد بن بحیر حدثنا ابوحعفر محمد بن یزید املاءً انا ابوعبد اللہ محمد بن عقبہ بن ابی الصہباء حدثنا ابوحسن یفہ عن عبد اللہ بن حبیب الهذلی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی منظور لما فتح اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر . . . . فکلمہ الحمار فقال ما اسمک قال یزید بن شہاب اخرج اللہ من نسل جدی ی غیری ولا من الانبیاء غیرک،

جب اللہ تعالٰے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح خیبر عنایت فرمائی، . . . . . . تو آپ کے ساتھ گدھے نے کلام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے، گدھے نے عرض کی یزید بن شہاب، میری نسل کی جد سے کل ساٹھ گدھے نکلے ہیں، نہیں سوار ہؤا، اُن پر سوائے نبی کے، میری جد کی نسل سے سوائے میرے کوئی گدھا باقی نہیں رہا، اور نہیں باقی رہا نبیوں سے سوائے آپ کے،

اگر یہ سچ ہے تو مرزائی دوستو یقین سمجھو، کہ جو شخص مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب اجرائے نبوّت کا قائل ہے، وہ گدھے سے بدتر ہے،

ضب (گوہ) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوّت ختم ہونیکی شہادت دی

البدایہ والنہایہ ۶/۱۴۹ قال البیہقی انا ابو منصور احمد بن علی

marfat.com

کیا ختم کیا؟

"مرزائی":۔ پھر سوال یہ ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ختم کیا؟ آپ سے پہلے آدمؑ، نوحؑ، موسیٰؑ وغیرہ انبیاء علیہم السلام تو سب کے سب پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا کیا ختم، البتہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جو بقول شما ابھی ختم نہ ہوئے تھے، سو وہ اب بھی ختم نہ ہوئے، بلکہ تمہارے خیال میں ابھی انہوں نے قیامت سے قبل آنا تھا تو پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت کیا رہ گئی، پاکٹ بک از صفحہ ۲۴۵ تا صفحہ ۲۵۱،

"محمد عمر":۔ مرزائی صاحب بڑے سادہ لوح ہیں، سوال کرتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ختم کیا؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا جو پہلے اجراء تھا، اس کو بند کر دیا، اور یہ محاورہ ہے، اور جو محاورہ کو بھی نہ سمجھے تو وہ بھی عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا کا مصداق ہے، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیائے کرام کا اجراء تھا، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے نبیوں کو ختم کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی نبوت کی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں، اس لئے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی ختم کر دیا، اب قیامت تک مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی جاری رہے، باقی سب انبیاء علیہم السلام کی نبوت آپ کے تشریف لانے سے ختم ہو چکی، اب ان کی نبوت کا اجراء نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہمارا عقیدہ، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا جو ابتداء آفرینش سے قیامت تک اور قیامت میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ یہی رہیگا، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا عقیدہ صرف ہمارا ہی نہیں، بلکہ حجر و شجر و حیوانات اور درندو چرند و پرند بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم تسلیم کر چکے ہیں،

---

marfat.com

کتب عقائد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے،

(۶) ۔ شرح عقائد نسفی ۹۹

وَاَوَّلُ الْاَنْبِیَاءِ اٰدَمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَاٰخِرُھُمْ مُحَمَّدٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ،

تمام انبیاء علیہم السلام کے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے آخر محمد علیہ السلام ہیں،

۷ ۔ شرح عقائد نسفی ۱۰۱

وَکَلَامُ اللّٰہِ الْمُنَزَّلُ عَلَیْہِ عَلٰی اَنَّہٗ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَاَنَّہٗ مَبْعُوْثٌ اِلٰی کَافَّۃِ النَّاسِ بَلْ اِلَی الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

ثَبَتَ اَنَّہٗ اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ ...... فَاِنْ قِیْلَ قَدْ وَرَدَ فِی الْحَدِیْثِ نُزُوْلُ عِیْسٰی بَعْدَہٗ قُلْنَا نَعَمْ لٰکِنَّہٗ یُتَابِعُ مُحَمَّدًا عَلَیْہِ السَّلَامُ لِاَنَّ شَرِیْعَتَہٗ قَدْ نُسِخَتْ۔

اور اللہ کی کلام جو مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس بات پر شاہد ہے، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، اور بلاشک آپ بھیجے گئے ہیں، تمام لوگوں کی طرف، بلکہ جن وانس کی طرف، ثابت ہوا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، پھر اگر سوال کیا جائے کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے آپ کے بعد حضرت عیسٰی علیہ السلام کا اُترنا، تو ہم جواب دیتے ہیں، ہاں (ضرور اُتریں گے) لیکن وہ محمد علیہ السلام کے تابع ہوں گے، اس لئے کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی شریعت یقیناً منسوخ ہو چکی،

کیوں جناب وکیل صاحب؟ اب تو مسلمانوں کے اجماعی عقائد کی کتب سے بھی مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو گیا،

معلوم ہوا، کہ تمام امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے پر ہے،

marfat.com

کلمہ پڑھکر پھر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا انکار کرے، تو گویا ایسا شخص مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہر من الشمس شان کا منکر اور ختم نبوت کا منکر اور منکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منکر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم منکر قرآن کریم ہے، اب نتیجہ آپ کے ذمہ ہے،

دلائل ختم نبوت از اقوال سلف صالحین

(۱)۔ خصائص کبریٰ ۲/۱۸۸

اَلْاِجْمَاعُ عَلٰی اَنَّہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَبْعُوْثٌ اِلٰی جَمِیْعِ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ۔

جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں،

(۲)۔ الیواقیت والجواہر ۲/۷۲

اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی قَدْ سَدَّ بَابَ عَنْ کُلِّ مَخْلُوْقٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق سے دروازہ (نبوۃ) بند کیا گیا ہے،

(۳)۔ جواہر البحار ۲/۱۲۵

وَکُلُّ مَنْ اِدَّعَاھَا النُّبُوَّۃَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَھُوَ مُدَّعٍ شَرِیْعَۃً اُوْحِیَ بِھَا اِلَیْہِ سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْعَنَا اَوْ خَالَفَ فَاِنْ کَانَ مُکَلَّفًا ضَرَبْنَا عُنُقَہٗ وَاِلَّا ضَرَبْنَا عَنْہُ صَفْحًا۔

(۴)۔ نخبۃ الفکر ۳

وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ اَرْسَلَہٗ اِلَی النَّاسِ کَافَّۃً بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا۔

(۵)۔ تفسیر ابن عربی

مُحَمَّدٌ اَلَّذِیْ ھُوَ اٰخِرُ الْوُجُوْدِ خَتَمَ دَائِرَتَہٗ وَمُتَّصِلٌ بِاَوَّلِھَا وَلِھٰذَا خُتِمَ۔

marfat.com

(۲)۔ کتاب المبسوط ۱/۲ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَۃُ الْاَنْبِیَاءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّۃِ ھٰذِہِ الدَّرَجَۃُ اَعْلَی النِّھَایَۃِ فِی الْقُوَّۃِ۔

علمائے ربانی نبیوں کے وارث ہیں اور نبوت کے منقطع ہونے کے بعد نوت میں یہ آخری اعلیٰ درجہ ہے

محمد اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ختم نبوت پر تھا

(۳)۔ فتوائے عالمگیری ۱/۲ اَلَّذِیْ بَعَثَہُ اللّٰہُ حُجَّۃً عَلَی الْجَاحِدِیْنَ وَخَتَمَ بِہٖ بَابَ النُّبُوَّۃِ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ

وہ ذات (مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم) جنکو اللہ تعالےٰ نے بھیجا منکرین پر حجت ۔ اور آپ کے ساتھ تمام رسولوں پر نبوت کا دروازہ بند کردیا،

وکیل صاحب! آپ تو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی فارسی کتابوں سے بھی ناآشنا معلوم ہوتے ہیں، اگر کم ازکم گلستاں بوستاں ہی پڑھے ہوتے تو کبھی اس گڑھے میں نہ گرتے ، ملاحظہ ہو:

بوستان ۷

کریم السجایا جمیل الشیم
نبی البرایا شفیع الامم

مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی عادت والے نیک خصلت والے نبی تمام خلق کے، تمام امتوں کے سفارش کرنیوالے

بوستان ۱۲

چہ نعت پسندیدہ گویم ترا
علیک السلام اے نبی الوریٰ

آپ کی شایانِ شان کیا نعت عرض کروں
آپ پر سلام ہو اے نبی تمام مخلوق کے

گلستان ۴

وتتمہ دورِ زمان احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے دور زمانہ کو پورا کرنیوالے ہیں،

marfat.com

(۸) - حیوٰۃ الحیوان ۱/۴۳	قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْیُ ضرور وحی منقطع ہو چکی،
(۹) - شرح شفا شریف ۱/۱۰۹	(وَ اٰخِرُهُمْ فِی الْبَعْثِ)، اَیْ لِكَوْنِهٖ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ ۔

(اور تمام انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے میں)، یعنی واسطے آپ کے نبیوں کے ختم کرنیوالے

(۱۰) - فتاوٰے حدیثیہ ۱۳۴	فاوحی اللہ تعالٰی الیہ وعزتی وجلالی انہ لاخر النبیین من ذریتک ولولاہ ماخلقتک ۔

تو اللہ تعالٰی نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ قسم ہے مجھ کو میری عزت کی اور میرے جلال کی، بے شک مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا علیہم السلام کے آخری نبی ہیں تیری اولاد سے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا ۔

(۱۱) - الانسان الکامل ۵	والصلوٰۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ۔

اور صلوٰۃ اور سلام اس ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں،

طوالت کی وجہ سے فقیر اتنے حوالہ جات پر اکتفا کرتا ہے، ورنہ ہزارہا بزرگان دین کے حوالہ جات موجود ہیں،

فقہاء کرام کا عقیدہ بھی ختم نبوت پر تھا

عقیدہ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ

(۱) - فتاوٰے خیریہ ۱/۲	مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَالْمُرْسَلِیْنَ ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں،

علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

marfat.com

کے نزدیک مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اُمتی کے لئے نبی کا اطلاق جائز ہی نہیں، چہ جائیکہ بموجب قواعِ فہم مرزائیہ نبوت کا دروازہ ہی کھول دیا جائے، اور پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیہ کے ایسے دانت کھٹے کر دیئے، کہ جو خصوصی شریعت رکھے وہ نبی کہلا سکتا ہے، جس کے پاس شریعت الیہما انزل علیہ نہیں وہ نبی ہی نہیں، آگے فرمایا لا مقامُنا یعنی قائم مقام نبی کو نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قائم مقام نبوۃ کو نبوۃ مستلزم نہیں،

وکیل صاحب! اگر غیرت ہے تو اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لینا، کہ وہ بھی اجرائے نبوت کے قائل تھے، یہ محض مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے، جیسا کہ اس مذکورہ عبارتوں سے واضح ہے، اگر ان کا عقیدہ تمہاری طرح اجرائے نبوت ہوتا، تو لفظ نبی کے اطلاق کو کبھی منع نہ فرماتے، جب امت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کے لئے آپ لفظ نبی کے عنوان کو گوارہ نہیں کرتے، تو وہ اجرائے نبوت کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ اور چونکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے قائل تھے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لئے انہوں نے فرمایا، اُنْقَطَعَ وَسُدَّ بَابُہٗ کہ باب نبوت بند ہو چکا، اور منقطع ہو چکا، آگے فرمایا لَا مَقَامَ النُّبُوَّۃِ کہ جو نبوت کے مقام پر پہلے فائز ہو چکا ہے، اس کے لئے جگہ خالی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہو چکے لیکن نبی نہیں کہلا سکتے، نبوۃ کا دروازہ بند ہے، نبوۃ کے مقام پر جب نبی نہیں کہلا سکتا تو جاری کیسے ہوا

"مرزائی" :- عارف ربانی سید عبدالکریم جیلانی فرماتے ہیں :-

فَانْقَطَعَ حُکْمُ نُبُوَّۃِ التَّشْرِیْعِ بَعْدَہٗ وَکَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ، (الانسان الکامل)،

کہ تشریعی نبوت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے، پاکٹ بک صـــ۴۴۴،

"محمد عمر" :- وکیل صاحب! مرزائیوں کی قوت ہاضمہ بڑی تیز ہے، کھانا ہضم کرنے کے متعلق تو کیا ہی ہاضمہ درست ہو گا، البتہ کتب کی عبارت کھانے میں بڑی قوت رکھتے ہیں، عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو،

الانسان الکامل مطبع مصری ۲/۱	قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَلَمْ تَنْزِلْ ھٰذِہِ الْاٰیَۃُ عَلٰی نَبِیٍّ غَیْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَلَوْ

نَزَلَتْ عَلٰی اَحَدٍ لَکَانَ ھُوَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَمَا صَحَّ ذَالِکَ اِلَّا لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ

marfat.com

جوابات دلائل امکان نبوّۃ از اقوال بزرگان

"مرزائی" - محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اِنَّ النُّبُوَّۃَ الَّتِیْ اِنْقَطَعَتْ بِوُجُوْدِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا ھِیَ النُّبُوَّۃُ التَّشْرِیْعِ لَا مَقَامُھَا۔

کہ وہ نبوّت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوۃ ہے، نہ کہ مقامِ نبوّت، پاکٹ بک از ص۲۲۲ تا ص۲۲۳،

"محمد عمر" - وکیل صاحب! آپنے لَا مَقَامُھَا تو ملاحظہ فرما لیا، لیکن اَنَّ النُّبُوَّۃَ الَّتِیْ اِنْقَطَعَتْ بِوُجُوْدِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب بیان کر گئے، کہ بے شک مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ ہی نبوۃ منقطع ہو چکی اور آگے فرمایا کہ نبوّت سے مراد شریعت والی نبوّۃ ہے مقام نبوۃ کو نبوۃ مستلزم نہیں، جیسا کہ نبوۃ کو شریعت مستلزم ہے،

فتوحات مکیّہ ۲/۹۰

حَجَرَ عَلَیْنَا اِطْلَاقَ لَفْظِ النَّبِیِّ۔

نبی کے لفظ کا استعمال ہم پر منع ہے،

کیوں جناب فرمایئے؟ یہ ہے عقیدہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ملاحظہ ہو۔

فتوحات مکیّہ جزو ۲/۳۷۶

نبوّت کا دروازہ بند ہے

فَاَخْبَرَ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّ الرُّؤْیَا جُزْءٌ مِّنْ اَجْزَاءِ النُّبُوَّۃِ فَقَدْ بَقِیَ لِلنَّاسِ مِنَ النُّبُوَّۃِ ھٰذَا وَغَیْرُہٗ وَمَعَ ھٰذَا لَا یُطْلَقُ اِسْمُ النُّبُوَّۃِ وَلَا النَّبِیِّ اِلَّا عَلَی الْمُشَرِّعِ خَاصَّۃً فَحُجِرَ ھٰذَا الْاِسْمُ لِخُصُوْصِ وَصْفٍ مُّعَیَّنٍ فِی النُّبُوَّۃِ۔

تو خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب دیکھی) نبوت کے اجزاء سے ایک جزو ہے، پس تحقیق باقی رہا لوگوں کیواسطے نبوت سے یہ، اور اس کے سوا اور باوجود اس کے اسم نبوت اور نبی سوائے خاص کر شریعت والے کے کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا، تو بند کیا گیا ہے، یہ اسم نبوّت بوجہ وصف معین خصوصی مشروع ہونے کے نبوت میں،

محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دونوں عبارتوں سے ثابت ہوا، کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

marfat.com

آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا،

دوسرا جواب:۔ کم ازکم اگر آپ اس کا مقدمہ ہی پڑھ لیتے تو سمجھ آجاتی، ملاحظہ ہو:۔

الانسان الکامل ۵

وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَّا نَبِیَّ بَعْدَہٗ

اور صلوٰۃ اور سلام اس ذات پر جسکے بعد کوئی نبی نہیں،

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ یہ ہے عبدالکریم جیلانی کا عقیدہ! جنہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ہی ختم نبوت پر رکھی، اور آگے چل کر بھی ختم نبوت کا ہی ذکر فرمایا، جس کے متعلق تم نے غلط بیانی سے کام لیا تھا،

مرزائی:۔ موضاعاتِ کبیر میں علی قاری نے لکھا ہے، قُلْتُ مَعَ ھٰذَا لَوْعَاشَ اِبْرَاہِیْمُ وَصَارَ نَبِیًّا وَکَذَا لَوْصَارَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ نَبِیًّا لَکَانَ مِنْ اَتْبَاعِہٖ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا یُنَاقِضُ قَوْلُہٗ تَعَالٰی خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ اِذَا الْمَعْنٰی اَنَّہٗ لَا یَاْتِیْ نَبِیٌّ یَنْسَخُ مِلَّتَہٗ وَلَمْ یَکُنْ مِنْ اُمَّتِہٖ۔ (پاکٹ بک صـ ۲۲۴)،

محمد عمر:۔ میرے دوست وکیل صاحب کتابی چور تو مشہور ہو چکے ہیں، ملا علی قاری کی یہ مَعَ ھٰذَا کی عبارت پر تو جلدی نظر پڑی، لیکن اس کے ماقبل پر نظر نیچی کیوں ہو گئی؟ ملا علی قاری نے تو اس کے ماقبل فیصلہ کر دیا ہے، لَوْ عَاشَ اِبْرَاھِیْمُ لَکَانَ نَبِیًّا، قَالَ النَّوَوِیُّ فِیْ تَھْذِیْبِہٖ ھٰذَا الْحَدِیْثُ بَاطِلٌ کہ حدیث لَوْعَاشَ اِبْرَاھِیْمُ لَکَانَ نَبِیًّا، یہ حدیث ہی سرے سے باطل ہے، جھوٹی ہے،

اب میں وکیل صاحب سے دریافت کرتا ہوں، کہ کیا علی قاریؒ کی اس عبارت پر ایمان ہے، اگر نہیں تو تم اگلی عبارت کو کیسے سمجھ سکتے ہو، اور حجت بنا سکتے ہو،

دوسرا جواب آگے علی قاریؒ نے فرمایا، وَلَوْعَاشَ وَبَلَغَ اَرْبَعِیْنَ وَصَارَ نَبِیًّا لَزِمَ اَنْ لَّا یَکُوْنَ نَبِیُّنَا خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ اگر ابراہیم (مصطفٰےؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے) زندہ رہتے اور چالیس سال کو پہنچ جاتے اور نبی ہو جاتے، لازم آتا کہ مصطفٰےؐ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ رہ جاتے، معلوم ہوا کہ علی قاریؒ بھی مصطفٰےؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے قائل تھے، اور ملا علی قاریؒ کی اس عبارت سے ثابت ہوا، کہ اگر مصطفٰےؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی ہو تو مصطفٰےؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں فرق لازم نہیں آتا، تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہوا،

marfat.com

فنزلت علیہ فکان خاتم النبیین...... فلم یبق لغیرہ من خلا ناستقل بالامر وختم النبوۃ لانہ ما ترک شیئاً یحتاج الیہ الا وقد جاء بہ فلا یجد الذی یاتی بعدہ من الکمل شیئاً مما ینبغی ان ینبہ علیہ الا وقد فعل صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فیتبعہ ھذا الکامل کما نبہ علیہ ویصیر تابعاً فانقطع حکم نبوۃ التشریع بعدہ وکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لانہ جاء بالکمال ولم یجیئ احد بذالک،

فرمایا اللہ تعالےٰ نے آج ہی مکمل کر دیا میں نے تمہارے لئے دین کو اور تم پر اپنی نعمت (نبوۃ) کو پورا کر دیا اور یہ آیت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر نہیں نازل ہوئی اور اگر کسی ایک پر نازل ہوتی تو وہ خاتم النبیین ہوتا اور یہ ختم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے لئے صحیح نہیں، تو آپ پر (یہ آیت) نازل ہوئی تو آپ خاتم النبیین ہوئے...... مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نبوت میں دخل نہیں، تو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امر نبوت کے ساتھ مستقل ہو گئے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبوت کو ختم کر دیا، آپ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، جو نبوت کی محتاج ہو، مگر آپ نے اس کو پورا کر دیا، پھر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت سے کچھ موجود نہیں، جو کوئی لاسکے، جو جو شے لائق نبوت تھی، آپ نے اس پر متنبہ فرما دیا، اور تحقیق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تو اتباع کریگا، مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی (عیسیٰ علیہ السلام) کی آیت سے، جیسا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، اور آپ کے تابع ہونگے، (اور اپنی شریعت نہ چلائینگے) کیونکہ منقطع ہو چکا ہے تشریعی نبوت کا حکم چلنا مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، اسلئے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمالیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور کوئی نہیں لایا اس کمالِ نبوت کو،

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ یہ ہے تمہارے پیش کردہ حوالے کی پوری عبارت، جس میں تم نے چوری سے کام لیا، حالانکہ عبدالکریم جیلانی نے صاف لکھا ہے کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کامل ہیں، کامل کے بعد ناقص مقابل نہیں بن سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تابع ہونگے اور ان کی شریعت کا جواب دیا، کہ وہ اپنی شریعت کا نفاذ نہیں کرینگے، کیونکہ اگر شریعت اپنی نافذ کریں، تو ان کی نبوت کا اظہار ہوگا اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،

marfat.com

کیا تمہارا عقیدہ علی قاریؒ کے اس قول پر ہے یا نہیں!

جب پہلے تین دلائل ختم نبوت جو احادیث مرفوعہ سے علی قاریؒ نے بیان کئے ہیں، اُن پر بھی تمہارا ایمان نہیں، اور آخری بات پر جو مطابق حدیث بیان کی، اس پر بھی نہیں، تو درمیانی بات جو اپنی طرف سے انہوں نے اُن کی تائید میں بیان کی ہے، کیسے اخذ کر سکتے ہو، پھر آگے فرمایا، فلا یناقض قولہ تعالےٰ خاتم النبیین یہ اللہ تعالےٰ کے فرمان خاتم النبیین کے مخالف نہیں، علی قاری کا یہ کہنا فَلَا یُنَاقِضُ قولہٗ خَاتَمَ النَّبِیّٖن اسی بنا پر کہا کہ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے تھے، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سابقہ انبیا علیہم السلام زندہ ہوں، اور اللہ تعالےٰ فرما دے وخاتم النبیین کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنیوالے ہیں، تو اُن میں تناقض نہیں، آگے فرمایا، اِذِ الْمَعْنٰی اَنَّہٗ لَا یَاْتِیْ نَبِیٌّ بَعْدَہٗ اسلئے کہ خاتم النبیین کے معنی تو یہ ہیں کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، (یعنی بحیثیت نبوت) تو سوال پیدا ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وخضر علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آپنے اس کے دو جواب دئے، ایک یَنْسَخُ مِلَّتَہٗ نبی کی شان یہ ہے، کہ پہلے ملت کو منسوخ کرتا ہے، جیساکہ مرزا صاحب نے بھی اقرار کیا ہے، آئینہ کمالات مطبع لاہوری ص۲۷۵۔ انبیاء اسواسطے آتے ہیں، کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرا دیں، اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض احکام نئے لا دیں، اور عقائد والوں نے بھی نبی کی تعریف میں لکھا ہے، لتبلیغ ما اوحیٰ الیہ، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس لئے تشریف لاویگا ہی نہیں، بلکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لئے تشریف لاوینگے، تو ان کا اتیان بحیثیت نبوت نہ ہوا، کیونکہ یَنْسَخُ مِلَّتَہٗ مفقود ہے، تو جیساکہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہ وہ تشریف لاوینگے تو مقام نبوت سابقہ ان کا بدستور ہوگا، لیکن وہ عہدۂ نبوت کے اجراء عمل کے لئے نہیں آئیں گے، بلکہ اطاعت کے لئے آئیں گے، تو نہ ان کی نبوت چلے گی، اور نہ ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق لازم آئیگا، اور ختم نبوت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تب فرق لازم آتا، جب بحیثیت نبوت تشریف لاویں، پھر آگے دوسری دلیل فرمائی، وَلَمْ یَکُنْ مِنْ اُمَّتِہٖ کہ وہ آپ کی امت سے بھی پیدا شدہ نہیں، بلکہ وہ سابقہ انبیاء سے ہیں، یعنی وہ اپنی نبوت کو پورا کر چکے ہیں، تو علی قاریؒ کا یہ قول بھی تمہارے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اُمت سے پیدا نہیں ہوئے، اور تم مرزائیوں کا عقیدہ ہے، کہ وہ مسیح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ ملا علی قاریؒ نے تمہارے اس عقیدہ

marfat.com

تیسرا جواب ملا علی قاریؒ نے فرمایا، کہ لَوْ کَانَ بَعْدِیْ نَبِیًّا لَکَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، رواہ احمد والحاکم عن عقبہ بن عامر بہ مرفوعًا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، تو عمر بن خطابؓ ہوتے، امام احمد بن حنبلؒ اور حاکم نے اس کو عقبہ بن عامر کی سند سے مرفوع ثابت کیا ہے،

اگر ملا علی قاریؒ کی اس بات پر یقین ہے، کہ واقعی یہ روایت مرفوع ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی اہم دلیل ہے، اور اس نے تمہارے عقیدہ اجرائے نبوت کی جڑ کاٹ دی،

ملا علی قاریؒ کی مسلمہ مرفوعہ حدیث کو چھوڑ کر اس کے قیاس کو معتبر سمجھو تو عقل سے بعید ہے۔

اس لَوْ کَانَ بَعْدِیْ نَبِیًّا لَکَانَ نَبِیًّا کو بیان کر کے آگے علی قاریؒ نے کہا ہے، قُلْتُ میں کہتا ہوں وَمَعَ ھٰذَا اور باوجود ان تمام دلائل ختم نبوت کے وہ کونسے آگے ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ لَوْ عَاشَ اِبْرَاھِیْمُ وَصَارَ نَبِیًّا وَکَذَا لَوْصَارَ عُمَرُ نَبِیًّا یعنی اگر ابراہیم زندہ رہتے، تو نبی بنتے، اور نہیں زندہ رہے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، اور اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمرؓ ہوتے، باوجود ان دونوں حدیثوں کا صحت کے یعنی نہ آپ کے صاحبزادے نبوت ختم ہونے کی بنا پر زندہ رہے، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت ملی، آگے فرمایا، لَکَانَ مِنْ اَتْبَاعِہٖ وہ دونوں یعنی آپ کے صاحبزادے ابراہیم اور حضرت عمرؓ دونوں آپ کے متبعین سے ہوئے،

تو ملا علی قاریؒ نے بیان کیا کہ جب حقدار نبوت آپ کے صاحبزادے ابراہیم اور حضرت عمرؓ تھے، اور وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ بن سکے، بلکہ متبع ہی رہے ہیں، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدلائل مذکورہ بالا علی قاری نے تین حدیثوں سے ثابت کیا ہے، کہ نبوت کا ختم ہونا ثابت ہو گیا،

وکیل صاحب! علی قاری نے تو اپنی پہلی تینوں احادیث صحیحہ بر ختم نبوت کی تائید فرمائی ہے، ورنہ ان کے اقوال میں تناقض لازم آئیگا، کہ دلائل پیش کریں ختم نبوت کے اور نتیجہ نکالیں اجرائے نبوت کا، یہ عمل آپ کا ہی ہے، علماء کا نہیں،

آگے انہوں نے مثال پیش کی، جس کو تم ہضم کر گئے، کَعِیْسٰی وَالْخِضْرِ وَاِلْیَاسَ عَلَیْھِمُ السَّلَامُ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، تو

والے، عقبیٰ کے زمانے کے کھولنے والے،

تفہیماتِ الٰہیہ
۲/۱۳۷

وَمَا رَحَا نِتَمُ هٰذِهِ الدَّوْرَةِ نَزَلَ اِلَاکَ لَا یُمْکِنُ اَنْ یُوْجَدَ بَعْدَ نَبِیٍّ صَلٰوۃُ اللّٰہِ وَسَلَامُہٗ الا مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ختم کرنے والے ہوئے۔ اسی لئے ممکن نہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پایا جائے،

الانصاف
۲

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ الَّذِیْ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ،

اور میں گواہی دیتا ہوں، کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایسے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل واصحاب تمام پر،

وکیل صاحب؟ یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا عقیدہ، جس کو جناب نے الٹ بیان کیا تھا،

"مرزائی"۔ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں، قُوْلُوْا اِنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ، درمنثور و تکملہ مجمع البحار میں لکھا ہے، یہ تو کہو، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پاکٹ بک ص۴۲۵ تا ص۴۲۶،

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب نے تو بغیر چوری تو کبھی کچھ بیان کیا ہی نہیں، یہ تو آپ کی عادت جبلّی ہے۔ عن عائشۃ سے مجمع البحار کی عبارت شروع کر دی، وکیل صاحب اس کا ماقبل کیوں چھوڑ دیا، ماقبل سے چشم پوشی کیوں فرمائی؟ معلوم تھا، کہ حیاتِ عیسوی وَمَنْزُوْلُہٗ مِنَ السَّمَاءِ ثابت ہوتا ہے، اس تکملہ کی عبارت کا ماقبل کاش کہ مسئلہ حیات عیسٰی بن مریم علیہما السلام کی بحث میں یاد آجاتا، تو سوائے حیاتِ عیسوی اور نزولہ من السماء کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور خادم صاحب اپنے پاکٹ بک ص۵۰۹ پر سیوطیؒ کو ایمان سے ہی خارج کر دیا اسلئے اُنکی بات کیلئے گنجائش نہیں ہو سکتی

اچھا! کوئی بات نہیں، فقیر یاد دہانی کرا دیتا ہے، وکیل صاحب سنو ...... ذرا سا اس عبارت سے پیچھے ملاحظہ فرمائیے، اور دیکھیے لکھا ہے،

marfat.com

کی بھی تردید کردی، تو ملا علی قاریؒ نے تو از ابتداء تا انتہا تمہارے عقیدہ کی تردید کردی ہے، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے دلائل پیش کئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا ثابت کرکے ان کو امم ماضیہ سے شمار کرکے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے، جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ملا علی قاریؒ کی عبارت صراحۃً تمہارے خلاف ہے، نہ کہ موافق، جیسا کہ تم نے غلط بیان کر کانٹ چھانٹ کر لکھا ہے، اور پھر آگے ختم نبوت کی تائید فرمائی، فرمایا ویقوی حدیث لوکان مُوسیٰ علیہ السلام حَیًّا لَمَا وَسِعَہٗ اِلَّا اِتِّبَاعِیْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو نہ وسعت ہوتی ان کو سوا میری اتباع کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو اپنی نبوت کا اجراء نہ کرتے، بلکہ وہ میری تابعداری کرتے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اگر نبوت جاری ہوتی، تو وہ اپنی نبوت کا دعوای کرتے، اور فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تو لَمَا وَسِعَہٗ اِلَّا اِتِّبَاعِیْ وہ بھی دعوای اتباع کرتے، دعوای نبوت نہ کرتے، ملا علی قاریؒ ختم نبوت کے دلائل دیں، لیکن مرزائی سمجھے کہ اجرائے نبوت کے مدعی تھے، تو یہ مرزائی کے بس کی بات نہیں، قرآن، اور حدیث کو بھی مرزائی الٹا ہی سمجھتے ہیں، اگر قول قاری کو انہوں نے غلط سمجھا، تو کوئی اعتراض نہیں۔ ملا علی قاریؒ نے پانچ دلائل سے مسئلہ ختم نبوت کو ثابت کیا۔

"مرزائی"۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، خُتِمَ بِہِ النَّبِیُّوْنَ اَیْ لَا یُوْجَدُ مَنْ یَّاْمُرُہُ اللہُ سُبْحَانَہٗ بِالتَّشْرِیْعِ عَلَی النَّاسِ، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی ختم ہوگئے، یعنی آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوسکتا، جس کو خدا تعالیٰ شریعت دیکر لوگوں کی طرف مامور کرے، پاکٹ بک صد ۴۴۵،

"محمد عمر"۔ وکیل صاحب تم نے جب خود تسلیم کرلیا ہے، کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، "کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگئی"، اس سے اور زیادہ اور وضاحت ختم نبوت کے متعلق اور کیا ہوسکتی ہے۔ نبیوں کی شرح فرمائی، ای لَا یُوْجَدُ مَنْ یَّاْمُرُہُ اللہُ سُبْحَانَہٗ بِالتَّشْرِیْعِ عَلَی النَّاسِ، یعنی نبی لوگوں پر شریعت لاتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہوگئے، اب ختم نبوت کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کا عقیدہ عرض کرتا ہوں،

تفہیمات الٰہیہ
۱/۱۲۳

وَکَانَ نَبِیُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا لِطَیِّ الدَّوْرَۃِ فَاتِحًا لِلدَّوْرَۃِ الْاُخْرٰی،
اور تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے (دنیا) کے ختم کرنے

marfat.com

تاں جا کدھروں اپنی عقل دا علاج کرا،

"سوالی" - اوہ نہیں جوان میرا مطلب ہور لے،

"اولاد والا" - او توں اندر دی گل کڈھ خاں چا،

"سوالی" - بئی توں جو آکھنا ایں میرا چھیکڑ دا پتر ہوندا اے، تے آہ جیہڑا عیسٰی لگا پھردا ای ایہہ کتھوں آ گیا ای،

"اولاد والا" - دیکھاں پتہ لگا ناں توں ناں میرے پہلیاں پتراں توں سڑنا ایں، تو میرے کولوں چھیکڑ دا چھپا لے، میں تینوں چھیکڑ دا دس دنا اے، تیرے نال پہلوں اردو گلاں کیتیاں تینوں سمجھ نہ آئی، ہن جیہڑا پنجابی ہو کے پنجابی محاورہ دی نہ سمجھے اوسدے نال دا وی کوئی ندان ہونا ایں، چھیکڑ دے دا مطلب ایہہ ہندا اے، بئی اسنوں پچھے ہور کوئی میری بیوی نوں بال جمیاں ای نہیں، اسدا مطلب بئی وچلے سارے ای مرگئے نے؟ ساریاں پتراں وچوں میرا خیر نال اکو وچلا ای جیندا اے، توں ہن آکھیں ایس وچلے نوں چھیکڑ دا آکھ، میں ہن وچلے نوں چھیکڑ دا کیویں آکھاں، گلاں تے کم میتھوں چھیکڑ والے دے نہیں ہلدے، آج تیکر میں اوہندا ای کھانا اوسدا ای ہنڈاؤنا اوسے دی تھاں وچ رہنا، اوسے دی عزت بنائی ہوئی توں میرے سارے پتراں دی قدر پئی ہندی اے، میرا جیندا رہے وچلا، پر گل ساری چھیکڑ دے دی اے، وچلے دے جیندیاں کبھی چھیکڑ دا چھیکڑ دا ای اکھوادیگا، کوئی عقل دا انھاں بھاویں منے تے بھاویں ناں منے،

"سوالی" - (اولاد والے کو مخاطب ہو کر) بابا مینوں بھی پتر بنا لئے،

"اولاد والا" - جا او جا، اپنے اپنے ای ہندے نے، پرائے پرائے ای ہندے نے، پرائے دی کدی اپنے بنے نے، ڈھڈوں جمے ای اپنے ہندے نے، پرایا چویا کدی کم نہیں آوندا، جد کد ڈنگ ای ماریگا، پر سوہنہ رستا تے مرے تے گنڈھ، جے توں میرا پتر بننا ہُنا تاں رب تینوں میرے نطفے دا میری بیوی دے ڈھڈوں جا جماندا، جے میرے گھر انہوں جمیاں نہیں، تاں میرے بنایوں تو کد بنیوں،

"سوالی" - ناں او بابا بنا لے،

"اولاد والا" - میں تینوں کیویں پتر بنالاں، رب نوں پہلوں چا آکھیں آں، تینوں میرے گھر ای چا پیدا کردا، جے تینوں رب نے میرے گھر جمایا نہیں ناں، میں شریعت دے خلاف

marfat.com

تکملہ مجمع البحار
۸۵

عِیْسٰی اَنَّہٗ یَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ وَیَکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَزِیْدُ فِی الْحَلَالِ اَیْ یَزِیْدُ فِیْ حَلَالِ نَفْسِہٖ بِاَنْ یَتَزَوَّجَ وَیُوْلَدُ لَہٗ وَکَانَ لَمْ یَتَزَوَّجْ قَبْلَ رَفْعِہٖ اِلَی السَّمَاءِ فَزَادَ بَعْدَ الْھَبُوْطِ فِی الْحَلَالِ فَحِیْنَئِذٍ یُؤْمِنُ کُلُّ اَحَدٍ مِّنْ اَھْلِ الْکِتَابِ لِیَتَیَقَّنَ بِاَنَّہٗ بَشَرٌ، حضرت عیسٰی علیہ السلام خنزیر کو قتل کرینگے، اور صلیب کو توڑ دینگے اور حلال میں زیادتی کرینگے، یعنی (اپنے نفس کے لیے جس حلال شے کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا) اپنے نفس کے لئے اس کو زیادہ کرینگے بایں طور کہ نکاح کرینگے اور ان کے اولاد ہوگی، اور آسمان کی طرف چڑھنے کے پہلے حضرت عیسٰی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، تو زمین پر اترنے کے بعد (اس) حلال شے میں ترقی کرینگے، تو اسوقت ہر ایک اہل کتاب ایماندار ہوگا، اس بات پر یقین کریگا، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام بشر ہیں،

اس مقام پر جب **محمد طاہر** صاحب نے حیات و نزول عیسٰی علیہ السلام من السماء الی الارض ثابت فرمالیا، تو اعتراض ہوتا تھا، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، آپکے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس اعتراض کو رفع کرنے کیواسطے فرماتے ہیں، عن عائشہ قُوْلُوْا اَنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ، تم کہو کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہیں رہا، (کیونکہ حضرت عیسٰی بن مریم علیہ السلام باقی ہیں، جیسا کہ ماقبل محمد طاہر نے بیان کردیا) اس کی مثال فقیر آپ کو پنجابی میں سمجھاتا ہے، کہ کوئی شخص کسے دوسرے نوں پچھے، کیوں یار تیرا بلیٹھی دا پتر کیہڑا اے اوہ اگوں جواب دے سبئی آدم، فیر اوہ پچھے کہ تیرا چھیکڑی پتر کیہڑا اے، تاں اوہ جواب دے محمد، تاں سوال کرن والا کی سمجھیگا بھئی نہیں کوئی ہور اودوں پچھے دا دس، اوہ آکھے گا تو کملا ہو گیا ایں، یا تاں تو چھیکڑ دا آکھ کے سوال نہ کردوں، جد توں چھیکڑ دا پچھ بیٹھا ایں تاں چھیکڑ تو پچھے فیر ہور چھیکڑ دا پچھنا پاگل پنا ایں، توں پہلوں جو میرے کولوں بلیٹھی دا پتر دا سوال کیتا اے تو اسدے متعلق کیوں نہیں رولا پایا، بئی اسنوں پہلے بلیٹھی دا ہور کیہڑا ای، جے تینوں بلیٹھی دے دسیاں یقین آگیا اے تاں تینوں چھیکڑ دے دسیاں دی یقین آجانا چاہیدا سی، ایستوں معلوم ہوندا اے یا تاں تیری ایس الی توں کوئی اپنی غرض اے کوئی دا کھیڈناں چاہنا ایں، نہیں

marfat.com

نہیں، تو وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو قول مصنف ہے۔ اس کی بھی تو سند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک نہیں، لہٰذا یہ قول بھی مستند نہ رہا، اب اگر مرزائی لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ سے محمد طاہر کے پیش کردہ قول پر یقین رکھتے، اور آگے اُن کے بیان کردہ مطلب وَھٰذَا نَاظِرٌ اِلٰی نُزُوْلِ عِیْسٰی علیہ السلام کہ یہ صرف حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نزول کے لئے کہا گیا ہے، کہ سابقہ ایک نبی ابھی موجود ہے، اب اگر لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ کے بیان کردہ مصداق کا انکار کرے تو وکیل صاحب کا حوالہ مجمع البحار کا پیش کرنا دیانتداری کے خلاف ہوگا، پھر فرمایا کہ لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ میں نے حیات و نزول عیسٰی علیہ السلام کے استدلال میں پیش کیا ہے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کا انکار نہیں کیا، اسی لئے آگے فرمایا وَھٰذَا اَیْضًا لَا یُنَافِیْ حَدِیْثَ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ لِاَنَّہٗ اَرَادَ لَا نَبِیَّ یَنْسَخُ شَرْعَہٗ نبی وہ ہوتا ہے، جو پہلی شریعت کو منسوخ کرتا ہے، اور حضرت عیسٰی علیہ السلام ایسے نبی ہیں، جو اپنی شریعت لیکر نہ آئیں گے، کیونکہ اُن کی شریعت بہ آمدِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ ہو چکی، اور وہ اپنی نبوت کی ڈیوٹی بھی ادا کر چکے ہیں، اسلئے ان کی نبوت سابقہ سے انکار نہیں ہو سکتا، اور ان کا بحیثیت نبوت تشریف لانا بھی نہیں، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے، یَنْسَخُ شَرْعَہٗ شریعت کو منسوخ کرے، جب حضرت عیسٰی علیہ السلام شریعت کو منسوخ نہ کر سکیں گے، تو من حیث النبوۃ اُن کی تشریف آوری نہ ہوئی، تو محمد طاہر صاحب نے اس مسئلہ کو بھی حل فرما دیا، کہ میرا کہنا کہ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ یا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، باقی حضرت عیسٰی علیہ السلام کی حیات و نزولہٗ من السماء تو یہ لا نبی بعدی کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی شریعت خود منسوخ ہو چکی، اُن کی ڈیوٹی نبوت ختم ہو چکی، اب وہ سابقہ نبی ہونے کی حیثیت سے اگر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کام کریں، تو ان کی سابقہ نبوۃ کا بھی انکار نہ ہوگا، اور مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے میں بھی خرابی لازم نہ آئے گی، اور ان کے دوبارہ تشریف لانے سے نبوت کا اجراء لازم نہ آئیگا، کیونکہ وہ قبل از مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اب ان کی موجودگی ختم نبوت میں حارج نہیں ہو سکتی، محمد طاہر صاحب نے مجمع البحار میں جو بیان فرمایا ہے، وہ حیات و نزول عیسٰی علیہ السلام کے متعلق تحریر فرمایا ہے، لیکن وکیل صاحب نے اس عبارت کو آگے پیچھے سے چھانٹی کرکے درمیانی عبارت کا ایسا مجمل حصہ بیان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو دھوکا دے سکیں، اگر ایمان کی رتی ہے تو میں وکیل صاحب کی خدمت میں التماس کرونگا، کہ مجمع البحار

marfat.com

تینوں لاداں کیویں رکھلاں، میریاں نوہاں دھیاں جوان نے توں دی ایڈا سارا ہٹا کٹا جوان ایں بھلک نوں توں کوئی نونہہ دھی لیکے نس جاویں، میں کدھا گھر کچُھدا پھراں، لوکاں دی مینوں ای چھوٹیاں کرناں ایں، توں لاداں رکھیا کیوں، تیرے چنگے بھلے اپنے پُتر، آپنے پتراں دیا ہندیاں میں لاداں نہیں رکھدا،

"**سوالی**" - بابا مینوں پوتا ہی بنا لے،

"**اولاد والا**" - ناں بئی جے رب نے پوتے دینے ہوندے، تاں مینوں اپنے پُتاں وچوں ای دے دیندا، جداوس نے اپنے پُتاں وچوں نہیں دتے"، تاں میں تاں اسدی رضا تے راضی آں، آپنے گھر نہیں دتے تاں پرائے میں نہیں رکھ دا، توں میرے مگروں لوہ،

سوالی وچارہ شرمندہ ہندا چلاگیا، جب آپنے خاتم کے معنی پنجابی زبان میں سمجھ لئے تو آمدم برسر مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالٰے عنہا،

تو وَاِنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ اور بے شک مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی سب سے آخیر نبوت آپ کو ہی ملی ہے، آپ کے بعد اور کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اور آگے فرمایا، وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ یہ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ فرمان مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں، بلکہ یہ محض حضرت عیسٰی علیہ السلام کے ثبوت کے لئے ہے، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری نبی تو ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، کہ آپ سے پہلا بھی کوئی نبی زندہ نہیں، اسی واسطے فرمایا، وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ، اگر مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اگر بعد کے بنے ہوئے نبی کے متعلق لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ مراہوتا تو قُوْلُوْا اِنَّہٗ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ نہ درج ہوتا، بلکہ اس کی بجائے یَاْتِی الْاَنْبِیَاءُ بَعْدِیْ کیونکہ پہلے قانون ہوتا ہے، بعد میں اس کا معنون مذکور ہوتا ہے، عنوان ختم نبوت کا ہو، اور معنون اجرائے نبوت کا تو یہ عقل وعلم ذی شعور کے نزدیک محال ہے، اور محمد طاہر صاحب نے لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ کے بعد فرمادیا وَھٰذَا نَاظِرٌ اِلٰی نُزُوْلِ عِیْسٰی علیہ السلام اور لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ یہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے، وکیل صاحب نے وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ کو تو پڑھ دیا، لیکن وَھٰذَا نَاظِرٌ اِلٰی نُزُوْلِ عِیْسٰی علیہ السلام کو چھوڑ گئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس غرض کے لئے وَلَا تَقُوْلُوْا لکھا اس عبارت کو ہی کھا گئے، اور اگر مصنف کے مطلب ھٰذَا نَاظِرٌ اِلٰی نُزُوْلِ عِیْسٰی علیہ السلام پر تمہارا یقین

marfat.com

ہے اور نبی کا بیٹا ہے، تو دونوں میں تعارض ثابت ہوا، اور یہ ممکن نہیں کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں، کہ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، اور دوسری جگہ یہ ارشاد ہو کہ یہ اس وقت ہی نبی ہے، تو دونوں ہی بقانون اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا ساقط ہوگئیں، قابل قبول نہ رہیں، اس لئے بھی تم ان دونوں سے استدلال نہیں کرسکتے،

تیسرا جواب یہ ہے کہ وکیل صاحب کو مرزائیت نے اتنا بھانپا ہوا ہے، کہ اتنا بھی یاد نہیں، کہ میں بڑے زور سے اپنی پاکٹ بک کے صفحہ ۲۳۴ پر حضرت ابراہیم کے متعلق تسلیم کرچکا ہوں، کہ ابن ماجہ کا ایک باب مقررہ تحریر ہے، ماجاء فی الصلوٰۃ علی ابن رسول اللہ اور حدیث بیان فرمائی کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَلّٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ جب حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا،

کیوں جناب خود ہی پہلے تسلیم کرتے ہو اور پھر خود ہی اس کے خلاف کو استدلال پیش کرتے ہو، وکیل صاحب آپ اس مثال سے ناراض تو نہ ہوگے، اگر فقیر کہدے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد، اب تو مرزائی صاحب ابن ماجہ والی حدیث کو تسلیم کرتے ہو، تو تمہارا اس پیش کردہ فتوای حدیثیہ کی روایت جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اگر ابن ماجہ والی حدیث کو آگے رکھتے ہو، تو فتوی حدیثیہ کو رد کرنا پڑیگا، لہذا ان دونوں حدیثوں میں دو تعارض ثابت ہوئے، جس کی بنا پر تم ان دونوں کے کسی جملے سے استدلال نہیں لے سکتے، لہذا تمہارا یہ فتوی حدیثیہ کا استدلال غلط ثابت ہوا،

باقی رہا تمہارا کہنا کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام اور یحیٰی علیہ السلام کی طرح طفولیت میں حضرت ابراہیم کے لئے نبوت ثابت ہوتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے لئے وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا قرآن کریم نے فرمادیا، اور یحیٰی علیہ السلام کے لئے وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ نص قرآنی موجود ہے، ایسے ہی قرآن کریم سے کوئی ایسی آیت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے لئے بھی تو بیان فرمادیتے، تب تمہارا استدلال صحیح ہوسکتا تھا، نصوص قرآنیہ اور احادیث مرفوعہ صحیحہ کے مقابلہ میں ہم کسی کی رائے کو مقدم نہیں سمجھتے، اور یہی قانون کتب اصول میں مذکور ہے، اگر ناراضگی نہ فرمائیں، تو عرض کردوں، کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام اور حضرت یحیٰی علیہ السلام کی پیدائشی نبوت کو تسلیم کرنا تمہیں کبھی مفید نہیں ہوسکتا، جب تک کہ اسی طرح ان کی حیات جسمانی کے بھی

marfat.com

کی پوری عبارت آگے رکھ کر مصنف کے صحیح مطلب کو بیان کرو، تو مرزائیت نہیں جواب دیجائیگی،

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنَ

"مرزائی"۔ مولوی صاحب! ہر طرح سے تسلی ہوگئی، صرف ایک کتاب کے متعلق کچھ شکوک باقی ہیں، اس کی تسلی ہو جائے، تو ختم نبوت کے متعلق انشاء اللہ العزیز پوری پوری تسلی ہو جائے گی، فتوای حدیثیہ میں ابن حجر الہیثمی نے حدیث لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا، کی مفصل بحث میں اس حدیث کو ثابت کر کے لکھا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی تھے، چنانچہ وہ حضرت علی رضہ کی عبارت بدیں الفاظ نقل کرتے ہیں،

وَاَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيْ قَبْرِهِ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَنَبِيٌّ اِبْنُ نَبِيٍّ وَبَكٰى وَبَكَى الْمُسْلِمُوْنَ حَوْلَهُ، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا جنازہ پڑھائے بغیر اس کو دفن فرمایا تھا، اور آگے ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کرتے ہیں، اِنَّهُ لَا يُصَلِّىْ نَبِيٌّ عَلٰى نَبِيٍّ نَقْلُ جَاءَ لَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا یعنی علامہ زرکش فرماتے ہیں، کہ نبی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تا اور پھر آگے ابن حجر ھیثمی لکھتے ہیں، وَلَا بُعْدَ فِيْ اِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ لَهُ مَعَ صِغَرِهٖ لِاَنَّهُ كَعِيْسَى الْقَائِلِ يَوْمَ وُلِدَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَكَيَحْيٰى قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ وَاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ہ پاکٹ بک از ص ۴۴۶ تا ص ۴۴۷۔

"محمد عمر"۔ تمہارا یہ کہنا کہ لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ کو ابن حجر ھیثمی نے صحیح ثابت کیا ہے جھوٹ ہے، کیونکہ ابن حجر ھیثمی نے فتوای حدیثیہ ص ۱۲۵ میں لکھا ہے، لَوْ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا فَبَاطِلٌ پھر اس کے جواب میں بھی اقرار کیا ہے اور فقیر اس کو پہلے بھی اسماء رجال کی کتب سے ضعیف ثابت کر چکا ہے،

پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی بے سند ہے، پھر دوسری عرض ہے کہ ابن حجر ھیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ اس کے رواۃ ضعیف ہیں، فَقَالَ فِيْهِ مَنْ لَبَّسَ بِالْعَقَوِيِّ، لہذا تمہارا استدلال وَاِنَّهُ لَنَبِيٌّ اِبْنُ نَبِيٍّ صحیح نہ ہوا،

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، کیونکہ لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے جیسا کہ تم بھی تسلیم کر چکے ہو، ملاحظہ ہو، پاکٹ بک ص ۴۳۲ اور ص ۴۴۶ پر کھو اور اِنَّهُ لَنَبِيٌّ بن نَبِيٍّ کا مطلب ہے، کہ حضرت ابراہیم نبی

marfat.com

"مرزائی" - بہت اچھا!
"محمود عمر" - ملاحظہ ہو۔

خاتم الانبیاء وخاتم النبیین کے معنی مرزاجی کی زبانی

(۱) - ایام صلح ۵۱

وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لا نبی بعدی یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے، باوجودیکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آجائے اور وحی نبوت شروع ہو جائے،

(۲) - ایام صلح ۸۱

اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر خاتم الانبیاء ہیں،

(۳) - ایام صلح ۱۶۷

ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے، پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے، کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے، اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوۃ منقطع ہو چکی تھی، پھر سلسلہ نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے، اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی،

(۴) - آسمانی فیصلہ ۲۵

اے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو، اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو،

(۵) - انجام آتھم ۲۷

قرآن شریف کو مانتا ہوں، کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود نبوت کا دعوای کرتا ہے، قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا

marfat.com

قائل نہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جیسا کہ یہ قرآنی نص سے ثابت ہے، ان کی حیات جسمانی بھی نص قرآنیہ سے منصوص ہے، تمہارے لئے وہ بھی مخالف اور یہ بھی مخالف، کیونکہ حیات عیسٰی علیہ السلام کے بھی تم منکر اور پیدائشی نبوت کے بھی منکر، کیونکہ اگر نبوت پیدائشی کو تسلیم کرو گے تو نبوت مرزائیہ کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اشاعت اس کی بتدریج ہوئی، اور دعوٰی بھی بتدریج کیا گیا، سو فتوائے حدیثیہ کا یہ قول ابن حجر ہیثمی کا بھی تمہارے مخالف ثابت ہوا، اور فرمان خداوندی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ کے سامنے سر کو خم کرنا پڑے گا، اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنا، نہ بن سکتا ہے اور نہ بنے گا، اور یہی عقیدہ ابن حجر ہیثمی کا بھی تھا، ملاحظہ ہو، آپ ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں،

فتوٰی حدیثیہ ۱۳۴

فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ وَعِزَّتِیْ وَجَلَالِیْ اِنَّهٗ لَاٰخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ

آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالٰے نے وحی کی کہ قسم ہے مجھے میری عزت کی اور قسم ہے مجھے میرے جلال کی بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تیری اولاد کے نبیوں سے آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا،

کیوں جناب مرزائی صاحب؟ تم ہے تجھے تیرے پاپائے قادیانی کی ذرا سا ہی انصاف کسی سے مار بیٹھ لے لے، اور پھر نظرِ انصاف سے دیکھ، کہ خداوند کیسے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور لکھنے والے وہ ہیں، جنکو تم نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ تھا تمہارا مایۂ ناز استدلال،

خدا کے فضل و کرم سے جس کا جواب اسی کتاب سے دیا گیا، اٰمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا،

ہمارا کام کہدینا ہے یارو ؛ تم آگے چاہے مانو یا نہ مانو

"مرزائی" ۔ خدا کے فضل و کرم سے میری ہر طرح سے تسلی ہو گئی، اب انشاء اللہ میرا پکا عقیدہ ہو گیا، کہ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے

"محمد عمر" ۔ نہیں نہیں صاحب! ابھی مرزا صاحب کے حوالہ جات عرض کرتا ہوں، تسلی سے سنیئے :۔

marfat.com

جس کا لفظ قطعی ہے، اپنی آیت کریمہ وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا، کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

(۱۲) - اربعین ۴ - ۸۴ | یہ سب خیالات فضول اور کوتہ اندیشیاں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے۔

(۱۳) - براہین احمدیہ حصہ پنجم - ۹۴ | سب کو معلوم ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں یہی معنی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے کئے گئے ہیں، یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں،

کیوں جناب وکیل صاحب؟ مرزا صاحب اپنے فوتیدگی کے سال یعنی ۱۹۰۸ء میں حصہ پنجم تصنیف کر کے اس میں رقم طراز ہیں، جس سے دو مطلب صاف واضح ہو رہے ہیں،

(۱) - قرآن کریم سے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا اقرار کرنا،

(۲) - نبوت ختم ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع تھا،

مرزا صاحب کی اس عبارت سے ثابت ہو چکا کہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر از روئے قرآن وحدیث نبوت ختم ہونے کا یقین مرزا غلام احمد صاحب کو بھی تھا، لیکن محض اپنی نفسانیت سے اجرائے نبوت کے قائل ہوئے،

(۱۴) - حقیقۃ الوحی ۳۳ | اور اسلام میں یہ پہلا اجماع تھا، کہ سب نبی فوت ہو چکے ہیں،

کئی مقامات پر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا اقرار فرمادیں، جن سے بعض عبارتیں و فقرے پیش کی ہیں، اور یہ بھی اقرار کریں کہ قرآن اور حدیث میں بھی ایسے ہی ہے، اور کئی مقامات پر ختم نبوت کے منکروں پر فتوائے جڑ ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے۔

(۱۵) - آسمانی فیصلہ ۲۵ | اور میں نبوت کا مدعی نہیں، بلکہ ایسے مدعی کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں،

marfat.com

ایسا شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول اللہ وخاتم النبیّین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول ہوں،

(۶)۔ انجام آتھم ۲۷ — اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا،

(۷)۔ اعجاز احمدی ۱۸ — اور ایسا ہی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ میں سب نبیوں کی وفات ایک مشترک لفظ جو خلت ہے، خدا نے ظاہر کی تھی۔

(۸)۔ تبلیغ رسالت ۲ / ۴۴ — میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں،

(۹)۔ تحفہ گولڑویہ ۶۶ — آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اور آیت وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ میں صریح نبوت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ،

(۱۰)۔ نشان آسمانی ۲۹ — اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیّین ہونیکا قائل ہوں اور یقین کامل سے جانتا ہوں، اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئیگا نیا ہو یا پرانا اور قرآن کریم کا ایک شعشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا، ہاں محدث آئیں گے،

(۱۱)۔ کتاب البریہ ۱۸۴ — اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ ایسی مشہور تھی، کہ کسی کو اس کی صحت پر کلام نہ تھا، اور قرآن شریف

marfat.com

کِتَابَ لَنَا نَتَّبِعُهٗ اِلَّا الْقُرْاٰنُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى وَ اٰمَنَّا بِاَنَّ رَسُوْلَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَبِاَنَّ اللهَ خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّيْنَ ۔

(۲۰)۔ منن الرحمٰن ۲۰	نَكْمَا اَنَّ رَبَّنَا اَحَدٌ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهٗ نَكَذٰلِكَ رَسُوْلُنَا الْمُطَاعُ وَاحِدٌ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَلَا شَرِيْكَ مَعَهٗ وَ اِنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۔
(۲۱) ضمیمہ حقیقۃ الوحی ۶۴	وَاَنَّ رَسُوْلَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِ انْقَطَعَتْ سِلْسِلَةُ الْمُرْسَلِيْنَ فَلَيْسَ حَقُّ اَحَدٍ اَنْ يَّدَّعِىَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ رَسُوْلِنَا الْمُصْطَفٰى ۔

کیوں جناب وکیل صاحب ؟ تمہارے مرزا صاحب کا کالا قانون پہلے انہی پر عائد ہوا ، جو انہوں نے یہ قوانین مقرر فرما کر پھر خود ہی دعوای نبوت کر دیا ، یہ سب سمجھ بوجھ سے نہ تو ملم ہوش و حواس تھا ۔ بیں تو مرزا صاحب کا اس بیں انصاف تصور کرونگا ، کہ منکرین ختم نبوت کو نابت کر دیا کہیں تو اپنے ہی بھبیدہ قانون میں جکڑا گیا ہوں ، لیکن تم بچ جانا ، لیکن پھر بھی بعض جو مرزا صاحب کے گرنے سے ختم نبوت کا انکار کر کے اجرائے نبوت کا انکار کر کے اجرائے نبوت کا قائل بنے تو میں تو پھر یہی کہونگا ، کہ ع

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

اٰمِنُوْا اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ،

(۲۲)۔ تتمہ حقیقۃ الوحی ۱۳	گویا اسی دم سے خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر مہر لگادی اور اس کو یہ الہام کھلے کھلے لفظوں میں سنایا گیا ، کہ اب موت کے دن تک تیرے گھر میں اولاد نہ ہوگی ، اور نہ سلسلہ اولاد کا چلیگا اور

یقیناً اس نے اس الہام کو توڑنے کے لئے اولاد حاصل کرنے کی غرض سے بہت کوشش کی ، مگر وہ کوشش ضائع گئی آخر نامراد مرا ،

وکیل صاحب اب فرمایئے ؟ مرزاجی کی مہر سعد اللہ کی بیوی کے رحم پر لگ جاوے ، تو تا حین وہ اولاد سے محروم ، اور سلسلہ اولاد بند ، لیکن اگر رب العزت انبیاء علیہم السلام کے پیدا ہونے پر مہر محمدی لگادے تو نبوت کا سلسلہ جاری ہو جائے ، یہ مرزائی عقل کو ہی گوارہ ہو سکتا ہے ۔

marfat.com

(۱۶) - ایک غلطی کا ازالہ تبلیغ رسالت ۱۰/۲۳	لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بیخ کنی ہو جاتی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے، اور آیت وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (نعوذ باللہ) اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے،

کیوں جناب وکیل صاحب؟ اب فرمایئے کہ تمہارے مرزا صاحب کا فیصلہ ہی تمہارے لئے کافی نہیں،

"مرزائی" - یہ اُردو عبارتیں ہیں، ان میں خاتم الانبیا یا خاتم النبیین کا استعمال دوسرے معنی رکھتا ہے، قرآن کریم اردو زبان میں نہیں، کہ تم نے اُردو زبان کی عبارتیں پیش کر دیں، پاکٹ بک صـ۷۷۸،

"محمد عمر" - بڑا افسوس ہے، مرزا صاحب کی ایسی عبارتیں واضح تمہارے سامنے بیان کی گئیں، لیکن تم ایسے ہٹ دھرم ہو، کہ بدیہی عبارتوں کا بھی انکار کرتے ہو، کیا اُردو کلام میں عربی الفاظ کا استعمال نہیں، اردو کلام میں جہاں بھی عربی لفظ مستعمل ہو، اس کے معنی وہی رہتے ہیں، جو پہلے عربی میں مستعمل ہوتے تھے، مثلاً جمال وجلال، حرام وحلال وغیرہ وغیرہ، جب تمہارے سامنے عربی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں، تو تم مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر صاف اُردو کلام پیش کر دیں، تو اُردو کلام کو بھی ٹھکرا دیتے ہو، آیئے! اب تمہارے مرزا جی کی عربی عبارتیں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ تم انشاء اللہ ملاحظہ فرما کر ضرور ایمان لے آؤ گے،

(۱۷) - توضیح مرام ۸	وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ،
(۱۸) - آئینہ کمالات ۳۱۱	مَا كَانَ اللّٰهُ اَنْ يُّرْسِلَ نَبِيًّا بَعْدَ نَبِيِّنَا خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَمَا كَانَ اَنْ يُّحْدِثَ سِلْسِلَةَ النُّبُوَّةِ ثَانِيًا بَعْدَ انْقِطَاعِهَا
(۱۹) - آئینہ کمالات ۱۹	وَاٰمَنْتُ بِاَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ كِتَابَنَا الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ وَسِيْلَةُ الْاِهْتِدَاءِ لَا نَبِيَّ لَنَا نَقْتَدِيْ بِهٖ اِلَّا الْمُصْطَفٰى وَلَا

marfat.com

خاتم کی تحقیق مرزا جی زبانی

تریاق القلوب ۳۰۰

میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی، اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا،

تریاق القلوب ۳۰۲

وَلَيْسَ بَعْدَهُ وَلَدٌ فِي هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ خَاتَمُ الْاَوْلَادِ - اور اس کے بعد اس نوع میں کوئی لڑکا نہ ہو، تو وہ خاتم الاولاد ہے،

"مرزائی" - ان دونوں عبارتوں میں خاتم الاولاد سے مراد اولاد کا سلسلہ بکلی منقطع کرنے والا نہیں ہوسکتا، کیونکہ کیا آپ کے والدین کی اولاد کا سلسلہ آپ کے بعد ختم ہوگیا؟ نہیں، بلکہ آپ کے والدین کی اولاد کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے چلا، اور آپ خاتم الاولاد ان معنوں میں ہوئے کہ آپ کے والدین کی اولاد کا سلسلہ آپ کے سوا دوسرے بچوں کے ذریعے سے منقطع ہوگیا، لیکن صرف آپ کے ذریعے سے آگے اُن کی اولاد چلی، پس ایسے ہی خاتم النبیین کے معنی بھی یہی ہونگے، کہ دوسرے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور آئندہ نبیوں کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چلے،

"محمد عمر" - وکیل صاحب کیسے بھولے ہیں، وکیل صاحب مرزا صاحب نے اپنی اولاد کا ذکر نہیں فرمایا، جس کی طرف تم پلٹ گئے، مرزا صاحب کا تو فرمان ہے، کہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی بہن جنت کے بعد میں نکلا، اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا، تو مرزا صاحب بفرمان خود اپنے ماں باپ کے خاتم الاولاد ہیں، یعنی ان کی ماں کے پیٹ سے اور کوئی بچہ نہیں نکلا، تم جو کہتے ہو، کہ خاتم بمعنی افضل ہیں، ختم کرنے کے نہیں، تو تمہارے یہ معنی تب درست ہوسکتے ہیں، کہ ثابت کرو کہ مرزا صاحب کے بعد ان کی ماں کے پیٹ سے کوئی اور بچہ نکلا جب نہیں نکلا، بلکہ مرزا صاحب کی اپنی پیدائش کے بعد کوئی بھائی بہن پیدا نہیں ہوا، تو مرزا صاحب خاتم الاولاد بنے، جب مرزا صاحب کے بعد کوئی قسم کا بچہ نہ پکا نہ کچا اُن کی ماں کے

marfat.com

(۲۳) ۔ حمامۃ البشریٰ ۱۴	وَيَقُولُونَ اَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ لَا يَعْتَقِدُ بِاَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَمُنْتَهَى الْمُرْسَلِيْنَ

لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَهٰذِهٖ كُلُّهَا مُفْتَرَيَاتٌ وَتَحْرِيْفَاتٌ ۔

(۲۴) ۔ حمامۃ البشریٰ ۱۴	اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ الرَّبَّ الرَّحِيْمَ الْمُتَفَضِّلَ سَمّٰى نَبِيَّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ اِسْتِثْنَاءٍ وَفَسَّرَهٗ نَبِيُّنَا فِيْ قَوْلِهٖ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ بِبَيَانٍ

وَاضِحٍ لِلطَّالِبِيْنَ وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُوْرَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَوَّزْنَا انْفِتَاحَ بَابِ وَحْيِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ تَغْلِيْقِهَا وَهٰذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَكَيْفَ يَجِيْءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُوْلِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهٖ وَخَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النَّبِيِّيْنَ ۔

(۲۵) ۔ تحفہ بغداد	وَقَدْ خَتَمَ اللّٰهُ بِرَسُوْلِنَا النَّبِيِّيْنَ وَقَدِ انْقَطَعَ وَحْيُ النُّبُوَّةِ ۔
(۲۶) ۔ تحفہ بغداد ۲۴	بِاَنَّ النُّبُوَّةَ قَدْ خُتِمَتْ ،
(۲۷) ۔ تحفہ بغداد ۲۵	قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَمَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ فَمِنْ اَيْنَ يَظْهَرُ نَبِيٌّ بَعْدَهٗ اَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ تَتَّبِعُوْنَ

الْاَوْهَامَ ظُلْمًا وَّزُوْرًا وَّتَتَّخِذُوْنَ الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا وَّصِرْتُمْ مِنَ الْبَطَّالِيْنَ ۔

وکیل صاحب! اب تو مرزا صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، کہ اجرائے نبوت کا عقیدہ ظلم ہے اور جھوٹ ہے۔ واجرائے نبوت کا عقیدتمند تارک قرآن ہے اور بطال ہے، اب بھی تم اگر اجرائے نبوت پر اصرار کرو گے تو بحکم مرزا صاحب تم تارک قرآن اور ظالم اور کذاب اور بطال ثابت ہو گے، نیز نے مرزا صاحب کی اردو و عربی عبارتیں تمہارے سامنے پیش کر دیں، اس کو کہتے ہیں انصاف کہ سچی بات اپنے خلاف بھی وارد ہو، تو بھی کہہ گذرے، خواہ لینی کی دینی پڑ جائے، سچ ہے سچی بات کہدو خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو،

marfat.com

(۶)۔ ایام صلح ۸۶	قرآن کی رو سے کسی نبی کا آنا ممنوع ہے،
(۷)۔ حمامۃ البشریٰ ۹۶	وَمَا كَانَ لِيْ اَنْ اَدَّعِيَ النُّبُوَّةَ وَ اُخْرُجَ مِنَ الْاِسْلَامِ وَالْحَقْ بِقَوْمٍ كَافِرِيْنَ ،

اور میرے لئے یہ لائق نہیں، کہ میں نبوت کا دعوایٰ کردوں، اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کفار سے جاملوں،

مرزا صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے، کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت اسلام سے خارج ہے اور پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں،

اے مرزائی دوستو! باوجود ایسی واضح عبارت کے کہ مرزا صاحب اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والے کو اسلام سے خارج اور کافر کہیں، لیکن تم مرزائی ایسی عبارات واضحات اپنے مرزا صاحب کی دیکھ کر بھی اجرائے نبوت کے قائل رہو، تو تم بفتوئی مرزا صاحب بھی اسلام سے خارج ثابت ہو گئے،

"مرزائی"۔ مرزا صاحب کی عبارتوں پر جو انہوں نے ختم نبوت کے متعلق بیان کی ہیں، تمہیں یقین ہے، تو پھر مرزا صاحب پر مسلمانوں نے کفر کے فتوے کیوں صادر کئے؟

"محمد عمر"۔ مرزا صاحب کی مثال بعینہٖ سکھوں کے گورو نانک صاحب کی ہے، وہ بھی چاہتے تھے، کہ اسلام اور کفر کو یک جا جمع کردوں، اسی لئے اسلامی اصولوں کے پابند بھی رہے، مثلاً صوم و صلوٰۃ، حج و زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کے قائل بھی رہے اور عامل بھی لیکن جب کوئی ہندو ان سے دریافت کرتا کہ یہ اقوال و افعال تو اسلامی ہیں، تو بابا نانک جی فرما دیتے کہ تم اس کا مطلب نہیں سمجھے، اور اس کی تاویل کر کے بری ہو جاتے، چنانچہ سکھوں کو جب نماز روزے، حج زکوٰۃ کے متعلق سنایا جائے، کہ تمہارے گروجی فرماتے ہیں، لام لعنت بر سر تنہاں جو ترک نماز کرین (جنم ساکھی ۲۲۱) تو سکھ فوراً اس کی تاویل کر کے کہہ دیتے ہیں، کہ ہمارے باباجی نے نماز کا مطلب حقیقی نماز نہیں لیا، بلکہ اس کا مطلب باباجی نے یوں فرمایا ہے، اُلٹ ثابت کر دیتے ہیں، مثلاً سچ نماز یقین مُصلے دربار صاحب مار و محلہ، پانچواں اپنا مطیع بنانا مقصود تھا، ایسے ہی مرزاجی سے جب ختم نبوت کا مسئلہ کوئی مسلمان دریافت کرتا تو فوراً فرما دیتے کہ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

پیٹ سے نکلنا تم ثابت نہیں کر سکتے، تو مرزا صاحب بایں معنی ہی خاتم الاولاد ہو سکتے ہیں، یا کہدو کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر بھی مرزا صاحب کا دوسرا کالا قانون مرزا صاحب پر ہی وارد ہوگا، جیسا کہ آپنے فرمایا ہے،

حقیقۃ الوحی ۲۰۶	جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے،

اب یا تو مرزا صاحب کو ان کے اپنے ہی کالا قانون کا مصداق بنالو، اور چاہے ان کو بمعنی صحیح خاتم الاولاد تسلیم کرلو، کہ مرزا صاحب کا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کسی قسم کا کچا نہ پکا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایسے ہی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی ظلی نہ بروزی نہ اصلی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں،

مرزا صاحب کو بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا علم الیقین تھا

(۱)۔ **ایام صلح ۴۵**	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں،
(۲)۔ **توضیح مرام ۸**	وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ یَبْقَ مِنَ النُّبُوَّۃِ اِلَّا الْمُبَشِّرَات۔
(۳)۔ **آئینہ کمالات** مطبع لاہوری ۲۰۸	اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا، تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت و استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا،
(۴)۔ **مکتوبات احمدیہ ۵۱**	یعرفونہ کما یعرفون ابناء ھم، یعنی وہ لوگ پیغمبر آخر الزمان کو امام الانبیا اور سید الاولیاء ہے، اسی طرح شناخت

کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو شناخت کر رہے ہیں، ..... حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے وجود کو یمن میں شناخت کرلیا،

(۵)۔ **تحفہ بغداد ۲۴**	فَاِنَّ النُّبُوَّۃَ قَدْ خُتِمَتْ۔

marfat.com

فہرست الجزء الثانی من کتاب مقیاس النبوۃ فی ثبوت انقطاع النبوۃ

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲	مقدمہ ختم نبوت کے بیان کا	۲۴	نبی الکل اور عالمین کے نذیر آپ ہی کافی ہیں
۵	یوم میثاق میں بھی مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۵	عالمین میں رحمت بھی آپ کو مقرر کیا
	پر نبوت ختم ہونیکا وعدہ لیا گیا	۲۶	تم بھی عیسائی ہو کا جواب
۶	نبی اللہ کو علم لدنی کا ہونا ضروری ہے	〃	مرزائیوں کا کہنا کہ ہم بھی خاتم النبیین کے قائل ہیں کا رد
۷	ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ کی تحقیق	۲۷	اب مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت کافی ہے
۸	〃 〃 〃 تفاسیر سے	۲۸	نبوت ختم ہے
۱۰	مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ ختم نبوۃ	۲۹	اگر گمراہی ہو تو نبوۃ کی ضرورت ہے کا جواب
	سنبھالنے پر حلفیہ وعدہ	۳۰	نبوت ختم ہے
۱۱	تمام انبیا علیہم السلام کا ختم نبوۃ پر اقراری ہونا	۳۱	قیامت تک مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں
۱۲	ختم نبوۃ کے انکار پر عتاب خداوندی	۳۲	دین مکمل ہونیکے بعد اب نبی کی ضرورت نہیں قرآنی آیت
۱۳	حضرت عیسٰی علیہ السلام کے تشریف لانے		کے ساتھ مرزائی تائید
	سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا	۳۳	نبوۃ ختم ہوچکی اور تمام رسل گذر چکے
۱۵	مثال کا حضرت عیسٰی علیہ السلام	۳۴	سابقہ انبیاؑ کے ذکر میں مابعد کا بھی ذکر
۱۶	سابقہ انبیا علیہم السلام کا ذکر کرنا ہی ختم نبوۃ	〃	مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تمام انبیاؑ ختم ہوچکے،
	پر دال ہے	۳۵	نبوۃ ختم ہونا آپکے صاحبزادہ جوان نہ ہونیکی لِمّ ہے،
〃	نبوۃ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لئے	۳۶	لِمّ کی مثال قرآن کریم سے
۱۸	سابقہ رُسل کا ذکر ختم نبوۃ کی دلیل ہے	۳۷	لِمّ کے صحیح ہونے کی وجہ
۱۹	کیا یہ اُمت ناقص ہے کہ نبی نہ ہوسکیگا کا جواب	۳۸	خاتم النبیین کی تفسیر مرزائیہ
۲۰	سابقہ انبیاؑ کا ذکر بعد کا نہ کرنا دلیل ختم نبوۃ ہے	۳۹	خاتم کے معنی لغات عربی سے
۲۲	اللہ تعالٰی نے مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ	۴۰	خاتم النبیین قرآنی لغت وعیسائی لغت سے
	انبیاؑ سے ہمکلام ہونیکا ارشاد فرمایا	۴۱	خاتم کے مرزائی معنی پر پانچ آنے انعام
۲۳	محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام لوگوں کیلئے ایک ہی رسول ہیں	۴۲	مرزائی آیت خاتم النبیین کا منکر ہے،

marfat.com

کے بعد میں نبوت کے مدعی کو کافر سمجھتا ہوں، اور جب اُن کا کوئی مرزائی لڑیا نت کرتا، تو فرمانےتے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، جہنمی ہے، کیونکہ نبوت جاری ہے، جیسا کہ فرمایا،

تبلیغ رسالت ۱/۱۳۳	میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں،
حقیقۃ الوحی ۱۶۳	جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا،
حقیقۃ الوحی ۱۵۰	اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا،
تبلیغ رسالت ۹/۲۱	اور لعنت ہے اس شخص پر جو مجھے جھوٹا جانتا ہے،
تبلیغ رسالت ۲۷	(الہام) - جو شخص تیری پیروی نہیں کریگا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، اور تیرا مخالف رہیگا، خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے،

مرزا غلام احمد صاحب کی سابقہ عبارات سے ثابت ہوا، کہ مرزا صاحب کو مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا علم تھا، جسکی بنا پر انہوں نے اپنی تحریر میں صاف صاف ختم نبوۃ کا اقرار کیا، لیکن پھر اپنی نفسانیت کی انجمنت پر مدعی نبوت بھی صراحتہً تھے، جو اُمت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرا پھیری کرکے اپنی امت بنانا چاہتے تھے، بھلا اس گورکھ دھندے کو کون ذی شعور نہیں سمجھتا، تو مرزا غلام احمد صاحب کے اس دعوائے نبوت پر اُن کے سابقہ مَن کو دتغ الصدیٰ، فتوای ہی سامنے نذرانہ رکھ کر ان کے اِس مُنہ پر اُن کا اپنا ہی مذکورہ طمانچہ تبرکًا رسید کردیا تھا، نفیر نے اس میں کونسی زیادتی کی ہے، البتہ پہلے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مفسرین متقدمین واکابرین ملت کے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ بھی بلا طعن اور بغرض افادہ امت مرزائیہ تحریر کئے ہیں، تاکہ رب العزت کے دربار میں کوئی مرزائی یہ نہ کہے، کہ یا اللہ! ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، اور نفیر آخری یہی دعا کرتا ہے کہ مرزائی حضرات کو بھی اللہ تعالےٰ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا نبی بنادے، اور اس نبض محمدیہ سے آگے تجاوز کرنے سے بچادے،

وماعلینا الا البلاغ المبین،

مضمون ختم نبوت ختم ہوا، اب آگے مضمون مرزا صاحب کے اکا ذیب پر انشاء اللہ تعالیٰ شروع ہوگا

marfat.com

۱۰۱	تفسیر بیضاوی سے رُسل کا حل
۱۰۲	اھدنا الصراط المستقیم کا جواب
۱۰۵	یاایھا الرسل کا حل
۱۰۸	یاایھا الرسل کی تحقیق از تفاسیر
۱۱۲	وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ کی تفسیر
۱۱۷	ولقد جاءکم یوسف من قبل کی تحقیق
۱۲۰	انہم ظنوا کما ظننتم کی تفسیر
۱۲۲	ولقد اضل قبلہم کی تفصیل
۱۲۹	امت راشدہ کی موجودگی میں اور نبی کی ضرورت نہیں
۱۳۰	فاما یاتینکم منی ہدی کا حل
۱۳۲	الیوم اکملت لکم کی تفسیر مرزائیہ
۱۳۵	آیت مذکورہ کا جواب اسلامی
۱۳۷	واذ اخذ اللہ کی تفسیر
۱۳۹	تحریف شدہ حدیثوں کی تصحیح
۱۴۰	حدیث لو عاش کی تحقیق
۱۴۱	لو عاش حدیث کے رجال کذاب ہیں
۱۴۲	علی قاری کا جواب
۱۴۳	علی قاری کے قول فلا ینا قض کا حل
۱۴۴	فتوی حدیثیہ کا حل
۱۴۸	فیروخب نبی اللہ عیسٰی کا جواب
۱۴۹	ابوبکر خیر الناس کا جواب
۱۵۱	تکون النبوۃ کا جواب
۱۵۲	آخر خادم صاحب کا حیات عیسٰی بن مریم علیہما السلام وامام مہدی کو تسلیم کرنا
۱۵۴	ادلہ ختم نبوۃ بر مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم از احادیث
۱۵۲	حدیث بخاری شریف تسوسہم الانبیاء ......
	وانہ لا نبی بعدی کا مطلب
۱۵۴	بادشاہت اور نبوت کا جواب
۱۵۷	لیس بینی وبینہ نبی کا جواب
۱۵۸	حدیث مذکورہ بالا کا مرزائی منکر ہے
۱۵۹	حدیث انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین
۱۶۰	خُتِمتُ انا واتممت تلک اللبنۃ
۱۶۱	لولاک لما خلقت الافلاک کی مرزائی شرح
۱۶۳	وختمت وختمت الانبیاء
۱۶۴	مذکورہ حدیث کے رجال کی تحقیق
۱۶۶	مثلی ومثل الانبیاء کی تشریح
۱۶۷	مسجدی آخر المساجد
۱۶۸	حدیث عاقب کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
۱۶۹	عاقب ومقفی کا مطلب حدیث ولغت سے
۱۷۰	خاتم وعاقب ومقفی کا مطلب محدثین کی زبانی
״	حدیث ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت
״	صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ بھی ختم نبوۃ پر تھا
۱۷۱	ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت
۱۷۲	ان الرسالۃ الخ کے رجال حدیث کی تحقیق
۱۷۳	میزان الاعتدال کے ضعف کا جواب
۱۷۴	ان الرسالۃ الخ کے رجال حدیث کی تحقیق
۱۷۵	میزان الاعتدال کا جواب ص ۵۱۵
۱۷۷	ان الرسالۃ پر اعتراض کا جواب
۱۸۵	لیس بعدی نبی
״	ذہبت النبوۃ

marfat.com

۴۵	ختم مہر کے معنی سے بند کرنا قرآن سے
۴۶	قرآن کریم سے ختم کے معنی بند کرنا
۴۷	مرزائی کو ختم کے معنی پر یکصد روپیہ انعام
۴۸	حساب تبر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوۃ ختم ثابت کرتا ہے،
۴۹	میدان حشر میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونیکا اعلان ہوگا
۵۰	ادلہ مرزائیہ کے اجرائے نبوت کے جوابات ص۳۹۸
۵۱	تقدم فاعل بر فعل قرآن کریم میں مفید تخصیص ہے
۵۲	رسالت ونبوۃ وہبی ہے کسبی نہیں
۵۴	یصطفی کی تحقیق
۵۵	سنۃ اللہ غیر متبدل ہونیکا جواب ص۴۰۱
۵۶	پہلے ہر قوم کا نبی علیحدہ ہوتا تھا
۵۷	سنۃ اللہ تبدیل ہوجاتی ہے
۵۸	سنۃ الاولین گذرچکی
۵۹	سنۃ اللہ کا تبدیلی کا جواب
۰	غیر شرعی نبی کی بھی ضرورت نہیں
۶۰	نبوۃ کی تعریف اور تابع نبی کا جواب
۶۱	نبی کی تعریف قرآن کریم اور مرزا صاحب کے کلام سے
۶۲	یصطفی کے استمرار کا جواب پ۴۰۲
۶۳	یجتبی من رسلہ کی تحقیق
۶۶	قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کریم سے
۶۷	آیت مذکورہ کا ترجمہ تفاسیر سے
۷۰	من یطع اللہ والرسول کا مرزائی اعتراض
۷۱	من یطع اللہ والرسول کا حل
۷۲	اطاعت منصوصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقدم ہے
۷۳	بہترین امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں از روئے قرآن
۷۴	اولٰئک ھم الصدیقون کا جواب
۷۵	الذین کے صلہ دو جملے ہوتے ہیں از قرآن کریم
۷۶	درجہ بدرجہ نبوت حاصل نہیں ہوسکتی
۷۷	مع بمعنی من نہیں
۷۹	من یطع اللہ والرسول کے مرزائی معنی غلط ہیں
۸۰	مع رفاقت کے لئے آتا ہے
۸۱	نبی کی معیت میں نبی نہیں بن سکتا
۸۲	معیت الٰہی میں الٰہ نہیں بن سکتا
۸۳	نبوت وہبی ہے
۸۴	معصومیت انبیاء علیہم السلام
”	موہبت میں اعمال شرط نہیں
۸۵	نبوت وہبی ہے
۸۶	عورتیں نبیہ کیوں نہیں بنتیں ؟
۸۸	صراط الذین انعمت علیھم کا جواب
۹۰	امام راغب کا جواب
۹۱	امام راغب کے قول کی شرح
۹۲	اما یاتینکم منکم کی تحقیق
۹۳	اما کی تحقیق
۹۴	اما کی تحقیق تفاسیر سے
۹۵	اما کی تحقیق قرآن کریم سے
۹۶	یٰبنی آدم کی تفسیر
۹۹	یٰبنی آدم کا حل سیوطی رح کی کلام سے
۱۰۰	یٰبنی آدم اما یاتینکم کا حل علامہ رازی کی کلام سے

۱۸۰	زمانہ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبل از آدم علیہ السلام خاتم النبیین ہوں
۰	لا یبقی بعدی من النبوۃ شیٔ
۱۸۱	انی منذر لکم بین یدی عذاب الشدید کی شرح حدیث مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
۱۸۲	قیامت کو نبوۃ ختم ہونیکا سہرا آپکے سر ہوگا
۱۸۳	انا خاتم النبیین
۰	وختم بی النبیون
۱۸۴	بعثت انا والساعۃ کھاتین
۰	ختم نبوت کا خدائی فیصلہ
۱۸۵	بعد از حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدعی نبوۃ دجال ہے
۱۸۶	ثلٰثون کذابون کے رجال کی تحقیق
۱۸۹	ترمذی شریف کی حدیث ثلٰثون کذابون کے رجال کی تحقیق
۹۵	باقی دو راویوں کی تحقیق
۹۹	مرزائی ختم نبوت کی تمام احادیث صحیحہ کا منکر ہے
۲۰۰	. . . . . .
۰۴	تمام محدثین کا عقیدہ ختم نبوت پر
۰	امام مسلمؒ کا عقیدہ
۰	امام بخاریؒ کا عقیدہ
۳۵	تمام مفسرین کا عقیدہ ختم نبوت پر
۲۱۰	انقطاع نبوۃ پر تردید مرزائیہ کے جوابات
۲۱	خاتم بمعنی افضل قرآن کریم سے دکھانے والے کو ایک ہزار روپے کا چیلنج
۰	ختم کے معنی قرآن کریم سے
۲۱۲	خاتم کے معنی تفاسیر اور لغت سے
۲۱۳	خاتم المہاجرین کا جواب
۲۱۴	انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین کے سوال کا جواب
۰	افضلیت کا جواب
۲۱۵	لاھجرۃ بعد الفتح کا جواب
۲۱۶	ہجرت کے اقسام
۲۱۷	لاھجرۃ بعد الفتح کی تحقیق
۲۱۸	خاتم الاصفیاء کا جواب
۲۱۹	فتوحات مکیہ کے ٹائیٹل پیج کا جواب
۲۲۰	علامہ رازی کی عبارت کا صحیح مطلب
۲۲۱	زرقانی کی عبارت میں مرزائی دھوکہ
۲۲۲	مولوی محمد قاسم اور مولانا رومؒ کے جوابات
۲۲۳	تفسیر حسینی کی اصل عبارت
۲۲۴	مجمع البحار کی عبارت کا جواب
۲۲۵	مجمع البحار کے لا نبی بعدی کی تشریح
۲۲۶	مجمع البحار کے لا تقولوا کی تشریح
۲۲۷	مجمع البحار کے اوتیت خواتمہ کا بیان
۲۲۹	خاتم کے معنی انگوٹھی کا جواب
۰	ختم کرۃ الاولیاء کا جواب
۰	لفظ ختم اور محاورہ اہل عرب
۲۳۰	خاتم بمعنی افضل میں مرزائی دھوکہ
۲۳۱	لفظ ختم اور قرآن مجید پر مرزائی تحریف کا جواب
۲۳۲	الذی اعمروا الدنیا خیر خواتیم اللہ کا حل
۲۴۱	امین کا جواب
۲۴۳	ختم اللہ علیٰ قلوبہم کی تحریف مرزائیہ کا جواب
۲۴۴	کیا ختم کیا؟ کا جواب
۲۴۵	بہائیوں نے بھی ختم نبوت کی شہادت دیدی،
۲۴۷	یہودیوں نے بھی خاتم النبیین کے معانی سمجھ لئے،
۲۴۸	دلائل ختم نبوت از ائمہ سلف
۲۴۹	ختم نبوت کتب عقائد سے
۲۵۰	فقہاء کا عقیدہ ختم نبوت
۲۵۱	اورنگ زیبؒ اور شیخ سعدیؒ کا عقیدہ ختم نبوت
۲۵۲	بزرگوں کے اقوال کی تحریف کی تصحیح
۲۵۳	فتوحات مکیہ و انسان کامل کی عبارت کی تشریح
۲۵۵	موضوعات کبیر کا مطلب
۲۵۸	شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت کا حل انکی عبارت سے
۲۵۹	حضرت عائشہ رضی کے قول لا تقولوا لا نبی بعدہ کا حل
۲۶۰	مجمع البحار کا حل اس کی عبارت سے
۲۶۱	پنجابی مثال
۲۶۲	مجمع البحار کی عبارت پر مرزائی دھوکے کا اظہار
۲۶۳	لا تقولوا لا نبی بعدہ کا مطلب
۲۶۴	فتوی حدیقہ کی عبارت لو عاش ابراہیم کا حل
۲۶۷	خاتم النبیین کے معنی مرزا غلام احمد صاحب کی زبانی
۲۷۵	پھر فتوائے کفر کیوں؟ (۲۷۶) فتوائے کفر کیوں؟ کا جواب

(مولوی) عبدالوہاب و حافظ عبدالتواب ناشران ابناء مولانا مولوی محمد عمر صاحب دار المقیاس اچھرہ لاہور

marfat.com